

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

فتاوى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولانا مفتي شبير احمد القاسمي

خادم الافتاء و الحديث جامعه قاسميه
مدرسه شاهي مرادآباد، الهند

(جلد ۱۸)

المجلد الثامن عشر

بقية الوقف باب المدارس، كتاب البيوع، البيع
الصحيح الفاسد، المباحه، الصرف، السلم،
الاستصناع، الوفاء، الشفعة، المزارعة

۸۴۰۹ ————— ۸۸۵۶

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بجق صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی 094 125 52294

بجق مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند 09358001571

08810383186 01336-223082

پہلا ایڈیشن محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارنپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571•08810383186

مكمل اجمالى فهرست ايك نظر مين

رقم المسأله	عنوانات
المجلد الأول	١ ١٧٢ مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.
المجلد الثاني	١٧٣ ٥٥٧ بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر، إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.
المجلد الثالث	٥٥٨ ١٠٠٥ بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.
المجلد الرابع	١٠٠٦ ١٤١٥ بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار.
المجلد الخامس	١٤١٦ ١٩٣٥ الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.
المجلد السادس	١٩٣٦ ٢٤٥٧ الجماعة، المساجد، الإمامة.
المجلد السابع	٢٤٥٨ ٢٩٦٤ بقية الصلوة من تسوية الصفوف إلى سجود التلاوة.
المجلد الثامن	٢٩٦٥ ٣٤٢٣ بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والتوافل، التراويح، صلوة المسافر.

المجلد التاسع	٣٤٢٤	٣٨٩٣	بقية الصلوة، صلوة المريض، الجمعة، العيدين، الجنائز إلي حمل الجنازة.
المجلد العاشر	٣٨٩٤	٤٤٠٤	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلي باب الشهيد، كتاب الزكوة.
المجلد الحادي عشر	٤٤٠٥	٤٨٧٣	بقية الزكوة، كتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلي صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	٤٨٧٤	٥٣٤٨	كتاب الحج بتمام أبوابها، النكاح إلي باب نكاح المكره.
المجلد الثالث عشر	٥٣٤٩	٥٩٤٣	بقية النكاح إلي باب المهر.
المجلد الرابع عشر	٥٩٤٤	٦٤٦٢	الرضاع، الطلاق إلي باب الكناية.
المجلد الخامس عشر	٦٤٦٣	٦٩٠٢	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحلالة.
المجلد السادس عشر	٦٩٠٣	٧٤٠٢	بقية الطلاق، تعليق الطلاق، التفويض، الفسخ والتفريق، الظهار، الإيلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقة، ثبوت النسب، الحضانة.
المجلد السابع عشر	٧٤٠٣	٧٨٦٧	الأيمان والنذور، الحدود، الجهاد، السلقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلي باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	٧٨٦٨	٨٤٠٨	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلي مصلى العيد، والمقبرة. (قبرستان)

المجلد التاسع عشر	٨٤٠٩	٨٨٥٦	بقية الوقف، باب المدارس، كتاب البيوع، البيع الصحيح، الفاسد، المرابحة، الصرف، السلم، الوفاء، الشفعة، المزارعة.
المجلد العشرون	٨٨٥٧	٩٣٥٠	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	٩٣٥١	٩٧٣٥	الديون، الوديعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	٩٧٣٦	١٠٢٤٥	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحية بتمام أنواعها، العقيقة، الحقوق، بأكثر أبوابها إلي باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	١٠٢٤٦	١٠٧٠٥	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقي بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلي باب السابع، ما يتعلق باللحية.
المجلد الرابع والعشرون	١٠٧٠٦	١١٢٠٥	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدايا، الموالاة، مع الكفار، المال الحرام، الأدب، الهوى، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير.
المجلد الخامس والعشرون	١١٢٠٦	١١٦٠٠	الوصية، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	١	١١٦٠٠	فهارس المسائل



۲۴ / بقیة کتاب الوقف

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر:	الفصل الثالث: مسجد قدیم
۳۵	۷۸۶۸	دیران شدہ مسجد کا حکم
۳۶	۷۸۶۹	اجڑے ہوئے علاقہ کی دیران مسجد کا حکم
۳۷	۷۸۷۰	کیا غیر آباد مسجد کی حفاظت لازم ہے؟
۳۸	۷۸۷۱	غیر آباد علاقہ میں مسجد کا حکم

الفصل الرابع: تعدد مساجد

۴۰	۷۸۷۲	دو مساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟
۴۱	۷۸۷۳	مسجد شرعی کے قریب دوسری مسجد بنانا
۴۲	۷۸۷۴	مسجد سے متصل عناد کی بناء پر دوسری مسجد بنانا
۴۵	۷۸۷۵	جھگڑے کی وجہ سے دو مسجدوں میں سے ایک کو بند کرنا
۴۶	۷۸۷۶	غیر آباد مسجد کے قریب آپسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا
۴۷	۷۸۷۷	گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہونے کے باوجود دوسری مسجد بنانے کا حکم
۴۸	۷۸۷۸	چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنے اور چند شرائط پر مسجد بنانے کا حکم
۵۰	۷۸۷۹	کمیٹی سے ناراضگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا
۵۱	۷۸۸۰	ضد کی وجہ سے مسجد بنانے کے بعد تصحیح نیت
۵۲	۷۸۸۱	بڑے گاؤں میں مسجد سے دور ایک ہی محلہ میں دوسری مسجد بنانا
۵۳	۷۸۸۲	ایک ہی گاؤں میں دو مسجدیں بنانا
۵۵	۷۸۸۳	ایک گاؤں میں تیسری مسجد بنانا

الفصل الخامس: امام ومؤذن کے احکام



- ۵۷ مسجد کا امام و متولی کیسا ہو؟ ۷۸۸۴
- ۵۸ غیر امام کا منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا ۷۸۸۵
- ۵۹ امام کی رہائش کا انتظام کس پر لازم ہے؟ ۷۸۸۶
- امامت سے معزولی کے بعد مسجد کے مکان میں رہنے یا اس ۷۸۸۷
- ۶۱ کے متبادل کے مطالبہ کا حکم ۷۸۸۸
- ۶۳ امام کا اپنے بیٹے کو امام بنانا اور مسجد کا مکان خالی نہ کرنا ۷۸۸۹
- ۶۶ مسجد سے متصل حجرہ میں امام صاحب کی فیملی کا قیام ۷۸۹۰
- ۶۷ مسجد کی چھت پر مدرسہ یا امام صاحب کیلئے حجرہ بنانا ۷۸۹۱
- ۶۸ مسجد کی زمین پر امام صاحب کے لئے مکان بنانا ۷۸۹۲
- ۷۰ وضو خانہ پر بنے کمرے میں امام صاحب کا مع اہل و عیال قیام کرنا ۷۸۹۳
- ۷۰ مسجد کے وضو خانہ کے اوپر فیملی کو اٹھ تعمیر کرنا ۷۸۹۴
- ۷۱ امام صاحب یا ان کی اولاد کا مسجد کا پتکھا استعمال کرنا ۷۸۹۵
- ۷۳ امام صاحب کی فیملی کا مسجد کا پانی استعمال کرنا ۷۸۹۶
- ۷۴ مسجد کے حجرہ کو تعویذ خانہ بنانا ۷۸۹۷
- ۷۵ مسجد کے بورنگ سے امام صاحب کے کمرے میں کنکشن دینا ۷۸۹۸
- امام صاحب کا مسجد کی بجلی استعمال کرنا اور طلبہ کا مدرسہ کی ۷۸۹۹
- ۷۶ بجلی سے پر لیس کرنا ۷۹۰۰
- ۷۹ کیا ائمہ مساجد وقف بورڈ کی شرائط کے پابند ہیں؟ ۷۹۰۱
- ۸۱ مسجد کے ضعیف العمر امام کے لئے منجانب مسجد پنشن ۷۹۰۱
- ۸۲ مستقل امام کو رمضان میں رقم جمع کر کے ہدیہ دینا ۷۹۰۱

۸۴ مسجد کی موقوفہ زمین کی آمدنی سے مدرس کو تنخواہ دینا.....	۷۹۰۲
۸۶ مسجد کی آمدنی سے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا.....	۷۹۰۳
۸۷ غریب امام کی مسجد کے فنڈ سے امداد کرنا.....	۷۹۰۴
۸۸ محلہ والوں سے چندہ کر کے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا.....	۷۹۰۵
۸۸ تنخواہ سے ہٹ کر الگ سے امام کی اعانت کرنا.....	۷۹۰۶
۸۹ ایام تعطیل کی تنخواہ کا مستحق امام یا نائب.....	۷۹۰۷
۹۰ امام صاحب کا رخصت کے ایام کی تنخواہ وصول کرنا.....	۷۹۰۸
۹۲ بلا چھٹی کے گھر پر رہنے والے امام صاحب کی تنخواہ کا ٹٹنا.....	۷۹۰۹
۹۳ مسجد کی رقم سے مؤذن کے ضمانتیوں کو پیسہ دینا.....	۷۹۱۰
۹۳ امام کے لئے دی گئی رقم کا استعمال دوسرے مصرف میں کرنا.....	۷۹۱۱
۹۴ امام صاحب کا مسجد کی زمین میں کھیتی کرنا.....	۷۹۱۲
	مساجد کے طاقوں میں رکھے ہوئے پکوان کا امام و مؤذن	۷۹۱۳
۹۵ کے لئے کھانا کیسا ہے؟.....	

۶/الفصل: مسجد میں سونے اور ٹھہرنے کا بیان

۹۷ عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے والے شخص کا مسجد میں سونا	۷۹۱۴
۹۸ گاؤں والوں کا ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے سچے میں آرام کرنا	۷۹۱۵
۹۹ اہل محلہ کا مسجد میں سونا اور نہانا.....	۷۹۱۶
۱۰۰ کیا مسجد میں محلہ کے حافظ صاحب سو سکتے ہیں؟.....	۷۹۱۷
۱۰۱ مسجد کے وضو خانہ میں غسل کرنا.....	۷۹۱۸

۷/الفصل: توسیع مسجد سے متعلق احکام

۱۰۳ پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنا.....	۷۹۱۹
-----	--	------

۱۰۴ پرانی مسجد شہید کر کے تعمیر جدید کرنا۔	۷۹۲۰
۱۰۵ پرانی مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر کرنا۔	۷۹۲۱
۱۰۶ تعمیر جدید کی صورت میں مسجد میں رد و بدل کرنا۔	۷۹۲۲
۱۰۷ زیر تعمیر مسجد میں نماز کو موقوف رکھنا۔	۷۹۲۳
۱۰۸ کیا تعمیر جدید کے دوران نماز کا قائم رکھنا ضروری ہے؟	۷۹۲۴
۱۰۹ محراب نیچے منزل میں بنائی جائے یا اوپر والی میں؟	۷۹۲۵
۱۱۱ بالائی منزل پر جانے کے لئے حدود مسجد میں سیڑھی بنانا۔	۷۹۲۶
۱۱۳ مسجد کے حوض و صحن اور اس سے ملحق عمارت کے نیچے تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۷
۱۱۶ مسجد کے نیچے تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۸
۱۱۸ مسجد کی قدیم سطح میں تہ خانہ بنانا۔	۷۹۲۹
۱۱۹ مسجد قدیم کی تعمیر جدید میں تہ خانہ بنانا۔	۷۹۳۰
۱۲۱ قدیم مسجد کو منہدم کر کے نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد بنانا۔	۷۹۳۱
۱۲۲ مسجد منہدم کر کے اس کے احاطہ میں مدرسہ اور مسجد بنانا۔	۷۹۳۲
۱۲۲ تعمیر جدید میں نچلی منزل میں وضو خانہ اور دوسری میں مسجد تعمیر کرنا۔	۷۹۳۳
۱۲۳ مسجد کی توسیع کے وقت دوکانوں کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھانا۔	۷۹۳۴
۱۲۴ مسجد کے نیچے حصہ میں دوکان بنا کر اوپر مسجد بنانا۔	۷۹۳۵
۱۲۶ غسل خانہ و پیشاب خانہ کی جگہ کو مسجد کے دالان میں شامل کرنا۔	۷۹۳۶
۱۲۷ مملوکہ قبرستان میں مسجد کا چھبہ اور جنگلہ کھولنا۔	۷۹۳۷
۱۲۹ قبروں کی جگہ کو ہموار کر کے مسجد کے حصہ میں لینا۔	۷۹۳۸
۱۳۰ توسیع مسجد میں قبروں کو شامل کرنا۔	۷۹۳۹
۱۳۱ پرانی قبروں کو ہموار کر کے مسجد کے فرش میں شامل کرنا۔	۷۹۴۰
۱۳۲ پرانی قبروں کی جگہ کو حدود مسجد میں شامل کرنا۔	۷۹۴۱

۱۳۴ مسجد کی توسیع میں قبرستان کو شامل کرنا	۷۹۴۲
۱۳۵ سڑک کے کچھ حصہ کو مسجد میں شامل کرنے کا حکم	۷۹۴۳
۱۳۶ راستہ کو مسجد کی توسیع میں شامل کرنا	۷۹۴۴
۱۳۷ موقوفہ ہسپتال کو توسیع مسجد کے لئے فروخت کرنا	۷۹۴۵
۱۳۹ توسیع مسجد کے وقت غیر ضروری مکان کو کرایہ پر باقی رکھنا	۷۹۴۶
۱۴۰ مسجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی ہے، اس میں جزئیٹروم بنانا	۷۹۴۷
۱۴۱ مسجد کے وضو خانہ، حوض، پیشاب خانہ وغیرہ کی جگہ دوکانیں تعمیر کرنا	۷۹۴۸

۸/ الفصل: مسجد میں تصرف کرنے کا بیان



۱۴۳ امام صاحب کے مصلے کا فرش ایک رڈہ اونچا ہونا	۷۹۴۹
۱۴۳ محراب کے نیچے ستون کا بنوانا ضروری ہے یا نہیں؟	۷۹۵۰
 غلط رخ پر بنی ہوئی اور قابل مرمت مسجد کو شہید کر کے صحیح رخ پر تعمیر کرنا	۷۹۵۱
۱۴۴ بے پردگی کی وجہ سے مسجد کے گیٹ کا رخ تبدیل کرنے کا حکم	۷۹۵۲
۱۴۹ حکومت کی ناجائز رکاوٹ مسجد شرعی ہونے میں مغل نہیں	۷۹۵۳
۱۵۰ مسجد کے صحن میں پانی کا موٹر لگانا یا وضو خانہ بنانا	۷۹۵۴
۱۵۱ نچلی منزل میں غسل خانہ وغیرہ بنانا اور اوپر مسجد تعمیر کرنا	۷۹۵۵
۱۵۲ مسجد کے جماعت خانہ میں وضو خانہ کی تعمیر	۷۹۵۶
۱۵۳ جنازہ رکھنے کے لئے جانب قبلہ کی دیوار توڑ کر دروازہ لگانا	۷۹۵۷
۱۵۴ بالائی منزل پر جانے کے لئے جماعت خانہ میں سیڑھی بنانا	۷۹۵۸
۱۵۸ داخل مسجد بالائی منزل پر جانے کے لئے زینہ بنانا	۷۹۵۹
۱۶۳ دوکان یا مکان کی چھت پر مسجد بنانا	۷۹۶۰

- ۷۹۶۱ مسجد کی موقوفہ زمین میں نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانا..... ۱۶۷
- ۷۹۶۲ دو منزلہ مسجد بنا کر نیچے دوکان بنانا..... ۱۶۷
- ۷۹۶۳ حدود مسجد سے باہر مسجد کا سامان رکھنے کے لئے حجرہ بنانا..... ۱۶۸
- ۷۹۶۴ مسجد کا دروازہ توڑ کر مدرسہ کا چھجکا لگانا..... ۱۷۰
- ۷۹۶۵ احاطہ مسجد میں تبلیغی جماعت کی کمیٹی کا اپنے مصارف سے مطبخ تعمیر کرنا..... ۱۷۰
- ۷۹۶۶ منبر سے متصل مغربی جانب مسجد کا بیت الخلاء وغیرہ بنانا..... ۱۷۱
- ۷۹۶۷ مسجد میں انگریزی بیت الخلاء بنانا..... ۱۷۲
- ۷۹۶۸ اپنے اور مسجد کے پیسہ کو ملا کر تعمیر کرایا گیا کمرہ کس کی ملک ہے؟..... ۱۷۳
- ۷۹۶۹ رام لکھی ہوئی اینٹوں سے مسجد تعمیر کرنا..... ۱۷۵
- ۹ الفصل التاسع: مسجد کی رقم ضروریات مسجد □
- میں صرف کرنے کا بیان
- ۷۹۷۰ مسجد کی رقم سے ضروریات مسجد کے لئے کمرہ بنانا..... ۱۷۷
- ۷۹۷۱ مدرسہ کی آمدنی کو مسجد کی ضرورتوں میں صرف کرنا..... ۱۷۸
- ۷۹۷۲ مسجد کے کام کے لئے مسجد کی رقم سے کرایہ دینا..... ۱۷۹
- ۷۹۷۳ مسجد کے روپیہ سے ٹسکی وغیرہ خریدنا؟..... ۱۸۰
- ۷۹۷۴ مسجد کی رقم سے اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر خریدنا..... ۱۸۰
- ۷۹۷۵ مسجد کی رقم سے مائک خریدنا..... ۱۸۱
- ۷۹۷۶ مسجد کی دوکان کو فروخت کر کے آمدنی تعمیر مسجد میں لگانے کا حکم..... ۱۸۲

۱۰۔ الفصل العاشر: ایک مسجد کی اشیاء کا دوسری مسجد میں استعمال

۱۸۴ مسجد کی آمدنی کے لئے موقوفہ زمین پر مسجد تعمیر کرنا	۷۹۷۷
۱۸۵ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا کب جائز ہے؟	۷۹۷۸
۱۸۶ ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں دینا	۷۹۷۹
۱۸۷ ایک مسجد کے بچے ہوئے تعمیری سامان کو دوسری مسجد میں لگانا	۷۹۸۰
۱۸۸ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا	۷۹۸۱
۱۹۰ ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا	۷۹۸۲
۱۹۱ کیا ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد یا مدرسہ میں صرف کر سکتے ہیں؟	۷۹۸۳
۱۹۲ ایک مسجد کی جانماز معطلی کی اجازت سے دوسری مسجد میں دینا	۷۹۸۴
۱۹۳ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا	۷۹۸۵
۱۹۴ پرانی مسجد کی جائیداد و رقم نئی مسجد میں لگانا	۷۹۸۶

۱۱۔ الفصل الحادی عشر: اشیاء مسجد کا استعمال

۱۹۶ مسجد میں موجود تاڑی کے درخت کی آمدنی کا مصرف	۷۹۸۷
۱۹۷ کیا مسجد کی چیزوں کا استعمال عوام کے لئے جائز ہے؟	۷۹۸۸
۱۹۹ مسجد کی دیوار میں تصرف کر کے دوکان بنانا	۷۹۸۹
۲۰۰ مسجد کی چٹائی وغیرہ کا عید گاہ میں استعمال کا حکم	۷۹۹۰
۲۰۱ مسجد کی صفوں اور لاؤڈ اسپیکر کو عید گاہ میں لے جانا	۷۹۹۱
۲۰۱ متولی یا عوام کا مسجد کا موٹر چلا کر ذاتی طور پر پانی استعمال کرنا	۷۹۹۲
۲۰۲ ذاتی ضرورت کے لئے مسجد کی لائٹ پنکھا وغیرہ استعمال کرنا	۷۹۹۳

۲۰۳	مسجد کی بجلی کے بل کی ادائیگی کرنے والے کا اپنے گھر میں کنکشن لینا	۷۹۹۴
۲۰۴	مسجد کا کولر بیچ کر بجلی کا بل ادا کرنا	۷۹۹۵
۲۰۵	مقروض مسجد میں پانی گرم کرنے کے لئے گیر لگوانا	۷۹۹۶
۲۰۶	مسجد کا سامان غصب کرنے کا حکم؟	۷۹۹۷
۲۰۷	غیر شرعی مسجد کا ملبہ اپنے کام میں لانا	۷۹۹۸
۲۰۸	مسجد میں آئی مٹھائی و پھل کا استعمال	۷۹۹۹
۲۰۹	شادی میں مسجد کی ٹینکی کا پانی استعمال کرنا	۸۰۰۰
۲۱۰	مسجد کے پڑوسیوں کا مسجد سے پانی بھرنا	۸۰۰۱
۲۱۱	مسجد کا لوٹالے کر مدرسہ میں وضو کرنا	۸۰۰۲
۲۱۲	مسجد میں لگے درخت کا پھل کھانا	۸۰۰۳
۲۱۳	مسجد کی دیوار پر اپنے گھر کا بھیم یا لینٹر رکھنا	۸۰۰۴

۱۲ / الفصل الثانی عشر: مسجد کی رقم کا



دوسری جگہ استعمال

۲۱۵	مسجد کا سامان عید گاہ کے لئے استعمال کرنے کا حکم	۸۰۰۵
۲۱۶	مسجد کی چیزیں عید گاہ یا دیگر دینی امور میں استعمال کرنا	۸۰۰۶
۲۱۶	مسجد کے نام پر چندہ کر کے مدرسہ کے اساتذہ کو تنخواہ دینا	۸۰۰۷
۲۱۷	مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں صرف کرنا	۸۰۰۸
۲۱۸	مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں لگانا جائز ہے یا نہیں	۸۰۰۹
۲۲۰	مسجد کی مد سے مدرس کی تنخواہ دینا	۸۰۱۰
۲۲۱	مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کی تعمیر میں لگانا	۸۰۱۱
۲۲۲	مسجد کی آمدنی دارالافتاء و مدرسہ کے مصارف میں لگانا	۸۰۱۲

۲۲۳ مسجد کے فنڈ سے افطار کا انتظام کرنا	۸۰۱۳
۲۲۴ مسجد یا مدرسہ کی رقم ذاتی تجارت میں لگانا	۸۰۱۴
۲۲۵ مسجد یا مدرسہ کی رقم سے کاروبار کرنا یا قرض دینا	۸۰۱۵
۲۲۷ مسجد کی رقم سے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس مسجد کو دینا	۸۰۱۶
۲۲۸ مسجد کا پیسہ ذاتی معاملات کے لئے بطور قرض دینا	۸۰۱۷
۲۲۹ مسجد کی رقم کسی کو بطور قرض دینا	۸۰۱۸
۲۳۰ تبلیغی جماعت والوں کے لئے مسجد کے فنڈ سے بیت الخلاء بنانا	۸۰۱۹
۲۳۰ مسجد کی رقم سے سڑکیں بنانا	۸۰۲۰
۲۳۱ مسجد کے پیسے سے عام راستے کی نالی بنوانا	۸۰۲۱
۲۳۲ مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چارپائی و تختہ وغیرہ خریدنا	۸۰۲۲

۱۳۔ الفصل الثالث عشر: مساجد کی چیزیں



کرایہ پر دینے کا بیان

۲۳۴ کیا متولی اور کرایہ داروں پر معاہدہ کی پابندی لازم ہے؟	۸۰۲۳
۲۳۸ ذمہ داران مسجد کا کرائے دار سے ایک لاکھ روپیہ مانگنا	۸۰۲۴
۲۴۱ موقوفہ کرایہ کی دوکان میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی	۸۰۲۵
۲۴۳ مسجد کی آراضی کو کرایہ دار سے خالی کرانا	۸۰۲۶
۲۴۵ نیچے دوکان اوپر مسجد کا حکم	۸۰۲۷
۲۴۷ نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانے کا حکم	۸۰۲۸
۲۴۸ مسجد کے حصہ اور وضو خانہ کی جگہ پر دوکان بنانا	۸۰۲۹
۲۵۰ صحن مسجد کے نیچے دوکانیں تعمیر کرنا	۸۰۳۰
۲۵۱ مسجد کے نیچے خالی حصہ کو دوکان بنانا	۸۰۳۱

۲۵۲ مسجد کے نچلے حصہ کو رہائش گاہ بنانا.....	۸۰۳۲
۲۵۳ پٹہ پر زمین لے کر مسجد کی آمدنی کے لئے دوکانیں بنانا.....	۸۰۳۳
۲۵۴ مسجد کے فائدے کے لئے مسجد کے نیچے چوپال بنانا.....	۸۰۳۴
۲۵۵ مسجد کی سیڑھی کے نیچے کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۳۵
۲۵۶ مسجد کے لئے کرایہ کی دوکانیں و گودام بنانے کا حکم.....	۸۰۳۶
۲۵۸ مسجد کے گودام اور وضو خانہ کی چھت پر کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۳۷
۲۵۹ شرعی مسجد کے نیچے دوکانیں بنا کر کرایہ پر دینے کا حکم.....	۸۰۳۸
۲۶۰ مسجد کے نیچے بغرض آمدنی ہال بنانا.....	۸۰۳۹
۲۶۲ مسجد کی دوکان کو کرایہ پر دینے سے متعلق چند سوالات کے جوابات.....	۸۰۴۰
۲۶۴ مسجد کی دوکان اور مکان کرائے پر دینا.....	۸۰۴۱
۲۶۶ وقف کی جائیداد کا کرایہ کس تناسب سے ہو.....	۸۰۴۲
۲۶۹ مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا.....	۸۰۴۳
۲۷۰ مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا.....	۸۰۴۴
۲۷۱ مسجد کے کمرہ میں مدرس کا بلا کرایہ رہنا.....	۸۰۴۵
۲۷۲ مسجد کی دوکانیں کم اجرت میں کرائے پر دینا.....	۸۰۴۶
۲۷۴ چندہ کی شرط لگا کر مسجد کا کمرہ کم کرایہ پر دینے کا حکم.....	۸۰۴۷
۲۷۵ مسجد کے کرایہ دار سے مرمت وغیرہ کی شرط لگانا.....	۸۰۴۸
۲۷۷ موقوفہ جائیداد کی آمدنی بڑھانے کا حکم.....	۸۰۴۹
۲۷۸ مسجد کی زائد از ضرورت زمین کو کرایہ پر دینا.....	۸۰۵۰
۲۷۹ مسجد کے اوپر مدرسہ بنا کر کرایہ پر دینا.....	۸۰۵۱
۲۸۰ مسجد کے فائدے کے لئے دس بیگہ زمین کو بائیس بیگہ بنانا.....	۸۰۵۲
۲۸۲ مسجد کی دوکان کا کرایہ نہ ادا کرنے والے کا حج کرنا.....	۸۰۵۳

۲۸۴	میلے کے لئے کرایہ پردی گئی مسجد کی زمین کے کرایہ کا حکم	۸۰۵۴
۸۵	مسجد کی کرایہ دار عورت اگر تنگ دست ہو تو کیا کریں؟	۸۰۵۵
۲۸۵	مسجد کی بالائی منزل پر ٹیلر کی دوکان کرنا	۸۰۵۶
۲۸۶	مسجد کے مکان میں کرایہ دار کا جو او غیرہ کھیلنا	۸۰۵۷
۲۸۷	مسجد کی دوکانوں میں ریڈیو کی دوکان کھولنا	۸۰۵۸
۲۸	مسجد کی دوکان شراب فروخت کرنے والے کو کرایہ پر دینا	۸۰۵۹
۲۸۸	مساجد کی املاک سودی کاروبار کرنے والوں کو دینا	۸۰۶۰
۲۹۰	مساجد کا سامان ہندو کو کرایہ پر دینا	۸۰۶۱
۲۹۱	مسجد کے مانگ سے اعلان کرنا	۸۰۶۲
۲۹۲	مسجد کے مانگ سے تقریر کرنا	۸۰۶۳

۱۴ | الفصل الرابع عشر: مسجد کی اشیاء



کی خرید و فروخت

۲۹۴	مسجد میں مسجد کی اشیاء کو فروخت کرنا	۸۰۶۴
۲۹۵	مسجد کا سامان بیچنا	۸۰۶۵
۲۹۶	مساجد کی اشیاء کے خرید و فروخت کا حکم	۸۰۶۶
۲۹۷	وقف شدہ قرآن کریم مسجد سے باہر لے جانا	۸۰۶۷
۲۹۸	مسجد کے بوسیدہ قرآن کریم کم قیمت میں ہدیہ پر دینا	۸۰۶۸
۲۹۹	مسجد کی چیز دوسری جگہ لے جانا	۸۰۶۹
۳۰۱	آلات مسجد و مدرسہ کے استغناء کی صورت کا حکم	۸۰۷۰
۳۰۲	غرض واقف کے خلاف اشیاء مسجد کے استعمال کا حکم	۸۰۷۱
۳۰۳	قبضہ کے اندیشہ سے مسجد کی موقوفہ زمین فروخت کرنے کا حکم	۸۰۷۲

- ۳۰۴ مساجد کے قرآن ضرورت مند شخص کو یا مکتب میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۸۰۷۳
- ۱۵/ الفصل الخامس عشر: مسجد میں مدرسہ وغیرہ تعمیر کرنا
- ۳۰۶ مسجد کو مسما کر کے مدرسہ بنانا ۸۰۷۴
- ۳۰۷ مسجد کی چھت پر مدرسہ تعمیر کرنا ۸۰۷۵
- ۳۰۷ مسجد و مدرسہ اوپر نیچے بنانا کیسا ہے؟ ۸۰۷۶
- ۳۰۸ مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانہ کے اوپر مدرسہ بنانا ۸۰۷۷
- ۳۰۹ نیچے مدرسہ اوپر مسجد تعمیر کرنا ۸۰۷۸
- ۳۱۰ اوپر مسجد اور نیچے مدرسہ بنانا ۸۰۷۹
- ۳۱۱ اوپر مسجد نیچے مدرسہ بنانا ۸۰۸۰
- ۳۱۲ مدرسہ کی چھت پر مسجد بنانا ۸۰۸۱
- ۳۱۲ مسجد کو مدرسہ سے تبدیل کرنا ۸۰۸۲
- ۳۱۶ مسجد کے لئے موقوفہ مکان میں مدرسہ بنانا ۸۰۸۳
- ۳۱۷ مکتب کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگانا ۸۰۸۴
- ۳۱۸ مسجد کاروپہ مدرسہ میں خرچ کرنا ۸۰۸۵
- ۳۱۸ مسجد سے ملحق مدرسہ کو مسجد کے تابع کرنا ۸۰۸۶
- ۳۲۰ مسجد کی زمین میں مسافر خانہ تعمیر کرنا ۸۰۸۷
- ۳۲۳ نیچے مدرسہ و دکانیں اور اوپر مسجد تعمیر کرنا ۸۰۸۸
- ۳۲۴ مسجد کے لئے خریدی گئی زمین میں رہائشی مکان تعمیر کرنا ۸۰۸۹
- ۳۲۷ دوبارہ آیا ہوا سوال اور الگ سے جواب ۸۰۹۰
- ۳۲۹ مسجد کی دیوار پر دوکان بنانا ۸۰۹۱

	□	۱۶ الفصل السادس عشر: سرکاری زمین میں تعمیر مسجد	
۳۳۱	۸۰۹۲	رفاہ عام کی جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنانا.....	
۳۳۲	۸۰۹۳	گرام سماج کی زمین کس کی ملک ہے؟.....	
	۸۰۹۴	پردھان کی طرف سے الاٹ کردہ گرام سماج کی زمین میں تعمیر مسجد کا حکم.....	
۳۳۳		تعمیر مسجد کا حکم.....	
۳۳۴	۸۰۹۵	سرکاری زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	
۳۳۵	۸۰۹۶	سرکاری زمین پر تعمیر مسجد.....	
۳۳۶	۸۰۹۷	حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری زمین میں تعمیر مسجد.....	
۳۳۷	۸۰۹۸	سرکاری افتادہ زمین پر مسجد بنانا.....	
۳۳۸	۸۰۹۹	میونسپلٹی بورڈ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	
	۸۱۰۰	سرکاری زمین پر بلا اجازت دوکان بنا کر کرایہ مسجد میں استعمال کرنے کا حکم.....	
۳۳۹		سرکاری زمین یا شاہ راہ پر مسجد کے لئے بورنگ بنانا.....	
۳۴۰	۸۱۰۱	غیر مسلم سے پٹے کی زمین ٹھیکہ پر لے کر مسجد و مدرسہ بنانا.....	
۳۴۲	۸۱۰۲	سماج کی آراضی پر مسجد بنانا.....	
۳۴۴	۸۱۰۳	دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مسجد تعمیر کرنا.....	
۳۴۵	۸۱۰۴	دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مسجد تعمیر کرنا.....	
	□	۱۷ الفصل السابع عشر: مسجد میں سرکاری امداد کا حکم	
۳۴۷	۸۱۰۵	گرام سماج کی زمین مسجد کی ملک ہوگی یا قابض کی؟.....	
۳۴۸	۸۱۰۶	ودھائی کوٹے کی رقم مسجد میں لگانا.....	
۳۴۹	۸۱۰۷	گرام سبھا کی زمین فروخت کر کے قیمت مسجد میں لگانا.....	
۳۵۰	۸۱۰۸	MLA یا MP کو ملنے والے حکومتی فنڈ کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا.....	

۳۵۱ غیر مسلم MLA/MP کا سرکاری رقم مسجد میں دینا.....	۸۱۰۹
 مسلم پردھان کا پنچایت کی زمین پر لگے ہوئے سوکھے درخت	۸۱۱۰
۳۵۲ کی قیمت مسجد یا مدرسہ میں لگانا.....	
۳۵۳ مسجد میں سرکاری بجلی استعمال کرنا.....	۸۱۱۱
۳۵۵ حکومت کا مسجد کا بجلی بل معاف کرنا.....	۸۱۱۲
۳۵۶ مسجد کے بیت الخلاء میں MLA کے کوٹے کا پیسہ لگانا.....	۸۱۱۳
۳۵۷ مسجدوں کے لئے سرکاری سولرائٹ لینے کا حکم.....	۸۱۱۴
۳۵۷ مسجد میں چوری کی بجلی کے استعمال کا حکم.....	۸۱۱۵

۱۸/الفصل الثامن عشر: دوسرے کی زمین



..... میں مسجد کی تعمیر.....

۳۵۹ غیر کی زمین میں مسجد کا دروازہ کھولنا.....	۸۱۱۶
۳۵۹ متنازعہ جگہ پر مسجد تعمیر کرنا.....	۸۱۱۷
۳۶۲ بیوہ کی اجازت کے بغیر جبراً اس کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا.....	۸۱۱۸
۳۶۳ یتیم بچہ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنانا.....	۸۱۱۹
۳۶۵ مشترکہ زمین میں مسجد بنانا.....	۸۱۲۰
۳۶۶ مشترکہ زمین میں کسی ایک وارث کا مسجد بنانا.....	۸۱۲۱
۳۶۷ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنے اور مسجد بنانے کا حکم.....	۸۱۲۲
۳۶۹ خانقاہ کی جگہ پر مسجد بنانا.....	۸۱۲۳
۳۷۰ موروثی زمین میں مسجد کی ملکیت کا دعویٰ کرنا.....	۸۱۲۴
۳۷۱ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم.....	۸۱۲۵
۳۷۳ دوسرے کی زمین میں جبراً بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم.....	۸۱۲۶

۳۷۵ بلا اجازت دوسرے کی زمین میں تعمیر مسجد	۸۱۲۷
۳۷۶ مالک کی رضا مندی کے بغیر زمین مسجد میں شامل کرنا	۸۱۲۸
۳۷۷ غیر کی زمین کو مسجد کے لئے وقف کرنا	۸۱۲۹
۳۷۸ دوسرے کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا	۸۱۳۰
۳۸۰ غیر کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا	۸۱۳۱
۳۸۳ غاصب سے مسجد کے لئے زمین خریدنا	۸۱۳۲

۱۹/ الفصل التاسع عشر: مسجد میں چندہ کا بیان

۳۸۴ موعود مسجد کو چندہ نہ دیکر دوسری مسجد کو دینے کا حکم	۸۱۳۳
۳۸۴ ذمہ داران مسجد کی بدعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس لے کر دوسری مسجد میں دینا	۸۱۳۴
۳۸۵ مسجد میں دی ہوئی رقم واپس لینا	۸۱۳۵
۳۸۶ چندہ دیتے وقت پچاس کا نوٹ دے کر چالیس روپیہ واپس لینا	۸۱۳۶
۳۸۷ مسجد کی صفائی اور تعاون کا عہد کر کے مکر نے کا حکم	۸۱۳۷
۳۸۹ ضرورت مسجد کیلئے لئے گئے قرض کا ذمہ دار کون؟	۸۱۳۸
۳۹۰ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں چندہ کرنے کا حکم	۸۱۳۹
۳۹۱ مسجد کے لئے چندہ کی گئی رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنانا	۸۱۴۰
۳۹۲ مٹھلین مسجد کا چندہ کی رقم سے نصف لینے کا حکم	۸۱۴۱
 مسجد کی ضرورت پوری کرنے کے لئے محلہ والوں سے رمضان میں چندہ کرنا	۸۱۴۲
۳۹۳ مسجد میں گولک کے ذریعہ سے جمع شدہ رقم مسجد میں لگانا	۸۱۴۳
۳۹۶ مسجد بنانے کے لئے چندہ کرنا	۸۱۴۴

۳۹۷ مسجد کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بھی چندہ کرنا۔	۸۱۴۵
۳۹۹ کمیشن پر مسجد کا چندہ کرنا۔	۸۱۴۶
۴۰۰ جوٹنکی مسجد میں لگا دی گئی اس کے لئے چندہ کرنا۔	۸۱۴۷
۴۰۰ ایک باغ کی جگہ دوسرے باغ کی قیمت مسجد میں لگانے کا حکم۔	۸۱۴۸
۴۰۲ مسجد کے لئے کئے گئے چندہ سے مسجد کا موٹر، پائپ وغیرہ خریدنا	۸۱۴۹
۴۰۳ مسجد کے برآمدہ کے لئے دی گئی رقم دیگر ضروریات میں صرف کرنا	۸۱۵۰
۴۰۴ تعمیر چندہ سے مؤذن و خادم مسجد کو تنخواہ دینا۔	۸۱۵۱
۴۰۵ دیگر اوقاف کی دکانوں کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۵۲
۴۰۶ فصل کے موقع پر مسجد کے لئے دئے گئے غلہ کی رقم مسجد میں صرف کرنا	۸۱۵۳
۴۰۷ مسجد اور مدرسہ کے لئے الگ الگ چندہ کرنا۔	۸۱۵۴
۴۰۸ شادی میں مسجد و مدرسہ کے لئے چندہ کرنا۔	۸۱۵۵
۴۰۹ مسجد اور مدرسہ کا مشترکہ چندہ۔	۸۱۵۶
۴۱۰ مسجد و مدرسہ کے چندے اور اپنے پیسوں سے مکان تعمیر کرنا۔	۸۱۵۷
۴۱۳ قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۵۸
۴۱۴ قبرستان کے درخت یا ان کی آمدنی مسجد میں لگانا۔	۸۱۵۹
۴۱۶ قربانی کے کھالوں کی رقم کو تملیک کے بعد مسجد میں صرف کرنا۔	۸۱۶۰
۴۱۷ بلا حلالہ مطلقہ ثلاثہ کو رکھنے والے سے مسجد میں چندہ لینا۔	۸۱۶۱
۴۱۸ ہر فرد سے بلا امتیاز غریب و امیر جبراً تین کلو اناج وصول کرنے کا حکم	۸۱۶۲
	۲۰ الفصل العشر ون: مسجد میں صدقات کا حکم	□
۴۲۰ صدقات واجبہ کی رقم سے مسجد کا غسل خانہ وغیرہ تعمیر کرنا۔	۸۱۶۳
۴۲۱ روزہ کے فدیہ کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا۔	۸۱۶۴

۴۲۲	قربانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگانا	۸۱۶۵
۴۲۲	زکوٰۃ، تیجہ، چالیسویں کی رقم مسجد میں لگانا	۸۱۶۶
۴۲۳	راستہ میں نل لگانے کے لئے دیئے گئے چندہ کو مسجد میں لگانا	۸۱۶۷
۴۲۴	جبراً چندہ وصول کرنا	۸۱۶۸
۴۲۵	تعویذ کی اجرت مسجد لگانے کا حکم	۸۱۶۹
۲۱ / الفصل الحادی والعشرون : مسجد میں تعلیم			□
۴۲۷	حدود مسجد میں بچوں کو تعلیم دینے کی شرعی حیثیت	۸۱۷۰
۴۲۸	مسجد میں بچوں کو تعلیم دینا	۸۱۷۱
۴۲۹	چھوٹے بچوں کو مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۷۲
۴۳۰	مسجد میں مکتب قائم کرنا	۸۱۷۳
۴۳۱	بچوں کو مسجد میں تنخواہ لے کر پڑھانا	۸۱۷۴
۴۳۲	مسجد میں اجرت لے کر بچوں کو قرآن پڑھانا	۸۱۷۵
۴۳۵	منجانب مسجد یا مدرسہ تنخواہ یافتہ معلم کے لئے بلا فیس مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۷۶
۴۳۶	با اجرت معلم کا مسجد میں درس دینا	۸۱۷۷
۴۳۷	مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینا	۸۱۷۸
۴۳۹	مسجد میں اجرت لے کر پڑھانا	۸۱۷۹
۴۴۰	تنخواہ دار مدرسہ کا مسجد میں تعلیم دینا	۸۱۸۰
۴۴۲	مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینے کا حکم	۸۱۸۱
۴۴۳	معلم مدرسہ کا مسجد میں درس و تدریس کا حکم	۸۱۸۲
۲۲ / الفصل الثانی والعشرون : مسجد کے			□
مانک سے اعلان			
۴۴۶	مسجد کے مانک سے اعلانات کرنا	۸۱۸۳

۴۴۷	مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنا	۸۱۸۴
۴۴۷	مسجد کے مائک سے مختلف اعلان کرنا	۸۱۸۵
۴۴۹	مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مختلف قسم کے اعلان کا حکم	۸۱۸۶
۴۵۱	مسجد کے مائک سے بالعوض اعلان کرنا	۸۱۸۷
۴۵۲	مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے اجرت لینا	۸۱۸۸
۴۵۳	مسجد سے الگ مائک سے اعلان کرانے کا کرایہ لینا	۸۱۸۹
۴۵۴	مسجد کے مائک سے نماز جنازہ اور جلسہ کا اعلان کرنا	۸۱۹۰
۴۵۵	مسجد کے مائک سے موت یا کسی بچہ کے کھوجانے کا اعلان کرنا	۸۱۹۱
۴۵۶	جمعہ، عید الفطر وغیرہ کے موقع پر مسجد میں چندہ کرنا اور نام کا اعلان کرنا	۸۱۹۲
۴۵۷	مسجد کے مائک سے سحری کا اعلان کرنا	۸۱۹۳
۴۵۸	مسجد کے لئے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد میں چندہ کرنا	۸۱۹۴
۴۵۹	مسجد کے مائک سے مدرسہ کے لئے چندہ کرنا	۸۱۹۵
۴۶۰	مسجد کے مائک پر مسجد سے غیر متعلق اعلان کرنا	۸۱۹۶
۴۶۱	مسجد کے مائک سے دنیاوی چیزوں کا اعلان	۸۱۹۷
۴۶۲	مسجد کے مائک سے بیج و شر اور گمشدگی کے اعلان کا حکم	۸۱۹۸
۴۶۳	گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا	۸۱۹۹
۴۶۴	مسجد کے اندر گم شدہ بچے اور چیز کا اعلان کرنا	۸۲۰۰
۴۶۵	مسجد کے مائک سے مختلف امور کا اعلان کرنا	۸۲۰۱
۴۶۶	مسجد کے مائک سے مرغی، بکری کا اعلان کرنا	۸۲۰۲
۴۶۸	مسجد میں سائل کا سوال کرنا اور سفیر کا چندہ کرنا	۸۲۰۳
۴۶۹	مسجد کا مائک ذاتی کاموں کے لئے استعمال کرنا	۸۲۰۴

۲۳۔ الفصل الثالث والعشرون: غیر مسلم



کا مسجد میں داخل ہونا.....

۴۷۱ غیر مسلم ملازم سے مسجد کے کاموں میں تعاون لینا.....	۸۲۰۵
۴۷۱ کافر کا مسجد میں داخل ہو کر گھومنا.....	۸۲۰۶
۴۷۳ غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا.....	۸۲۰۷
۴۷۵ مسجد میں نکاح کی منعقد مجلس میں غیر مسلم کی شرکت.....	۸۲۰۸

۲۴۔ الفصل الرابع والعشرون: مسجد میں



حرام مال لگانا.....

۴۷۷ مسجد میں مال حرام لگانا.....	۸۲۰۹
۴۷۸ مدرسہ و مسجد میں حرام مال لگانا.....	۸۲۱۰
۴۷۹ ناجائز آمدنی مسجد میں لگانا.....	۸۲۱۱
۴۸۰ مال حرام مسجد اور اس کے متعلقات میں صرف کرنا.....	۸۲۱۲
۴۸۲ مسجد میں لگے ہوئے مال حرام کے مکافات کی شکل.....	۸۲۱۳
۴۸۳ مخنث کا مکان مسجد کے نام وقف کرنا.....	۸۲۱۴
۴۸۴ ہجرے کا مسجد کے لئے زمین وقف کرنا.....	۸۲۱۵
۴۸۵ ہجرے کی کمائی سے بنائی گئی مسجد کا حکم.....	۸۲۱۶
۴۸۶ زنانہ پن اختیار کرنے والے کے مکان کو مسجد میں استعمال کرنا.....	۸۲۱۷
۴۸۹ طوائف کی مسجد.....	۸۲۱۸
۴۹۰ طوائف کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد کب شرعی مسجد بن سکتی ہے؟.....	۸۲۱۹
۴ طوائف کی زمین عمومی چندہ سے خرید کر اس پر مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا.....	۸۲۲۰

۴۹۲ مسجد میں حرام سامان یا اس کی قیمت دینا.....	۸۲۲۱
۴۹۲ ناجائز آمدنی والے شخص کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز کا حکم.....	۸۲۲۲
۴۹۳ ناچنے والی عورتوں کا روپیہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۲۳
۴۹۵ سودی رقم مسجد میں صرف کرنے کا حکم.....	۸۲۲۴
۴۹۶ سودی قرض لے کر مساجد مدارس تعمیر کرنا.....	۸۲۲۵
۴۹۷ بینک سے قرض لے کر مسجد بنانا اور آراضی مساجد پر بینک کی تعمیر	۸۲۲۶
۴۹۸ بینک میں مسجد کی جمع شدہ رقم پر ملے سود کو بیت الخلاء میں لگانا.....	۸۲۲۷
۴۹۹ بینک سے حاصل شدہ رقم مسجد کی تعمیر میں صرف کرنا.....	۸۲۲۸
۵۰۰ سودی رقم عید گاہ یا مسجد میں صرف کرنا.....	۸۲۲۹
۵۰۱ مسجد میں لگی ہوئی سودی رقم کو پاک کرنے کا طریقہ.....	۸۲۳۰
 سودی رقم سے تجارت کرنے والے شخص کی رقم مسجد میں لگانے	۸۲۳۱
۵۰۲ اور اس کی دعوت کھانے کا حکم.....	
۵۰۳ سودی رقم مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنا.....	۸۲۳۲
۵۰۳ سود کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا.....	۸۲۳۳
۵۰۳ غیر مسلم کی شراب و خنزیر اور سودی رقم کو مسجد میں لگانا.....	۸۲۳۴
۵۰۶ مسجد میں چوری کی بجلی کا استعمال.....	۸۲۳۵
۵۰۷ چوری کے پیسے سے مسجد کا مائیک خریدنا.....	۸۲۳۶
۵۰۸ میٹر کے بغیر مسجد و مدرسہ میں لائٹ کا استعمال.....	۸۲۳۷
۵۰۹ مسجد کی تعمیر میں شیعہ سے بغیر حق کے کے روپے لینا.....	۸۲۳۸
۵۱۱ سٹہ کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۳۹
۵۱۱ تقزیر یا مال کی سزا میں لئے گئے پیسہ کو مسجد و مدرسہ میں لگانا.....	۸۲۴۰
۵۱۳ مالی جرمانہ کا پیسہ مساجد و مدارس میں لگانا.....	۸۲۴۱

۵۱۴	جرمانہ کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا.....	۸۲۴۲
	ہندوستان میں چوری وغیرہ کے جرم میں لیا ہوا روپیہ مساجد کی	۸۲۴۳
۵۱۵	تعمیر وغیرہ میں لگانا کیسا ہے؟.....	
۵۱۶	شراب کی کمائی مسجد میں لگانے کا حکم.....	۸۲۴۴
۵۱۷	خزیر کے بالوں کے برش بنانے والوں کا چندہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۴۵
۵۱۸	خزیر کے بالوں کا برش بنانے والوں کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا	۸۲۴۶
۵۱۹	دوسرے کی غصب کردہ زمین کی اجرت مسجد میں دینا.....	۸۲۴۷
۵۲۱	مغصوبہ زمین میں مسجد بنانے کا حکم.....	۸۲۴۸
۵۲۲	مساجد کو ڈسکاؤنٹ دینے والی کمپنیوں سے سامان خریدنا.....	۸۲۴۹
۵۲۲	واپس نہ لینے کی نیت سے دیئے گئے قرض کو مسجد میں صرف کرنا	۸۲۵۰
۵۲۳	جو اوڑھنا کی آمدنی سے تعمیر کیا گیا مکان مسجد کے لئے خریدنا	۸۲۵۱
۵۲۵	سینما ہال کے جزیئر کی بجلی مسجد میں استعمال کرنا.....	۸۲۵۲
۵۲۵	جہیز میں روپیہ لے کر مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۳
۵۲۷	شادی کے موقع پر مسجد میں دیئے گئے کولر گھڑی وغیرہ کا حکم.....	۸۲۵۴
۵۲۸	عید میلاد النبی کے جلوس سے مسجد کی تعمیر کے لئے چندہ کرنا.....	۸۲۵۵
۵۲۹	مسجد کا بیت الخلاء دکھلا کر سرکار سے وصول کی گئی رقم کا حکم.....	۸۲۵۶
۵۳۰	منکوحتہ الغیر سے نکاح کرنے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۷
	۲۵/ الفصل الخامس والعشرون: غیر مسلم کے	□
	پیسے مسجد میں لگانے کے احکام.....	
۵۳۱	غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگانا.....	۸۲۵۸
۵۳۲	تعمیر مساجد میں ہندو حکومت یا اشخاص کی رقم لگانا.....	۸۲۵۹

۵۳۵ غیر مسلم کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا	۸۲۶۰
۵۳۶ مساجد کی تعمیر میں غیر مسلموں کا روپیہ لگانا	۸۲۶۱
۵۳۷ غیر مسلم کا چندہ مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۲
۵۳۸ ہندوؤں کا پیسہ مسجد میں لگانا	۸۲۶۳
۵۴۰ غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانے کا حکم	۸۲۶۴
۵۴۲ غیر مسلم کی رقم مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۵
۵۴۳ مدارس و مساجد میں غیر مسلم کی رقم صرف کرنا	۸۲۶۶
۵۴۴ ہیجڑوں یا کافروں کا روپیہ مسجد یا عید گاہ میں لگانا	۸۲۶۷
۵۴۵ ہندوؤں کا مساجد و مدارس میں چندہ دینا	۸۲۶۸
۵۴۷ اہل ہندو کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا	۸۲۶۹
۵۴۸ غیر مسلم کی رقم سے مسجد کی تعمیر کا کام کرانا	۸۲۷۰
	۲۶ / الفصل السادس والعشرون: مسجد میں	□
	وعظ و تقریر وغیرہ	
۵۴۹ مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کے لئے مسجد میں جلسہ کرنا	۸۲۷۱
۵۵۰ مسجد کے مانگ سے بچوں کی اجتماعی دعا اور نعت خوانی کا حکم	۸۲۷۲
۵۵۱ مسجد کے مانگ میں نعت وغیرہ پڑھنا	۸۲۷۳
۵۵۲ کیا عورتوں کا اجتماع مسجد میں کر سکتے ہیں؟	۸۲۷۴
۵۵۳ مسجد میں نعت شریف پڑھنا	۸۲۷۵
	۲۷ / الفصل السابع والعشرون: مسجد میں	□
	مستحب اور مکروہ کاموں کا بیان	
۵۵۵ مینار اور کمان بنانے کا حکم	۸۲۷۶

۵۵۶ مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر لگانا	۸۲۷۷
۵۵۷ صنفوں میں رنگوں سے مصلیٰ نما شکل بنانا	۸۲۷۸
۵۵۸ پھول والے ٹائلز کو تصویر تصور کرنے کا حکم	۸۲۷۹
۵۵۹ مسجد کی دیواروں پر منقش ٹائلز لگانا	۸۲۸۰
۵۶۱ مسجد کی مختلف جگہوں پر پھول رکھنا یا اس کے درخت لگانا	۸۲۸۱
۵۶۳ مسجد کی زمین میں پھولوں کے درخت لگانا اور گملے رکھنا کیسا ہے؟	۸۲۸۲
۵۶۵ حدود مسجد سے باہر پھولوں کے پیڑ پودے لگانا	۸۲۸۳
۵۶۶ پرچار والے کلینڈر مساجد میں آویزاں کرنا	۸۲۸۴
۵۶۷ مسجد میں غیر جاندار کی تصویر لگانا	۸۲۸۵
۵۶۸ مسجد میں میوزک والی گھڑیاں لگانا	۸۲۸۶
۵۶۹ سنگیت اور میوزک والی گھڑی مساجد میں لگانا	۸۲۸۷
۵۷۰ مسجد میں ٹوپیاں رکھنا اور ان میں مصلیوں کا نماز پڑھنا	۸۲۸۸
۵۷۱ مسجد میں صنفوں کے آگے چیلوں کو ٹین کے ڈبے میں رکھنا	۸۲۸۹
۵۷۲ مسجد و قبرستان سے کتنی دوری پر بیت الخلاء تعمیر کریں؟	۸۲۹۰
۵۷۳ مساجد میں نعرہ بازی کرنا	۸۲۹۱
۵۷۴ ٹیکس سے بچنے کے لئے مسجد کی آمدنی اصل سے کم بتانا	۸۲۹۲
۵۷۵ نمازیوں کا دوسرے کی زمین سے مسجد میں آنا جانا	۸۲۹۳
۵۷۶ مسجد کے نیچے سے نجاست کا پائپ ڈالنا	۸۲۹۴
۵۷۷ حدود مسجد میں نالی بنانا	۸۲۹۵
۵۷۸ مسجد کی اراضی میں گاڑیاں کھڑی کرنا	۸۲۹۶
۵۷۹ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاجاً مسجد کو مقفل کرنا	۸۲۹۷
۵۸۱ مسجد کی رقم سے خریدی گئی اینٹوں سے استنجاء کرنا	۸۲۹۸

۵۸۲ پرندوں کی بیٹ کی وجہ سے صحن مسجد کا درخت کاٹنا	۸۲۹۹
۵۸۳ مسجد میں اگلدان رکھنا اور اس میں تھوکننا	۸۳۰۰
۵۸۴ مسجد کی دیوار پر پوسٹر لگانا	۸۳۰۱
۵۸۵ مسجد کے دالان میں آئینہ نصب کرنا	۸۳۰۲
۵۸۶ مسجد کی تعمیر کے درمیان اس میں چپل پہن کر چلنا	۸۳۰۳
۵۸۷ حدود مسجد میں مستری و مزدور کا حقہ بیٹی پینا	۸۳۰۴
۵۸۸ منبر پر جاکٹ، کوٹ یا دودھ کا ڈبہ رکھنا	۸۳۰۵
۵۸۹ مسجد کے صحن میں چار پائی لگا کر بیٹھنا	۸۳۰۶
۵۹۰ بچوں کے پاجامہ کی تری سے کیا صاف ناپاک ہو جاتی ہے؟	۸۳۰۷
۵۹۲ ناپاک کپڑا بیگ وغیرہ میں رکھ کر مسجد میں رکھنا	۸۳۰۸
۵۹۳ مسجد کا ملبہ ناپاک جگہ میں استعمال کرنا	۸۳۰۹

۲۸ / الفصل الثامن والعشرون: مسجد میں



بدبودار چیز داخل کرنے کا بیان

۵۹۴ مسجد میں مورٹین جلانا	۸۳۱۰
۵۹۴ بدن پر چھ مارنے والی دوائی لگا کر نماز پڑھنا	۸۳۱۱
۵۹۵ مساجد میں گیس کی لائٹن جلانے کا حکم	۸۳۱۲
۵۹۶ مسجد کے اندر گیس سلینڈر جلانا	۸۳۱۳
۵۹۷ مساجد میں گیس سلینڈر کا استعمال	۸۳۱۴
۵۹۹ مسجد میں مٹی کے تیل سے لائٹن جلانا	۸۳۱۵
۶۰۰ مسجد میں گھی کا چراغ جلانا	۸۳۱۶
۶۰۱ مسجد کے اندر گرہنی جلانے کا حکم	۸۳۱۷

- ۶۰۲ بدبودار پینٹ کا مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ۸۳۱۸
- ۶۰۴ مسجد میں تمباکو استعمال کرنا ۸۳۱۹

۷/باب المصلیٰ



- ۶۰۵ عید گاہ کے تحقق کے لئے رجسٹری یا عمارت ضروری ہے یا نہیں؟ ۸۳۲۰
- ۶۰۷ کیا عید کی نماز درست ہونے کے لئے عید گاہ کی رجسٹری لازم ہے؟ ۸۳۲۱
- ۶۰۸ گرمی، سردی سے بچاؤ کے لئے عید گاہ کو مسقف بنانا ۸۳۲۲
- ۶۰۸ آٹھ گاؤں والوں کا مل کر ایک عید گاہ بنانا ۸۳۲۳
- ۶۱۰ ایک بستی میں دو عید گاہ بنانا ۸۳۲۴
- ۶۱۱ پہلی عید گاہ کو فروخت کر کے اس کی رقم دوسری عید گاہ میں لگانا ۸۳۲۵
- ۶۱۳ ایک عید گاہ سے متعلق چند سوالات ۸۳۲۶
- ۶۱۷ مسجد کی جگہ عید گاہ بنانا ۸۳۲۷
- ۶۱۸ آباد مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانے کا حکم ۸۳۲۸
- ۶۱۹ مسجد توڑ کر عید گاہ بنانا ۸۳۲۹
- ۶۲۰ عید گاہ منہدم کر کے مسجد بنانا ۸۳۳۰
- ۶۲۲ عید گاہ کے لئے وقف کی گئی زمین پر مسجد بنانا ۸۳۳۱
- ۶۲۴ قدیم مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانا ۸۳۳۲
- ۶۲۴ آبادی میں واقع عید گاہ کو مدرسہ بنانا ۸۳۳۳
- ۶۲۶ عید گاہ کو مدرسہ بنا کر دوسری عید گاہ بنانا ۸۳۳۴
- ۶۲۷ عید گاہ کو مسجد میں تبدیل کر کے شہر کے باہر عید گاہ بنانا ۸۳۳۵
- ۶۲۸ گرام پنچایت کی زمین میں عید گاہ بنانا ۸۳۳۶
- ۶۳۰ سرکاری اسکول کو عید گاہ بنانا ۸۳۳۷
- ۶۳۰ عید گاہ میں شادی ہال یا اسکول بنانا ۸۳۳۸

۶۳۲ مسجد اور عید گاہ کی آمدنی مخلوط کر کے رکھنا	۸۳۳۹
۶۳۳ عید گاہ کو شادی بیاہ کے لئے دینا	۸۳۴۰
۶۳۴ عید گاہ کو بازار لگانے کے لئے کرایہ پر دینا	۸۳۴۱
۶۳۶ وقف کی زمین میں میلہ لگانا اور اس کے کرایہ کا حکم	۸۳۴۲
۶۳۹ شراب کی مشین بنانے والے کی اجرت کو عید گاہ میں استعمال کرنا	۸۳۴۳
۶۴۰ عید گاہ کو مزین کرنا	۸۳۴۴
۶۴۱ عید گاہ میں کرکٹ کھیلنا	۸۳۴۵

۸/باب المقبرة



۶۴۳ کیا منفقہ قرار دیا پر عمل کرنا ضروری ہے؟	۸۳۴۶
 قبرستان کی زمین قبرستان میں اور کاشت کی زمین	۸۳۴۷
۶۴۶ کا شکار کے حوالہ کرنا	
۶۴۷ قدیم قبرستان کے بدلہ میں دوسری جگہ قبرستان بنانا	۸۳۴۸
۶۴۸ قبر کی مٹی لا کر دوسری جگہ قبر بنانا	۸۳۴۹
۶۵۰ قبرستان کی خود رو گھاس کی قیمت سے چہار دیواری بنانا	۸۳۵۰
۶۵۰ قبرستان میں ممبران کے نام کا پتھر لگوانا	۸۳۵۱
۶۵۲ خلاف شرع امور میں قبرستان کو استعمال کرنا	۸۳۵۲
۶۵۴ قبرستان کی جگہ حاصل کرنے کے لئے سڑک پر میت دفن کرنا	۸۳۵۳
۶۵۷ کھیت میں واقع قبر پر مکان تعمیر کرنا یا کاشت کرنا	۸۳۵۴
۶۵۹ پرانی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کرنا	۸۳۵۵
۶۶۰ قبر کی چوڑائی اور گہرائی کی مقدار	۸۳۵۶
۶۶۱ مالک کی اجازت کے بغیر قبرستان میں میت دفنانا	۸۳۵۷
۶۶۲ قبر کھودنے کے دوران نکلی ہوئی لکڑی کا حکم	۸۳۵۸

۶۶۳ عید گاہ کی قبریں برابر کرنا۔	۸۳۵۹
۶۶۳ قبرستان پر لینٹریڈال کر امام صاحب کے لئے کمرہ بنانا۔	۸۳۶۰
۶۶۴ قبروں سے نکالی گئی اینٹوں کا حکم۔	۸۳۶۱
۶۶۵ قبروں کو توڑ کر پختہ راستہ یا پیشاب کی نالی بنانا۔	۸۳۶۲
۶۶۶ قبرستان کے خادم کو معزول کرنا۔	۸۳۶۳
۶۶۷ گانا بجانا اور عرس و قوالی کو ختم کرنے کی غرض سے قبر کو ڈھانا۔	۸۳۶۴
۶۶۸ قبرستان میں تالا لگا کر فاتحہ پڑھنے سے روکنا۔	۸۳۶۵
 شیعہ خواجہ چودھری کے عقائد رکھنے والے کو اہل سنت کے	۸۳۶۶
۶۶۹ قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟	۸۳۶۷
۶۷۰ زائرین قبور کے فائدہ کیلئے قبرستان میں اپنے مکان کا حججہ نکالنا	۸۳۶۸
۶۷۱ قبرستان کی چہار دیواری میں سودی و حرام کمائی کی رقم لگانا۔	۸۳۶۹
۶۷۲ قبرستان کی جالی دار باؤنڈری کو ختم کرنا۔	۸۳۷۰

□ ۱/ الفصل الاول : فی المکر وہ والمستحب

۶۷۴ قبرستان میں درخت لگانا۔	۸۳۷۰
۶۷۴ قبرستان میں رہائش گاہ بنانا۔	۸۳۷۱
۶۷۵ قبر کے ارد گرد چہار دیواری بنوانا۔	۸۳۷۲
۶۷۶ قبروں کی توڑ پھوڑ کے ذریعہ بے حرمتی کرنا۔	۸۳۷۳
۶۷۷ قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا۔	۸۳۷۴
۶۷۸ قبرستان میں جوتے چپل پہن کر چلنا۔	۸۳۷۵
۶۷۹ قبرستان میں جانور چرانا اور عورتوں کا جانا۔	۸۳۷۶
۶۸۱ قبرستان میں جانور چرانا اور کرکٹ وغیرہ کھیلنا۔	۸۳۷۷
۶۸۳ قبرستان کو راستہ اور کھلیان بنانا۔	۸۳۷۸

۶۸۴ قبرستان میں گاڑیاں چلانا، گھر بنانا، کرکٹ وغیرہ کھیلنا	۸۳۷۹
۶۸۶ قبرستان میں ٹریکٹر ڈرائی کے ذریعہ سے مٹی کا بھراؤ کرنا	۸۳۸۰
۶۸۷ قبرستان کی صفائی کے لئے ٹریکٹر چلوانا	۸۳۸۱
۶۸۸ قبرستان میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور چارپائی لگا کر مجلس قائم کرنا	۸۳۸۲
۶۸۹ قبرستان میں کھانا کھلانا کیسا ہے؟	۸۳۸۳
۶۹۰ قبرستان کی جھاڑیوں کو ہیر و بل سے صاف کرنے کا حکم	۸۳۸۴

۲/ الفصل الثانی: فی المصارف □

۶۹۲ زیر ملکیت قبرستان میں دوکان بنا کر آمدنی مسجد میں لگانا	۸۳۸۵
۶۹۳ قبرستان کی آمدنی کے لئے پختہ قبروں کو توڑ کر دوکانیں بنانا	۸۳۸۶
۶۹۴ گورے غریبوں کی قبریں جگہ دینے کے روپے لینا	۸۳۸۷
۶۹۵ قبرستان کے فنڈ سے برتن خرید کر کرائے پر دینا	۸۳۸۸
۶۹۶ قبرستان کی گھاس بٹائی پر دینا	۸۳۸۹
۶۹۷ قبرستان کی آمدنی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟	۸۳۹۰
۶۹۸ قبرستان کی خود رو گھاس کی آمدنی مسجد میں لگانا	۸۳۹۱
۶۹۹ قبرستان کی لکڑیوں سے مسجد کا پانی گرم کرنا	۸۳۹۲
۷۰۰ قبرستان کی رقم مسجد میں لگانا	۸۳۹۳
۷۰۱ قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا	۸۳۹۴
۷۰۳ قبرستان کی آمدنی مسجد کو بطور قرض دینا	۸۳۹۵
۷۰۳ قبرستان کا پیسہ مسجد و مدرسہ میں لگانا	۸۳۹۶
۷۰۵ قبرستان کے روپے کو مسجد یا مکتب میں لگانا	۸۳۹۷
۷۰۶ قبرستان کے درختوں کی آمدنی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا	۸۳۹۸
۷۰۷ قبرستان کے درختوں کی آمدنی سے مدرسہ تعمیر کرنا	۸۳۹۹

۷۰۸	ضرورت مند قبرستان کی آمدنی مسجد و مدرسہ میں استعمال کرنا درست نہیں	۸۴۰۰
۷۰۸	قبرستان کی لکڑی مدرسہ میں صرف کرنا.....	۸۴۰۱
۷۰۹	قبرستان کی آمدنی کو امام یا معلم کی اجرت میں دینا.....	۸۴۰۲
۷۱۰	قبرستان کی کوئی چیز عید گاہ میں لگانا.....	۸۴۰۳
۷۱۰	قبرستان میں پڑی ہوئی اینٹ قبرستان میں لگانا.....	۸۴۰۴
۷۱۱	واقف کا قبرستان کی آمدنی غریبوں پر خرچ کرنا.....	۸۴۰۵
۷۱۲	مملوکہ قبرستان کے درخت کاٹ کر استعمال کرنا.....	۸۴۰۶
۷۱۳	اپنے وقف کردہ قبرستان کے درخت سے فائدہ اٹھانا.....	۸۴۰۷
۷۱۴	قبرستان میں کھیتی اور اس میں آمدنی کا حکم.....	۸۴۰۸



۲۴ / بقية كتاب الوقف

يارب صلّ وسلّم دائماً أبداً على حبيّك خير الخلق كلهم

الفصل الثالث: مسجد قدیم

ویران شدہ مسجد کا حکم

سوال: [۷۸۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم ساکنانِ دلپورہ، ضلع مراد آباد اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، فی الحال گاؤں میں ایسی صورت پیش آگئی کہ اب وہاں پر رہنا دشوار ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس گاؤں میں دو مسجدیں ہیں، ان مساجد کی اینٹ وغیرہ نیز زمین وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ مسجد کو فروخت کر کے دوسری جگہ مسجد بنالیں یہ درست ہے؟

المستفتی: شوکت حسین، دلپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مسجدیں بن چکی ہیں وہ تاقیامت مسجدیں باقی رہیں گی، ان کے سامان وغیرہ منتقل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اگرچہ لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے ہوں اور مسجدوں میں نماز نہ ہو رہی ہو۔

ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتي الخ، وتحتہ فی الشامیة فلا يعود میراثاً ولا يجوز

نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى. حاوی القدسی. وأكثر المشائخ عليه (مجتبی) وهو الأوجه الخ. (الدر مع الرد، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا ۶/۴۸، ۵، كراچی ۴/۳۵۸، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۵، مصری قديم ۱/۴۸، المبسوط للسرخسی، دارالكتب العلمية بيروت ۱۲/۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۱۸۳۳)

اُجڑے ہوئے علاقہ کی ویران مسجد کا حکم؟

سوال: [۷۸۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسلمانوں کی ایک آبادی تھی بعد میں کسی وجہ سے وہ آبادی اجڑ گئی، آبادی اجڑ جانے کے بعد وہاں کی مسجد ویران پڑی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اس مسجد کا شرعی حکم کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس جگہ مسجد بن جائے وہ تا قیامت مسجد ہی

رہتی ہے، اگرچہ وہ مسجد ویران ہو جائے، تب بھی قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کا بدلنا یا کسی دوسرے تصرف میں لانا جائز نہیں۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۲۹، فتاویٰ حنفیہ حیدرآباد ۵/۸۰، فتاویٰ دارالعلوم ۱۳/۳۲۲)

وإذا خرب المسجد واستغنى أهله وصار بحيث لا يصلیٰ فيه عاد ملكاً لواقفه أو لو رثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه داراً وقيل هو مسجدٌ أبداً وهو الأصح. (ہندیہ، الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قديم ۲/۴۵۸، جدید ۲/۴۱۰، قاضی حان زکریا جدید ۳/۲۰۴، وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۸۸)

لو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند أبي يوسف لأنه إسقاط لملكه فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق. (تبیین الحقائق، زکریا ۲۷۲/۴، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰، ۳۳۱، تاتارخانیہ زکریا ۱/۱۶۴، رقم: ۱۱۵۱۹)

قال أبو يوسف هو مسجدٌ أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجدٍ آخر سواء كانوا يصلون فيه أولاً وهو الفتوى. (البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوثنه ۵/۲۵۱، زکریا ۴۲۱/۵، شامی، زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفی ۴/۲۴۴، الولوالجیہ، دارالایمان سہارن پور ۳/۸۸، مبسوط سرخسی، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۲/۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ صفر ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۴۳/۴۰)

کیا غیر آباد مسجد کی حفاظت لازم ہے؟

سوال: [۷۸۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں اور مسجد بھی ہے اب صورت حال یہ ہے کہ اکثر مسلمان دوسری بستی جو روڈ کے کنارے پر ہے، وہاں چلے گئے ہیں، اور تھوڑے مسلمان موجود ہیں، مگر مسجد سے دور ہیں، مسجد کے قریب کی جگہ غیر مسلموں نے خرید لی ہے، اب مسلمانوں پر کیا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے دوسری جگہ مسجد بنالی جائے اور اس کو شہید کر دیا جائے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی چہار دیواری اونچی کر دی جائے اور تالا لگا دیا جائے۔

المستفتی: محمد حنیف، عبدالواحد، بخشپور، بجنور پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ایک دفعہ شرعی طور پر مسجد بن جاتی ہے تو وہ

قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا جائز نہیں ہے، لہذا اگر وہاں مسلمان اب نہیں رہ رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کا انتظام کر کے اس کو محفوظ کر دینا ضروری ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۳۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۳۹)

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني
أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدرمع الرد، الوقف، مطلب فيما لو خرب
المسجد أو غيرہ زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة
بیروت ۲/۵۹۵، مصری قدیم ۱/۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۹۳/۲۸)

غیر آباد علاقہ میں مسجد کا حکم

سوال: [۷۸۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں تقریباً سات مسلم آباد ہیں، اور باقی سب ہندو ہیں، اور اب وہاں کے مسلم حضرات اپنی آبادی کی کمی کی وجہ سے وہاں سے جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، تو اب مسجد کو کیا کیا جائے گا، باقی لوگ اپنے مکان اور زمین وغیرہ کو فروخت کر سکتے ہیں کیا اس مسجد کی اینٹیں دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسجد کی زمین وجگہ کو کیا کریں، کیا فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے، اور اس کی کیا صورت نکلے گی؟ مفصل تحریر فرمائیں؟

المستفتی: فخر الدین، سہرساوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مسجد تعمیر شدہ مذکورہ گاؤں میں ہے، وہ

تا قیامت مسجد ہی رہے گی، اس کو فروخت کر دینا یا اس کو منہدم کر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا منتقل کرنا درست ہے، بلکہ ایسی مسجد کو وقف بورڈ سے رجسٹرڈ کرا کے حفاظت میں کر لینا لازم ہے۔

علمت أن المفتیٰ به قول أبی یوسفؒ إنه لا یجوز نقله و نقل ماله
إلیٰ مسجد اخر الخ. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو حرب المسجد أو غیره
زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹)

(وقوله) نقل فی الذخیرة عن شمس الأئمة الحلوانی أنه سئل عن
مسجد أو حوض حرب ولا یحتاج إلیه لتفرق الناس عنه - إلیٰ قوله - وقد
مشیٰ الشیخ الإمام محمد بن سراج الدین الحانوتی علی القول المفتیٰ به
من عدم نقل بناء المسجد الخ. (شامی، کراچی ۴/۳۵۹، زکریا ۶/۵۵۰)

ولو حرب ما حوله و استغنیٰ عنه یقی مسجداً عند الإمام و الثانی أبدأ
إلی قیام الساعة (وبه یفتیٰ). (الدر المختار، کراچی ۴/۳۴۸، زکریا ۶/۵۴۸، مجمع
الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵، مصری قديم ۱/۷۴۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ شعبان ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۹۸/۲۶)

الفصل الرابع: تعدد مساجد

دو مساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟

سوال: [۷۸۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو مساجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے، جبکہ پہلی مسجد تعمیر شدہ اور آباد ہے اور کچھ لوگ بسبب مسجد کے تنگ ہونے اور آبادی کے منتشر ہونے کے دوسری مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟

المستفتی: رکن الدین خان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر پہلی مسجد سے ملی ہوئی خالی زمین ہو یا آسانی سے زمین مل سکتی ہو تو ایسی صورت میں دوسری مسجد تعمیر کرنے کے بجائے پہلی مسجد کی توسیع کر لی جائے، اور اگر توسیع کے لئے کوئی شکل اور گنجائش نہیں ہے، تو دوسری بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری مسجد کے لئے ایسی جگہ منتخب کرنا بہتر ہے کہ جس جگہ پر مسجد بنانے سے دیکھنے والے اور اجنبی لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ پہلی مسجد کے مقابل اور مخالفت میں دوسری تعمیر کی گئی ہے، اور بلا کسی اختلاف کے دونوں مسجدوں میں نماز پڑھی جائے اور دونوں میں کثرت کے ساتھ نمازی نماز پڑھتے رہیں، اس کے لئے بظاہر مناسب یہی معلوم ہوتا ہے، کہ پہلی مسجد سے معتد بہ فاصلہ پر دوسری تعمیر کی جائے، اس کا فیصلہ وہاں کے لوگ خود کر سکتے ہیں۔

وفى المحيط ضاق المسجد على الناس و بجنبه أرض لرجل
تؤخذ أرضه بالقيمة كرها، قال وقد صح عن عمر و الصحابة أنهم
أخذوا أرضين يكره أصحابهما وزاد وهما فى المسجد الحرام حين
ضاق بهم . (حلبى كبير/ ٦١٥، المحيط البرهاني، المجلس العلمى ٩/ ١٢٦، رقم:

١١٣٤١، تاتار خانبة ٨/ ١٦٠، رقم: ١١٥٠٥)

و عن عطاء لمافتح الله الأمصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين
أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا فى مدينة مسجد ين يضار أحدهما

الآخر۔ (تفسیر الکشاف قدیمی ۱/۵۶۴، مطبوعہ کلکتہ) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۹۹۹۱/۳۸)
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۱/۲/۶ھ

مسجد شرعی کے قریب دوسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 (۱) ہمارے یہاں قصبہ میں ایک مسجد مغصوبہ زمین میں بنی ہوئی ہے کئی سالوں سے اس میں
 نماز پڑھی جا رہی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مغصوبہ زمین میں بنی ہوئی مسجد شرعی ہو سکتی ہے؟
 اور اس میں پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہے، کیا اس مسجد کو شرعی بنانے کی کوئی شکل ہے؟
 (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شرعی مسجد نہیں ہے،
 اسی مسجد کے بغل میں مسجد کے لئے زمین وقف کی چنانچہ اس زمین میں مسجد کی بنیاد بھی ڈال
 دی گئی ہے، سوال یہ ہے کہ اب اس موقع زمین میں دوسری مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے؟
 اور کیا واقف یہ زمین دوسری مسجد کے لئے وقف کر سکتا ہے؟

المستفتی: زبیر احمد، بستوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مغصوبہ زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں تھا لیکن جب
 بنائی گئی تو اس میں نماز اس وقت تک مکروہ رہے گی جب تک اس کے مالک کو قیمت ادا نہ
 کر دی جائے، اور جب مالک کو قیمت ادا کر دی جائے گی تو وہ شرعی مسجد ہونے کے ساتھ نماز
 بھی سب کے لئے بلا کراہت جائز ہو جائے گی، پھر اس کو منہدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد:
 کفایت المفتی ۷/۶۸، زکریا جدید مطول ۱۰/۲۸۱، امداد الفتاویٰ ۲/۶۶۸، امداد المفتیین ۷۸/۷۹۸)

(۲) جب پہلی والی مسجد کی قیمت ادا کر کے اس کو شرعی مسجد قرار دینے کی
 گنجائش ہے تو اس تیار شدہ مسجد کے متصل دوسری مسجد بنانا شرعاً جائز نہ ہوگا، لہذا

دوسری مسجد کے لئے جو زمین وقف ہے اس کے مالکان اس زمین کو فروخت کر کے اس پیسے سے کہیں جگہ خرید کر کے وقف کر دیں جہاں مسجد کی ضرورت ہو۔

وفی القنیة: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز الخ. (البحر الرائق، الوقف، کوئٹہ ۵/۲۲۳، زکریا ۵/۳۷۳، البناہ اشرفیہ ۷/۴۶۰، الدر مع الرد، زکریا ۶/۵۸۶، کراچی ۴/۳۸۶، مجمع الأنهر، دار الکتب العلمیة بیروت ۲/۵۷۶، مصری قدیم ۱/۷۳۶، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۰۰، جدید ۲/۳۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۵/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۲۳۵)

مسجد سے متصل عناد کی بناء پر دوسری مسجد بنانا

سوال: [۴۷۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عرصہ دس سال قبل ایک قطعہ آراضی بغرض تعمیر مدرسہ و مسجد خریدی گئی اور اس خرید شدہ قطعہ آراضی کے اندر ایک حصہ مسجد بنانے کے لئے منتخب کر دیا گیا اور ایک حصہ مدرسہ میں تعمیر کر دیا گیا جو حصہ مسجد کے لئے چھوڑا گیا تھا، اس میں مسجد کے لئے سنگ بنیاد رکھ دی گئی ایک سال قبل۔ جس میں تخمیناً پچاس ساٹھ ہزار روپیہ صرفہ میں آیا، جہاں مسجد کا فرش ختم ہوتا ہے وہاں پر فریق ثانی جن سے مسجد و مدرسہ کے واسطے آراضی مذکورہ خریدی گئی تھی ان حضرات نے اپنے کھیت میں مدرسہ کے قریب مسجد تعمیر کرنی شروع کر دی جو مدرسہ کے لئے نا کافی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ملکیت بھی ہے، اور مسجد بہت چھوٹی بھی ہے، نیز متولیان مسجد سے منظمہ کمیٹی اور اراکین مدرسہ بہت مرتبہ

اس بات کا استفسار کر چکے ہیں کہ آپ حضرات اس بات کو لکھ کر دیدیں کہ مدرسہ والے اس میں نماز پڑھ لیا کریں تو ہم آج ہی سے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم ہرگز ہرگز یہ لکھ کر نہیں دیں گے نیز ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لکھ کر نہیں دیتے تو یہ لکھ کر دیدو کہ پیش امام مدرسہ والوں ہی کا رہے گا، تو وہ کسی بات پر تیار نہیں ہیں، مدرسہ والے اس لئے ایسا کرتے ہیں، کہ بعد میں کسی قسم کا خلفشار اور باہمی ناچاقی پیدا نہ ہو جائے، جس سے آگے چل کر ایک عظیم فتنہ نہ برپا ہو جائے، نیز اس زیر تعمیر مسجد کے اطراف و جوانب میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، محض مدرسہ سے ضد و تخریب کاری کی بناء پر یہ مسجد تعمیر کرنی شروع کر دی ہے، اس طرح اس زیر تعمیر مسجد کے مصلیان متعین ہیں اور نہ ہی غیر متعین چونکہ اس مسجد کی تعمیر بیابان میں ہو رہی ہے، نہ معلوم مسجد بنانے والوں کا کیا مقصد ہے؟ واللہ اعلم، بمراد ہم، زیر تعمیر مسجد میں بھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ادھر مدرسہ کی مسجد ایک سال سے زیر تعمیر ہے اور فریق ثانی کسی طرح صلح کرنے کے لئے تیار نہیں اور مدرسہ کے لئے آئندہ چل کر ایک فتنہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک مسجد مدرسہ میں تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسری مسجد فریق ثانی تعمیر کر رہا ہے، نیز مدرسہ سے طلباء عزیز کی بڑھتی ہوئی تعداد فی الفور آٹھ سو سے زائد ہے، جس میں بیرونی طلباء جن کا قیام و طعام و پیرا ہن منجانب مدرسہ ہے، ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے، ان تمام وجوہات اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اراکین مدرسہ اس بات کے مستفتی ہیں، کہ مدرسہ کی جو زیر تعمیر مسجد ہے، اس کو یہیں پر روک دیں یا مکمل تعمیر کر دیں اس وقت مسئلہ مفتیان کرام کی استصواب رائے پر رکھا ہوا ہے، جو عند الشرح وعند الناس بہتر ہو جواب سے نوازیں؟

(نوٹ) عرصہ آٹھ نو سال تک ارباب مدرسہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہے، جب مدرسہ میں مسجد بنانی شروع کی تو فریق ثانی نے بھی فوراً تعمیر شروع کر دی اور

اب مدرسہ والوں نے تعمیر روک دی ہے، تو وہ بھی چپ بیٹھے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوگا کہ مدرسہ والے کام شروع کریں گے، تو وہ بھی شروع کر دیں گے نیز تقدیر اینکه اگر کوئی طالب علم ان کے نل پر پانی لینے کے لئے چلا جائے تو ناظم صاحب و مدرسین حضرات کی شامت آجاتی ہے، اور آسمان سے غضب الہی کا نزول ہونے لگتا ہے، مرنے اور مارنے کے لئے تیار جاتے ہیں، یہ تو ان کے اخلاق حمیدہ اور اس سیرت رسائی کا مشتے نمونہ از خوارے کے طور پر ہے، اگر استفتاء کی طوالت کا خوف درکار نہ ہوتا تو مزید حالات سے مطلع کیا جاتا مشہور مقولہ ہے ”العاقل تکفیه الإشارة“؟

المستفتی: منجانب: اراکین و کمیٹی، مدرسہ عربیہ
حفظ القرآن، مالیر کوٹلہ، پنجاب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ کے درج شدہ حالات میں جب مدرسہ کو مسجد کی سخت ضرورت ہے اور مسجد کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے تو اہل مدرسہ کی زیر تعمیر مسجد مسجد شرعی ہوگی بانیان مسجد کو عند اللہ اجر و ثواب ملے گا، ان کو اب مسجد کی تعمیر سے نہیں رکنا چاہئے بلکہ اس کی تعمیر حتی الامکان جلدی مکمل کر لینی چاہئے، فریق ثانی کا ضد و عناد کی بناء پر متصل دوسری مسجد کی تعمیر کرنا جائز نہ ہوگا، اس کی تعمیر کرانے والے حضرات سب سخت گنہگار ہوں گے، ان کو اس طرح ضد و عناد کی بناء پر دوسری مسجد بنانے سے افتراق بین المسلمین کے باعث شرعاً روکا بھی جاسکتا ہے، البتہ اگر دوسری مسجد تیار بھی ہو جائے تو اگرچہ بانیان کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی مسلمانوں پر اس مسجد کا احترام واجب اور ضروری ہوگا۔ (مستفاد: معارف القرآن ۴/۲۶۳)

وروی عن عطاء لمافتح اللہ الأمصار علی عمر رضی اللہ عنہ أمر
المسلمین أن یبنوا المساجد ، وأن لا یتخذوا فی مدینة مسجدین یضار
أحدہما صاحبہ . (روح المعانی ، زکریا ۷/۳۱ ، تحت رقم الآية : ۱۰۸ ، من سورة التوبة :

تفسیر الخازن ۲/۴۰۷، قدیم ۲/۲۶۶، تفسیر الکشاف ۲/۳۱۰، فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/صفر ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۸/۲۴)

جھگڑے کی وجہ سے دو مسجدوں میں سے ایک کو بند کرنا

سوال: [۷۸۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری بستی میں صرف ایک مسجد تھی اس کے بعد دوسری مسجد تقریباً تین سو فٹ کے فاصلہ پر تعمیر ہو گئی، دونوں مساجد میں نماز اور جمعہ ادا ہوتا رہا ہے، بعد والی مسجد ایک ماہ سے بند ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اب مسجد کا کیا کیا جائے؟ نمازیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں، کہ یہ مسجد اب بند کر دی جائے چنانچہ مسجد میں قفل لگا دیا گیا ہے، اور جس شخص نے مسجد کے واسطے زمین دی ہے، اس کی رجسٹری نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے، کہ مسجد باقی رہے گی، اس کے بعد ہم رجسٹری کرادیں گے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد اسلام، گھر چوہٹہ، پوسٹ:

فاض واہی ٹھیٹھا، سپول، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ایک دفعہ مسجد بن جاتی ہے، تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس میں نماز پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، اس لئے بعد والی مسجد کو بند کر دینا جائز نہیں ہے، اس سے سب لوگ گنہگار ہوں گے، اس عمل سے توبہ کر لیں اور فوراً مسجد کھول دیں، ہاں البتہ دونوں میں سے ایک ہی میں جمعہ قائم کیا جائے اور پانچوں وقت کی نماز دونوں میں ہوتی رہا کرے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه ، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني

أبدأ إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (درمختار مع شامی، الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، مجمع الانهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵، مصری قدیم ۱/۷۴۸، البحر الرائق، زکریا ۵/۴۲۱، کوئٹہ ۵/۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۸۳۱)

غیر آباد مسجد کے قریب آپسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۷۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک گاؤں کی آبادی تقریباً ایک ہزار افراد پر مشتمل ہے، جس میں مرد و عورت بچے بوڑھے سب ہی شامل ہیں، اس موضع میں ایک مسجد ہے، اور اس میں چار پانچ افراد نماز پڑھنے جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کہنے سننے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ افراد اپنی آپسی کشیدگی کی وجہ سے دوسری مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ان لوگوں کا ایسی صورت حال میں دوسری مسجد تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یاسین، شکر پوری، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مسجد موجود ہے اس میں نماز پڑھنے کے لئے نمازی نہیں مل رہے ہیں، پھر دوسری مسجد کس کام کے لئے قائم کی جا رہی ہے، لہذا اس گاؤں کے لوگوں پر لازم ہے کہ موجودہ مسجد کو آباد کریں اور اس کو آباد کئے بغیر دوسری مسجد قائم نہ کریں، اتنی چھوٹی سی جگہ پر دوسری مسجد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور دوسری مسجد قائم کرنے کی اس وقت اجازت ہوتی ہے، جب پہلی مسجد اچھی طرح آباد ہو اور اس کو نقصان پہنچانا

مقصود نہ ہو یا پہلی مسجد کافی دور ہو یا دو محلے الگ الگ ہوں یا پہلی مسجد قفل ہو جانے کی وجہ سے جگہ نہ رہتی ہو تو دوسری مسجد قائم کرنے کی اجازت ہے اور جب یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو مسجد ہے اس میں بھی چار پانچ سے زیادہ نمازی نہیں ہو پاتے اور آبادی بھی بہت چھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں دوسری مسجد قائم کرنے کی اجازت نہیں اور دوسری مسجد تعمیر کر کے پہلی مسجد کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔

قال عطاء لما فتح الله على عمر بن الخطاب الأمصار أمر المسلمين أن ينوا المساجد وأمرهم أن لا ينوا في موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الآخر. (تفسير خازن، قديم ۲/۲۶۶، جديد ۲/۴۰۷، روح المعاني زكريا ۷/۳۱، تحت رقم الآية ۱۰۸، من سورة التوبة)

وفي القرطبي إلا أن يكون المحلة كبيرة فلا يكفى أهلها مسجد واحد
فبنی حینئذ . (تفسیر قرطبی، دارالکتب العلمیة بیروت ۸/۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:
۳۰ رجب ۱۴۲۳ھ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۸۳۷)

گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہونے کے باوجود دوسری مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۷۸۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہے اور اس مسجد میں پورے گاؤں والے نماز پڑھتے ہیں لیکن تمام نمازی حضرات آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، ان میں سے چند حضرات کی رائے ہے کہ میں اپنی زمین دے کر دوسری مسجد بناؤں کیا وہ حضرات ایک مسجد رہتے ہوئے دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ وہ لوگ ایک مسجد کا پیٹ نہیں بھرتے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟

المستفتی: جنیور احمد سہرساوی، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر روز لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لئے یہی شکل ہے کہ دوسری مسجد بنا کر کچھ لوگ وہاں نماز ادا کریں اور دیگر فخر و مباہات اور بڑائی دکھانے وغیرہ اغراض نہیں ہیں تو گنجائش ہے، اور اگر مذکورہ فاسد اغراض کا اس میں دخل ہے تو دوسری مسجد بنانا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ڈائجیل ۴/۲۲۵)

إذا كان هذا مباہاة وریاء أو سمعة فهو أيضا مکروه بل بناء المساجد بهذه النیة الفاسدة یكون مکروها أيضا الخ. (بذل المجہود، کتاب الصلوٰۃ، باب فی بناء المساجد مطبع سہارنپور ۱/۲۵۹، دار البشائر الاسلامیہ بیروت ۳/۱۵۸، مصری

۳/۲۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ محرم ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۲۹/۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۱۴۱۲ھ

چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم کرنے اور چند شرائط پر مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۷۸۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں جو صرف مسلمانوں کی آبادی ہے مگر ہمارے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نہ ہونے کی بنا پر بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، جہالت بہت زیادہ ہے، اس لئے میں نے لوگوں کو دینی ماحول میں لانے اور دین کی تبلیغ کے لئے ایک مسجد بنانے کا پروگرام لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے چند شرطیں رکھی ہیں، اور کہا ہے کہ اگر تم ان شرطوں کو پورا کر سکتے ہو تو مسجد بناؤ، ہم لوگ تمہارا ساتھ دیں گے؟

شرائط: شرط (۱) مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنی پڑے گی؟
 شرط (۲) قیام میلاد کرنا ہوگا،
 شرط (۳) جنازہ کی نماز کے بعد باقاعدہ بیٹھ کر دعاء کرنی ہوگی؟
 تو کیا ایسی صورت میں جبکہ شرائط مانے بغیر مسجد نہیں بنائی جاسکتی ہے تو کیا ان شرطوں کو مانا جائے اور مسجد بنائی جائے؟
 نوٹ: ہمارے گاؤں میں شرائط جمعہ نہیں پائے جاتے قرآن و حدیث کی روشنی میں
 مفصل جواب سے نوازیں مہربانی ہوگی؟

المستفتی: محمد کاظم، بانکوڑاوی، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر آپ کے گاؤں میں جمعہ کی شرائط پائی نہیں جاتی ہیں، اور گاؤں چھوٹا ہے، تو وہاں پر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کی نماز صحیح و درست نہ ہوگی، جن لوگوں کو امام ابوحنیفہؒ سے محبت ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کے قائل ہیں، ان لوگوں پر ضروری ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے مسلک اور مذہب کے خلاف شرطیں نہ لگایا کریں۔ اور ان کے مذہب کے مطابق نماز جمعہ اور دیگر نمازوں میں عمل کریں، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

لا تجوز فی الصغیرۃ التی لیس فیہا قاض (إلی قولہ) لو صلوا فی القرۃ
 لزہم أداء الظہر الخ. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعة کراچی ۱۳۸/۲، زکریا ۷/۳)
 (۲) نفس میلاد کرنا اور ذکر و ولادت شریفہ جائز اور باعث اجر و ثواب ہے لیکن
 بوقت ذکر و ولادت شریفہ کھڑا ہو جانا ممنوع اور ناجائز ہے، ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام سے
 اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لئے مسلمانوں کو کسی کار خیر کے لئے ایسی شرط لگانا درست نہیں
 ہے جو شریعت میں نہیں ہے۔

والاحتفال بذكر الولادة الشريفة إن كان خالياً من البدعات

المروجة فهو جائز بل مندوب كسائر أذكاره صلى الله عليه وسلم والقيام عند ذكر ولادته الشريفة حاشا لله أن يكون كفراً الخ. (امداد الفتاوى ۶/۳۳۷)
(۳) جنازہ کے بعد باقاعدہ بیٹھ کر دعا کرنا حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس لئے ایسی شرط کا لگانا بھی خلاف شرع ہے۔

لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنابة. (خلاصة الفتاوى، كتاب الصلوة، الفصل الخامس والعشرون فى الجنائز، نوع منه إذا اجتمعت الجنائز اشرفيه ديو بند ۱/۲۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۲/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۲۲۷)

کمیٹی سے ناراضگی کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۷۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اپنے گاؤں کی مسجد کمیٹی پر غصہ ہو کر ۱۰ ارس فٹ فاصلہ پر رہنے والے اپنے محلہ میں نئی مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد صحیح ہے لیکن ثواب سے محروم ہوں گے۔

إذا كان هذا مباهاة ورياءً وسمعةً فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضاً الخ. (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب فى بناء المساجد مطبع سہارنپور ۱/۲۵۹، دار البشائر الاسلامیہ بیروت ۳/۱۵۸)

وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك. (شامی، كتاب الوقف، مطلب فى احكام المسجد، كراچی ۴/۳۵۸)

زکریا ۶/۴۸۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ رذیقہ ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۳۳۳)

ضد کی وجہ سے مسجد بنانے کے بعد تصحیح نیت

سوال: [۷۸۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضد سے جو مسجد بنائی گئی ہو پھر نیت درست کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبد اللہ، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بوقت بناء اگر نیت درست نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن مسجد کی مسجدیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اب نیت کرنے سے انشاء اللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔

إذا كان هذا مباهاة ورياءً وسمعةً فهو أيضا مكروه بل بناء المساجد بهذه النية الفاسدة يكون مكروها أيضا الخ. (بذل المجہود، كتاب الصلوة، باب في بناء المساجد مطبع سہارنپور ۱/۲۵۹، دارالبشائر الاسلامیہ بیروت ۳/۱۵۸)

وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك. (شامی، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، كراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۴۸۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ رذیقہ ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۳۳۳)

بڑے گاؤں میں مسجد سے دور ایک ہی محلہ میں دوسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت میں بڑے گاؤں میں رہنے والا ہوں یہ گاؤں شہر سے ایک میل فاصلہ پر ہے، اس میں صرف ایک بڑی مسجد ہے، جس میں بعض محلہ کے آدمی بسبب دوری کے صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، میں اور بعض محلہ کے آدمی قریب کی وجہ سے پانچ وقت کی نماز اور جمعہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ مسجد کے ۱۰ ارمنٹ کے فاصلہ پر رہتے ہیں، ہر وقت آنا جانا مشکل ہے، ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں امام صاحب نے ۵ پارہ قرآن مجید تلاوت کی اس پر ہمارے درمیان اور امام صاحب کے درمیان اور مسجد کے قریب رہنے والے مصلیوں کے درمیان اختلاف ہوا اس اختلاف کے سبب ہم لوگ مسجد کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کچھ دن گزرنے پر ایک مولانا صاحب کے مشورہ سے اپنے محلہ میں ایک وقتی مسجد بنائی پھر مصلین زیادہ ہونے پر اس میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کرنے لگے ہم لوگ اسی طرح تین سال سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایک مولانا صاحب اس کو مسجد ضرار بتلاتے ہیں، آیا یہ مسجد ضرار ہے یا نہیں؟ مع حوالہ جواب تحریر فرمائیں۔

نوٹ: مذکورہ بیان سے یہ مسجد ضرار ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اصلاح کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟
المستفتی: عبداللہ، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ بیان کے بموجب اس مسجد کو مسجد ضرار کا حکم نہیں دیا جاسکتا ہے، کیونکہ مسجد ضرار کی شرائط کفر و نفاق، تفریق بین المسلمین وغیرہ یہاں نہیں ہیں، نیز دس ارمنٹ کا فاصلہ بھی کم نہیں ہے، نئی مسجد بنا لینا دفع حرج کے باعث ہے، اس کو مسجد شرعی کا حکم دیا جائے گا۔ (کفایت المفتی، زکریا جدید مطول ۱۰/۸۲) میں موجود جواب کا مفہوم بھی یہی ہے۔

وفی الذخيرة وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى أنه إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی أحكام المسجد کوئٹہ ۲/۴۰۵، کراچی ۴/۳۵۶، زکریا ۵/۴۴۵، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۴۸، زکریا ۵/۴۱۶، المحيط البرهانی، المجلس العلمي بیروت ۹/۱۲۴، رقم: ۱۱۳۳۶، تاتار خانیة زکریا ۸/۱۵۶، رقم: ۱۱۴۹۴)

نیز تراجم میں پانچ پارے پڑھنا حدیث رسول ” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف الخ. (سنن الترمذی، کتاب الصلوة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، النسخة الهندية ۱/۵۵، دار السلام رقم: ۲۳۶)“ کے بھی خلاف ہے، آپس میں مصالحت کر کے جو لوگ مسجد کے قریب ہوں وہ اسی مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ (مستفاد: امداد المفتیین، دار الاشاعت/۷۶۵، عزیز الفتاویٰ، دار الاشاعت/۲۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/ذی قعدہ ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۲۳)

ایک گاؤں میں دو مسجدیں بنانا

سوال: [۷۸۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں اب سے تقریباً ۱۰ سال قبل ایک جگہ مکتب بنا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ بنا دیا یہ جگہ مکتب کی اسی دن سے ویران پڑی ہے، کتے اور جانور پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، واقفین حضرات سے دیکھا نہیں جاتا تو انہوں نے سوچا کہ اس جگہ پر ایک نئی مسجد تعمیر کر دیں جس سے جگہ ویران و برباد نہ ہو اور یہ نیت کر کے مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ مسجد کی تعمیر مرکز کی حیثیت سے کریں گے تاکہ باہر کی

جماعتیں آئیں اور یہاں کے بے نمازی اور دین سے بیزار لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، اسی گاؤں میں کچھم کی طرف ایک پرانی مسجد بنی ہوئی ہے، اور دوسری مسجد پورب کی طرف بنانے کا ارادہ ہے تو جب گاؤں میں لوگوں کو معلوم ہوا تو اعتراض کرنے لگے کہ جب ایک ہی مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے مشکل سے تین چار نمازی ہوتے ہیں، تو دوسری کی کیا ضرورت ہے، غرض نئی مسجد تعمیر کرانے والوں کو برا بھلا فسادی وغیرہ جیسے الفاظ سے نوازنے لگے۔

(۱) تو دریافت یہ کرنا ہے، کہ مذکورہ گاؤں میں مذکورہ نیت کے ساتھ نئی مسجد کی تعمیر درست ہے یا نہیں؟

(۲) ایک صاحب نے نئی مسجد کی رسید چھپوادی تاکہ چندہ وغیرہ کے ذریعہ مسجد کی آمدنی ہو اور تعمیر میں آسانی ہو تو لوگ ان کو بھی برا اور فسادی کہتے ہیں، کیا یہ کام شرعاً غلط تھا؟ اور رسید چھپوانے میں تعاون کرنے والا اجر کا مستحق ہو گا یا گناہ کا؟

(۳) گاؤں کے لوگوں کا نئی مسجد تعمیر کرانے والوں کو برا یا فسادی کہنا یا مسجد کی تعمیر میں خلل ڈالنا کیسا ہے؟ آپ شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

(۴) ایک گاؤں میں دو مسجد یا متعدد مساجد بنائی جاسکتی ہیں، یا نہیں؟

المستفتی: محمد عمران، فتح پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) جی ہاں اگرچہ پہلی مسجد میں اتنے نمازی نہ ہوتے ہوں کہ اس میں تنگی آجائے تب بھی دوسری مسجد کا بنانا جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد صرف بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، پہلی مسجد کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے۔

كما استفيد من عبارة الهندية أهل محلة قسموا المسجد و ضربوا فيه حائطاً ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنههم واحد لا باس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن الخ. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب

المسجد زکریا قدیم ۵/۳۲۰، جدید ۵/۳۷۰، البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل فی احکام المساجد زکریا ۵/۴۱۹، کوئٹہ ۵/۲۵۰)

(۲) اگر رسید چھپوانے کا مقصد صرف مسجد کا مفاد ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو برا کہنا جائز نہ ہوگا، اور تعاون کرنے والوں کو ثواب مل سکتا ہے۔

(۳) برا کہنا اور تعمیر میں خلل ڈالنا جائز نہ ہوگا۔

(۴) جی ہاں بنائی جاسکتی ہے، کما مر۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۷۹/۳۱)

ایک گاؤں میں تیسری مسجد بنانا

سوال: [۷۸۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک کلو میٹر کے اندر دو مسجدیں ہیں، آبادی اس طرح ہے کہ کسی جمعہ کو دونوں مسجدوں میں نمازی پورے نہیں ہوتے کچھ جگہ خالی رہ جاتی ہے، اس کے درمیان پھر کچھ لوگ ایک مسجد اور زبردستی بنا رہے ہیں، کیا اس مسجد میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اور تینوں مسجدیں گاؤں میں ہیں، ہمیں قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: عظیم الدین، مسکونہ اتر اٹھوچہ ہاڑی، پوسٹ، رام گنج، وایا اسلام پور، ضلع: دیناچپور (بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قنہ وفساد کے خوف سے تیسری مسجد بنائی جا رہی ہے، یا کسی اور عذر کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے تو تیسری مسجد بنانے میں کوئی گناہ نہیں اور اس مسجد میں نماز بھی بلا کراہت جائز ہوگی، اور مسجد کا ثواب بھی پورا پورا ملے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۵۱۲، جدید ڈائجسٹ ۱۴/۴۳۳)

أهل محلة قسموا المسجد و ضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام علي حدة ومؤذنههم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن الخ. (هنديہ، كتاب الكراهية، الباب الخامس في أداب المسجد زكريا قديم ۳۲۰/۵، جديد ۳۷۰/۵، البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد، زكريا ۴۱۹/۵، كوئٹہ ۲۵۰/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۵۴)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۳/۱/۹ھ

الفصل الحامس: امام ومؤذن کے احکام

مسجد کا امام و متولی کیسا ہو؟

سوال: [۷۸۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید مرحوم نے ایک جائیداد مسجد کے نام وقف کی لیکن امام صاحب اس وقف نامہ کو سالوں سے دبائے بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں، کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا مالک میں ہوں اس کے بعد کمیٹی کے اصرار کے باوجود وقف نامہ دکھانے کو تیار نہیں ہیں، بہت ضعیف اور کمزور ہیں فرض نماز کے علاوہ سب نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مسجد وغیرہ کے نام سے جو بھی چندہ وغیرہ آتا ہے، نیز جمعہ کا چندہ وغیرہ سب خود ہی رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ باقاعدہ انجمن کے ملازم ہیں، انجمن ان کو تنخواہ دیتی ہے، مسجد کے مکان پر قابض ہیں، اس میں لڑکے اور بہو وغیرہ رہتے ہیں، خود مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں، اور نیز مسجد کا حجرہ ہوتے ہوئے مسجد کے اندر سوتے ہیں، ریح بڑی زور سے مسجد میں خارج کرتے ہیں، مسجد کے مکان پر ناجائز قبضہ ہے وہ ان کے مصرف میں نہیں بلکہ لڑکوں کے مصرف میں آتا ہے، باوجود تنبیہ کے وہ ایسے شخص کو تراویح میں امام بناتے ہیں، جو انگریزی بال رکھتا ہے اور داڑھی کٹواتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ ملنے والا نذرانہ امام کو دے دیتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، رمضان میں جو افطاری وغیرہ آتی ہے جو کہ عام لوگوں کے افطار کے لئے ہوتی ہے، لیکن وہ اکٹھا کر کے اپنے لڑکے کے گھر بھیج دیتے ہیں، مسجد میں آنے والا تیل بھی بیچ کر کھا لیتے ہیں، اب جواب طلب یہ امر ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز کہاں تک درست ہے؟ ایسے شخص کو امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مشتاق احمد قریشی، ہلدوانی، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ میں درج شدہ حالات میں ایسا شخص نہ

متولی بننے کے لائق ہے، اور نہ امام۔ ایسا شخص فاسق ہے نیز انگریزی بال رکھنے والے اور داڑھی منڈوانے والے کٹوانے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، مسجد کے امام اور ذمہ دار کا امانت دار، پابند صوم و صلوة، متبع شریعت ہونا، فسق اور خلاف شرع حرکات سے دور رہنے والا ہونا ضروری ہے۔

ویکروہ تقدیم الفاسق کراہة تحریم. (صغیری مکتبہ مجتہائی دہلی / ۲۶۴، حلبی کبیر اشرفیہ / ۵۱۳، ہدایہ اشرفی دیوبند ۱/۱۲۲، شامی، زکریا ۲/۲۹۹، کراچی ۱/۵۶۰)

ولایولی إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر. (شامی، الوقف، مطلب في شروط المتولی زکریا ۶/۵۷۸، کراچی ۴/۳۸۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۶۶، زکریا ۵/۳۷۸، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۰۸، جدید ۲/۳۸۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ رزیقہ ۲۰۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۶/۲۳)

غیر امام کا منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا

سوال: [۷۸۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا منبر جس پر امام صاحب خطبہ دیا کرتے ہیں، اس منبر کا استعمال کوئی عالم حدیث یا دین کی بات کرنے کے لئے امام کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے یا نہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ ملکیت والی چیز کے استعمال کیلئے مالک کی اجازت ضروری ہے منبر تو ملکیت نہیں ہے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟

المستفتی: فردوس احمد نعمانی، ناظم:
جامعہ مظفریہ جہانگیری، محلہ ریل پار،
ضلع: آسنول، (بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جمع کے دن جمعہ پڑھانے والا امام اگر راضی نہیں ہے تو اس کی اجازت لازم ہے، اور دیگر ایام میں انتظامیہ اور کمیٹی کی اجازت لازم ہے تاکہ نظم و انتظام باقی رہے، نیز جمعہ سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر وعظ و تقریر کے بجائے ممبر سے ہٹ کر کرنا چاہئے، تاکہ خطبہ کے مشابہ نہ ہو جیسا کہ امداد الفتاویٰ ۱/۶۴۹ میں ہے۔

عن أبي مسعود الأنصاري يقول: قال سمعت رسول الله ﷺ -إلى- ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه الخ.

(ترمذی، الصلاة، باب من احق بالإمامة، النسخة الهندية ۱/۵۵، دارالسلام رقم: ۲۳۵)

اس حدیث سے بھی مستفاد ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ شوال ۱۴۳۱ھ

۱۰/۱۰/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۸۵/۳۹)

امام کی رہائش کا انتظام کس پر لازم ہے؟

سوال: [۷۸۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک مسجد کا امام ہے، امامت کی تنخواہ جو مسجد سے ملتی ہے، وہ زید کی ضروریات پر مکمل خرچ ہو جاتی ہے، اور اب وہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، تو اسے کرایہ ادا کرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسجد کی طرف سے اس کو رہائش نہیں دی جا رہی ہے، اور تنخواہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ اس سے کرایہ ادا کیا جائے، مسجد کے متولیوں کا کہنا ہے کہ فیملی کو اٹر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور زید کا کہنا ہے کہ فیملی کو اٹرا اور رہائش کا انتظام کرنا متولیان مسجد کے ذمہ ہے، تو دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ زید جو امام ہے اس کے لئے مکمل رہائش کا انتظام کرنا متولیان کے ذمہ ہے یا نہیں؟ یا متولیان کا کہنا شریعت کے مطابق ہے مزید برآں یہ کہ دینی غیرت و حمیت کے پیش نظر ان کا اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد شاہ کرقاسمی، امام
مسجد گرین لینڈ کالونی، ضلع: اندور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مساجد اور مدارس کے اصول و ضوابط اس حدیث

شریف سے مستنبط ہیں، حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن عمر و بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .
(سنن الترمذی، الأحکام، باب ما ذکر عن رسول الله ﷺ فی الصلح بین الناس، النسخة
الهندية ۱/۲۵۱، دار السلام رقم: ۱۳۵۲)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال چیز کو حرام کر دے، یا کسی حرام چیز کو حلال کر دے، لہذا اس حدیث پر غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تقرر کے وقت آپس میں اگر رہائش کی شرط لگائی گئی ہے، تو مسجد کے ذمہ داروں پر رہائش دینا لازم ہے، اور اگر شرط نہیں لگائی گئی ہے، تو رہائش دینا ان پر لازم نہیں ہے لیکن مسجد کے ذمہ داروں پر یہ لازم ہے کہ امام صاحب کو ہر مہینہ میں اپنے بال بچوں کی خبر گیری کے لئے چھٹی دیا کریں یا ہر ہفتہ ایک دن بال بچوں میں گزارنے کے لئے چھٹی دے دیا کریں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اگر چہ رہائش دینا لازم اور واجب نہیں ہے، مگر ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ امام صاحب کی رہائش کا انتظام کریں تاکہ امام صاحب سکون و یکسوئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا فریضہ انجام دے سکیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۱ ذی الحجہ ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۳۳)

امامت سے معزولی کے بعد مسجد کے مکان میں رہنے یا اس کے متبادل کے مطالبہ کا حکم

سوال: [۷۸۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اہالیانِ ممبئی نے ایک مسلم علاقہ والکیشو رجو متمول لوگوں کا علاقہ ہے وہاں ایک غیر مسلم کی بلڈنگ جو اب اتفاقاً مسجد کے ذمہ داران نے خرید لی ہے، اس کے پہلے منزلہ کو نماز پختگانہ جمعہ و عیدین کے لئے مختص کر دیا تھا اور آج بھی ہے، اس مسجد میں پہلے امام صاحب کا چالیس سال قبل انتقال ہونے کے بعد ان کے داماد کو امام متعین کر دیا تھا، اس کمرہ کا کرایہ بجلی کا بل وغیرہ حتیٰ کہ پانی بھی آج تک مسجد کی جانب سے دیا جاتا ہے آج سے دس بارہ سال قبل امام صاحب کو امامت سے دست بردار کیا جا چکا ہے، مگر امام صاحب نے کمرہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اسی کمرہ میں امام صاحب کے رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اسی چھت کے نیچے بجلی پنکھا پانی استعمال کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب کا مطالبہ ہے کہ مجھ کو متبادل مکان یا اس کے مساوی رقم دے دیں تو میں مکان مسجد کے حق میں خالی کر دوں گا، واضح ہو کہ مسجد کو نمازیوں کی ضرورت کے پیش نظر کمرہ کی ضرورت بھی ہے، کیا نمازیوں اور تبلیغی جماعت کے لئے باعث تکلیف نہیں بن رہے ہیں، امام صاحب نے دورانِ امامت اپنے ہر بچے کو مکان بھی خرید کر دیا ہے، اور ان کی شادیوں کے فرائض سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جبکہ ان کا ایک مکان مقفل بھی پڑا ہوا ہے، کیا امام صاحب کا مزید مکان یا رقم کا مطالبہ ظالمانہ نہیں ہے؟ کچھ ذمہ داران مسجد امام صاحب کے مطالبہ کو دیکھ کر کچھ رقم دینے کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر امام صاحب کا مطالبہ خطیر رقم لینے کا ہے کیا یہ مطالبہ پورا کرنا ظالم کی ہمت افزائی کرنا نہیں ہے؟ امام صاحب کے ہمنوا مکان خالی کرنے کو منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی مکان خالی نہیں کرا سکتا جس کی وجہ سے امام صاحب کے حوصلے

اور بلند ہو جاتے ہیں، کیا یہ ظالم کی مدد کرنا نہیں ہے؟ ممبئی میں ان کے معاونین بہت بڑی تعداد میں ہیں، جو ان کی ہر مد سے مدد کرتے ہیں، جس کے وہ مستحق بھی نہیں ہیں، کیا یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟

- (۱) کیا امام صاحب کا وہاں رہنا جائز ہے؟
- (۲) امام صاحب کے رشتہ داروں کے لئے مسجد کا پانی اور بجلی استعمال کرنا جائز ہے؟
- (۳) کیا ہالیان ممبئی کا ان کی مدد کرنا جائز ہے؟
- (۴) کیا یہ رشوت کے معنی میں نہیں آتا؟
- (۵) کیا امام صاحب دیگر ائمہ اور ائمہ کے پیشیے کے وقار کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں؟
- (۶) کیا مفتیان شرع اپنے متعلقین کو اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں، امام صاحب مفتیان کرام پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں؟
- (۷) بلا ضرورت مختلف بیماریوں معذوریوں کے نام پر اپنا اور اپنے اہل خانہ کے وظیفے بندھوار کھے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

المستفتی: العبد قاری حسین احمد، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ پر غور کیا گیا اس میں کچھ چیزیں اصل مسئلہ سے متعلق ہیں، اور کچھ چیزیں ذاتیات سے متعلق ہیں، اور ذاتیات کے بارے میں کچھ لکھنا منصب افتاء کے لئے مناسب نہیں ہے، اس لئے اصل مسئلہ جو پیش نظر ہے اس کے بارے میں حکم شرعی لکھا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب اس مسجد کے امام نہیں رہے تو مسجد کا مکان مسجد کو واپس کر دینا امام صاحب پر لازم ہے، جبکہ امام صاحب اس مکان کا کرایہ بھی مسجد کو نہ دیتے ہوں اور جب مسجد کو اس مکان کی ضرورت ہے تو خالی نہ کرنے پر سمجھدار اور معزز مسلمانوں کو بیچ میں ڈال کر خالی کروالینا چاہئے، نیز امام صاحب کا مکان کو خالی کرنے پر متبادل مکان کا مطالبہ کرنا یا اس کے برابر یا کم پیش رقم کا مطالبہ کرنا ناجائز مطالبہ ہے، امام

صاحب کے لئے اس مکان کے خالی کرنے پر مسجد سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔

قال العلامة الحصكفي رحمه الله آجر داره كل شهر بكذا فلکل

الفسخ عند تمام الشهر . (شامی، کتاب الإجارة، قبیل باب الإجارة الفاسدة،

زکریا ۹/۶۱، کراچی ۶/۴۵)

عن سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه وم القيامة من سبع أرضين
وعنه أيضاً إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبراً
من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة . (مسلم شريف، باب
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهما النسخة الهندية ۲/۳۲، ۳۳، بيت الافكار رقم:

۱۶۱۰) فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ صفر ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۸۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۷ھ

امام کا اپنے بیٹے کو امام بنانا اور مسجد کا مکان خالی نہ کرنا

سوال: [۷۸۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

عرصہ دراز سے جامع مسجد میں بھاگل پور بہار کے امام اسی مسجد کے مدرسہ میں صدر مدرس
بھی تھے، انہوں نے شروع سے ہی اس ڈر سے شہر کے کسی بھی بچہ کو دینی تعلیم اور کلام پاک
کی تعلیم میں آگے نہیں بڑھنے دیا کہ آگے چل کر کوئی عالم بن کر ان کے لئے خطرہ یا چنوتی
نہ بن جائے، حافظ، قاری بننا تو دور کوئی بچہ بہتر ناظرہ خواں تک نہ بن سکا، پاس کے قصبہ
کے ایک حافظ جو اس مدرسہ میں مدرس تھے، ان کی بہتر تعلیم اور کوششوں سے ۵ بچوں کا
حفظ پورا ہونے اور کئی بچوں کے حفظ میں آگے بڑھنے سے گھبرا کر امام صاحب نے شہر میں
اپنی عزت، اثر اور ساتھ ہی کمیٹی پر اپنی پکڑ کے سہارے مدرس کو نکلوا کر اپنے بیٹے کو حافظ

بتاتے ہوئے مدرسہ میں رکھوا دیا، جبکہ اصلیت میں وہ حافظ نہیں تھا، مولانا اسے اپنے بعد اسی مسجد میں امام بنوانے کی سازش کی پہلی سیڑھی پر کامیاب ہو گئے، مولانا کی طرح کمیٹی نے ان کے بیٹے کو بھی ۱۰۰ روپے ماہوار پر ایک رہائشی مکان دیتے ہوئے ان کی تنخواہ میں ہاتھوں ہاتھ اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا، بجلی، پانی ہاؤس ٹیکس وغیرہ سبھی اسی کرائے میں شامل تھا، مولانا نے دوسری سیڑھی پر بھی کامیابی حاصل کر لی، جبکہ کسی اور مدرسہ یا مؤذن کو یہ سہولتیں نہیں دی گئی تھیں، نہ ہی اب تک دی گئیں؟

(۱) لگ بھگ ۱۵ سال بعد مولانا کا انتقال ہو جانے پر ان کے اثر والی کمیٹی کے چند ذمہ داروں نے ہاتھوں ہاتھ ان کے بیٹے کے سر پر وراثت کی پگڑی باندھ کر بنا سندیں دیکھے ہی امام بنا دیا، والد مرحوم کی فطرت کے مطابق انہوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پگڑی بہت مضبوط کر لی، کیونکہ وراثت میں لوگوں کے عقیدے بھی ان کو ملے ہیں، جب انہوں نے بھی اپنے بہت کم عمر بیٹے کو جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے مقصد سے زیادہ سے زیادہ موقع دینے شروع کر دئے، فجر اور عشاء میں خود گھر پر آرام فرماتے ہیں، اور بیٹے کو مسجد میں امامت کے لئے بھیج دیتے ہیں اکثر دن کی نمازیں بھی ان کا بیٹا ہی پڑھاتا ہے، اس بابت کوئی اگر پوچھے تو مولانا ٹارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

(۲) مولانا صاحب نے اپنی کوٹھی مسجد سے دور تعمیر کروالی ہے، اور اسی میں رہتے ہیں، ایک بڑا مکان دوسرے محلہ میں تعمیر کروا کر اس میں ۱۲/۱۰ کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں رہتے ہوئے جو رہائشی سیٹ کمیٹی نے ۱۰۰ روپے ماہوار پر انہیں دیا تھا، وہ انہوں نے ابھی تک خالی نہیں کیا ہے، بے ضرورت تالا ڈال کر قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔

(۳) بڑے مولانا کے انتقال کے بعد ان کا بڑا بیٹا جو لکھنؤ میں ڈاکٹر ہے، اپنی والدہ کو ساتھ نہیں لے گیا ہے، مولانا کو کمیٹی سے ملے ہوئے بنا کرائے مفت بجلی، پانی والے مکان میں ہی اپنے تیسرے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، یہ ریڈیو میڈ کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، اور اب وہ بھی مسجد کے اسی مکان میں اپنی والدہ سے علیحدہ ہو کر رہتا ہے۔

مندرجہ تینوں مسئلوں کے بارے میں مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ جس کو مناسب سمجھے اسی کے سر پر امامت کا دستار باندھے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے سر پر امامت کا دستار باندھا جائے اس کے اندر امامت کی اہلیت ہو، صحیح طور پر نماز پڑھانے پر قادر ہو، لیکن غیر حافظ کو حافظ قرآن بتلانا جھوٹ ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے، اور جھوٹ کا گناہ جھوٹ بولنے والے کے سر ہوگا، اور کمیٹی کو چاہئے کہ جھوٹے آدمی کو امام نہ بنائے۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۰/۳۰، ۳۲)

عن أنس عن النبي ﷺ في الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. (مسلم شریف، باب بیان الكبائر، أكبرهما،
النسخة الهندية ۱/۶۴، بیت الافکار رقم: ۸۸)

(۲) مسجد کی عمارت کو معمولی کرایے پر قبضہ میں لیے رکھنا جبکہ مسجد کے دیگر ملازمین کو اس کی ضرورت ہو یہ ناجائز عمل ہے، جب امام صاحب کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے مسجد کے حوالہ کر دینا دیانت داری کا تقاضہ ہے، مسجد کمیٹی کو چاہئے کہ اس سے خالی کرا کر دوسرے ضرورت مند ملازم کو رہائش کے لئے دیدے۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۲/۲۲۶)

(۳) مسجد کے مکان میں ایسے شخص کی رہائش جو مسجد کا ملازم نہیں ہے، غرض واقف کے خلاف ہے، اس لئے غیر ملازم سے خالی کرا کر وہ رہائشی مکان مسجد کے حوالہ کر دینا لازم اور ضروری ہے، اور سوال نامہ سے ظاہر ہے کہ جو کرایہ مسجد کو دیا جا رہا ہے، وہ مناسب کرایہ سے بہت زیادہ کم ہے، اس لئے مسجد کمیٹی کو چاہئے کہ ایسا عمل کرے جس سے مسجد کا فائدہ پیش نظر رہے۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل. (شامی، الوقف، مطلب لا يصح إيجار

الوقف بأقل من أجر المثل إلا عن ضرورة زكريا ۶/۶۰۸، کراچی ۴/۴۰۲)

ولایجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل. (الفتاویٰ الہندیہ، زکریا قدیم
۴/۱۹، جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ رمضان ۱۴۳۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۶۶۱۱۲)

مسجد سے متصل حجرہ میں امام صاحب کی فیملی کا قیام

سوال: [۷۸۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
مسجد کے چاروں طرف دوکانیں ہیں، اوپر دوکان کے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور راستہ
بھی باہر سے الگ ہے، مگر مسجد کی دیوار کے ساتھ مسجد کی کھڑکی اور کمرہ کی کھڑکی ایک ہے،
لہذا مسجد کے کمرے جس کے نیچے دوکانیں ہیں، اس کمرہ میں سے ایک راستہ مسجد میں بھی
کھلتا ہے، مسجد والا راستہ شدید ضرورت پر کھلتا ہے، کیا اس کمرہ میں امام کی فیملی رہ سکتی
ہے؟ جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتی: اہل محلہ و کمیٹی مسجد دھوبی والی،
محلہ: بردوالان، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب خارج مسجد دوکان یا مکان اور اس میں آنے
جانے کے لئے الگ سے راستہ بھی ہے تو اس میں یا اس کے اوپر کے کمرہ میں امام کے لئے
فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلا تردد جائز ہے، اگرچہ اس
کمرہ سے مسجد کی طرف بھی کھڑکی اور دروازہ لگا ہوا کیوں نہ ہو۔

ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لأبأس للإمام أن يدخل
للسلوة من هذا الباب لأنه روى أن رسول الله ﷺ كان يدخل من حجرته
إلى المسجد الخ. (البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد كونه ۵/۲۵،

زکریا ۵/۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ذیقعدہ ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۴۹/۳۶)

مسجد کی چھت پر مدرسہ یا امام صاحب کیلئے حجرہ بنانا

سوال: [۷۸۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ از سرے نو مسجد بنائی جائے، اور اس کی بناء سے قبل ہی یہ نیت کی جائے کہ اس کی چھت پر مدرسہ اور حجرہ وغیرہ بنایا جائے گا، تو کیا اس نوعیت سے تعمیر کرنا کہ نیچے مسجد اور اوپر مدرسہ یا حجرہ رہے اسی طرح تہہ خانہ میں یہ عمل تعمیر ہو تو کیا جائز ہے؟

المستفتی: محمد انوار قاسمی، مدرسہ
اسلامیہ عربیہ داری، ضلع: گوتم بدھ نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر از سرے نو مسجد بنائی جا رہی ہے، تو حدود مسجد کی چھت پر امام کے لئے حجرہ یا رہائش گاہ بنانا درست نہیں اور نہ ہی مدرسہ بنانا جائز ہے، ہاں البتہ مسجد کو مسجد رہنے کی حالت میں اس میں بیٹھ کر دینی کتابوں کا درس دینا جائز ہے، اور اگر اوپر مسجد اور نیچے مدرسہ یا حجرہ یا مسجد کی آمدنی کے لئے دوکانیں وغیرہ بنائی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مسجد وجود میں نہیں آئی ہے، اس سے پہلے تہہ خانہ اور دوکانیں بنائی گئی ہیں، پھر اس کے اوپر مسجد کا وجود آ رہا ہے، اور مسجد وجود میں آنے کے بعد اس کے اوپر مقاصد مسجد کے خلاف کسی اور چیز کی تعمیر درست نہیں ہے، اس لئے کہ اب آسمان تک جتنی منزلیں بنیں گی وہ مسجد ہی شمار ہوں گی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۳)

لو جعل تحتہ حانوتا وجعلہ وقفاً علی المسجد قیل لایستحب
ذلک ، ولکنہ لو جعل فی الإبتداء ہکذا صار مسجداً وماتحتہ صار وقفاً
علیہ ویجوز المسجد والوقف الذی تحتہ . (حاشیہ چلبی علی تبیین الحقائق ،

الوقف، فصل فی احکام المسجد امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰، زکریا ۴/۲۷۱)

لو تمت المسجدیة ثم اراد البناء منع. (شامی، کراچی ۴/۳۵۸، زکریا

دیوبند ۶/۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/۱۶۱، ۲۹۶) **لفظ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم**

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ شوال ۱۴۳۱ھ

۱۰/۱۰۳۱/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۸۳۳۹)

مسجد کی زمین پر امام صاحب کے لئے مکان بنانا

سوال: [۷۸۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تقریباً

چار سال سے امام صاحب مسجد قائم کی بیریاں مراد آباد میں امامت کرتے ہیں امامت کے دوران امام صاحب نے مسجد والوں سے کہا کہ مجھے بچوں کو رکھنے کے لئے مکان کی ضرورت ہے، مسجد والوں نے جواب دیا کہ مسجد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ اس حجرہ کو اپنے بچوں کے لئے رہائش گاہ بنا سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا دل چاہے مسجد میں امامت کرتے ہوئے آپ مع اہل و عیال اس میں رہ سکتے ہیں، امام مذکورہ نے اجازت ملنے پر اس حجرہ کو رہائش گاہ بنا لیا جس میں ۱۰/۲۳/۵۰ خرچ ہوئے امام صاحب کو اس میں رہتے ہوئے دو سال، ۹ ماہ کا عرصہ ہوا ہے، اب منتظمین مسجد حجرہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امام صاحب اس کو خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا شرط کے مطابق امام صاحب کو اس میں رہنے کا حق ہے، اس کو کمیٹی والے زبردستی خالی کروا رہے ہیں، کیا ایسی صورت میں امام صاحب کی لاگت مبلغ ۱۰/۲۳/۵۰ ان کو ملنے چاہئے یا نہیں؟

جب کہ دوسری مسجدوں میں جیسا کہ مولانا محمد سالم صاحب و مولانا محمد اسعد صاحب و دیگر مساجدوں میں امام صاحبان مع اہل و عیال کے رہتے ہیں، نہ کوئی کرایہ ہے نہ کوئی پریشانی ہے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسوں کے سلسلہ میں شریعت کا کیا فیصلہ

ہے؟ مفصل جواب سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: امام مسجد، قائم کی پیریاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر امام مسجد نے ذمہ داران مسجد کی اجازت سے مذکورہ حجرہ کی تعمیر کرائی ہے اور مراد آباد کے عرف میں امام صاحب کو بلا کر ایہ حجرہ دیا جاتا ہے، تو تعمیر و مرمت میں مذکورہ حجرہ میں جو رقم امام مسجد نے صرف کی ہے وہ رقم امام مسجد کو شرعاً واپس ملے گی، اور جب تک پوری رقم واپس نہ ملے اس وقت تک امام کو حجرہ خالی نہ کرنے کا حق ہوگا۔

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً الخ. (الاشباه والنظائر/ ۱۵۶)

ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته فالأول إن كان بغير إذن القاضي والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد الخ. (الاشباه والنظائر/ ۱۴۱)

وكما استفاده من الشامي نص محمد أن من استاجر أرضاً فبني فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء (إلى قوله) وبه أفتى مشائخنا ولو كان البناء ملكاً والعرضة وقفاً وآجر المتولى بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرضة الخ. (شامی، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في إجارة البناء زكريا ۹/ ۶۶، كراچی ۶/ ۴۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الآخرة ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/ ۱۲۶۵)

وضو خانہ پر بنے کمرے میں امام صاحب کا مع اہل و عیال قیام کرنا

سوال: [۷۸۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے آنگن کے برابر وضو خانہ ہے، اور اس وضو خانہ پر مسجد کے امام صاحب کے لئے حجرہ بنا ہوا ہے، حجرہ میں آمد و رفت مسجد کے آنگن سے ہے، اس حجرہ میں مسجد کے امام صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیا ان کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: بشکلیل احمد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے وضو خانہ پر جو حجرہ امام صاحب کے لئے بنا ہوا ہے، اس میں امام صاحب کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا جائز ہے، البتہ مسجد کے جماعت خانہ سے باہر عورتوں کے لئے راستہ ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ ماہواری کی حالت میں عورتوں کے لئے جماعت خانہ سے گزرنا ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۹۱/۶، جدید زکریا ۱۰۵/۹، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۱۵، ۱۹۸، ڈبھیل ۱۳/۵۶۳)

ولا تدخل المسجد. (ہدایہ، اشرفی ۱/۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۸۸۴۴)

مسجد کے وضو خانہ کے اوپر فیملی کو اٹر تعمیر کرنا

سوال: [۷۸۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے خارج حصہ میں مسجد سے متصل ہی وضو خانہ ہے، اس وضو خانہ کے اوپر بیت الخلاء اور غسل خانہ اور دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، کیا ان کمروں میں امام صاحب کا مع اہل و عیال یا

مؤذن وغیرہ کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: ذمہ داران مسجد چاند
والی، پرنس روڈ، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد سے خارج حصہ جس میں وضو خانہ غسل خانہ بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی غسل خانہ بیت الخلاء اور امام یا مؤذن کے لئے فیملی کواٹر وغیرہ بنانا اور اس میں امام یا مؤذن کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔

أما المتخذ لصلوة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس لا في حق غيره به يفتي نهائيه فحل دخوله لجنب وحائض كفاءة مسجد ورباط ومدرسة ومسجد حياض وأسواق لاقوارع الخ. (درمختار، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها زكريا ۲/۳۰، ۴، كراچی ۱/۶۵۷، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۵۶، جدید ۲/۴۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ صفر ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۱۶۹۱)

امام صاحب یا ان کی اولاد کا مسجد کا پنکھا استعمال کرنا

سوال: [۷۸۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جہاں امام صاحب رہتے ہیں وہ جگہ مسجد سے ملی ہوئی ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے، مسجد کے اس دروازہ میں امام صاحب اور ان کے بچے اس میں سے آنا جانا کرتے ہیں، اور اس دروازہ سے نکل کر مسجد کو آرام گاہ بنا لیتے ہیں، اور مسجد کا پنکھا بھی استعمال کرتے ہیں؟

المستفتی: محمد آزاد، تھوپال، ایریونگ، منی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امام صاحب کے حجرے سے ان کے بچوں کا مسجد میں آنا جانا، اور مسجد کا پنکھا استعمال کرنا اس سلسلہ میں حکم شرعی یہی ہے، کہ امام صاحب کا حجرہ اور مسجد دونوں کی بجلی کا میٹر ایک ہے، اور بل منجانب مسجد ادا کیا جاتا ہے، تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ امام صاحب کی فیملی کو مسجد کی بجلی استعمال کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں امام صاحب اور ان کے بچوں کا مسجد کے پنکھے اور حجرہ کے پنکھے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک نظام کے تحت امام صاحب کو غیر اوقات میں حجرہ کے علاوہ حدود مسجد کے پنکھے استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے، تاکہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو اور امام صاحب کو اس کی بھی احتیاط رکھنی چاہئے کہ چھوٹے بچے جو پیشاب پاخانہ کی سمجھ نہیں رکھتے ان کو مسجد میں لانے سے احتراز کرنا چاہئے، تاکہ ان کے پیشاب پاخانہ سے مسجد کا فرش ملوث نہ ہو۔

عن واثلة بن الأشقع، أن النبي ﷺ قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم،
الحديث: (سنن ابن ماجه، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية / ٥٤، دار السلام
رقم / ٧٥٠، المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي ١٣٢/٨، رقم: ٧٦٠١،
١٧٣/٢٠، رقم: ٣٦٩، ٥٧/٢٢، رقم: ١٣٦)

جاز للإمام جعل المسجد طريقاً لا عكسه . (الدرالمتقى، كتاب الوقف،

فصل إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه بيروت ٥٩٦/٢)

لوبينى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر فى كونه
مسجداً لأنه من المصالح . (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المسجد،
زكريا ٤٢١/٥، كوئٹہ ٢٥١/٥)

لوبينى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح . (درمختار، كتاب
الوقف، فرع بناء بيت للإمام فوق المسجد، قبيل مطلب فيمالو خرب المسجد أو غيره،

کراچی ۳۵۸/۴، زکریا ۵۴۸/۶، الدرالمستقیٰ بیروت، کتاب الوقف، فصل إذا بنیٰ مسجدًا لایزول ملکہ ۵۹۴/۲)

وأما إحضار الصبی المسجد فأجاز وه حيث لا یعبث به ، ویکف عن العبث إذا نهی عنه ، فإن کان من شأنه العبث أو عدم الکف ، فلا یجوز إحضاره فیه . (الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷ ذیقعدہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۱۱/۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۲/۳۹)

امام صاحب کی فیملی کا مسجد کا پانی استعمال کرنا

سوال: [۷۸۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد ہی کے مکان میں جو کہ مسجد سے متصل ہے کرایہ پر رہتے ہیں مع فیملی کے اور مسجد کو کرایہ ادا کرتے ہیں، بعض مقتدیوں کی خواہش ہے، کہ مسجد کی ٹنکی سے موٹر کے ذریعہ مسجد کا پانی امام صاحب کے مکان تک پہنچادیں جبکہ امام صاحب کے مکان میں پہلے سے پانی کا اپنا نظم بھی ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس طرح مسجد کی ٹنکی کا پانی بذریعہ موٹر امام صاحب کی فیملی کے استعمال کے لئے دینا درست ہوگا؟

المستفتی: احمد جان، محلہ پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: امام صاحب کا کمرہ چونکہ متعلقات مسجد میں سے ہے اس لئے مسجد کی ٹنکی کا پانی موٹر کے ذریعہ سے امام صاحب کی فیملی کے استعمال کے لئے دینا اور فیملی کا اس پانی کو استعمال کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۲۰۲/۱۸، ڈائجیل ۱۴/۶۵۵، احسن الفتاویٰ ۶/۴۳۶)

ویدأ من غلته بعمارتہ ثم ما هو أقرب لعمارتہ کإمام مسجد و مدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم . (شامی، الوقف، مطلب یدأ بعد العمارة

بماہو أقرب إليها زكريا/٦، ٥٦٠، كراچى ٤/٣٦٧، الموسوعة الفقهية الكويتية
٢٩٢/٣٦، هندية زكريا قديم ٢/٣٦٨، جديد ٢/٣٥٦، البحر الرائق، كونه ٥/٢١٣،
زكريا ٥/٣٥٦) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
١٤٢٣/٥/١٢

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
٣ جمادی الاولیٰ ١٤٢٣ھ
(الف فتویٰ نمبر: ٤٦٢٠/٣٦)

مسجد کے حجرہ کو تعویذ خانہ بنانا

سوال: [٤٨٩٦]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)
مسجد کے امام صاحب کو رہنے کے لئے جو جگہ دی گئی ہے، اس کو امام صاحب نے تعویذ خانہ
روحانی جسمانی علاج کے لئے متعین کر لیا ہے، اور امام صاحب دوسری جگہ کرایہ پر رہتے ہیں،
کیا ان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) امام صاحب کے پاس علاج کے لئے ہندو اور مسلم عورتیں بھی آتی ہیں اور علاج
خانہ میں جانے کے لئے مسجد کے اندر جانا پڑتا ہے، اور عورتیں تعویذ کے انتظار میں مسجد کے
اندر بیٹھتی ہیں، کبھی کبھی نمازیوں کے ساتھ آمنے سامنے آ جاتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد آزاد، ایرونگ، تھوپال، منی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے حجرے کو تعویذ خانہ بنانا قطعاً جائز نہیں، اسی
طرح تعویذ گنڈے کے لئے حدود مسجد میں مسلم غیر مسلم عورتوں کی آمد یہ بھی قطعاً جائز ہے۔

سئل أيضا عن إمام مسجد فيه منازل موقوفة لسكنى الإمام هل له أن
يؤجرها؟ فقال ليس له ذلك. (تاتار حانية، الفصل الحادى العشرون فى المساجد

لايجوز أخذ الأجرة منه ولا جعل شيئاً مستغلاً ولا سكنى كما في
البرازية. (الدر الممتقى، دارالكتب العلمية بيروت ۵/۲۰۹۴)

ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاً ولا مسكناً.
(البحر الرائق، كوئته ۵/۲۵۱، زكريا ۵/۴۲۱)

ولا يجوز أن يتخذ طريفاً بغير عذر. (فتح القدير، قبيل باب الوتر، زكريا
۱/۴۳۵، دارالفكر ۱/۴۲۲، كوئته ۱/۳۶۸، زكريا ۲/۴۲۸، كراچی ۱/۶۵۶)

ولا يجوز أن تعمل فيه الصنائع لأنه مخلص لله، فلا يكون محلاً لغير
العبادة. (فتح القدير، زكريا ۱/۴۳۵، كوئته ۱/۳۶۹، دارالفكر ۱/۴۲۲)

فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم
إهانتها وتلويتها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبس لأعمال الدنيا ولو لم يكن
فيه توهم تلويث وإهانة. (كبيرى/۶۱۱، لاهور)

لأن المساجد ما بنى إلا لها (أى العبادة) من صلوة واعتكاف وذكر
شرعى وتعليم علم، وتعلمه وقراءة قرآن. (البحر الرائق، كوئته ۲/۳۴،
زكريا ۲/۶۰) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۱۱/۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/ذیقعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۴۳۹)

مسجد کے بورنگ سے امام صاحب کے کمرہ میں کنکشن دینا

سوال: [۷۸۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
میں اپنے روپیہ سے مسجد کے اندر بورنگ کروا کے ٹینکی بھرنے کے لئے پائپ لگوا رہا ہوں
اور اس ٹینکی کے پانی کا ایک پائپ امام صاحب کے کمرہ میں ان کی سہولت کے لئے لگوانا
چاہتا ہوں اس لئے کہ امام صاحب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پریشانی ہوتی
ہے، تو امام صاحب کے کمرہ میں جو مسجد ہی کا کمرہ ہے، اس میں پانی کا کنکشن دے

سکتا ہوں یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد اسلام کیت والی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب آپ بذات خود اپنے روپے سے بورنگ بنوا کر ٹنکی بھرنے کے لئے پائپ لگوار ہے ہیں، تو آپ کے لئے یہ بھی اختیار ہے کہ امام صاحب کے کمرہ میں بھی پائپ لگوادیں۔

فإن شرائط الوقف معتبرة إذالم تخالف الشرع وهو مالک فله أن يجعل ماله حيث شاء فلم یکن معصية . (شامی، الوقف، مطلب شرائط الوقف معتبرة إذالم تخالف الشرع، زکریا ۵۲۷/۶، کراچی ۳/۴، الموسوعة الفقهية الكويتية

۱۳۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ رجمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۷۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۵/۳۰ھ

امام صاحب کا مسجد کی بجلی استعمال کرنا اور طلبہ کا مدرسہ کی بجلی سے پریس کرنا

سوال: [۷۸۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ (۱) شہر کی جامع مسجد میں مکتب چل رہا تھا، اس مسجد کے امام کی ذمہ داری تھی، کہ امامت کے ساتھ ساتھ اس مکتب میں پڑھانا بھی ہے، تعلیمی فقدان اور شہر کے بچوں کے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے مکتب خالی نظر آ رہا تھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مکتب کو مدرسہ کی شکل دے کر بیرونی طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام کیا جس کی وجہ سے کچھ مقامی بچے اور کچھ باہر کے بچے داخل ہوئے اور مدرسہ تعلیمی اعتبار سے ترقی کی

طرف گامزن ہونے لگا، مدرسے کے جملہ انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لئے ناظم اور مہتمم صاحبان ہیں، مدرسہ مسجد ہی کی اراضی میں ہے، اور مسجد ہی سے منسلک ہے مدرسہ کے مدرسین و ملازمین وغیرہ کے اخراجات مدرسے ہی کے فنڈ سے پورے ہوتے ہیں، مدرسہ کا حساب و کتاب الگ ہے اور مسجد کا حساب و کتاب الگ اور مسجد کے خزانچی بھی دوسرے شخص ہیں، مدرسہ کا بجلی کا کنکشن مسجد ہی سے ہے، خزانچی صاحب مدرسے کے مہتمم صاحب سے بجلی کے خرچ کا مطالبہ کرتے ہیں مسجد کے خزانچی کا مطلوبہ مطالبہ مہتمم صاحب دینے کو تیار ہیں، مگر جواب طلب یہ امر ہے کہ مدرسہ کے مہتمم صاحب مطلوبہ رقم دے دیں یا بجلی کا کنکشن مسجد سے الگ کر لیں، مطلوبہ رقم دینا ہی کافی ہے یا نہیں؟

(۲) دوسرا سوال یہ ہے کہ مدرسے ہی میں امام صاحب کے لئے رہائش کا انتظام بفضلہ تعالیٰ ہو گیا ہے نہ مسجد سے طعام کا نظم ہے نہ مدرسہ سے، امام صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ تنخواہ جودی جاتی رہی ہے، یہ نا کافی ہے پھر بجلی کے خرچ کا مطالبہ درست نہیں ہے، یہ مدرسے کی طرف سے ہونی چاہئے، یا مسجد کی طرف سے؟ نیز دوسری منزل پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور تیسری منزل پر امام صاحب اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

(۳) تیسرا سوال یہ ہے کہ مدرسے میں جو روپے آتے ہیں، طلبہ ہی کے لئے آتے ہیں، اور طلبہ کے اوپر خرچ ہونا چاہئے، طلبہ کے کپڑوں پر پریس پر مہتمم صاحب کا پابندی لگانا کہاں تک درست ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں، کرم ہوگا۔

المستفتی: امتیاز احمد، امام جامع مسجد، وناظم:

مدرسہ مقاصح العلوم جامع مسجد سیوہارہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال کا اصل مقصد بجلی کے بل کی ادائیگی سے متعلق ہے کیونکہ مدرسہ کا نظام اور خرچہ اخراجات الگ سے ہے، اور مسجد کا ذمہ دار اور خرچہ اخراجات اس سے بالکل الگ مستقل ہے تو ایسی صورت میں بجلی کا خرچہ اور اس کے بل کی ادائیگی بھی مستقل اور الگ الگ ہونی چاہئے، لہذا مسجد کے خزانچی کا مدرسہ سے

بجلی کے خرچ کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اور سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ ماضی میں مدرسہ نے جو بجلی خرچ کی ہے، اس کی ادائیگی کر لیں، اور آئندہ کے لئے الگ سے میٹر لگا لیا جائے، تاکہ مسجد کے میٹر کا خرچہ مسجد برداشت کرے اور مدرسہ کے میٹر کا خرچہ مدرسہ برداشت کرے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۳۰/۲۲)

وإذ أرى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز إن لم يكن له قيمة
فإن كان له ادنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولى أو القاضى أو
أهل المسجد أو الإمام . (البحر الرائق، الوقف، فصل فى احكام المسجد زكريا
۴۲۰/۵، کراچی ۲۰۱۵/۵)

لوسكن بلا إذن أو أسكنه المتولى بلا أجر كان على الساكن أجر
المثل ودخل مالو كان الوقف مسجداً أو مدرسة سكن فيه فتنجب فيه أجره
المثل. (شامی، مطلب إذا آجر المتولى بغبن فاحش كان خيانتة زكريا ۶/۶۱۵، کراچی
۴/۴۰۸، ہندہ بزکریا قدیم ۲/۴۲۰، جدید ۲/۳۸۷، الفقہ الإسلامی وأدلته، مکتبہ ہدیٰ
انٹرنیشنل دیوبند ۸/۲۳۳، دارالفکر ۱۰/۷۶۸۹)

(۲) دوسری بات مسجد کے امام صاحب کی رہائش کی بجلی کا خرچہ کون ادا کرے؟ تو اس سلسلہ میں واضح بات یہی ہے کہ امام صاحب مسجد ہی کے ملازم ہیں، اس لئے امام صاحب کے حجرے اور رہائش گاہ کا خرچہ مسجد کے فنڈ سے ادا کرنا چاہئے، اور سوال نامہ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے، کہ دوسری منزل اور تیسری منزل کی جو بات کہی گئی ہے، یہ حدود مسجد اور جماعت خانہ سے خارج ہے اور جو حصہ حدود مسجد اور جماعت خانہ سے خارج ہو اس حصہ میں امام صاحب کا فیملی کے ساتھ رہائش اختیار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ امام صاحب نے ان جگہوں پر تعویذ گنڈہ وغیرہ کا سلسلہ جاری نہ کر رکھا ہو جو مسجد کے مقاصد کے خلاف ہے۔

لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية
ثم أراد البناء منع..... ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولأن يجعل شيئاً منه

مستغلا ولا سکنی الخ. (درمختار زکریا ۶/۴۸، ۵، کراچی ۴/۳۵۸)

(۳) یہ بات صحیح ہے کہ مدرسہ میں جو روپیہ آتا ہے وہ طلبہ ہی کے لئے آتا ہے، مگر اس پیسہ کو ہر طالب علم اپنے اپنے طور پر بغیر انتظام کے جس طرح چاہے خرچ نہیں کر سکتا؛ بلکہ مدرسہ کے ذمہ دار کے انتظام کے تحت وہ خرچ ہوتا رہے گا، تاکہ مدرسہ کا نظام نہ بگڑے اس لئے مدرسہ کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر بجلی کی پریس استعمال کرنے کی طلباء کو اجازت نہیں؛ کیونکہ نظام کا باقی رکھنا ایک اہم کام ہے اور مدرسہ کے اصول و ضوابط حسب ذیل حدیث شریف سے ثابت ہوتے ہیں۔

عن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن أبیہ عن جدہ أن رسول اللہ ﷺ قال: الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون علی شروطہم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .
(ترمذی شریف، الأحکام، باب ما ذکر عن رسول اللہ فی الصلح بین الناس، النسخة الهندیة ۱/۲۵۱، دار السلام رقم: ۱۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ شعبان ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۳۴/۴۱)

کیا ائمہ مساجد وقف بورڈ کی شرائط کے پابند ہیں؟

سوال: [۷۸۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پنجاب وقف بورڈ کی طرف سے ہریانہ پنجاب و ہماچل میں سینکڑوں ائمہ کرام پچوتھ نمازوں کی امامت اور بچوں کی دینی تعلیم وغیرہ کے ساتھ مساجد کی بہت سی خدمات انجام دیتے چلے آئے ہیں، اور چونکہ یہ خدمات ۲۴ گھنٹہ ائمہ کو انجام دینی پڑتی ہیں، اس لئے وہ اپنا ذریعہ معاش بھی کوئی اور اختیار نہیں کر سکتے ہیں، صرف وقف بورڈ کی تنخواہ پر ان کی ضروریات کا انحصار ہے، مگر وقف بورڈ ان ائمہ کو کسی نہ کسی

صورت میں برطرف کرنا چاہتا ہے؟

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ ناظرہ (غیر مستند عالم) ائمہ کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، ان میں بہت سے مستند علماء بھی ہیں، جن کی تقرری ناظرہ کی حیثیت میں کی گئی تھی، اور اب ان کی سندوں کو نہیں مانا جا رہا ہے؟

(۲) دوسری صورت یہ کہ جو امام ۶۵ رسال کا ہو جائے اسے برطرف کرنا ضروری ہے، اگر اس نے ۶۵ رسال کی عمر کے بعد اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی اور تنخواہ وصول کی ہے تو تنخواہ واپسی کا مطالبہ ہے، جبکہ اعلان یہ کیا گیا تھا، کہ ریٹائرڈ کرنے کے بعد ۶۰ ہزار روپیہ بورڈ کی طرف سے دیئے جائیں گے، اب آپ فرمائیں کہ شرعی نقطہ نظر سے وقف بورڈ پنجاب کا یہ طریقہ ائمہ کے ساتھ کہاں تک روا ہے، ائمہ کرام عدالتی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں، اس میں شرعی فتویٰ بھی پیش کریں گے؟

المستفتی: ائمہ کرام، پنجاب وقف بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: وقف بورڈ کی طرف سے یہ قوانین پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، اور ائمہ حضرات ان قوانین کو تسلیم کر کے ہی ملازمت قبول کیا کرتے ہیں، اس لئے وقف بورڈ کا اپنے قوانین پر عمل کرنا جائز ہوگا، ہاں البتہ اگر عدالت کے ذریعہ سے قوانین میں تبدیلی ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جاسکتا ہے۔

عن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن أبیہ عن جدہ أن رسول اللہ ﷺ قال: الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون علی شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .

(ترمذی شریف، الأحکام، باب ما ذکر عن رسول اللہ فی الصلح بین الناس، النسخة

الہندیة ۱/۲۰۱، دار السلام رقم: ۱۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/ذیقعدہ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۷۰۷۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۸/۱۴۱۸ھ

مسجد کے ضعیف العمر امام کے لئے منجانب مسجد پینشن

سوال: [۷۹۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید مسجد میں امامت پر مامور ہے، نیز مسجد کی تعمیر و توسیع پر پوری طرح توجہ بھی کرتا رہتا ہے، نیز مسجد کی ہر طرح خدمت کرتا رہتا ہے، اب اس وقت اپنی صحت سے معذور ہے، جس کی وجہ سے امامت کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ کوئی دوسری ہی خدمت ہو سکتی ہے، اب اس صورت میں مسجد کی آمدنی سے زید کو تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا اپنی جیب سے مصلیان امام صاحب کا تعاون کر سکتے ہیں، شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمانے کی زحمت گوارا کریں؟

المستفتی: تفضل حسین، بسواں

میڈیکل اسٹور، گرری گنج، سینٹا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حسب تحریر سوال جبکہ مذکورہ امام صاحب کمزوری

کی وجہ سے امامت یا مسجد کی کوئی اور خدمت کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو اب ان کو مسجد کے فنڈ سے بطور معاوضہ کوئی رقم دینا درست نہیں ہے؛ البتہ مسجد کے نمازی اپنی طرف سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر مسجد میں چندہ کے ذریعہ آمدنی ہوتی ہو اور انتظامیہ کمیٹی یہ ضابطہ بنا لے کہ جو امام صاحب طویل مدت تک مسجد میں رہیں اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو جائیں تو بطور امداد مسجد کی طرف سے ان کی پینشن جاری کر دی جائیگی، اور حتی الوسع چندہ دہندگان کو پینشن سے متعلق معلوم ہو جائے، تو اس صورت میں مسجد کی آمدنی سے پینشن دینے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ (مستفاد: محمودیہ ۱۵/بھیل ۲۹۴/۱۵، میرٹھ ۲۲/۲۰۵)

والذی یتسداً به من ارتفاع الوقف عمارتہ شرط الوقف أو لاثم ما هو أقرب إلى العمارة..... ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح والبساط بكسر الباء أي الحصير ويلحق بهما معلوم خادمها وهو الوقاد والفراش فيقدمان . (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوئٹہ ۲۱۳/۵ تا ۲۱۵، زکریا ۵/۳۵۶ تا ۳۵۹)

وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يکنسه ونحو ذلك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها . (ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۶۱، جدید ۲/۴۱۲)

عن عبد الله بن عمر و بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (ترمذی شریف، الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ۲۵۱/۱، دار السلام رقم: ۱۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۸/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ شعبان ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۳۳/۴)

مستقل امام کو رمضان میں رقم جمع کر کے ہدیہ دینا

سوال: [۷۹۰۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید گاؤں کی ایک مسجد میں امام ہے، جس سے ملحق مدرسہ بھی ہے، تقرر ہوتے وقت طے ہوا تھا، کہ مدرسہ سے تنخواہ ہوگی اور امامت کی کوئی تنخواہ ماہانہ متعین نہ ہوگی، لیکن دستور یہ رہے گا کہ سال کے اخیر رمضان گذر کر چاندرا ت کو محلہ کے لوگ خاصی رقم امام صاحب کو دیں گے، لیکن کتنی دیں گے یہ واضح نہیں کیا گیا تھا، جو ہو جائے وہ امام کا مقدر ہے، خیر اس طرح زید کو کام

کرتے ہوئے آٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بہر کیف ان لوگوں کا رقم دینے کا طریقہ اس طرح ہے کہ رمضان میں تراویح کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر ختم کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں روپیہ جمع کرتے ہیں، جس میں سامع بھی اکثر امام صاحب ہی ہوتے ہیں، خیر اس دن حافظ اور سامع کو جو بھی مناسب سمجھتے ہیں، دیدیتے ہیں، رقم چونکہ کافی ہوتی ہے اسی کی بچی ہوئی اور کچھ اکٹھا کر کے چاند رات کو ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں، اگر کمی دیکھتے ہیں، تو جبریہ طور پر لوگوں سے وصول یابی کرتے ہیں، جس کے ڈر سے کچھ مسجد میں اس وقت آتے بھی نہیں ہیں، اب تمام لوگوں سے وصول شدہ رقم یکجا کر کے ایک ہاتھ میں لے کر امام صاحب کو یہ کہہ کر حوالہ کرتے ہیں، کہ لیجئے امام صاحب یہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ہدیہ ہے۔

(۱) دریافت طلب یہ ہے کہ اول یہ لوگ جو رقم جمع کرتے ہیں قرآن کے نام پر، جس کے حصول میں جبریہ طور پر بھی لوگوں سے لینا دیکھا گیا ہے، اس طرح جبریہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) بوقت وصول یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی میں سے امام صاحب کو بھی تو دینا ہے، وہ ہمارے امام ہیں، پورے سال امامت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ تنخواہ سمجھ کر جمع کرتے ہیں، لیکن دیتے وقت یہ کہہ کر دینا کہ لیجئے امام صاحب یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے تو آیا یہ ہدیہ ہی ہے یا تنخواہ ہے اور اس طرح لینا از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم مسئلہ کی وضاحت فرمادیں؟

المستفتی: ظریف احمد، میوہ نودہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تقرر کے وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ تنخواہ مدرسے سے ہوگی اور مسجد سے کوئی تنخواہ مقرر نہ ہوگی، تو یہ معاملہ شرعاً جائز ہے اور پھر سال کے اخیر میں امام کو جو کچھ ہدیہ کے نام سے دیا جاتا ہے، امام کے لئے اس کا لینا جائز ہے اور وہ ہدیہ ہی ہے، تنخواہ نہیں، لیکن اس ہدیہ کے لئے جبری چندہ جائز نہیں ہے، البتہ

صرف اعلان کر دیا جائے جو خوشی خوشی لاکر دیدے اس کو تحفہ میں دیا جاسکتا ہے یہ ہدیہ اور تحفہ صرف مستقل امام کے لئے ہے لیکن قرآن سنانے والے حافظ کو ہدیہ اور تحفہ کے نام سے بھی دینا جائز نہیں ہے۔

عن ابی حرة الرقاشی عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرى للبيهقي، الغصب، قبيل باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، دارالفکر ۸/۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰)

فالْحَاصِلُ أَنَّ مَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ بِالْأَجْرَةِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَإِعْطَاءَ الثَّوَابِ لِلْأَمْرِ وَالْقِرَاءَةِ لِأَجْلِ الْمَالِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَارِئِ ثَوَابٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ الصَّحِيحَةِ فَأَيْنَ يَصِلُ الثَّوَابُ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْلَا الْأَجْرَةُ مَاقْرَأَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ جَعَلُوا الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مَكْسَبًا وَوَسِيلَةً إِلَى جَمْعِ الدُّنْيَا إِنْ أَلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(شامی، الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب تحرير منهم فى عدم جواز الاستئجار

على التلاوة، زكريا ۷۷/۹، كراچی ۵۶/۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۳ھ

۱۳۲۲/۲۷/۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۰۱۱/۳۶)

مسجد کی موقوفہ زمین کی آمدنی سے مدرس کو تنخواہ دینا

سوال: [۷۹۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) زید نے اپنی کچھ زمین مسجد کے صرفہ کے لئے وصیت کر دی تو کیا اس کی پیداوار وغیرہ سے ایسے مدرس کو تنخواہ دی جاسکتی ہے، جس کو اہل محلہ ہی تنخواہ دیتے ہوں اور باہر سے کسی بھی قسم کا چندہ نہ کیا جاتا ہو نیز وہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہو۔

(۲) نیز اسی وصیت کردہ زمین کی پیداوار کو عید گاہ کی چہار دیواری بنوانے میں صرف

کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد محسن علی، معلم: تمکیل
ادب، مدرسہ امدادیہ، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مسجد کے نام وقف کی گئی زمین کی آمدنی سے تدریس کی تنخواہ صرف اسی مدرس کو دینا جائز ہے جو اسی مسجد میں تعلیم دیتا ہے، اور اگر مدرسہ اور مسجد دونوں الگ الگ ہیں تو صرف امامت کی تنخواہ دینا جائز ہے تدریس کی تنخواہ دینا جائز نہیں۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۲۸۲/۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۲۷، امداد الفتاویٰ ۲/۵۵۵)

والذی یبدأ بہ من ارتفاع الوقف أى من غلته عمارتہ شرط الواقف
اولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد (إلی)
قولہ) ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح الخ. (شامی، الوقف،
مطلب یبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، زکریا ۶/۵۶۰، کراچی ۴/۳۶۷، الموسوعة
الفقهية الكويتية ۳۶/۲۹۲، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۳۶۸، جدید ۲/۳۵۶، البحر الرائق، زکریا
۵/۳۵۶، کوئٹہ ۵/۲۱۳، ۲۱۴)

(۲) وقف مسجد سے حاصل شدہ روپے کو عید گاہ پر اور وقف عید گاہ پر خرچ کرنا اور
وقف عید گاہ سے حاصل شدہ روپیہ سے مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ غرض واقف کے
خلاف ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۰/۱۳۹، ڈبھیل ۱۵/۵۸، امداد الفتاویٰ ۲/۵۹۱)

على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی،
کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵)

شرط الواقف كنص الشارع فيجب إتباعه. (شامی، زکریا ۶/۷۳۵،
کراچی ۴/۴۹۵)

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع الخ. (شامی، کراچی
۴/۳۴۳، زکریا ۶/۵۲۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۳۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵/۵/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۰۲۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۵/۲۹ھ

مسجد کی آمدنی سے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا

سوال: [۷۹۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی آمدنی سے امام و مؤذن کی تنخواہ ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ مسجد کو چندہ دینے والے کسی مد کی تفصیل نہیں کرتے ہیں؟

المستفتی: محمد سلیم احمد میرنگ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چندہ دہندگان عرف میں منافع مسجد کے لئے ہی چندہ دیا کرتے ہیں، اس لئے مذکورہ آمدنی سے امام و مؤذن کی تنخواہ ادا کرنا بھی جائز ہوگا۔

ویدأمن غلته بعمارتہ ثم ماہو أقرب لعمارتہ کإمام المسجد
ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم الخ. (الدرالمختار مع الشامی، الوقف،

مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارتہ زکریا ۶/۵۹۹، کراچی ۴/۳۶۶، ہندیہ زکریا قدیم

۲/۳۶۸، جدید ۲/۳۵۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۱۳، زکریا ۵/۳۵۶، الموسوعة الفقهية

الکویتية ۳۶/۲۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ شعبان ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/۱۳۷۰)

غریب امام کی مسجد کے فنڈ سے امداد کرنا

سوال: [۷۹۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں امام صاحب تقریباً ۲۰ سال سے بلا معاوضہ امامت کر رہے ہیں مقامی ہیں، ایک دوکان چھوٹی سی کرتے تھے درزی کی، اس سے اپنا گذر اوقات کرتے تھے، اب ان کو ایک حادثہ میں ۱۸ ہزار روپیہ کا بار پڑ گیا کاروباری حالت اچھی نہیں ہے، پریشان ہیں کیا کریں ایسی مجبوری کی حالت میں ہم مسجد کے فنڈ سے ان کی امداد کر سکتے ہیں، تاکہ قرض سے نجات حاصل ہو سکے، شرعی جواز سے ہم کو جانکاری چاہئے عمر ۷۲ سال ہے، اب وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے ہیں، اس لئے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، بریں بنا شرعی معلومات کی اشد ضرورت ہے، جواب جلد از جلد عنایت کریں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے فنڈ سے کسی کی امداد جائز نہیں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ امام صاحب کے لئے منجانب مسجد تنخواہ مقرر کر دی جائے اور تنخواہ کے نام سے جتنا چاہے کمیٹی کے مشورہ سے دیا جاسکتا ہے، نیز جب امام صاحب مقروض ہیں، تو صاحب حیثیت اور مالدار لوگ امام صاحب کو اپنی زکوٰۃ کے مد سے بھی امداد کر سکتے ہیں، کیونکہ امام صاحب مستحق زکوٰۃ ہیں، اگر سید نہیں ہیں۔

مديون لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه وفي الظهيرية الدفع
للمديون أولى منه للفقير الخ. (الدر المختار، الزكاة، باب المصرف،
زكريا ۳/۲۸۹، كراچی ۳۴۳/۲، حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، دارالكتاب

ديوبند/۷۱۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۶۹۶/۲۵۹۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۳/۱۶ھ

محلہ والوں سے چندہ کر کے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا

سوال: [۷۹۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد سے متعلق محلوں سے اجتماعی چندہ اکٹھا کر کے امام صاحب اور مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟

المستفتی: عبدالحمید عینی، ساپنور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: محلّہ سے اجتماعی چندہ اکٹھا کر کے امام و مؤذن کو تنخواہ دینا جائز ہے، جب بخوشی چندہ لیا جاتا ہو، جبراً وصول نہ کیا جاتا ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۴/۴۲۷، جدید زکریا دیوبند ۹/۱۴۷)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به، الفصل الثانی زکریا قدیم ۲/۴۶۳، جدید ۲/۴۱۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۰/۲/۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۲۲/۳۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۲/۱۲ھ

تنخواہ سے ہٹ کر الگ سے امام کی اعانت کرنا

سوال: [۷۹۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں پر دیسی امام فریضہ امامت انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کچھ اعانت کر سکتے ہیں، جبکہ امام کو کچھ ماہوار اور کچھ سبھی محلّہ والوں سے جمع کر کے دوسرے وقت دینے کا ماحول ہے؟

المستفتی: محمد ہارون، سیکر، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جی ہاں تنخواہ سے ہٹ کر الگ سے اعانت

کرنا جائز اور درست ہے، بلکہ اعانت کرنے والے کے لئے بہت بشارت ہے۔

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: والله في عون العبد، ما كان

العبد في عون أخيه. (سنن الترمذی، باب ماجاء فی الستر علی المسلم، النسخة الهندية

۱۴/۲، دارالسلام رقم: ۱۹۳۰، صحیح مسلم، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی

الذکر النسخة الهندية ۲/۴۵۳، بیت الافکار رقم: ۲۶۹۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۰/۲/۸ھ

۱۴۱۹/۲/۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۲۲۳۳)

ایام تعطیل کی تنخواہ کا مستحق امام یا نائب

سوال: [۷۹۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

مسجد میں کسی صاحب کو امام رکھا جائے نماز پڑھانے کے لئے تو تقرری میں ان کے ذمہ نماز پڑگانہ پابندی سے پڑھانا ہے، جس کا ان کو متولی صاحب ماہانہ معاوضہ دیتے ہیں، اب وہ صاحب چھٹی پر گھر جانا چاہتے ہیں، ان کی جگہ دوسرا شخص ان کی غیر موجودگی میں نماز پڑھا رہا ہو تو آپ بتائیے کہ تنخواہ مستقل امام صاحب کو متولی صاحب دیں گے، یا جس نے ان کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی ہے، اس شخص کو ملے گی، جبکہ امام صاحب کا اصرار ہے کہ آپ مجھے دیجئے یہ میرا حق ہے، میں امام ہوں، مسجد کا کام چندہ پر چلتا ہے، آپ وضاحت کے ساتھ جواب دیں؟

المستفتی: متولی حافظ اظہر علی، محلہ

قاضیان، قصبہ سہسپور، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: تنخواہ کا مستحق مستقل امام ہی ہوگا؛ البتہ مستقل امام نے نائب کے لئے کوئی اجرت مقرر کی ہو تو وہ اس کا مستحق ہوگا، اور اگر اجرت مقرر نہیں کی ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۲۸۵)

إن النائب لا يستحق شيئاً من الوقف لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله الخ. (شامی، مطلب مهم في الاستتابة في الوظائف زکریا ۶/۶۳۱، کراچی ۴/۲۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۳۰، زکریا ۵/۳۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 یکم محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۶۹۸۴۳۵)

امام صاحب کار خست کے ایام کی تنخواہ وصول کرنا

سوال: [۷۹۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) زید ایک مسجد کے امام ہیں وہ کثرت سے غیر حاضری کرتے ہیں، خاص طور سے نماز فجر میں کچھ زیادہ ہی غیر حاضری رہتی ہے، اور رمضان المبارک میں تو پورا مہینہ ہی غائب رہتے ہیں، جبکہ امام صاحب مقامی ہیں، اور رمضان المبارک کی چھٹی بھی انتظامیہ کی طرف سے طے نہیں ہے، جس کی وجہ سے مصلیان مسجد جماعت کے وقت بلند آواز سے چہ میگوئیاں کرنے لگتے ہیں، اور مسجد میں شور ہونے لگتا ہے، اس طور پر مسجد کے تقدس کی پامالی پر ہی بس نہیں بلکہ بسا اوقات متقدمی حضرات مسجد کی انتظامیہ پر بھی برستے ہیں، اور کہتے ہیں، کہ اتنا زیادہ ناغہ کرنے والے امام کو آپ حضرات ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟

(۲) امام صاحب غیر حاضری کی تنخواہ بھی بلا خوف و خطر لیتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی اہل مسجد کی ناراضگی کا سبب بنا ہوا ہے، مسجد کی انتظامیہ نے امام صاحب کو غیر

حاضری کی طرف توجہ دلائی لیکن امام صاحب بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اس سلسلہ میں مسجد کی انتظامیہ نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ مفتیان کرام سے فتویٰ لیا جائے، اس لئے دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ بالا صفات کا حامل شخص کیا امامت کے لائق ہے جو انتشار کا سبب بنا ہوا ہے؟

المستفتی: اراکین کمیٹی، ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: منصب امامت کے مسئلہ کا مدار آپس کی شرائط اور تعامل پر ہے، کہ آپس میں جو شرائط رخصت اور مشاہرہ کے بارے میں طے ہو جائیں، ان کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے، یا ائمہ حضرات کی رخصت کے لئے علاقہ میں جو تعامل چل رہا ہے اس کے دائرہ میں رہ کر رخصت حاصل کرنا چاہئے، اگر علاقہ میں ایام رخصت کی تنخواہ لینے دینے کا تعامل ہے تو امام صاحب کے لیے ایام رخصت کی تنخواہ لینا جائز ہے اور اس مسئلہ کا حکم اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے۔

عن عبد الله بن عمر و بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. (ترمذی شریف، الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلح بين الناس، النسخة الهندية ۱/۲۵۱، دار السلام رقم: ۱۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ رزیقہ ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/۳۸/۹)

بلا چھٹی کے گھر پر رہنے والے امام صاحب کی تنخواہ کا ٹنا

سوال: [۷۹۰۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے

گاؤں کی مسجد میں باہر کے امام صاحب رہتے ہیں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، اور تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور کے ہیں، اور وہ امام صاحب ہمارے گاؤں میں دس مہینہ سے امامت کرتے ہیں، امام صاحب پندرہ دن کی چھٹی لے کر گھر گئے تھے، اور گھر جا کر کسی مجبوری کے حالات سے ایک مہینہ کے قریب آئے تو ان کو ایک مہینہ کی تنخواہ دینی چاہئے یا نہیں؟ ایک مہینہ کی تنخواہ دینی جائز ہے؟

المستفتی: محمد فاروق رحمانی،

امام مسجد، دولت پور، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جتنے دن کی چھٹی باضابطہ امام صاحب لے کر گئے ہیں، ان ایام کی تنخواہ معمول کے اعتبار سے انہیں دی جائے گی، لیکن جن ایام میں وہ غیر حاضری کر کے آئے ہیں یعنی بلا اجازت زائد وقت گزار کر آئے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا، کہ ان کی سالانہ استحقاقی چھٹی میں سے کتنے ایام باقی ہیں، جتنے ایام باقی ہوں گے صرف انہی ایام کی تنخواہ کے وہ مستحق ہوں گے، زائد ایام کی تنخواہ انہیں نہیں دی جائیگی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷/۲۸۴)

وفی القنیة من باب الإمامة إمام یتروک الإمامة لزیارة أقرائه فی الرساتیق أسبوعاً أو نحوه أو لمصیبة أو لاستراحة لا بأس به و مثله عفو فی العادة والشرع. (شامی، الوقف، مطلب فیما إذا قبض المعلوم وغاب قبل السنة زکریا ۶/۶۳۰، کراچی ۴/۴۱۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴۴/۶۸)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۱/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۳/۱/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۶/۷۲۶)

مسجد کی رقم سے مؤذن کے ضمانتیوں کو پیسہ دینا

سوال: [۷۹۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ:

ایک مؤذن بہار کارہنے والا سرکاری پالتو جانور کو نشی چیز کھلا دینے کی وجہ سے پولس نے اس کو گرفتار کر لیا جس مسجد میں وہ مؤذن تھا، وہاں کے کچھ لوگوں نے ضمانت کر کے اسے چھڑا لیا کچھ دنوں کے بعد مؤذن اپنے گھر چلا گیا اور واپس نہیں لوٹا پولیس نے ضمانتیوں کو پکڑا اور بہر حال ضمانتیوں نے پانچ ہزار اپنی جیب سے دے کر چھٹکارا پایا اب عرض یہ ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے مسجد کے پیسے میں سے لئے جاسکتے ہیں، یا اپنے اوپر اوڑھے جائیں گے، تفصیل سے وضاحت فرمادیں؟

المستفتی: محمد علی، متولی مسجد راجوں
والی، اندرا چوک، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد مؤذن صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اس لئے

مسجد کے روپے میں سے لینا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي الخ. (قواعد الفقه،

اشرفی/ ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/۲۶۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۶۶/۲۹)

امام کے لئے دی گئی رقم کا استعمال دوسرے مصرف میں کرنا

سوال: [۷۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صوبہ

راجستھان اور خاص طور سے شہر سیکر میں ایسا رواج ہے کہ امام کو کچھ ماہوار اور کچھ سالانہ

ہدیہ اخراجات کو پورا کرنے کے لئے اجتماعی طریقہ سے خوشی کے ساتھ بغیر کسی زور زبردستی

کے اپنا فرض سمجھ کر دیتے ہیں، تاکہ امام صاحب کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور خوش

دلی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں دینے والوں کی بھی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اور ایک طریقہ

سے تنخواہ میں شمار بھی گردانا جاتا ہے، اس مرتبہ کمیٹی والوں نے یہ سوچ کر سالانہ آمدنی میں سے کم کر دیا کہ مدرسہ یا مسجد کی دوسری ضروریات میں اس پیسہ کو استعمال کر لیں گے، جبکہ دینے والوں کی نیت صرف امام کے لئے ہوتی ہے تو کیا اس پیسے کو دوسرے مصرف میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟ اس پیسہ کا کیا حکم ہے؟ دینے والوں کی نیت کا کیا مسئلہ ہے اور دوسرے مصارف میں استعمال کرنے والوں کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ ائمہ حضرات کو بھکاری، نوکر اور مزدور سے بھی کہیں کم سمجھا اور جانا جاتا ہے؟

المستفتی: محمد ہارون، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر دینے والا امام کے لئے کہہ کر دیتا ہے، اور لینے والا بھی امام ہی کے لئے کہہ کر لیتا ہے، تو اس پیسہ کو امام کے علاوہ کسی اور مصرف میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا۔

حمل علی العرف أي علی عادات الناس الخ. (درمختار، مطلب فی أن

النص أقوی من العرف، زکریا ۷/۷۰۹، کراچی ۵/۱۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۲/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/صفر المظفر ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۲۳/۳۳)

امام صاحب کا مسجد کی زمین میں کھیتی کرنا

سوال: [۷۹۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے صحن سے ملحق تھوڑی سی زمین ویران پڑی ہے، جس کا انتساب ملحقہ قبرستان کی طرف ہوتا ہے، امام صاحب اگر اس جگہ میں سبزی بو کر کے کھائیں تو کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔

المستفتی: مولانا عبدالناصر، مدرس: مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امام مسجد کے لئے مفت میں اس زمین سے انتفاع جائز نہیں ہے ہاں البتہ اس زمین کا کرایہ ادا کر کے انتفاع جائز ہو سکتا ہے، اور کرایہ کا پیسہ قبرستان کو ادا کرنا ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم/۵۳۳، جدید زکریا/۵۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ رجب الاول ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۹/۳۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۳/۳۰ھ

مساجد کے طاقوں میں رکھے ہوئے پکوان کا امام و مؤذن کے لئے کھانا کیسا ہے؟

سوال: [۷۹۱۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتیں مساجد میں کچھ پکوان پکا کر کے طاقوں میں رکھ دیتی ہیں، تو کیا اس پکوان کو مساجد کے ائمہ اور مؤذنین نیز نمازی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نذرمانی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور بغیر نذر کے رکھا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد سالم قاسمی، مدرس مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: یہ فی نفسہ بدعت اور قابل ترک ہے، مگر نفس کھانا حلال ہے، اگر نذر کا کھانا نہیں ہے بلکہ شکر کا ہے تو امام و مؤذن مالدار غریب سب کے لئے کھانا جائز ہے، البتہ اس میں امر ممنوع کی اعانت ہونے کی وجہ سے نہ کھانا ہی مناسب ہے، اور اگر نذر کا کھانا ہے اور امام و مؤذن فقیر ہیں تو ان کے لئے اس کا کھانا جائز ہے، اور اگر فقیر نہیں ہیں تو جائز نہیں ہے۔

مصروف النذر الفقراء الخ. (شامی، کراچی ۲/۲۹۸، زکریا ۳/۲۸۳)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/صفر ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲۶/۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۲/۲۲ھ



الفصل السادس: مسجد میں سونے اور ٹھہرنے کا بیان

عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے والے شخص کا مسجد میں سونا

سوال: [۷۹۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم چار پانچ ساتھی مسجد میں ڈھائی گھنٹہ کی محنت میں تبلیغ کی لائن سے وقت دیتے ہیں، اس درمیان میں کسی ساتھی کے انتظار میں مسجد میں لیٹ جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
المستفتی: شمشاد عرفان، محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دعوت و تبلیغ کی لائن سے مسجد میں جو لوگ وقت دیتے ہیں وہ مسجد میں عبادت اور دینی مذاکرہ کی نیت سے ہی داخل ہوتے ہیں، اور عبادت اور دینی مذاکرہ کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت کی طرح ہے، لہذا جو لوگ اس طرح کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لئے اس درمیان مسجد میں سونے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے، لہذا دعوت کا کام کرنے والوں میں سے جو لوگ اس نیت سے داخل ہوتے ہیں، ان کا مسجد میں سو جانا بھی جائز ہے۔

وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الإعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد زکریا قدیم ۳۲۱/۵، جدید زکریا ۳۷۱/۵)

وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الإعتكاف، فيدخل فيه، ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أو يصلى، ثم يفعل ماشاء. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی الغرس فی المسجد کراچی ۱/۶۶۱، زکریا ۲/۴۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ صفر ۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/۳/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۲۷۷/۳۷)

گاؤں والوں کا ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے پچھلے میں آرام کرنا

سوال: [۷۹۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

عام دیہاتوں میں غریب لوگ رہتے ہیں، گاؤں میں بجلی موجود ہونے کے باوجود سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں پچھلے نہیں لگوا سکتے تو ظہر یا دیگر نمازوں کے بعد آرام کرنے کے لئے مسجد کے پچھلے چلاتے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ فعل درست ہے، یا گنہگار ہوں گے نیز اگر متولی مسجد اجازت دے دے تو کیا ان نمازیوں کا یہ فعل درست ہو سکتا ہے، مفصل تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: ابوسالک بردوانی، معلم:
شعبہ افتاء، مدرسہ شاہی، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ فعل دو وجہوں سے ناجائز ہے

(۱) مسجد میں غیر معتکف کے لئے سونا جائز نہیں ہے۔

(۲) مسجد کے پچھلوں کا ذاتی طور پر استعمال ناجائز ہے، اگرچہ متولی اس کی اجازت دیتا

ہو، کیونکہ چندہ دہنگان کی غرض کے خلاف ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱۱/۲)

ویکرہ الإعطاء (إلی قولہ) وأکل ونوم إلا لمعتکف وغریب - وأکل

نحو نوم ویمنع منه الخ. (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ،

وما یکرہ فیہا، مطلب فی الغرس فی المسجد کراچی ۱/۶۶۱، زکریا ۲/۴۳۵)

ویکرہ النوم والأکل فیہ لغیر المعتکف. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب

الخامس زکریا قدیم ۵/۳۲۱، جدید زکریا ۵/۳۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۱/۶/۲۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۲۹/۲۶)

اہل محلہ کا مسجد میں سونا اور نہانا

سوال: [۷۹۱۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اہل محلہ کا مسجد میں سونا اور نہانا کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالعید قاسمی، ہلدوانی، آزادنگر، منی تال
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: معتکف کے علاوہ باقی کسی کے لئے مسجد میں سونا جائز نہیں ہے۔

النوم فیہ لغير المعتکف مکروه الخ. (کبیری، فصل فی احکام المساجد
قدیم / ۵۶۸، جدید اشرفیہ دیوبند ۶۱۲)

ویکره النوم والأکل فیہ لغير المعتکف. (ہندیہ، کتاب الکراہیہ، الباب
الخامس زکریا قدیم ۳۲۱/۵، جدید زکریا ۳۷۱/۵، شامی، باب ما یفسد الصلوٰۃ،
مطلب فی الغرس فی المسجد کرچی ۶۶۱/۱، زکریا ۴۳۵/۲)

اور نہانا بھی اس وقت نا جائز ہے کہ جب مسجد ملوث ہونے کا خطرہ ہو، اگر مسجد کا
غسل خانہ ہے تو اس میں اگر چندہ دہندگان کی طرف سے عام اجازت ہے اور امام
و مؤذن اور نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں نہانا قباحت سے خالی نہیں ہے،
اس لئے محلہ والوں کو اپنے ذاتی غسل خانہ کا انتظام خود کرنا چاہئے۔ (مستفاد: فتاویٰ
رحیمیہ قدیم ۷/۶، جدید زکریا ۹۶/۹)

فإن کان بحیث یتلوٹ المسجد یمنع منه لأن تنظیف المسجد واجب.
(بدائع، کتاب الاعتکاف، فصل وأما رکن الإعتکاف قدیم ۱۱۵/۲، جدید زکریا
۲۸۴/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ رجب الاول ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۷۹/۲۸)

کیا مسجد میں محلہ کے حافظ صاحب سو سکتے ہیں؟

سوال: [۷۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلہ کی مسجد میں ہمارے محلہ ہی کے ایک حافظ صاحب جو ایک مکتب میں پڑھاتے ہیں، اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں شادی کی تھی طلاق ہوگئی، اب بغیر عورت کے ہیں، ان کا گھر موجود ہے، تاہم دن میں روزانہ صبح و شام مسجد کے جماعت خانہ میں دوسری تیسری صف میں چادر وغیرہ بچھائے بغیر سو جاتے ہیں، ان کی یہ عادت روزانہ کی ہے ہم نے مولویوں اور مفتیوں سے سنا ہے کہ مسجد میں محلہ کے آدمی کا عادت بنا کر سونا منع ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ حافظ صاحب کی یہ حرکت کیسی ہے، وہ مسجد میں سو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور سونا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی یا حرام یا ناجائز؟

المستفتی: عبداللہ عبدالرحیم،
قصابی واڈا، اٹھلی واڈی، گودھرا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: معتکف، مسافر اور اجنبی آدمی کے لئے مسجد میں سونا بلا کراہت جائز اور درست ہے، اور مقامی آدمی کا بغیر اعتکاف اور بغیر عبادت کے ارادے کے محض سونے کے لئے عادت بنالینا مکروہ ہے، اگر حافظ صاحب اعتکاف اور تلاوت قرآن، نماز یا دیگر عبادت کے ارادے سے مسجد میں آتے ہیں اور اسی ضمن میں روزانہ سو بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اور اس کا پتہ حافظ صاحب ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں، کہ میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں تو حافظ صاحب پر کوئی اعتراض و اشکال نہیں ہونا چاہئے۔

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لأهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. (بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب نوم الرجال فی

المسجد ۱/۶۳، رقم: ۴۳۵، ف: ۴۴۰)

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: أتانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن

مضطجعون فی مسجدہ فضر بنا بعسیب کان فی یدہ، وقال: قوموا لا ترقدوا فی المسجد. (مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمی ۱/۴۲۲، رقم: ۱۶۵۵، کتبر العمال ۸/۱۵۳، ۲۳۱۲۱/)

ویکرہ النوم والأکل فیہ لغير المعتکف وإذا أراد أن یفعل ذلك ینبغی أن ینوی الإعتکاف فیدخل فیہ ویذکر اللہ تعالیٰ بقدر ما نوى أو یصلی ثم یفعل ما شاء ولا بأس للغریب ولصاحب الدار أن ینام فی المسجد فی الصحیح من المذهب والأحسن أن یتورع فلا ینام. (هنديہ، کتاب الکراهیة، الباب الخامس زکریا قدیم ۵/۳۲۱، جدید ۵/۳۷۱، شامی، باب ما یفسد الصلوة مطلب فی الغرس فی المسجد کراچی ۱/۶۶۱، زکریا ۲/۴۳۵، حلبی کبیر، فصل فی احکام المساجد قدیم ۸/۵۶۸، جدید اشرفیہ دیوبند ۶۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۰ھ/۷/۲۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رجب ۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۷۸۲/۳۸)

مسجد کے وضو خانہ میں غسل کرنا

سوال: [۷۹۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ مسجد کے وضو خانہ والی ٹیکڑیوں میں غسل جنابت وغیرہ کرتے ہیں، جس سے مسجد کے صحن وغیرہ میں چھٹیئیں جاتی ہیں، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں پھر بھی نہیں مانتے اور غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے صرف دروازہ ٹوٹا ہے تو کیا غسل خانہ میں غسل کرنا چاہئے یا وضو خانہ میں اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد عاتل، بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وضو خانہ میں غسل کرنے میں پانی حدود مسجد اور

صحن مسجد میں گرتا ہے تو وہاں بیٹھ کر نہانا ممنوع ہوگا، غسل خانہ ہی میں نہانا چاہئے۔

فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب .

(بدائع، کتاب الاعتکاف، فصل وأما ركن الاعتکاف کراچی ۲/۱۱۵، زکریا

دیوبند ۲/۲۸۴، شامی، کراچی ۲/۴۴۵، زکریا ۳/۴۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۳/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲/۳۳۹۲)



الفصل السابع: توسیع مسجد سے متعلق احکام پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ وقتی طور پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی جس میں آٹھ نو سال نماز پڑھتے رہے، اب دوسری نئی مسجد بنائی گئی تو لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، پرانی مسجد ایسے ہی بڑی رہی پھر اس مسجد کو شہید کر کے اس کے پتھر نئی مسجد کے صحن کی تعمیر میں لگائے گئے اور اس مسجد کو بالکل صاف کر دیا گیا اب وہ جگہ بالکل خالی ہے، لیکن مسجد کے احاطہ میں ہی ہے، تو ایسی مسجد کیا حکم ہے؟ وہ جگہ ہمیشہ مسجد کے حکم میں رہے گی یا نہیں؟ اور اس کے شہید کرنے میں اور بالکل صاف کر دینے میں کیا صورت ہوتی ہے؟ آیا یہ درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: امیر خاں، محلہ محمود گنج، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جن لوگوں نے مسجد کو شہید کر دیا وہ لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں، تمام مسلمانوں کو اس مسجد کو تعمیر کر کے آباد کرنے کی سعی کرنی چاہئے، مسجد کو شہید کر دینے سے اور اس جگہ کو صاف کر دینے سے مسجد کی مسجدیت باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ قیامت تک وہ مسجد مسجد ہی کے حکم میں رہتی ہے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقی مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى . (درمختار مع الشامی، الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره زکریا ۶/۵۸، کراچی ۴/۳۵۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵، مصری قدیم ۱/۷۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۵۸، جدید ۲/۴۱۰، قاضیخان زکریا جدید ۴/۲۰، وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۸۸، مسبوط، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۴۲، الفتاویٰ الولوالجیہ،

دارالایمان سہارن پور ۸۸/۳، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفی ۴/۴۲ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۹/۳۲۸)

پرانی مسجد شہید کر کے تعمیر جدید کرنا

سوال: [۷۹۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک پرانی مسجد ہے، جس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، دیواریں مضبوط ہیں، اور مسجد کا صحن بھی خوب کشادہ ہے اور اس کے آس پاس میں قبریں ہیں، مسجد کے منتظم حضرات مسجد کو شہید کر کے تعمیر جدید کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں، کہ جو قبریں ہیں ان کو مسمار کر کے دوکان یا مکان بنا دیا جائے، جبکہ کچھ مقتدی یہ چاہتے ہیں، کہ قبروں کو مسمار نہ کیا جائے اور نہ ہی مسجد کو شہید کیا جائے، بلکہ چھت کی مرمت کر دی جائے، اور صحن چونکہ خوب لمبا چوڑا ہے اس لئے مسجد کا صحن اندورنی مسجد میں لے کر اضافہ کیا جاسکتا ہے، کیا ایسی صورت میں مسجد کو از سر نو بنانا درست ہے یا پھر مسجد کی توسیع چھت کی مرمت کے ساتھ کر دی جائے، نیز قبروں کو توڑ کر اسے مسمار کر کے اس جگہ دوکان یا مکان بنایا جاسکتا ہے؟

المستفتی: اعظم الدین خان، رامپوری، سرانے روہیلہ، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر چھت بوسیدہ ہو چکی ہے نئی چھت کی ضرورت ہے اور مسجد بھی تنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے توسیع کی بھی ضرورت ہے اور بنیاد و دیوار بھی مضبوط ہے تو توسیع مسجد کے لئے جو دیوار توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے، شرعاً ان کو توڑنے کی اجازت ہے، اور جو دیوار باقی رکھی جاسکتی ہے، اور اس کو توڑے بغیر توسیع ہو سکتی ہے، تو ان دیواروں کو باقی رکھنا ضروری ہے، بلاوجہ توڑنے کی اجازت نہیں اور توسیع کی صورت میں جو قبریں حدود مسجد میں آ رہی ہیں، اگر وہ قبریں مسجد کی ملکیت کی

جگہ میں ہیں، تو ایسی صورت میں ان قبروں کو ہموار کر کے اس جگہ کو حدود مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں داخل کر لینا جائز ہے، اور اگر وہ قبریں مسجد کی ملکیت کی جگہ میں نہیں ہیں، بلکہ وہ جگہ موقوفہ قبرستان کی ہے، اور وہاں دفن کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو قبروں کی جگہ کو مسجد میں لینا جائز نہیں ہے، اور اگر دفن کا سلسلہ باقی نہیں رہا ہے اور وہ قبریں ستر اسی سالہ پرانی ہیں، تو موقوفہ قبرستان کی پڑی ہوئی جگہ جس میں قبریں بھی ہیں، حدود مسجد میں لے لینا جائز ہے، اور قبروں کو ہموار کرنے کی بھی گنجائش ہے، اس لئے کہ خود مسجد نبوی قبروں کی جگہ پر بنی ہوئی ہے، لیکن قبروں کی جگہ چاہے مسجد کی ہو اس میں قبروں کو مسما کر کے مسجد کی آمدنی کے لئے دوکان یا مکان بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

(فیان قلت) هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين (قلت)

قال ابن القاسم لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين .

(عمدة القارى، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، داراحياء التراث العربى ۴/ ۱۷۹، زكريا ۳/ ۴۳۵، تحت رقم الحديث ۴۲۸، فتح الملهم، كتاب المساجد ۲/ ۱۱۸، وهكذافى الفتاوى التاتار خانية ۸/ ۱۸۸، رقم: ۱۱۵۹۷، المحيط البرهاني، المجلس العلمى ۹/ ۴۴، رقم: ۱۱۴۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۳/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۱۲۰۳۵)

پرانی مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پرانی مسجد کو توڑ کر اسی جگہ پر نئی مسجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ اور پرانی مسجد کی جو لکڑی وغیرہ ہے،

اس کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دیگر کام میں لاسکتے ہیں یا نہیں؟ یا کیا کیا جائے؟ قرآن وحدیث کے مطابق فیصلہ فرمائیں؟

المستفتی: معراج الدین، متعلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وہ لکڑی مسجد میں لگانے کے قابل ہے، تو مسجد ہی میں لگانا لازم ہوگا، اور اگر اس قابل نہیں ہے، تو اہل محلہ اور کمیٹی کی رائے سے ان کو فروخت کر کے قیمت مسجد کی ضروریات اور تعمیر میں صرف کرنا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۲۰۸/۶، ڈبہیل ۱۳/۲۹۳، کفایت المفتی ۷/۶۱، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۰۷)

هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم الخ. (شامی، الوقف، فی نقل القاضي المسجد ونحوه زکریا ۵۵۰/۶، کراچی ۴/۳۶۰، منحة الخالق زکریا ۵/۴۲۵، کوئٹہ ۵/۲۵۳، المحيط البرهاني المجلس العلمي ۹/۱۵۱، رقم: ۱۱۴۴۲، الفتاویٰ التاتار خانية زکریا ۸/۱۹۷، رقم: ۱۱۶۲۶، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۷۹، جدید ۲/۴۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۳۸/۲۶)

تعمیر جدید کی صورت میں مسجد میں رد و بدل کرنا

سوال: [۷۹۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) مسجد آٹھ در کی بنی ہوئی ہے، بیچ کے دو در کو توڑ کر ایک در بنانا چاہتے ہیں، تو کیا شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پرانی مسجد کا جو کھمبا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کر مسجد کے

حدود کے علاوہ باہر وضو خانہ میں لگانا چاہتے ہیں؟ شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد علی، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) اگر نمازیوں کے لئے ایک دربنانے میں سہولت ہے اور مسجد میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تو گنجائش ہے۔

(۲) نیز مسجد کے کھمبے کو ہٹا کر اسی مسجد کے وضو خانہ میں لگا سکتے ہیں، جبکہ اس کو ہٹانے میں مسجد کا کوئی نقصان نہ ہو۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۲۵/۷، جدید زکریا مطول ۸۱/۱۰، امداد المفتیین ۷۹۳/۷)

مسجد أراد أہلہ أن یجعلوا الرحبۃ مسجداً والمسجد رحبۃ وأرادوا أن یحدثوا لہ بابا وأرادوا أن یحولوا الباب عن موضعه فلہم ذلک . (ہندیہ ، الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد ، وما یتعلق بہ زکریا قدیم ۲/۴۵۶ ، جدید ۲/۴۰۹ ، شامی ، کراچی ۴/۳۷۸ ، زکریا ۶/۵۷۶ ، الفتاویٰ التاتار خانیۃ زکریا جدید ۲/۴۰۹ ، شامی ، کراچی ۴/۳۷۸ ، زکریا ۶/۵۷۶ ، الفتاویٰ التاتار خانیۃ زکریا ۸/۱۵۷ ، ۱۵۸ ، رقم: ۱۱۵۰۰ ، المحيط البرہانی ، المجلس العلمی ۹/۱۲۵ رقم: ۱۱۳۳۹ ، تبیین الحقائق ، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۱ ، زکریا ۴/۳۷۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
الف فتویٰ نمبر: ۵۷۸۶/۳۳ (۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۳۰/۵/۱۴۱۹ھ

زیر تعمیر مسجد میں نماز کو موقوف رکھنا

سوال: [۷۲۳-۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، جس میں عمارت کا ملبہ پڑا ہوا ہے، اس میں نماز شروع کرنے سے دشواری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جب تک تعمیر نہ ہو جائے اور سہولت سے نماز نہ پڑھ سکیں تب تک اس مسجد میں نماز موقوف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ پڑوس میں دوسری مسجد بھی ہے، جس میں تمام نمازیں ہوتی ہیں؟

اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس مسجد میں تعمیر ہونے اور ملبہ پڑے ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا دشوار ہو تو ایسی مسجد میں نماز کو موقوف کر کے قریب کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جائز ہے اور اس مسجد میں نمازوں کو موقوف کرنے کی وجہ سے لوگ اس وعید میں داخل نہ ہوں گے، جو مسجد کو خراب کرنے اور اس میں ذکر اللہ سے روکنے والوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲۱/۳۲۴، ڈائجیل ۱۴/۳۹۷)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا — وَظَاهِرُ الْآيَةِ، الْعُمُومُ فِي كُلِّ مَانِعٍ وَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَخُصُوصُ السَّبَبِ لَا يَمْنَعُهُ. (روح المعانی زکریا ۱/۵۷۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۵۹/۴۰)

کیا تعمیر جدید کے دوران نماز کا قائم رکھنا ضروری ہے؟

سوال: [۷۹۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی، اس کی تعمیر جدید ہو رہی ہے، تو کیا پوری مسجد کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کی جائے یا کچھ حصہ میں نماز باجماعت کرتے رہنا ضروری ہے، یا جب تک تعمیر ہو رہی ہے نماز و جماعت روک دی جائے، یہ مسجد شہر مراد آباد کی ایک چھوٹی مسجد ہے اس کے آس پاس اور قریب میں اور بھی مسجدیں ہیں، وہاں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ تحریر فرمادیں؟ نوازش و کرم ہوگا؟

المستفتی: عبدالقدیر، بانس منڈی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب چھوٹی مسجد ہے اور دوران تعمیر اس میں نماز کو

جاری رکھنا دشوار ہے تو جب تک مسجد تعمیر نہ ہو جائے اس وقت تک کسی الگ جگہ پر نماز کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں، اور جب مسجد تعمیر ہو کر اس قابل ہو جائے کہ بلا کسی دشواری کے اس میں جماعت ہو سکے تب جماعت کا سلسلہ اس میں جاری کیا جائے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا — وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْعَمُومِ فِي كُلِّ مَانِعٍ وَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَخُصُوصُ السَّبَبِ لَا يَمْنَعُهُ. (روح المعاني زکریا ۱/۵۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۳/۱۹ھ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۷۵/۲۰)

محراب نیچے منزل میں بنائی جائے یا اوپر والی میں؟

سوال: [۷۹۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صوبہ تمل ناڈو میں شہر وانماڑی کی مشہور جامع مسجد نیلی کھیت کو چند سال قبل بغرض توسیع شہید کیا گیا اور از سر نو اس کی تعمیر کی گئی اور محراب کو پہلی منزل پر منتقل کر دیا گیا، اور نچلی منزل بند رہتی ہے اور بوقت ضرورت اس کو کھولا جاتا ہے، چونکہ جماعت پہلی منزل پر ہوتی ہے، تو بعض دل کے مریض سیڑھی چڑھ کر جماعت میں شامل ہونے کی اپنی مجبوری ظاہر کر کے نچلی منزل میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، دیکھا دیکھی نوجوان بھی نیچے ہی نماز پڑھنے لگے، اور نچلی منزل میں بمقابلہ پہلی منزل کے جماعت کثیر ہونے لگی، جس کی وجہ سے اکثریت کی رائے ہے کہ محراب کو نچلی منزل ہی میں منتقل کر دیا جائے، مگر نچلی منزل کی اونچائی بہت کم ہونے کی بنا پر یہ سوچا جا رہا ہے، کہ زمین دو تین گز کھدائی کر کے فرش بچھا دیا جائے، اور نچلی منزل ہی میں محراب ہو اور یہیں مستقل جماعت ہونے لگے اب قابل لحاظ سوال یہ ہے کہ:

(۱) جماعت پہلی منزل میں افضل ہے یا نچلی منزل میں؟

(۲) مسجد کے اگلے حصہ کی طرف قبرستان واقع ہے اور قبرستان اور جامع مسجد کے

مابین ایک مستقل دیوار حائل ہے، کیا نچلی منزل کی دو تین گز کھدائی کر کے اسی کو مستقل محراب

بنانے اور وہاں جماعت ہونے سے کسی طرح کی کراہت لازم آتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اوپر کی منزل میں مستقل نماز ہو، معذور مقتدی نیچے کی منزل میں نماز پڑھ لیں، اور ان کو اوپر کی منزل کی تکبیر کی آواز پہنچتی ہے تو جائز و درست ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ نیچے کی منزل کو مستقل جماعت گاہ بنایا جائے اور فرش کی حسب ضرورت کھدائی کر کے نیچے کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے، جب قبروں اور محراب کے درمیان دیوار حائل ہے تو وہاں محراب بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں منزلوں کو مستقل حیثیت دی جائے، اور جس منزل پر چاہے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈبھیل ۶/۵۲۷)

عن صالح مولى التوأمة قال كنت أصلى أنا وأبوهريرة فوق ظهر المسجد نصلى بصلوة الإمام للمكتوبة. (السنن الكبرى للبيهقي، جماع ابواب موقف الإمام والمأموم دار الفكر ۴/۲۷۷، رقم: ۵۳۴۵)

والحائل لا يمنع الإقتداء إن لم يشتهه حال إمامه بسماع أو رؤية، قال الشامي: ولما فى البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لا يشتهه حاله عليه بسماع أو رؤية لا انتقالاً له لا يمنع صحة الإقتداء فى الصحيح. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة زكريا ۲/۳۳۳ تا ۳۳۴، كراچى ۱/۵۸۶)

إن كان للسطح باب فى المسجد ولا يشتهه عليه حال الإمام صح الإقتداء فى قولهم، وإن لم يكن له باب فى المسجد ولكن لا يشتهه عليه حال الإمام صح الإقتداء به أيضاً وإن اشتهه حال الإمام لا يصح الإقتداء. (تاتار حانية، زكريا ۲/۲۶۶، برقم: ۲۳۸۵)

وإن كان بينه وبين القبر مقدار لو كان فى الصلوة ويمر إنسان لا يكره

فہلہنا ایضاً لایکروہ۔ (تاتارخانیۃ زکریا ۲/۲۱۳، برقم: ۲۱۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۵/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۰۳/۳۹)

بالائی منزل پر جانے کیلئے حدود مسجد میں سیڑھی بنانا

سوال: [۷۹۲۶] کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ہمارے گاؤں بادر پور میں ایک قدیم مسجد ایک منزلہ تھی مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کی توسیع و تعمیر کرنا شروع کیا قدیم مسجد بحال ہے، اور اس کے قریب میں مسجد کی جگہ میں توسیع کی اور مسجد کو ایک منزلہ کے بجائے دو منزلہ بنایا اور اوپر کے منزلہ میں برائے نماز جانے کے لئے مسجد قدیم کے صحن میں جو مسجد کی شرعی حد میں داخل ہے، سیڑھی بنانا شروع کیا حالانکہ مسجد کی شرعی حد کے علاوہ سیڑھی بنانے کے لئے دوسری جگہ موجود تھی، اور ستر فیصد سیڑھی تعمیر ہو چکی تھی اس کے بعد ایک شخص کے متنبہ کرنے پر گاؤں والوں نے ایک مدرسہ کے دارالافتاء سے فتویٰ پوچھا تو وہاں سے عدم جواز کا فتویٰ ملا اور اس کو توڑنے کا حکم دیا پھر گاؤں والوں نے دوسرے مدرسہ کے دارالافتاء سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا اور کہا کہ سیڑھی تعمیر ہونے کے بعد اس کو توڑنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر میں بلا ضرورت توڑ پھوڑ کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے، نیز مال وقف کی اضاقت لازم آتی ہے، جو جائز نہیں ہے، اور سیڑھی بنانا ”ما أعد للصلوة“ کو ”للصلوة“ ہی مشغول کرنا ہے، اور یہ بلاشبہ جائز ہے، کیونکہ اوپر جانا مقصود نہیں ہے، نماز مقصود ہے تو سوال یہ ہے کہ مسجد کی شرعی حد میں سیڑھی بنانا جائز ہے یا نہیں اور کیا تعمیر شدہ سیڑھی کو توڑنا واجب ہے، یا اس کو توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کو توڑنا چاہئے یا نہیں؟

نوٹ: گاؤں والوں نے جواز کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے سیڑھی کا جو کام باقی تھا،

وہ مکمل کر لیا ہے۔

المستفتی: محمد عثمان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حدود مسجد اور جماعت خانے کے اندر سے اوپر کی منزل اور اوپر کے جماعت خانے میں جانے کے لئے سیڑھی اور زینہ بنانا بلا تردد جائز ہے، اس لئے کہ اوپر کی منزل میں نمازیوں کے جانے کے لئے جو زینہ بنایا جاتا ہے، وہ ”ما أعد للصلوة“ اور ضرورت صلوة میں شامل ہوتا ہے، اس لئے سوالنامہ میں دوسرا فتویٰ جو جواز سے متعلق ہے وہی صحیح اور درست ہے، نیز جماعت خانے کے اندر سے اوپر جانے کے لئے زینہ بنانے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کہ اس زینہ سے معتکف اوپر نیچے آ جاسکتا ہے، نیز مسجد حرام میں اندرون مسجد متعدد زینے اوپر کی منزلوں میں جانے کے لئے بنائے گئے ہیں، لہذا جو زینہ اندرون مسجد سے اوپر کے جماعت خانے میں جانے کے لئے بنایا جا چکا ہے، اس کو ناجائز سمجھ کر توڑ دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ مسجد کے مال کو ضائع کرنا بھی لازم آئے گا، اور مسائل شرعیہ کو غلط رخ دینا بھی لازم آئے گا، حضرات فقہاء نے نمازیوں کی ضرورت کے لئے غیر مستقف مسجد میں سایہ دار درخت لگانے کی اجازت دی ہے، اور ضرورت کی بنا پر حائضہ اور جنبی کے علاوہ لوگوں کو مسجد کے اندر سے گزرنے کی بھی اجازت دی ہے۔

غرس الأشجار فی المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذاتاً والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز
وفی الہندیۃ: عن الغرائب إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق علی الناس ولا یفرق الصفوف لا بأس به . (شامی، الصلاة، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا،

مطلب فی الغرس فی المسجد زکریا ۲/۴۳۵، کراچی ۱/۶۶۱)

وفیہ أيضاً نعم یوجد فی أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة
للمشي فیها وقت المطر ونحو لأجل الصلوة أو للخروج من الجامع

لا لمرور المارین مطلقاً . (شامی، الوقف، مطلب فی جعل شیعی من المسجد طریقاً زکریا ۶/۵۷۵، کراچی ۴/۳۷۸)

إذا جعل فی المسجد ممرّاً فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار فی الجوامع و جاز لكل واحد أن يمر فیہ حتی الکافر إلا الجنب والحائض والنفساء الخ . (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد، زکریا قدیم ۲/۵۷، جدید ۲/۴۱۰، البحر الرائق، فصل فی أحكام المسجد کوئٹہ ۵/۲۵۵، زکریا ۵/۴۲۸، تبیین

الحقائق، زکریا ۴/۲۷۴، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ صفر ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۲/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۵۷/۳۸)

مسجد کے حوض و صحن اور اس سے ملحق عمارت کے نیچے تہ خانہ بنانا

سوال: [۷۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بستی میں قدیم زمانہ میں ایک بہت چھوٹی سی مسجد تھی مگر اب سے تقریباً ستر چھتر سال قبل اس مسجد کو از سر نو بنایا گیا جو کافی وسیع ہو گئی، اور اس سے ملحق ایک کمرہ امام صاحب کے لئے اور چار کمرے وہاں کے مدرسین کے قیام کے لئے اور ایک درس گاہ بھی کافی وسیع بنائی گئی، مدرسہ میں تعلیم بھی شروع سے لے کر دورہ حدیث شریف تک ہوتی ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد مسجد کے آگے ایک برآمدہ بھی بنایا گیا اور اب تین چار سال قبل مسجد کے پیچھے جو زمین وقف بضرورت مسجد تھی، اس میں بھی مسجد کی عمارت بنائی گئی اور قدیم مسجد میں غربی جانب یعنی قبلہ کی دیوار میں دروازے کھول دئے گئے، دونوں عمارتیں قدیم و جدید ایک سی ہو گئیں، اور بڑی خوشنما اور کافی وسعت ہو گئی، مسجد کے نیچے اوپر اور باہر جو کمرے بنے ہوئے تھے، ان پر تقریباً دو تین ہزار آدمی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، اب چونکہ وہاں پر تبلیغی سلسلہ میں وفود کثرت

سے آتے رہتے ہیں، تو انجینئروں کے مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ مسجد کے حوض اور صحن کو ختم کیا جائے اور مسجد سے ملحق جو عمارت اور جو زمین پڑی ہوئی ہے، اور برآمدہ کے نیچے اور حوض کی جگہ پر اور ملحقہ جو عمارت اور زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک بہت ہی بڑا وسیع تہ خانہ بنایا جائے جس میں ہزار پندرہ سو آدمی ایک وقت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ مسجد کی قدیم عمارت میں اور اس کے حوض اور ملحقہ حجروں میں یہ تصرف کرنا مصالح مسجد سمجھا جائے گا، یا مصالح ضیوف جبکہ فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ تعمیر مسجد مکمل ہو جانے کے بعد کسی قسم کا تعمیر میں تغیر نہیں کیا جاسکتا ہے، اور مسجد کے نیچے اگر تہ خانہ بنایا گیا ابتدائے تعمیر کے وقت مصالح مسجد کے لئے یعنی مسجد کا ضروری سامان رکھنے کے لئے تو اس کی گنجائش ہے، امام کی رہائش کے لئے بھی اگر اوپر مکان ابتداء میں بنایا گیا تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، بعد میں امام کے مکان بنانے کے لئے گنجائش نہیں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب مرحمت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: (حضرت مولانا) افتخار الحسن (صاحب مدظلہ)

کاندھلہ، مظفر نگر (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تبلیغی وفد کسی انسان کے ضیوف اور مہمان نہیں

ہیں، اور نہ ہی مدرسہ یا مدرسہ کے منتظم کے مہمان ہیں، بلکہ یہ وفد خالص ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، جن کا قیام و طعام سب کچھ اللہ کے گھر میں ہونا ہے، اور سوال نامہ میں جس مسئلے کے بارے میں حکم شرعی معلوم کیا گیا ہے اس کے متعلق کتب فقہ کے جزئیات کا احاطہ کرنے کے بعد جو حکم سمجھ میں آیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ سوال نامہ میں جس تہ خانہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں دو قسم کی زمین آتی ہیں۔

(۱) مسجد کا برآمدہ اور صحن کا وہ حصہ جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائرہ میں داخل ہے۔ (۲) مسجد سے ملحق کمرے، درس گاہ اور مسجد کا حوض جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائرہ

سے خارج ہے، اسی طرح صحن کا وہ حصہ جو پہلے سے شرعی مسجد کے دائرہ سے خارج ہے تو ان دونوں قسموں کی زمینوں میں سے پہلی قسم کی زمین کے نیچے تہ خانہ کا جو حصہ ہوگا، وہ شرعی مسجد ہی رہے گا، اور اس کو شرعی مسجد ہی رکھنے کے لئے نیت کرنا لازم اور واجب ہے اور یہ تو سب سے مسجد کے حکم میں ہوگی جو کہ جائز ہے۔

رجل بنی مسجداً ثم مات فأراد أهل المسجد أن ينقضوه
ویزید وافیہ فلہم ذلک . (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما یتعلق بہ
زکریا قدیم ۵۷/۲، جدید ۴۱۰/۲)

قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان لیتسع المسجد وأخذوا من
الطریق وأدخلوه فی المسجد - إلى قوله - إن كان لا یضر بہم رجوت أن
لا یكون بہ بأس کذا فی المضمرة وهو المختار . (ہندیہ، زکریا قدیم
۴۵۶/۲، جدید ۴۰۹/۲، حاشیہ چلپی، مکتبہ امدادیہ ملتان ۳/۳۳۱، زکریا ۴/۲۷۴،
البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۵، زکریا ۵/۴۲۸، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۲۶،
رقم: ۱۱۳۴۱، الفتاویٰ التاتارخانیہ زکریا ۸/۱۵۸، رقم: ۱۱۵۰۲)

اور دوسری قسم کی زمین کے نیچے جو تہ خانہ بنایا جائے گا اس کو شرعی مسجد کے دائرہ میں
داخل کرنا ضروری نہیں بلکہ تہ خانہ کے اس حصہ کو خالص کھانا کھلانے کیلئے متعین کر لینا بھی
جائز ہوگا، اور پہلی قسم کی زمین کے نیچے کے تہ خانہ میں بوجہ ضرورت معتکفین اور تبلیغی وفد کو
کھانا کھلانا بھی جائز ہوگا، مگر اصل تہ مسجد رہے گی، اور تہجاً کھانا کھلانے کی گنجائش ہے جیسا
کہ دیگر مسجدوں میں ہوتا ہے، اگر اس طرح کے پروگرام کے تحت سوال نامہ میں ذکر کردہ
وسیع ترین تہ خانہ بنا لیا جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، البتہ اگر دونوں قسموں کے تہ خانہ کے
اوپر کے حصے کو مکمل شرعی مسجد کے دائرہ میں داخل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ دوسری
قسم کی زمین کے نیچے تہ خانہ شرعی مسجد سے خارج ہو اور اس کے اوپر کا حصہ شرعی مسجد کے دائرہ
میں داخل ہو اس لئے کہ اس حصہ میں جو مسجد کا حصہ بن رہا ہے، وہ ابتداءً بن رہا ہے، پہلے
سے نہیں ہے، جیسا کہ اس گنجائش کی طرف سوال نامہ میں اشارہ ہے۔

إذا كان السفلى مملوكاً و فوقه مسجد جاز - الخ . (تاتارخانیہ

کوئٹہ ۵/۴۸۳، زکریا ۸/۱۶۱، رقم: ۱۱۵۰۸)

إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به

عامتهم صار ذلك لله تعالى. (تقریرات رافعی تحت الشامی، زکریا ۶/۸۰)

اور اس کے برخلاف اگر دونوں قسم کی زمینوں کو شرعی مسجد سے خارج کر کے صرف طعام ضیوف کے لئے متعین کر کے تہ خانہ میں شامل کر لیا جائے تو جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ اس میں شرعی مسجد کی جگہ کو مسجدیت سے خارج کرنا لازم آتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۳/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۲۱۳۳)

مسجد کے نیچے تہ خانہ بنانا

سوال: [۷۹۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد جو کہ چھوٹی ہے اور اس کی توسیع کے لئے ایک پلاٹ مسجد کے آگے کے حصے میں خریدا گیا ہے، اور بانی مسجد کی نیت یہ ہے کہ اس پلاٹ کے نیچے تہ خانہ بنائیں گے اور اس تہ خانہ کو گودام یا کار خانہ کے طور پر استعمال میں لائیں گے اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو مسجد کے مصرف میں خرچ کریں گے، کیا اس طرح کا تہ خانہ بنانا درست ہے، مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: ثاقب انور، پورنوی، امام

مسجد حمزہ، لاجپت نگر، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ پلاٹ میں جب پہلے ہی سے یہ پروگرام ہے، کہ اس پر مسجد بننے سے پہلے نیچے تہ خانہ کو گودام وغیرہ کی شکل دی جائے گی جو کرایہ پر چلے گا جس کی آمدنی مسجد میں آئے گی، اور اس کے اوپر شرعی مسجد بنائی

جائے گی، اور بیس میٹ مسجد ہی کی ملکیت میں رہے گا اور جب مسجد کو اس کی ضرورت پڑے گی تو آسانی سے خالی کرایا جاسکے گا، تو ایسی صورت میں چونکہ نیچے کا حصہ مسجد کی ملکیت ہے اور مصالح مسجد کے لئے تہ خانہ وغیرہ بنانا جائز ہے، اور آمدنی اور منافع بھی مصالح مسجد ہی میں شامل ہیں اس لئے اس مقصد کے واسطے مذکورہ پروگرام کے تحت عمارت بنانے کی گنجائش ہے اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ پرانی مسجد کا کوئی حصہ گودام وغیرہ میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، اس کے نیچے سے اوپر تک مکمل حدود مسجد ہی کے دائرہ میں رہنا لازم ہے۔

لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفاً علی المسجد قبیل لایستحب ذلک
ولکنہ لو جعل فی الإبتداء هكذا صار مسجداً وما تحته صار وقفاً علیہ
ویجوز المسجد والوقف الذی تحته. (حاشیہ چلبی علی التبیین، الوقف، فصل
فی أحكام المسجد، زکریا ۴/۲۷۱، امدادۃ ملتان ۳/۳۰۳)

وعن بعض المشائخ إذا كان العلو والسفل حوانیت موقوفة علی
المسجد أو علی الأغلب لا بأس به لأن الكل منقطع عن حقوق العباد.
(بنایہ، مکتبہ اشرفیہ دیوبند ۷/۴۵۵، مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۲/۶۸۲، ۶۸۳)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۶۲۴۰)

مسجد کی قدیم سطح میں تہ خانہ بنانا

سوال: [۷۹۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ہمارے یہاں ایک قدیم مسجد بھی بوجہ بوسیدہ ہونے کے اس کو از سر نو جدید طرز پر تعمیر

کیا گیا اور اس سے قبل زمین کی جس سطح پر نماز پڑھی جاتی تھی، اس سطح کو اپنی جگہ سے کچھ اوپر کر کے اس کے نیچے تہ خانہ بنا دیا گیا، جو مسجد کی ضروری اشیاء کے رکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کی قدیم سطح کو بدل کر اس کے اوپر کی سطح پر نماز پڑھنا اور قدیم سطح کو تہ خانہ میں بدل کر اس کو سامان وغیرہ کے لئے مختص کرنا کیسا ہے؟ مدلل جواب سے نوازیں؟

المستفتی: سید ابراہیم قاسمی، پربھنی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد قدیم کے نیچے تہ خانہ بنا کر سطح زمین کو اونچا کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، نیز جماعت خانوں کو کئی منزلہ بنا کر سب منزلوں پر نماز ہوتی رہے، تو سب منزل پر بھی مسجد کا ثواب ملتا رہے گا، تہ خانہ پر یا اور اوپر کے حصہ میں مسجد ہی کے ضروری سامان مثلاً مسجد کی صفیں، قالین وغیرہ رکھنا بھی بلا تردد جائز ہے، لیکن تہ خانہ یا اوپر کا کوئی حصہ کرایہ پر دینا یا آمدنی کا ذریعہ بنانا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ جس وقت پہلی مرتبہ مسجد بنی تھی، اسی وقت سے اوپر کی فضا اور نیچے کی زمین ہمیشہ کے لئے مسجد کے حکم میں ہو چکی ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۳۳/۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۸۵، محمودیہ جدید ڈائجیل ۱۲/۶۱۷)

قال العلاء وكره الوطئى فوفقه لأنه مسجد إلى عنان السماء (درمختار) وفي الشامية قال الزيلعي ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذالم يتقدم على الإمام ولا يبطل الإعتكاف بالصعود إليه قوله: (إلى عنان السماء) وكذا إلى تحت الثرى. (شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب فى احكام المسجد زکریا ۲/۴۲۸، کراچی ۱/۶۵۶)

وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وإن المساجد لله بخلاف ما إذا كان

السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تميم مصالح المسجد كسرداب بيت القدس . (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئته ۵/۲۵۱، زكريا ۵/۴۲۱)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أي المسجد جاز . (شامی، زكريا ۶/۴۷۵، کراچی ۴/۳۵۷)

ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنياً . (شامی، زكريا كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد ۶/۴۸۵، شامی کراچی ۴/۳۵۸)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۲/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ صفر ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۰۲/۳۸)

مسجد قدیم کی تعمیر جدید میں تہ خانہ بنانا

سوال: [۷۹۳۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے سیوہارہ میں ایک پرانی مسجد ہے، اس کی از سر نو تعمیر ہونے جا رہی ہے اس کی تعمیر میں یہ پلان بن رہا ہے، کہ مسجد کے نیچے کی منزل کو تہ خانہ بنا دیا جائے، جس میں معذور حضرات یا سنیتیں پڑھنے والے سنت پڑھ لیا کریں، اور اوپر کی منزل میں امام صاحب کا مصلیٰ محراب بنا دیا جائے اور مسجد کے متصل مدرسہ کو بھی توسیع میں شامل کر لیا جائے تاکہ مسجد وسیع ہو جائے اور اوپر والی منزل میں ہی امام صاحب نماز پڑھائیں، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید میں نیچے تہ خانہ ہے اور محراب ہے اور پر نماز ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی اسی طرح تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم واضح فرمائیں؟

المستفتی: فرقان احمد، مہندی حسن، اکبر حسین، جابر حسین،

محمد شاہد، احمد علی سیوہارہ، ضلع: بجنور، پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ صورت میں پرانی مسجد کو اپنی جگہ باقی رکھ کر اس کے اوپر کی منزل میں وسعت کے ساتھ تعمیر کر کے امام کا اوپر کی منزل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بلا کراہت اور بلا شبہ جائز ہے، اور بوقت ضرورت شدت لو وغیرہ کے زمانے میں نیچے کی منزل میں بھی جماعت بنا کے نماز پڑھی جاسکتی ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ گرمیوں کے زمانے میں اصل مسجد کو چھوڑ کر کے مسجد کے صحن کے حصے میں جماعت بنا کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہوتا ہے، اس لئے نیچے کی منزل کو بھراؤ کر کے بیکار کر دینے کے بجائے اس کو یونہی چھوڑ دیا جائے، بوقت ضرورت اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے، اسی طرح معذور بھی نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی سنتیں وغیرہ اس میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۳/۲۱۸، امداداً لحکام ۲/۵۳، عزیز الفتاویٰ طبع دارالاشاعت کراچی ۱/۶۰۵، ۶۰۶)

و حاصلہ: أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً
 لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: 'وأن المساجد لله'. (الجن: ۸)
 بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز.
 (البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد زكريا ۵/۴۲۱، كوثه ۵/۲۵۱، شامی،
 کراچی ۴/۳۵۷، زکریا ۶/۵۴۷)

اور فتاویٰ رحیمیہ وغیرہ میں جو بات لکھی گئی ہے، وہ بعض مصالح کی بنا پر کہی گئی ہے، اور اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۲/۲/۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 یکم صفر ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۵۰/۲۰)

قدیم مسجد کو منہدم کر کے نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد بنانا

سوال: [۷۹۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک قدیم مسجد کو منہدم کر کے اس کی توسیع کرنا چاہتا ہے، لیکن نیچے مدرسہ اور اس کی بالائی منزل پر مسجد بنانا چاہتا ہے آپ شریعت کی روشنی میں مدلل مع حوالہ کے تحریر فرمائیں، کہ کیا زید کا یہ عمل درست ہوگا؟ اور اس طور پر مسجد اور مدرسہ بنانا اور نماز کا ادا کرنا جائز ہوگا؟

المستفتی: مصطفیٰ حسین، تکیہ پیر غائب، جھواں ٹولہ، لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ابتداء میں مسجد تھی تو دوبارہ اس پر مسجد ہی بنانا لازم ہوگا، اور اس کے اوپر یا نیچے باقاعدہ مدرسہ بنانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق فإذا كان هذا في الوقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى'. (الدر مع الرد، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ز كريا ۶/ ۵۴۸، كراچی ۴/ ۳۵۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/ ۱۶۱، ۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/ ۳۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/ ۱۷۳۵)

مسجد منہدم کر کے اس کے احاطہ میں مدرسہ اور مسجد بنانا

سوال: [۷۹۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قدیم مسجد کو منہدم کر کے اس سے آگے مسجد کی بنیاد رکھی جائے اور قدیم مسجد کی جگہ مدرسہ

بنایا جائے تو آگے کی طرف مسجد ہوگی قدیم مسجد کی جگہ مدرسہ ہوگا، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
مدلل مع حوالہ کے جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: مصطفیٰ حسین، تکیہ پیر غائب، لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے حصہ میں مدرسہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، وہ حصہ تاقیامت مسجد ہی کے حکم میں رہے گا۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يلقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً
إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدر المختار، والوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد
أوغیره، زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، مجمع الانهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۵۹۵،
مصری قدیم ۱/۷۴۸، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۵۵۸، جدید ۲/۴۱۰، قاضیخان جدید ۳/۲۰۴،
وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۸۸، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۱، زکریا ۴/۲۷۲،
الفتاویٰ التاتار خانیہ زکریا ۸/۱۶۴، رقم: ۱۱۵۱۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/۱۷۳۵)

تعمیر جدید میں پختی منزل میں وضو خانہ اور دوسری میں مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک
بوسیدہ مسجد کی از سر نو تعمیر دو منزلہ اس طرح کی جائے کہ پختی منزل میں وضو خانہ، غسل خانہ،
استنجاء خانہ، حجرہ امام صاحب و مؤذن صاحب رہے، اور اوپر کی منزل میں مسجد جو نماز کے لئے
استعمال ہو، یا پختی منزل کا کچھ حصہ مصارف مسجد کے لئے کرایہ پر دیا جائے، تو کیا مسجد کے
واسطے کرایہ پر دینے کے لئے اس طرح مسجد کی تعمیر ہونا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سفیان، سکریٹری، مسجد محلہ شیخان، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس جگہ مسجد بنا دی جائے تو تحت الثری سے آسمان تک اتنی جگہ مسجد کے حکم میں ہو جاتی ہے، لہذا مسجد میں جماعت خانہ کے حصہ کو نئی تعمیر میں وضو خانہ، غسل خانہ، استنجاء خانہ وغیرہ سے بدلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو جماعت خانہ ہی باقی رکھنا ضروری ہے، اور نہ جماعت خانہ کے حصہ کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۳۰، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۷۳)

وفي الشامية أموالو تمت المسجدية ثم أراد البناء (إلى قوله) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد الخ. (شامی، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره، زكريا ۶/۵۴۸، كراچی ۴/۳۵۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۳۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۴۳۳/۳۴)

مسجد کی توسیع کے وقت دوکانوں کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھانا

سوال: [۷۹۳۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد پہلے چھوٹی تھی لیکن بعد میں مسجد میں توسیع کر لی گئی تو کیا توسیع شدہ حصہ تعریف مسجد میں داخل ہے یا نہیں؟ اور یوں بھی کہا جاتا ہے، کہ مسجد عرش معلیٰ تک مسجد ہوتی ہے، اور تحت الثریٰ تک بھی مسجد ہوتی ہے، تو اس توسیع شدہ حصہ کے نیچے دوکانیں بنی ہوئی ہیں، آیا اس حصہ پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس پر لوگ نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں۔

المستفتی: امام جامع مسجد، دھنورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس کی توسیع کی جا رہی ہے اور جس حصہ کی توسیع ہو رہی ہے اس میں پہلے سے دوکانیں بنی ہوئی ہیں، اور دوکانوں کے اوپر مسجد کا حصہ بڑھانا ہے تو جائز اور درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دوکانوں کی آمدنی مسجد ہی کو ملتی ہو۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۳)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد المقدس الخ. (الدر مع الرد، والوقف، مطلب فى احكام المسجد، زكريا ۶/۵۴۷، كراچى ۴/۵۷۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲۰۲، الدار المتقى، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۴، قديم ۱/۷۴۷، مجمع الانهر، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۴، مصرى قديم ۱/۵۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶۹/۱۴۱۳ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ صفر ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۱۰/۲۸)

مسجد کے نیچے حصہ میں دوکان بنا کر اوپر مسجد بنانا

سوال: [۷۹۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد ولایت علی خان عرف چھوٹی مسجد محلہ گڑھی پیر خاں ٹھا کر گنج، لکھنؤ جو کہ محلہ کی آبادی میں اضافہ کی بناء پر تنگ ہو رہی ہے، خاص طور سے رمضان میں کافی دقت پیش آتی ہے، اس مسجد میں تین دوکانیں ہیں جن کی آمدنی سے مسجد کا خرچ پورا ہوتا ہے، اہل محلہ مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، موجودہ وقت میں مسجد میں بیک وقت نیچے کے حصہ میں بمشکل تمام چالیس نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر مسجد کو اوپر لاکر دیگر تمام ضرورتیں نیچے کے حصہ میں پوری کی جاتی ہیں، تو اس صورت میں لگ بھگ ایک سو چالیس نمازیوں کی گنجائش اوپر ہو رہی ہے، اور تین دوکانوں سے بڑھ کر پانچ دوکانیں ہو جا رہی ہیں، لیکن ایسا کرنے پر

مسجد کا وہ حصہ جہاں اس وقت پانچ وقت کی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، کچھ دوکانوں کے
صرفہ میں جا رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟

المستفتی: ابو الکلام، گڑھی پیر خاں، ٹھا کر گنج، لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس جگہ پر ایک مرتبہ مسجد تعمیر ہوگئی وہ زمین
قیامت تک مسجد ہی رہے گی، لہذا اس جگہ کو دوکان یا کسی اور مصرف میں لینا قیامت تک جائز
نہیں ہے، نیز نیچے کا حصہ کسی حال میں بھی دوسرے مصرف میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے،
صرف مسجد ہی کی حالت میں رہ سکتا ہے، ہاں البتہ اس کے اوپر اور بغل کی دوکانوں کے اوپر
مسجد کی دوسری منزل وسیع کر کے بنانا جائز ہے، جو آپ کے قول کے مطابق ایک سو چالیس
نمازیں اوپر آجائیں گے، اور نیچے کے پرانے حصہ میں بھی ۴۰ چالیس نمازیں آجائیں گے
،کل ۱۸۰ نمازیں نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف یہی شکل آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ
نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ ۶/۱۱۲، جدید زکریا دیوبند ۹۳/۹۳)

قال أبو يوسف: هو مسجد أبدأ إلى قيام الساعة إلى قوله كانوا
يصلون فيه أولاً وهو الفتوى وبخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً
لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح
المسجد . (البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئنه ۵/۲۵۱،
زكريا ۱/۴۲، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۹۵، مصرى قديم ۱/۷۴۸،
شامى، زكريا ۶/۵۴۸، كراچى ۴/۳۵۸، خلاصة الفتاوى اشرفى ۴/۴۲۴، الولوالجية،
دارالإيمان سهارنپور ۳/۸۸)

**وفى المجتبى لايجوز لقيم المسجد أن يبنى حوانيت فى حد
المسجد.** (البحر الرائق،، كوئنه ۵/۲۴، زكريا ۵/۱۸، الموسوعة الفقهية الكويتية
۳۷/۲۲۶، ہندیہ زکریا قديم ۲/۴۶۲، جدید ۲/۱۳۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ صفر ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۳۲/۲۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۲/۱۶ھ

غسل خانہ و پیشاب خانہ کی جگہ کو مسجد کے دالان میں شامل کرنا

سوال: [۷۹۳۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غسل خانہ اور پیشاب خانہ کو مسجد کے دالان میں شامل کر لیا گیا بوقت تعمیر ایک عالم دین مفتی صاحب کے مشورہ سے اس کو خارجی حصہ قرار دے کر وہاں جنازہ کی نماز پڑھائی جانے لگی، پہلے اس جگہ اکثر بچہ کی نماز جنازہ ہوا کرتی تھی، اور بڑے جنازہ کی نماز سڑک پر ہوتی تھی، جس سے بارش کے زمانہ میں پریشانی ہوتی تھی، اب کچھ لوگ اس کو مسجد کا حصہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہاں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ موقع پر پہنچ کر جگہ کا معائنہ فرما کر شرعی فیصلہ صادر فرمائیں؟

المستفتی: شبیر احمد، کچا باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ عالم دین مفتی صاحب نے اس جگہ کو اس مصلحت سے خارج رکھنے کا مشورہ دیا ہوگا، کہ اگر مسجد میں شامل کر لی جائے تو پھر بعد میں اس سے نماز جنازہ وغیرہ کا کام لینا ممنوع ہو جائے گا، اگر مسجد سے خارج رکھا جائے تو نماز جنازہ کا بھی کام لیا جاسکتا ہے، اور جماعت کثیرہ کے وقت وہاں جماعت کی صف قائم کی جاسکتی ہے، بس صرف شرعی مسجد کا ثواب وہاں سے حاصل نہ ہو سکے گا، اور جماعت کا ثواب ملتا رہے گا، اور بعد میں حدود مسجد میں شامل کر لینے کی ضرورت ہو تو اہل مسجد اور ذمہ داران مسجد کے اتفاق سے اس کو مسجد میں شامل بھی کیا جاسکتا ہے۔

فی الكبرى مسجد أراد أن يجعلوا الرحبة مسجداً (إلى قوله) فلهم

ذک فإن اختلفوا نظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك . (عالمگیری ، الوقف ،
الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۵۶ ، جدید ۲/۹۰ ،
المحیط البرهانی ، المجلس العلمی ۹/۱۲۵ ، رقم: ۱۳۳۹ ، الفتاوی التاتار خانیه
زکریا ۸/۱۵۷ ، ۱۵۸ ، رقم: ۱۱۵۰۰ ، حاشیة چلبی امدادیہ ملتان ۳/۳۳۱ ، زکریا ۴/۲۷۴ ،
شامی ، زکریا ۶/۵۷۶ ، کراچی ۴/۳۷۸)

احقر نے موقع پر جا کر معائنہ کر لیا ہے اہل مسجد کو اختیار ہے کہ چاہے اس کو داخل
کر لیں اور چاہے کسی مصلحت سے خارج رکھیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵۰۰/۳۱)

مملوکہ قبرستان میں مسجد کا چھجہ اور جنگلہ کھولنا

سوال: [۷۹۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ہمارے قبضہ میں ایک مسجد دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کے بائیں طرف ایک مملوکہ
قبرستان ہے، اور دائیں طرف عام راستہ ہے، مسجد سے متعلق کچھ حضرات نے مسجد کا
لینٹر اس طرح ڈلوایا ہے کہ وہ قبرستان کی طرف چوڑائی میں تقریباً چار فٹ نکلا ہوا ہے،
نیز قبرستان کی طرف مسجد کی دیوار میں ایک جنگلہ لگانا بھی چاہتے ہیں، جبکہ قبرستان کے
مالکین اس کی مخالفت کر رہے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح لینٹر نکالنا اور اس پر نماز
پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ اسی طرح جنگلہ لگانے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے، اگر مسجد کے
دائیں طرف جنگلہ لگا دیا جائے تو اس میں بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس
طرف راستہ کی دوسری طرف غیر مسلم آباد ہیں، اور بے پردگی کا خوب احتمال ہے، اس
بارے میں شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں؟

المستفتی: حاجی قمر الزماں، کٹھور، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کی پڑوس میں ملکیت کا قبرستان ہے اور مالکان زمین اس قبرستان پر آئندہ کسی قسم کی تعمیر کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی فضا میں مسجد کا لینٹر آجانے کی وجہ سے قبرستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لئے مالکان کو ایک مؤمن ہونے کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہئے اسی طرح جنگلہ نکالنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ اس میں مالکان و قبرستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ مسجد کسی شخص خاص کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے اس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہئے اور مسجد میں ہوا اور روشنی کیلئے راستہ کی جانب یعنی دائیں طرف جنگلہ نکالنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر بے پردگی کا خطرہ ہو تو اس سے رکاوٹ کے لئے کوئی معقول نظم کر لیا جائے مثلاً جنگلہ اس طرح لگایا جائے کہ سامنے کا منظر دکھائی نہ دے، لیکن ہوا آتی رہے۔ (مستفاد: محمودیہ ڈبھیل ۱۴/۴۲۱، ۵۱۱)

المقبرة الدائرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى فيه فلم أرفيه بأساً لأن المقابر وقف وكذا المسجد فمعناهما واحد. (عمدة القارى، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، دار احياء التراث العربى ۴/۱۷۴، زكريا ۳/۴۲۸، تحت رقم الحديث: ۴۲۷، ارشاد السارى، دارالفكر ۲/۴۳۷)

قوله: وإن جعل شيئى من الطريق مسجداً الخ. يعنى إذا بنى قوم مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع فادخلوا شيئاً من الطريق ليتسع المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز ذلك. (البحر الرائق، الوقف، فصل فى أحكام المسجد كوئنه ۵/۲۵۵، زكريا ۵/۴۲۸، هندیه زكريا قديم ۲/۴۵۶، جديد ۲/۴۰۹، حاشية چلپى امداديه ملتان ۳/۳۳۱، زكريا ۴/۲۷۴، المحيط البرهانى، المجلس العلمى ۹/۱۲۶، رقم: ۱۱۳۴۱، الفتاوى التاتارخانية زكريا ۸/۱۵۸، رقم: ۱۱۵۰۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۰/۱۴۶۱ھ)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵/۳/۱۴۳۵ھ

قبروں کی جگہ کو ہموار کر کے مسجد کے حصہ میں لینا

سوال: [۷۹۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد جس کے اندر والے حصہ میں چار صفیں ہیں، ہر ایک صف میں تقریباً ۳۰/۳۰ تیس نمازی آتے ہیں، برآمدہ میں بھی چار صفیں ہوجاتی ہیں، لیکن برآمدہ والے حصہ میں بائیں جانب چار قبریں بہت پرانی ہیں، جس کی وجہ سے برآمدہ والی صفوں میں صرف بیس آدمی آتے ہیں، جو نقشہ ذیل سے معلوم ہوتا ہے، اراکین کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ مزار کو کھود کر اور دونٹ نیچی کر دیں چونکہ ابھی بھی برآمدے کے فرش سے مزارات چار فٹ نیچے ہیں، تو دونٹ اور نیچی کر کے فرش سے ملا کر مزار والے حصہ پر لینٹر ڈالیں اور مزار میت کی جگہ بنا دیں جہاں دفن کے وقت میت کو رکھا جاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ قبر کی کھدائی نہ ہو لیکن اسی کے برابر والی جگہ کھودیں جو بوٹڈری کے اندر ہی ہے تو مزار اپنی جگہ رہے لیکن آس پاس کی جگہ کھود کر لینٹر ڈالیں اس صورت میں آدمی اس لینٹر کے نیچے آرام سے کھڑے ہو کر ایصال ثواب کر سکتا ہے، بہر دو صورت ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس لینٹر پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر مفصل جواب تحریر فرمادیں؟

المستفتی: اراکین کمیٹی، مسجد کوکاشاہ، بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مزار کی زمین مسجد ہی کی ہے تو بہت زیادہ پرانا

ہونے کے بعد ان مزاروں کو ہموار کر کے ان کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے، مسجد نبوی بھی پرانے قبرستان پر بنائی گئی تھی، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر قبریں بہت پرانی نہیں ہیں تو اوپر پلر

قائم کر کے پھر اس کے اوپر مسجد یا اس کا برآمدہ وغیرہ بنا لیا جائے تاکہ لوگ اس پر نماز پڑھ سکیں، اور اگر قبروں کی جگہ وقف کی نہیں ہے، بلکہ انکی ملکیت کی ہے، تو مالکان کی اجازت سے مذکورہ دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقہ سے مسجد کے کام میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

ولو بلسی المیت و صار ترابا جاز دفن غیرہ فی قبرہ وزرعہ و البناء
 علیہ الخ . (البحر الرائق، الصلاة، قبیل باب صلاة الشہید زکریا ۲/۳۴۲، کوئٹہ ۲/۱۹۵،
 تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۱/۲۴۶، زکریا ۱/۵۸۹، ہندیہ زکریا قدیم ۱/۱۶۷،
 جدید ۱/۲۲۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۰/۵/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۵۲۹)

توسیع مسجد میں قبروں کو شامل کرنا

سوال: [۷۹۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے صحن کے بغل میں جنوب کی جانب مسجد کی ایک قدیم خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، جمعہ کے روز جگہ کی قلت کی بنا پر کافی لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں اہل محلہ کا یہ مشورہ ہے کہ اس پر فرش پچھو کر صفیں بنوادی جائیں جس سے کہ لوگ آسانی سے نماز ادا کر لیں، اور رمضان المبارک میں ایک طرف بیٹھ کر افطار بھی کر لیا کریں، اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کہ یہاں ایک یاد قدیم قبریں ہیں، جنکا اس وقت کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں ہے، تو فرش بنو کر اس جگہ میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عزیز خان صاب،
 امان فیل، سرائے ترین، ضلع سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب سوال نامہ میں یہ ذکر ہے کہ وہ زمین مسجد کی ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد میں ہر طرح سے شامل کرنے کی اجازت ہے، اور بوسیدہ قبروں کو برابر کر کے اس پر فرش بنایا جاسکتا ہے۔

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غیرہ وزرعہ والبناء
عليه الخ. (شامی، الصلاة، باب صلاة الجنابة زکریا ۳/۱۳۸، کراچی ۲/۲۳۳، تبیین
الحقائق، امدادیہ ملتان ۱/۶۲۴، زکریا ۱/۵۸۹، البحر الرائق، کوئٹہ ۲/۱۹۵،
زکریا ۲/۳۴۲، الفقه علی المذاهب الاربعه، دارالفکر ۱/۵۳۸)

ولو كان بجانب المسجد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن
يزيدوا شيئاً في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي. (البحر الرائق،
الوقف، فصل فی أحكام المسجد، کوئٹہ ۵/۲۵۶، زکریا ۵/۲۸۴، حاشیة چلبی
زکریا ۴/۲۷۴، قدیم ۳/۳۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۲/۱۴۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/صفر/المظفر ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲/۶۰۴)

پرانی قبروں کو ہموار کر کے مسجد کے فرش میں شامل کرنا

سوال: [۷۹۴۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری
اونچی مسجد بروالان مراد آباد کے صحن میں تقریباً سو سال پرانی قبر ہے محلے میں کوئی وارث بھی
نہیں ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب مسجد کی جگہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس قبر کو ہموار و
کھدائی کر کے مسجد میں شامل کر دینے کی ضرورت ہے ایسی صورت میں اس پر نماز پڑھنی
درست ہوگی یا نہیں؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتی: استخار بیگ، متولی مسجد بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسجد کی توسیع میں پرانی قبر کو مسجد کے فرش سے برابر کر کے حدود مسجد کے اندر داخل کر لینے کی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ وہ زمین مسجد کی ملکیت کی ہو۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القاری ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد ، داراحیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹ ، زکریا ۳/ ۴۳۵ ، تحت رقم الحدیث: ۴۲۸ ، فتح الملهم ، کتاب المساجد ، اشرفیہ دیوبند ۲/ ۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۸/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شعبان ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۳۰/۴)

پرانی قبروں کی جگہ کو حدود مسجد میں شامل کرنا

سوال: [۷۹۴۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد قبرستان میں واقع ہے اور یہ مسجد بہت پرانی ہے محلہ کے بڑے بوڑھے سبھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہ یہ مسجد ہمارے ہوش سے پہلے سے بنی ہوئی ہے، مسجد کے پورب میں بالکل ملحق مکتب ہے اور مسجد کے تینوں طرف پچھم اتر دکھن قبریں ہیں، مسجد سے پچھم میں بالکل مسجد کے سیدھ کچھ حصہ میں لکھوری اینٹوں کی باؤنڈری ہے اس باؤنڈری میں بغیر نشان کی بالکل زمین کے ہموار دو قبریں ہیں، کچھ سال قبل اس حصہ میں نمازیوں نے پھولاری لگائی تھی، اور اس وقت قبروں کے نشانات ختم کر دیئے گئے تھے، اس باؤنڈری سے باہر تینوں طرف قبرستان ہے، اب الحمد للہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے،

اور خاص خاص موقعوں پر جیسا کہ تبلیغی جماعت کے آجانے پر یا ماہ رمضان المبارک کے موقع پر یا شہر میں فساد وغیرہ کے موقع پر نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے، کہ مکتب میں صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور مسجد نمازیوں کیلئے چھوٹی پڑ جاتی ہے، اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کہ مسجد کو وسیع کیا جائے، اور پچھم والا حصہ جو کہ باؤنڈری نما ہے اس کو مسجد میں لیا جائے، مسجد کا اگلا حصہ یعنی کہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ ان قبروں پر ہوگی جو باؤنڈری میں ہیں، ایسی شکل و صورت میں نماز میں کوئی کراہت تو نہیں ہوگی؟ اور اس جگہ کو مسجد میں لینے کیلئے اس حصہ پر لینئر ڈال کر مسجد کی عمارت اٹھائی جائے یا بغیر لینئر کے ہی مسجد کی عمارت بنائی جائے مکمل خاکہ آپ کی خدمت میں ارسال ہے آپ علم کی روشنی میں شریعت کے مطابق جواب سے نوازیں آپ کا عظیم احسان ہوگا؟

المستفتی: منجانب: منظمین کمیٹی مسجد چشتی

پہلوان، باغیت گیٹ شہر میرٹھ سٹی ۲

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر باؤنڈری کے اندر کی قبریں بہت پرانی ہو چکی ہیں، میت کے اجزاء کے مٹی بن جانے کا ظن غالب ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس حصہ کو حدود مسجد کے اندر شامل کر لینے کی گنجائش ہے، اور نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں آئیگی۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۳۳، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۸۵)

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنی قوم علیها مسجداً لم
أربذلك بأساً الخ. (عمدة القاری شرح بخاری، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرکی
الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد، داراحیاء التراث العربی ۴/۱۷۹، زکریا ۳/۴۳۵، تحت
رقم الحدیث/۴۲۸، فتح الملمہ، کتاب المساجد، اشرفیہ ۲/۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۲/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ رجب الثانی ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۳۶/۲۸)

مسجد کی توسیع میں قبرستان کو شامل کرنا

سوال: [۷۹۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے صحن میں قبر ہے، اب ضرورت مسجد بڑھانے کی ہو رہی ہے نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے، تو کیا ان قبروں کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کی جاسکتی ہے، یا بڑھائی جاسکتی ہے، جواب شافی سے مع حوالہ مطلع فرمائیں؟ نوازش و کرم ہوگا؟

المستفتی: محفوظ احمد قریشی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جہاں قبر ہے، وہ زمین اگر مسجد کی ملکیت میں ہے، اور میت کے اجزاء کے باقی نہ ہونے کا ظن غالب ہے تو برابر کر کے مسجد کی تعمیر اس پر درست و جائز ہوگی۔

جاز زرعه والبناء عليه إذا بلى وصار تراباً. (الدر المختار، الصلاة، باب صلاة الجنائز، کوئٹہ ۱/۶۶۲، زکریا ۳/۱۴۵، کراچی ۲/۲۳۸، وھکذا زکریا ۳/۱۵۵، ۱۳۸، کراچی ۲/۲۴۵، ۲۴۳، الفقه علی المذاهب الاربعہ، دارالفکر ۱/۵۳۸)

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غیرہ فی قبرہ وزرعه والبناء عليه الخ. (تبيين الحقائق، ۱/۲۴۶، امدادیہ ملتان ۱/۲۴۶، البحر الرائق، زکریا ۲/۳۴۲، کوئٹہ ۲/۱۹۵، عمدة القاری داراحیاء التراث العربی ۴/۱۷۹، زکریا ۳/۴۳۵، تحت الرقم الحدیث: ۴۱۸، فتح الملہم، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/۱۱۸، الفتاویٰ التاتارخانیة زکریا ۸/۱۸۸، رقم: ۱۱۵۹۷، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۴۴، رقم: ۱۱۴۱۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۹۲۳)

سرٹک کے کچھ حصہ کو مسجد میں شامل کرنے کا حکم

سوال: [۷۹۲۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) محلّہ میں ایک کافی پرانی مسجد موجود ہے، لیکن اس میں جگہ کی تنگی تھی جس کے باعث مسجد کے منتظمین نے عام راستہ کی جگہ کو مسجد کے اندر کر لیا ہے، اور پرانی دیوار کو توڑ کر نئی جگہ اندر لیکر دیوار تعمیر کر لی ہے، جس کی وجہ سے عام راستہ کافی تنگ سا ہو گیا ہے، کیا شرعاً اس طرح عام راستہ تنگ کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) اور راستہ تنگ کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

المستفتی: حاجی محمد اطہر، افضل گڈھ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر عام لوگوں کے چلنے کا راستہ محلّہ والوں کا مشترک ہے اور عام لوگوں اور گرام پچائیت کی رضامندی اور مشورہ سے راستہ کا حصہ توسیع کیلئے مسجد میں شامل کر لیا ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ راستہ کچھ تنگ ہو جائے، اور اگر راستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کرنے میں محلّہ والے راضی نہیں ہیں، بلکہ متولی نے اپنی مرضی سے شامل کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے راستہ تنگ اور لوگوں کو مستقل پریشانی ہے تو راستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کر لینا جائز نہیں۔

قوم بنوا مسجداً و احتاجوا الیٰ مکان لیتسع المسجد و أخذوا من الطريق و أدخلوه فی المسجد إن کان یضر بأصحاب الطريق لایجوز ، وإن کان لایضر بهم رجوت أن لایکون به بأس الخ . (عالمگیری، الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد وما یتعلق به زکریا قدیم ۲/۵۶، جدید ۲/۴۰۹، البحر الرائق، زکریا ۵/۲۲۸، کوئٹہ ۵/۲۵۵، حاشیہ چلبی امدادیہ ملتان ۳/۳۳۱، زکریا ۴/۲۷۴، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۲۶، رقم: ۱۱۳۴۱،

الفتاویٰ التاتار خانیہ، زکریا ۸/۱۵۸، رقم: ۱۱۵۰۲)

(۲) راستہ تنگ کرنے والوں کے بارے میں جو روایت صراحت کیساتھ ملتی ہے وہ اتنی ہے کہ اگر جامین میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ختم کرنے کیلئے راستہ کی چوڑائی سات ہاتھ متعین کر لی جائے۔

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أزرع، الحديث: (ابن ماجه، باب إذا تشاجروا في قدر الطريق، النسخة الهندية/ ۱۶۹، دار السلام رقم: ۲۳۳۹، مسند البزار، مكتبة العلوم ولحکم ۲۵۱/۱۶، رقم: ۹۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ شعبان ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵۴۸/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۸/۳ھ

راستہ کو مسجد کی توسیع میں شامل کرنا

سوال: [۹۴۴] کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کذید عمر بکر زفر چار بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کا مشترکہ راستہ ہے، عمر نے مسجد تعمیر کی اور مسجد کا چار فٹ چھبچھ مشترکہ راستہ میں بغیر زید بکر اور زفر کی مرضی کے نکال دیا عمر کے علاوہ باقی بھائیوں کو اسپر اعتراض ہے، چونکہ یہ مشترکہ راستہ ہے، تو کیا شرعی طور پر عمر کا یہ فعل اور تعمیر درست ہے یا مسجد کی توسیع کے نام پر مخصوص اور عام راستوں کو تنگ کیا جاسکتا ہے؟ حکم شرعی سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: ارشاد حسین، ہلدوانی، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی توسیع کی غرض سے مخصوص یا عام راستہ کے کچھ حصہ کو مسجد میں شامل کرنے کی اگر راستہ چلنے والے تنگی محسوس کرتے ہوئے اس کی اجازت نہ دیں تو راستہ کے حصہ کو مسجد میں شامل کر لینا جائز نہیں ہے، لہذا صورت مسئلہ میں

عمر کا یہ فعل اپنے بھائیوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔

قوم بنوا مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق لا يجوز الخ.

(عالمگیری، الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد و ما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۵۶، ۴

جدید ۲/۴۰۹، البحر الرائق، زکریا ۵/۲۲۸، کوئٹہ ۵/۲۵۵، حاشیہ چلبی امدادیہ ملتان

۳/۳۳۱، زکریا ۴/۲۷۴، المحيط البرهانی، المجلس العلمی ۹/۱۲۶، رقم: ۱۱۳۴۱،

الفتاویٰ التاتاریخانیة زکریا ۸/۱۵۸، رقم: ۱۱۵۰۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۵/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۳۱/۳۲)

موقوفہ ہسپتال کو توسیع مسجد کیلئے فروخت کرنا

سوال: [۷۹۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

پچھرايوں ضلع جے پی نگر کی جامع مسجد قدیمی ہے اب جبکہ آبادی قصبہ کی بہت بڑھ گئی ہے، تو جمعہ کی نماز کیلئے قصبہ و اطراف قصبہ دیہات کے مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے جامع مسجد آتے ہیں، ان کے لئے مسجد نا کافی ہوتی ہے، لہذا مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے، کہ جامع مسجد ہی سے متصل قدیمی ایک زنانہ ہسپتال تھا، جو کہ اب منہدم ہو گیا وہ جگہ زنانہ ہسپتال کیلئے وقف ہے، اب اگر متولی وقف زنانہ ہسپتال سے اس جگہ کو خرید کر توسیع مسجد میں وہ جگہ لے لی جائے اور متولی صاحب اس روپیہ سے کسی دوسری جگہ خرید کر زنانہ ہسپتال قائم کر لیں، جبکہ موجودہ صورت حال اس جگہ کی ایک کھنڈر کی ہے، اور موجودہ حالات میں وہ جگہ ہسپتال کی تعمیر کے لئے بھی نا کافی معلوم ہوتی ہے، تو کیا متولی وقف کو ضرورۃً اس جگہ کا بیچنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: صدر مسجد کمیٹی، پچھراہوں، دوہنگ
ممبران کمیٹی، چودھری راحت علی صاحب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زنا نہ ہسپتال کی جو حالت سوالنامہ میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زنا نہ ہسپتال غرض واقف کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اور منہدم ہو چکا ہے، لہذا اس کے متولی یا ذمہ دار کے لئے جائز ہے کہ قدیم جامع مسجد کی توسیع کیلئے اسے جامع مسجد کے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ جامع مسجد کی توسیع ہو سکے اور اس پیسے کے ذریعہ زنا نہ ہسپتال کے لئے کوئی ایسی مناسب جگہ خرید لیں جس میں زنا نہ ہسپتال صحیح طور پر چل سکے، اور حکم شرعی یہ ہے کہ موقوفہ جائیداد اگر واقف کی منشاء کے مطابق باقی نہ رہے تو غرض واقف کے مطابق بنانے کیلئے استبدال جائز ہے۔

و كذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت و خرجت عن انتفاع الموقوف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دور آخر تكون وقفا مكانها . (اعلاء السنن ، كراچی ۱۱۲/۱۳، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۳/۴۷/۲)

لأن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً الخ . (عمدة القاری ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد ، داراحیاء التراث العربی ۴/۱۷۹، زکریا ۳/۴۳۵، تحت رقم الحدیث ۴۲۸/، فتح الملہم ، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/۱۱۸)

وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلاً أكثر ريعاً منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند أبي يوسفٍ والعمل عليه . (شامی، زکریا ۶/۵۸۷، کراچی ۴/۳۸۶، النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۲۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۳۲۳، زکریا ۵/۳۷۳)

ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها..... والمعتمد أنه يجوز

للقاضی بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية . (ہندیہ ، زکریا قدیم
۲۰۱/۴ ، جدید ۳۷۶/۲)

لايجوز استبدال العامر إلا في الأربع ، الرابعة أن يرغب إنسان
فيه ببدل أكثر غلّة و أحسن صقعا فيجوز على قول أبي يوسف و عليه
الفتوى . (شامی، مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع ، زکریا ۶/۵۸۸ ، کراچی
۳۸۸/۴ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۹۸ ، وأدلتہ هدی انتر
نیشنل دیوبند ۸/۲۲۰ ، الاشباه والنظائر کراچی ۱/۳۰۵)

إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خرجت
..... إن لم يمكن الانتفاع بشئ منه بيع جميعه . (اعلاء السنن ۱۳/۲۰۸ ،

کراچی ، عباس احمد الباز، مکتبہ المکرّمہ ۱۳/۲۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۱۱/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ زیقعدہ ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۱۴۳۹)

توسیع مسجد کے وقت غیر ضروری مکان کو کرایہ پر باقی رکھنا

سوال: [۷۹۲۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جب
سے مسجد بنی اسی وقت سے مسجد کے سامنے ایک مکان مسجد کا ہے، جو مسجد کے مصارف کیلئے
کرایہ پر رہا، پھر مسجد کی توسیع کا مسئلہ درپیش ہوا، تو مکان کو اسمیں شامل کرنا چاہا لیکن مکان
اس انداز کا ہے کہ مسجد کی صفیں اسمیں صحیح رخ پر نہیں آسکتی تھیں، اس لئے مسجد کو دو منزلہ کر دیا
گیا، اور اس مکان کو علی حالہ چھوڑ کر کرایہ پر جاری رکھا گیا، اس سے حاصل شدہ کرایہ کی رقم
مسجد کے مصارف میں کام آتی ہے، بعض لوگ اس پر معترض ہیں کہتے ہیں، کہ مسجد کا یہ مکان
خالی کرایا جائے، حالانکہ وہ مسجد کے کام نہیں آسکتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس مکان کو کرایہ پر

رکھ کر اسکی آمدنی بدستور مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: اسرار احمد، دھام پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر سوال واقع کے مطابق ہے تو اس مکان کو کرایہ پر باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر جماعت خانہ میں داخل کرنے کی صورت نہ بن سکے تو اس مکان کو مسجد کی آمدنی کیلئے مناسب کرایہ پر باقی رکھنا بہتر ہے تاکہ مسجد کو فائدہ پہنچتا رہے۔

وحيث كان يدفع أجره مثلها لم يوجد ضرر على الوقف فتترك في يده لعدم الضرر على الجانبين (وبعد أسطر) وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت ونحوها فإن إبقاءها في أيديهم سبب لعمارتهادوام استغلالها ففي ذلك نفع للأوقاف الخ. (شامی، الوقف، مطلب فی استیفاء العمارۃ بعد فراغ مدة الإجارة بأجر المثل زکریا ۶/۵۹۴، کراچی ۴/۳۹۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۱۹۹)

کراچی ۴/۳۹۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/۱۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹ رجب الاول ۱۴۲۱ھ

۱۹/۳/۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۵۱/۳۵)

مسجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی ہے اس میں جزیٹر روم بنانا

سوال: [۷۹۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

حاجی ضیاء النبی متولی و ذمہ داران نے موتی مسجد واقع صدر بازار ٹانڈہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صورت حال یہ ہے کہ مسجد کے جس حصہ میں نماز ہوتی تھی، اس میں سے تقریباً ۵۵ رفٹ جگہ الگ کر کے اس میں جزیٹر روم بنانا چاہتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس جگہ پر ایک مرتبہ شرعی مسجد بن جاتی ہے، وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہی رہتی ہے، اس میں نماز اور اعتکاف کے علاوہ دیگر کسی طرح کا کام جائز نہیں ہے، مسجد قدیم جس میں نماز ہوتی تھی، پانچ فٹ جگہ الگ کر کے جزیرہ روم بنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔

قیم المسجد لا يجوز له أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فناءه لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمة، وهذا لا يجوز.

(ہندیہ، کتاب الوقف، جدید زکریا ۲/۴۱۳، قدیم ۲/۶۲۴)

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن يجعل شيئاً من

المسجد مسكناً أو مستغلاً. (قاضی خان، باب الرجل يجعل داره مسجداً،

جدید زکریا ۲/۴۰، وعلی ہامش الہندیہ ۲/۲۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۱۲)

مسجد کے وضو خانہ، حوض، پیشاب خانہ وغیرہ کی جگہ دوکانیں تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موتی

مسجد واقع صدر بازار ٹائڈہ کی نماز کی جگہ کے علاوہ اور بھی جگہ ہے، مثلاً وضو خانہ، حوض، پیشاب گھر، حجرہ اور اس کے سامنے کا حصہ جو خالی پڑا ہے، اس حصہ میں وضو خانہ وغیرہ ضروریات مسجد اسی طرح مسجد کے مصارف کے لئے دوکانوں کی تعمیر کرنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں؟

المستفتی: حاجی ضیاء النبی، متولی ذمہ داران موتی

مسجد، قصبہ: ٹائڈہ، بادی، ضلع رام پور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسجد کی نماز کی جگہ کے علاوہ مسجد کی ملکیت کے وضو خانہ، حوض، پیشاب خانہ اور حجرہ وغیرہ کی جگہ چونکہ خارج مسجد ہے، اس لئے خارج مسجد کے حصوں میں مصالح مسجد اور منافع مسجد کی خاطر دوکانیں وغیرہ تعمیر کرنے کی گنجائش ہے۔

وسئل الخجندی عن قیم المسجد یبیح فناء المسجد لیتجر القوم هل له هذه الإباحة فقال إذا كان فيه مصلحة للمسجد فلا بأس به إن شاء الله تعالى، قيل له: لو وضع في فناء سوراً فأجرها الناس لیتجروا علیها وأباح لهم فناء ذلك المسجد هل له ذلك فقال: لو كان لصالح المسجد فلا بأس به. (فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد، زکریا قدیم ۳۲۰/۵، جدیدہ ۳۷۰/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۲/۱۴۳۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر رجسٹر خاص)

الفصل الثامن: مسجد میں تصرف کرنے کا بیان

امام صاحب کے مصلے کا فرش سے ایک ردّہ اونچا ہونا

سوال: [۷۹۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں جہاں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ فرش سے ایک ردّہ اونچی ہے، یہ غلط تو نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اونچائی اگر ایک ہاتھ سے کم ہے، تو اسکی گنجائش ہے، اور آپ کے سوال سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، کہ آپ کی مسجد میں جو اونچائی ہے، وہ ایک ہاتھ سے کم ہے۔

وانفرا د الإمام علی الدکان للہی وقدر الإرتفاع بذراع ولا بأس بما دونہ. (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ الخ، کراچی ۶۴۶/۱، زکریا ۲/۴۱۵)

وقد قال بعض مشائخنا: إن کان الدکان قدر ذراع یکرہ، وإن کان دون ذلک لا یکرہ، و علیہ الاعماد. (تاتارخانیۃ، زکریا ۲/۲۱۲ رقم:

۲۱۹۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۸۴۳۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۳/۱۹ھ

محراب کے نیچے ستون کا بنوانا ضروری ہے یا نہیں؟

سوال: [۷۹۵۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک

مسجد جس کے نیچے دوکان بنی ہوئی ہے، محراب کے نیچے بھی ایک دوکان ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہ محراب کے نیچے کی جگہ ٹھوس ہونی چاہئے، یعنی محراب کے نیچے ستون ہونا چاہئے، اس وقت محراب کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، آپ حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ اس مذکورہ محراب کے نیچے ستون ہونا چاہئے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالشکور دلی والے، کانٹھ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محراب کے نیچے ستون کا ہونا شرط نہیں ہے! بس سجدہ ایسی سخت جگہ پر ہونا شرط ہے، کہ سجدہ کرنے میں پیشانی اندر کو چلی نہ جاتی ہو! جیسا کہ زیادہ نرم اور موٹے گدے پر ہوتا ہے، اور یہاں ایسی بات نہیں ہے! (احسن الفتاویٰ ۳/۳۳۲)

وَأَنْ يَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ وَالنَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ وَفِي الشَّامِيَةِ تَفْسِيرُهُ
أَنَّ السَّاجِدَ لَوْ بَالِغَ لَا يَتَسَفَّلُ رَأْسَهُ أُبْلَغَ مِنْ ذَلِكَ فَصَحَّ عَلَى طَنْفَسَةِ
وَحَصِيرٍ وَحَنْطَةِ وَشَعِيرٍ وَسَرِيرٍ وَعَجَلَةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ الْخ.

(الدر المختار مع الشامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب فی إطالة الركوع، کوئٹہ ۱/۳۷۰، کراچی ۱/۵۰۰، زکریا ۲/۲۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ رشتوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۹/۲۳)

غلط رخ پر بنی ہوئی اور قابل مرمت مسجد کو شہید کر کے صحیح رخ پر تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں تقریباً ۲۰ سال قبل ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی تھی، مسجد بہت چھوٹی ہے، اور پوری مسجد پر چھت ہے صحن بالکل نہیں ہے، تین صف اندر اور ڈھائی صف باہر چند سال ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس مسجد کا رخ قبلہ رخ کے خلاف ہے جب بذریعہ قطب ستارہ

رات کی وقت نیز بذریعہ قطب نما دیکھا گیا تو واقعی رخ تقریباً ڈھائی فٹ قبلہ رخ کے خلاف ہے جب یہ شکل ہوئی تو اندر تین صفوں کی جگہ دو صفیں ہونے لگیں، اور جگہ کم ہوگئی اس مسجد سے متعلق کچھ حالات اس طرح ہیں کہ مسجد چونکہ پوری مستقف ہے اسلئے گرمی کے ایام میں عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں بے حد مشکل میں ادا ہوتی ہیں، ہر شخص مع امام کے پسینہ میں رہتا ہے، اور اطمینان قلب سے محروم اسی طرح موسم سرما میں بھی دھوپ نہ آنے کی وجہ سے تری کی وجہ سے سردی زیادہ، دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر کوتاہی کی بناء پر مسجد کا لینٹر خراب ہو چکا ہے، بارش کے ایام میں ساری چٹائیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بعد مرمت بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، شارع عام پر ہونے کی وجہ سے راستہ کی دھول مٹی ہوا کے ذریعہ بھاری مقدار میں مسجد میں آتی ہے، یہ تمام چیزیں واقعی ہیں بناوٹ یا غلط بیانی نہیں ہے، اسلئے متعلقین مسجد چاہتے ہیں، کہ مسجد کو شہید کریں اور از سر نو تعمیر صحیح رخ پر کریں، اور مسجد کو اتنا اونچا بنائیں کہ جس جگہ اس وقت مسجد کی چھت ہے اتنی اوپر مسجد کا فرش یعنی کرسی رہے، تاکہ موجودہ تنگی اور موسمی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور نمازیں اطمینان قلب حاصل ہو، نیچے کی جگہ کو مسجد کی چٹائی، لوٹے وغیرہ رکھنے کے کام میں لے لیں اور وضو خانہ، غسل خانہ، پرانی جگہ رہیں گے، اسمیں ایک نئی چیز یہ چاہتے ہیں کہ مسجد شارع عام پر ہے اسلئے یہاں دو تین دوکانیں بنادی جائیں اور پر مع دوکانوں کے لینٹر کے مسجد رہے گی اس طرح مسجد کی ضروریات کی کفالت بھی ہوگی، اور موسمی پریشانیاں نیز تنگی ختم ہو سکتی ہے، اس میں آپ سے جواب طلب ہے ازراہ کرم جواب سے نوازیں؟

المستفتی: محمد عثمان، ڈھیال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غلط رخ سے صحیح رخ پر لانے کیلئے نیز مرمت اور

توسیع کیلئے شہید کر دینا اور اچھے نہج پر تعمیر کر دینا درست اور جائز ہے۔

كما استفادہ من الشامي، ومفاد كلام البحر أو يراة بالعمارة

فیما مرّ الضرورية كرفع سقف أو جدار فيصرف الربع إليها أولاً كما هو مفاد المتون (إلى قوله) ثم لا يخفى أنه لو احتيج قطع الكل للعمارة الضرورية قدمت على جميع الجهات إذ ليس من النظر خراب المسجد الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی قطع الجهات لأجل العمارة زكريا ۵۶۲/۶، كراچی ۳۶۸/۴)

أراد أهل المحلة نقض المسجد وبنائه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة، لهم ذلك وإلا الخ. (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب فی أحكام المسجد زكريا ۵۴۶/۶، كراچی ۳۵۷/۴)

نیز نیچے کے حصہ میں چٹائی، لوٹا، وغیرہ کیلئے تہخانہ کی شکل دینا اور اوپر کے حصہ کو جماعت خانہ قرار دینا بھی جائز ہے، لیکن نیچے کے حصہ میں دوکان بنانا ہرگز جائز نہیں ہوگا، اگرچہ منافع مسجد کیلئے ہی ہو، کیونکہ وہ قیامت تک مسجد ہی ہے، مسجدیت اس سے منقطع نہیں ہو سکتی۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع و لو قال عنيت ذلك لم يصدق (إلى قوله) فيجب هدمه و لو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى (بزايه) و لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة و به يفتى . (شامی، کتاب الوقف، زكريا ۵۴۸/۶، كراچی ۳۵۸/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۲۳/۲۴)

بے پردگی کی وجہ سے مسجد کے گیٹ کا رخ تبدیل کرنے کا حکم

سوال: [۷۹۵۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہہ بزم

محمد مسجد محمد اسماعیل باکر کی ملکیت کا ایک جھوٹا تھا، جس میں بچوں کو روزانہ صبح و شام دینی تعلیم دی جاتی تھی، اس سے قبل باجماعت نماز پڑھنے کے لئے کوئی مسجد نہیں تھی، نماز کیلئے محلہ والوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے محمد اسماعیل باکر صاحب نے وہ تعلیم والی جگہ اور صحن وغیرہ سب کا سب مسجد بزم محمدی کے نام سے وقف کر دیا، اب تعلیم کے ساتھ امام، مؤذن، خادم، ٹرسٹ سب کا انتظام ہو گیا ہے، اور سارا نظام چلتا رہا، چند سال بعد جھوٹا اور صحن دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، اور اندر کا دروازہ نکال کر باہر ایک دروازہ بنا دیا، مسجد کے شمال میں اور مسجد کے مشرق میں ۹-۱۰ گھر فیملی والے پہلے سے رہتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ مسجد کی مشرقی دیوار کے بغل والی گلی سے ہے، ۹۸ء میں محمد اسماعیل باکر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی تعمیر سے قبل جو گلی تھی جس سے ۹-۱۰ گھر کے پریوار اور مرحوم کی فیملی کا راستہ تھا آنے جانے کا وہ اب چھوٹی ہو گئی جس کو دیکھ کر مسجد کے پڑوسی نے اعتراض کیا کہ تعمیر سے قبل مسجد کا گیٹ چھوٹا تھا، تعمیر کے وقت ۶ فٹ چوڑا کر دیا گیا جس کی وجہ سے مسجد کے پڑوسیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہونے لگی پھر اعتراض ہوا کہ گلی والوں سے ٹرسٹی حضرات کی کہاسنی ہوئی پھر گلی والے نظر انداز کر دیئے، عرصہ گزر گیا اب پھر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، پہلے نمازی کم تھے، زیادہ بھیڑ یا مجمع نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے پڑوس کا اور مرحوم کی فیملی کا چھوٹا چھوٹا پریوار تھا، اور اب گلی میں رہنے والوں کا اور مرحوم کا پریوار سب کے سب بڑی بڑی فیملی والے ہو گئے، جو بچے تھے آج ان کے بچوں کے بچے جوان ہو گئے جس سے ایک لمبا چوڑا پریوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نمازوں کے وقت مسجد میں نمازیوں کے جانے آنے سے گلی میں رہنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ تکلیف ہمیشہ پانچوں نماز کے وقت رمضان کے پورے مہینے جمعہ کے دن عید کی نماز کا جب انتظام ہوتا ہے تب دینی پروگرام کے وقت پڑوس کا گھر سے نکلتا مشکل ہو جاتا ہے، جمعہ کو باہر بھی نماز ہوتی ہے، اب مرحوم کی لیڈس

اور پڑوسیوں کی لیڈس جوان عورتیں ماں بہن جب ۱۲ بجے اسکول بچوں کو کھانا کھلانے جاتی ہیں، اور واپس آتی ہیں، تو گھر جانے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، نمازیوں سے اور نمازیوں کے چپل جوتی اتارنے کی وجہ سے بھیڑ رہتی ہے، ایسے وقت میں ۲ گھنٹہ یا تو اندر رہیں یا باہر گھر میں مجمع ختم ہونے کا انتظار کرتی رہیں، ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، مذکورہ ۲ آرمیوں نے ٹرسٹی حضرات سے کہا کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو جو گیٹ گلی کی طرف ہے، اس گیٹ کو گلی سے ہٹا کر دوسری جانب گیٹ بنا دو اس سے ہمیشہ کے لئے گلی والوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جبکہ دوسری جانب جگہ ہے، گنجائش ہے اس بات کو لے کر کافی شور شرابہ ہوا، ٹرسٹی حضرات نے اپنے رسوخ اور دبدبہ کی وجہ سے باندرو پولیس چوکی میں ہم لوگوں کے خلاف کمپلین کردی ہم لوگوں نے ٹرسٹی سے کہا بیٹھ کر بات سے مسئلہ حل کر لو مگر وہ میٹنگ یا مشورہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، انفرادی طور پر کچھ سے کچھ بول کر ہٹ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی کے لئے تیار ہیں، مگر ہماری ماں بہنوں کی تکلیف ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، اچھائی کے لئے تو الٹا الزام لگاتے ہیں، کہ مسجد کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں، مسجد کے گیٹ کی جگہ بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں، لہذا مجھے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب چاہئے ان تکالیف کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی جگہ بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف جدھر چوڑا راستہ ہے ادھر وضو خانہ کے لئے ۷۷ فٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ۴ فٹ کم کر کے ۶ فٹ چوڑا گیٹ بنایا جاسکتا ہے، چونکہ پہلے بیٹھی چال تھی، اب دو محلے کی مسجد تعمیر ہوئی ہے، اور ہر محلے پر وضو خانہ، غسل خانہ، طہارت خانہ، بنایا گیا ہے، آج کل آبادی کے حساب سے ہر وضو خانہ اور ہر مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اس لئے اگر یہ نیل نکال کر گیٹ نکال دیا جائے، تو ہم لوگوں کی ہمیشہ کے لئے تکالیف دور ہو جائیں گی، بس ٹرسٹی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وضو خانہ کے لئے جگہ کم ہو جائیگی اور یہ پرانا دروازہ ۳۵ رسال سے بنا ہوا ہے، لہذا دروازے کی جگہ چینیج نہیں ہوگی، اس لئے مجھے شریعت کی روشنی میں

مسئلہ کا حل نکالنا ہے، لڑائی یا جھگڑا نہیں چاہتے، نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور دروازہ کی جگہ بدل جائے؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتی: محمد ایوب، محمد سلیم بن محمد اسماعیل باکر مرحوم
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے، کہ مسجد بزم محمدی محمد اسماعیل باکر کی جائیداد میں بنی ہے، اور وہی اس مسجد کا واقف ہے، اور واقف کے خاندان اور پڑوس کے رہنے والوں کو اس طرف کے گیٹ کی وجہ سے بے پردگی اور سخت پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے، کہ دوسری جانب جہاں عام راستہ ہے، اس طرف گیٹ بنانے کی گنجائش ہے، اور اس طرف مسجد کا گیٹ بنانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا گیٹ دوسری طرف بنا دے، اور پڑوسی اور خاندان کے لوگوں کی بے پردگی سے مسجد اور نمازیوں کو بچائے، پرانے گیٹ کا علیٰ حالہ باقی رکھنا مسجد کے لئے لازم نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف بنا دینا بلاشبہ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ کراچی/ ۵۹۵) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۱/۲۰۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/۱۲/۱۴۴۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۹۸/۴۱)

حکومت کی ناجائز رکاوٹ مسجد شرعی ہونے میں مخل نہیں

سوال: [۷۹۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی شخص مسجد بنانا چاہتا ہے لیکن سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص خفیہ طور پر مسجد بناوے تو وہ شرعی مسجد بنے گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں شرعی طور پر کوئی

مانع نہیں ہے، یا اپنی مملوکہ زمیں میں مسجد بنائی جا رہی ہے، مگر حکومت نے خواہ مخواہ رکاوٹ ڈال رکھی ہے، تو ایسی صورت میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنانی ہے تو شرعاً وہ مسجد شرعی ہوگی، اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی؟

إن كانت البلدة فتحت صلحاً لا ينفذ أمر السلطان لأن في الأول
تصير ملكاً للغانمين فجاز أمر السلطان فيها وفي الثاني تبقى على ملك
ملاكها فلا ينفذ أمره فيها. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في احكام المساجد،
زكريا ۵/۱۷، كوئٹہ ۵/۲۴۹)

بنی فی فنائہ فی الرستاق دکانا لأجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل
وقت فله حكم المسجد. (البحر الرائق، مکتبہ زکریا ۵/۱۹، کراچی ۵/۲۵۰)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۳۵/۱۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۹۴/۴۰)

مسجد کے صحن میں پانی کا موٹر لگانا یا وضو خانہ بنانا

سوال: [۷۹۵۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ایک بڑی مسجد کے صحن میں ایک کمرہ بنا کر اس میں پانی کیلئے بجلی کا موٹر فٹ کیا گیا ہے،
جس کے متعلق مفتی صاحبان نے ناجائز لکھا ہے، اور اس کمرہ کو توڑ دینے کا حکم صادر فرمایا
ہے، اب اس کے بارے میں دو چیزیں قابل استفتاء ہیں، براہ کرم ان کا جواب ارسال
فرما کر اظہار حق فرمائیں؟

کہ جب اس موٹر اور کمرہ کا بنانا صحن مسجد میں ناجائز ہے، پھر اس بجلی کے موٹر سے جو
پانی پائپ میں ہو کر آ رہا ہے، اس کے پانی سے شرعاً وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبد السلام، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد تیار ہو چکنے کے بعد جماعت خانہ کے حصہ کو کمرہ یا حوض وغیرہ کے ذریعہ گھیر لینا ناجائز ہے، البتہ اگر وہاں کے پانی سے کسی نے وضو کر لیا ہے تو نفس وضو درست ہے اور اس سے نماز بھی صحیح ہے، لیکن مسجد کو حوض یا کمرہ بنانے سے ہر وقت روکا جائے گا، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، ناجائز اس لئے ہے کہ نماز کی جگہ کو نماز سے محروم کیا جا رہا ہے۔

أما لو تمت السمجدية ثم أراد البناء منع . (درمختار، کتاب الوقف، مطلب

فیما لو خرب المسجد کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/۱۲۶، ۲۹۶،

النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۳۰ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ذیقعدہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۴۲۴)

پہلی منزل میں غسل خانہ وغیرہ بنانا اور اوپر مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۵۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کالا ڈھونگی میں لوگ اس طرح مسجد بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں، کہ پہلی منزل میں چند کمرے غسل خانہ وغیرہ بنا دیں اور دوسری منزل پر مسجد تعمیر کر دی جائے اور اگر ضرورت پڑے تو نیچے کے کمروں میں بچوں کی تعلیم کا نظم کر دیا جائے، اور وہ مدرسہ کی ملکیت میں ہو جائے اور دوسری منزل مسجد کی ملکیت رہے کیا یہ عمل درست ہے؟

المستفتی: عبداللہ، ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کی بنیاد رکھنے سے قبل نیچے وضو خانہ وغسل خانہ کا پروگرام ہے نیز نیچے کتب بنانے کے بعد اوپر مسجد بنانے کا پروگرام ہے تو اس طرح کا

پروگرام جائز ہے۔

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها الخ. (تقريرات رافعي على الشامى، كتاب الوقف كراچى ۴/۸۰، زكريا ۶/۸۰)

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه أى المسجد جاز كمسجد القدس، (درمختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب فى احكام المسجد كراچى ۴/۳۵۷، زكريا ۶/۴۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲، الدر المنثور، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۴، هدايه اشرفى ديوبند ۲/۶۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالى اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹/ذی الحجۃ ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۰۸۹/۳۳)

مسجد کے جماعت خانہ میں وضو خانہ کی تعمیر

سوال: [۷۹۵۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے جس کی ایک جانب کی دیوار میں پہلے ایک وضو خانہ تھا، بعد میں مسجد کی توسیع ہوئی نئے وضو خانہ ہی کے برابر کی جگہ میں دوسری منزل پر امام صاحب کا کمرہ اور بیت الخلاء و غسل خانہ تعمیر کیا گیا، اور وضو خانہ کے نیچے بیت الخلاء کی نجاستوں کی ٹٹنی بنائی گئی؟ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب وضو خانہ کا وہ حصہ جو مسجد کی حد کے اندر چلا گیا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا توڑنا ضروری ہے، یا اور کوئی صورت اسکے باقی رکھنے کی ہو سکتی ہے، اسی طرح امام صاحب کا کمرہ اور بیت الخلاء اور بیت الخلاء کی ٹٹنی کا حکم بھی واضح فرمائیں؟

المستفتی: بلال احمد، مشرقی کرا، بمبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ اور نقشہ سے واضح ہوا کہ مسجد کے جماعت خانہ کے حصہ میں وضو خانہ بنایا گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو حصہ ایک دفعہ جماعت خانہ میں آجائے تو اس حصہ کا ہمیشہ قیامت تک کیلئے مسجد اور جماعت خانہ ہی رہنا لازم ہے، اسکو وضو خانہ میں لینا جائز نہیں ہے، لہذا وہاں سے وضو خانہ ختم کر کے جماعت خانہ میں شامل کر لینا لازم اور ضروری ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد الخ. (درمختار، کتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/۱۶۹۶، النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۳۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شعبان ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۱۹/۳۳)

جنازہ رکھنے کیلئے جانب قبلہ کی دیوار توڑ کر دروازہ لگانا

سوال: [۷۹۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں کی جامع مسجد کے قبلہ کی دیوار کے پیچھے مسجد کی جگہ ہے اسکے بعد سڑک ہے اگر قبلہ کی دیوار میں محراب کی جگہ پر جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اس جگہ کو توڑ کر جنگلا یا کھڑکی یا دروازہ لگوا دیا جائے تاکہ جنازہ کو مسجد سے باہر رکھ کر امام مسجد میں اپنے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرادے، اور جنازہ کی نماز بھی امام کے پیچھے مسجد میں ہی ادا کر لیا کریں، اس نیت سے مسجد کی قبلہ کی دیوار میں دروازہ وغیرہ لگانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتی: فضل الرحمن، بچھریوں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس طرح سے جنازہ کو وحدہ و مسجد سے باہر رکھ کر امام و مقتدی سب مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ اور ممنوع ہے، اس طرح نماز جنازہ اگر اداء کی جائے تو نماز جنازہ کی فرضیت ذمہ سے ساقط ہو جائیگی لیکن ثواب نہیں ملیگا، لہذا اس نیت سے دیوار قبلی میں دروازہ لگوانا ممنوع ہوگا! (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۰۵/۵، امداد الفتاویٰ/۱/۵۳۳)

و کرہت تحریمًا و قیل تنزیہًا فی مسجد جماعۃ ہو آی المیت فیہ وحدہ أو مع القوم و اختلف فی الخارجة عن المسجد وحدہ أو مع بعض القوم و المختار الکراهۃ مطلقاً و فی الشامیہ سواء کان المیت فیہ أو خارجه ہو ظاهر الروایۃ. (الدرالمختار مع الشامی، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی کراهۃ صلوٰۃ الجنائز، فی المسجد زکریا ۳/۱۲۶، کراچی ۲/۲۲۵)

و صلوٰۃ الجنائزۃ فی المسجد الذی تقام فیہ الجماعۃ مکروہۃ سواء کان المیت و القوم فی المسجد أو کان المیت خارج المسجد و القوم فی المسجد الخ. (عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی و العشرون فی الجنائز،

الفصل الخامس زکریا قدیم ۱/۱۶۵، جدید ۱/۲۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/صفر ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۶۹/۲۵)

بالائی منزل پر جانے کیلئے جماعت خانہ میں سیڑھی بنانا

سوال: [۷۹۵۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک شرعی مسجد ہے اس سال اس شرعی مسجد پر ایک نئی منزل تعمیر کرینا

ارادہ ہے، لیکن اس نئی منزل پر چڑھنے کیلئے سیڑھی کی ضرورت ہے وہ سیڑھی شرعی مسجد کے باہر بھی بن سکتی ہے، اور شرعی مسجد کے اندرونی حصہ میں بھی، شرعی مسجد کے حصہ میں بنا سکتی وجہ سے تقریباً سات آٹھ نمازیوں کی جگہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیگی ہم نے اپنے یہاں کے مقامی دارالافتاء دارالعلوم چھاپی اور دارالعلوم کاوسی سے معلوم کیا تو وہ شرعی مسجد کے حصہ میں سیڑھی بنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، وجہ اسکی یہ بتلا رہے ہیں، کہ سیڑھی والا حصہ ہمیشہ کے لئے مسجدیت سے منقطع ہو کر لغیر الصلوٰۃ کے لئے مجبوس ہو جائیگا، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتاویٰ محمودیہ میں وضو خانہ اور ٹنکی اور احسن الفتاویٰ میں کنواں بنانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وجہ اس کی یہی بیان کی گئی ہے، ما اعد للصلوٰۃ کو غیر صلوٰۃ کے لئے مجبوس کرنا لازم آتا ہے، اور جبکہ دوسرے چند مفتیان کرام سے معلوم کیا تو وہ بتا رہے ہیں، کہ شرعی مسجد کے باہر کے حصہ میں سیڑھی بنا سکتی جگہ ہونے کے باوجود شرعی مسجد میں سیڑھی بنانے کی اجازت ہے وجہ اس کی یہ بتلا رہے ہیں، کہ سیڑھی بھی ما اعد للصلوٰۃ میں داخل ہے اس لئے کہ سیڑھی دوسری منزل پر چڑھنے کے لئے ہے، واضح رہے کہ دوسری منزل پورے سال میں صرف دو تین مرتبہ استعمال ہوتی ہے۔

نوٹ: شرعی مسجد سے مراد حرم کا وہ حصہ ہے جو نماز کے لئے طے ہو چکا ہے، اور معتکف اس سے باہر نہیں جاسکتا ہے، اب آنجناب سے گزارش ہے کہ اس بارے میں قول فیصل کیا ہے، اس کی نشاندہی فرمائیں گے؟ والا جرعند اللہ الکریم، بینوا تو جروا۔

المستفتی: محمد فضل ادر پوری،

مدرس مدرسہ دارالعلوم چھاپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسجد دو منزلہ بنائی جائے، نیچے بھی

جماعت خانہ اور اوپر بھی جماعت خانہ ہی ہو، تو ایسی صورت میں حدود مسجد اور جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ اور سیڑھی بنانا بلاشبہ جائز

ہے، اس لئے کہ اوپر جانے کا جو زینہ ہے وہ ما اعداً للصلوٰۃ کا ذریعہ ہے، اور یہ زینہ ما اعد للصلوٰۃ سے خارج نہیں ہے، اگر اس زینہ کی وجہ سے سات آٹھ نمازیوں کی جگہ نیچے کی منزل میں گھر جاتی ہے، تو اس زینہ کے ذریعہ سے اوپر کی منزل میں تقریباً نیچے کی منزل کی تعداد کے برابر جگہ تیار ہو چکی ہے، چھ سات نمازیوں کی جگہ کی کمی پچاسوں نمازیوں کی جگہ کا ذریعہ بن رہی ہے، اس لئے نیچے کے جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے راستہ اور زینہ بنانا ما اعد للصلوٰۃ کے منافی نہیں ہے، نیز اس زینہ کے ذریعہ سے معتکف کیلئے نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل میں آنا جانا بھی بلا تردد جائز ہو جائے گا، جیسا کہ مسجد حرام میں بیچ مسجد کے اندر اندر اوپر کے جماعت خانہ کے لئے متعدد زینے بنائے گئے ہیں، ضرورت صلاۃ اور ضرورت طواف کیلئے کئی زینے اندر اندر بنے ہوئے ہیں، اور عدم جواز کیلئے فتاویٰ محمودیہ اور احسن الفتاویٰ کی وضو خانے اور ٹینکی کی مثال ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لئے کہ وضو خانہ، ما اعد للصلوٰۃ نہیں ہوتا ہے، اور اوپر کی منزل ما اعد للصلوٰۃ ہے اور یہ زینہ اس کا ذریعہ ہے اور باہر سے زینہ بنانے کی صورت میں معتکف شخص اس زینے سے اوپر نہیں جا سکتا ہے، اور اندرون مسجد جو زینہ بنایا گیا ہے وہ حدود مسجد سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ داخل مسجد شمار ہوتا ہے، نیز جگہ کے گھر جانے کا شبہ یوں بھی دور ہو سکتا ہے، کہ بڑے بڑے آثار کے ذریعہ سے بیچ مسجد میں بڑے بڑے ستون قائم ہوتے ہیں، پھر ان بیچ ستونوں کے درمیان میں صفوں کے برابر جگہ نہیں ہوتی ہے، مگر مسجد کی چھت کو قائم رکھنے کیلئے جماعت خانے کی جگہوں کو ستونوں کے ذریعہ سے مشغول کر دیا جاتا ہے، جس میں نمازی، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایسا کرنا بلاشبہ جائز ہے، ایسا ہی اگر اندرون مسجد سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ کے ذریعہ سے کچھ جگہ گھر جائے، یہ بھی بلاشبہ جائز ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہئے، اور حضرات فقہاء نے اسکی بھی اجازت دی ہے، کہ اگر جماعت خانہ مسقف نہیں ہے، تو نمازیوں کے سایہ کیلئے درخت لگانا بھی جائز ہے، جیسا کہ فقہاء

کی اس طرح کی عبارات سے ظاہر ہے جو نیچے درج ہیں، اور یہ کہنا کہ اوپر کی منزل سال میں دو تین مرتبہ استعمال ہوتی ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک مسجد میں صفوں کی بنائی جائے، اور سال بھر اس مسجد میں نمازیوں کے ساتھ صرف تین چار صرف مشغول رہتی ہیں، باقی دس، پندرہ صفیں خالی رہتی ہیں، رمضان میں یا سال میں کبھی کبھار ایک دو مرتبہ پوری مسجد کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اتنی بڑی مسجد بنانا بے ضرورت ہے، بلکہ آئندہ کی نسلوں اور بڑھتے ہوئے نمازیوں کے پیش نظر وسیع مسجد بنائی جاتی ہے، اور کبھی کبھار مجمع بڑھنے کے پیش نظر بھی بڑی مسجد یا دو منزلہ مسجد بنائی جاتی ہے، اور سال میں دو تین بار استعمال ہونا یا رمضان المبارک میں استعمال ہونا یہ بھی نمازیوں کی ضرورت ہے۔

فی الشامیة: قال فی الخلاصة: غرس الأشجار فی المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد، بأن كان المسجد ذا نزر والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز ۵، وفي الهندية: عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظله، ولا يضيق على الناس ولا يفرق الصفوف لا بأس به. (شامی، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة، مطلب فی الغرس فی المسجد، زکریا ۲/۴۳۵ کراچی ۱/۶۶۱)

نعم: یوجد فی أطراف صحن الجوامع رواقات مسقوفة للمشي فیها وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا المرور المارين مطلقاً. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی جعل شیئی من المسجد طریقاً، زکریا ۶/۵۷۵، کراچی ۴/۳۷۸)

وفي الهندية: إذا جعل فی المسجد ممراً فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار فی الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء. (هندیه، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، زکریا

قدیم ۲/۴۵۷، جدید ۲/۴۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۳۷۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۲/۱۵ھ

داخل مسجد بالائی منزل پر جانے کیلئے زینہ بنانا

سوال: [۷۹۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک اہم مسئلہ میں ہمیں خلیجان اور کچھ شبہات ہیں، اور ہم نے وہ شبہات و خلیجان پیش کرنے کیلئے غور و فکر کے بعد آپ کی ذات عالی کا انتخاب کیا ہے، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ آپ ہمارے شبہات و خلیجان کو باحوالہ دلائل فقہیہ کی روشنی میں ضرور دور فرمائیں گے، اور ہمیں استفادہ کا موقع میسر فرمائیں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ شبہ کرنے والے بھی مفتی ہیں، لہذا محقق و مدلل تحقیق مطلوب ہے، ہم اپنے شبہات و خلیجان کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن پہلے صورت مسئلہ لکھتے ہیں؟

ایک قدیم مسجد ایک منزل تھی، مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کی توسیع شروع کی اور مسجد کی توسیع کے لئے ایک منزل کے بجائے دو منزل بنایا اور پرکی منزل میں برائے نماز جانے کیلئے مسجد قدیم کے صحن میں جو مسجد کی شرعی حد میں داخل ہے، سیڑھی بنانا شروع کی (حالانکہ مسجد کی شرعی حد کے علاوہ سیڑھی بنانے کیلئے دوسری جگہ موجود تھی) اور نصف سے زیادہ سیڑھی تعمیر ہو چکی ہے، اب زید اور خالد میں دلائل فقہیہ کی روشنی میں اختلاف ہوا، جسکی تفصیل یہ ہے۔

زید:- کہتا ہے، کہ اس جگہ سیڑھی بنانا جائز نہیں ہے، اور اس کو توڑنا واجب ہے، اور زید اسکے دلائل یہ بیان کرتا ہے، کہ:

(۱) لو بنی فوقہ بیتا للإمام لایضر لأنه من المصالح أمالو تمت

المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فیما لو حارب

المسجد، کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸)

(۲) جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے، اسکو لغیر الصلوٰۃ محبوس و مشغول کرنا جائز نہیں ہے، اور سیڑھی بنانا ما اعد للصلوٰۃ کو لغیر الصلوٰۃ مشغول کرنا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔
(۳) سیڑھی مصالح مسجد میں سے ہے، اور تمامیت مسجد کے بعد، مسجد کی شرعی حد میں مصالح مسجد کیلئے کوئی تعمیر کرنا جائز نہیں۔

(۴) سیڑھی اگرچہ دوسری منزل پر برائے نماز جانے کے لئے ہے، لیکن یہ ضرورت خارج مسجد سیڑھی بنانے سے پوری ہو سکتی ہے۔

(۵) ما اعد للصلوٰۃ کو صرف سخت ضرورت کی وجہ سے مشغول کرنا جائز ہے اور سخت ضرورت کا معیار یہ ہے کہ وہ ضرورت یا مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا (یہ ہند یہ کی عبارت کی طرف اشارہ ہے، جو خالد کے دلائل کے تحت آرہی ہے)۔

(۶) اگر بالفرض مسجد کی شرعی حد میں سیڑھی نہ بنانا اولیٰ ہے جیسا کہ خالد کا کہنا ہے تو بھی لوگوں کو اولیٰ پر ہی عمل کروانا چاہئے، اور سیڑھی توڑو ادینی چاہئے۔

(۷) اس مسئلہ میں دوسری منزل میں نماز کی ضرورت سال میں بہت کم پڑتی ہے، لہذا سیڑھی للصلوٰۃ نہیں ہے۔

خالد:- خالد کہتا ہے کہ مسجد کی شرعی حد میں برائے نماز دوسری منزل میں جانے کیلئے سیڑھی بنانا جائز ہے، لیکن اگر مسجد کی شرعی حد کے علاوہ دوسری جگہ موجود ہو تو مسجد کی شرعی حد میں سیڑھی نہ بنانا اولیٰ ہے، ناجائز نہیں ہے، اور اگر سیڑھی تعمیر کر دی ہو تو اس کو توڑنا نہیں چاہئے، اور خالد اپنے دلائل یہ بیان کرتا ہے کہ:

(۱) أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامی، کتاب

الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸)

اس عبارت میں تمامیت مسجد کے بعد مصالح مسجد (لغیر الصلوٰۃ) تعمیر کی ممانعت ہے، جیسا کہ عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے، مطلقاً اور لغیر الصلوٰۃ تعمیر کی ممانعت نہیں ہے،

لہذا مذکورہ عبارت سے اس سیڑھی کے عدم جواز پر استدلال درست نہیں ہے، اور اگر بالفرض اس عبارت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے تو تمامیت مسجد کے بعد مطلقاً للصلوٰۃ اور بغیر الصلوٰۃ تعمیر ممنوع ہوگی، جس کا کوئی قائل نہیں اور نہ یہ بات فقہی اعتبار سے درست ہے، کیونکہ فتاویٰ ہندیہ میں صریح جزئیہ موجود ہے۔

أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطاً ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنههم واحد لا بأس به الخ. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس زکریا قدیم ۳۲۰/۵، جدید ۳۷۰/۵)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد کے بیچ میں دیوار بنا کر دو مسجدیں بنانا جائز ہے، ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں تمامیت مسجد کے بعد تعمیر کرنا اور ماعد للصلوٰۃ کو مشغول کرنا لازم آ رہا ہے، پھر بھی اس کو جائز کہا گیا ہے، کیونکہ بیچ میں دیوار بنا کر دو مسجدیں بنانا بھی نماز کیلئے ہے، اسلئے یہ للصلوٰۃ کو مشغول کرنا ہے۔

(۲) ماعد للصلوٰۃ کو بغیر الصلوٰۃ مشغول کرنا ناجائز ہے، لیکن للصلوٰۃ مشغول کرنا بلاشبہ جائز ہے، اور سیڑھی بنانا ماعد للصلوٰۃ کو للصلوٰۃ ہی مشغول کرنا ہے، لہذا سیڑھی بنانا جائز ہے۔

(۳) سیڑھی دو منزلہ مسجد کے لئے جزء مسجد ہے، کیونکہ بغیر سیڑھی کے دوسری منزل میں برائے نماز جانا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس کو مصالح المسجد میں سے کہنا درست نہیں ہے۔

(۴) سیڑھی للصلوٰۃ ہے لہذا مسجد کی شرعی حد میں بنانا جائز ہے، اور مسجد کی شرعی حد کے علاوہ دوسری جگہ کا موجود ہونا مانع جواز نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ خارج مسجد سیڑھی بنانے کا وجوب اور مسجد کی شرعی حد میں سیڑھی بنانے کی ممانعت کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

(۵) یہ کہنا کہ ”ماعد للصلوٰۃ“ میں کوئی تعمیر بنانا صرف سخت ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اور سخت ضرورت کا معیار یہ ہے کہ وہ ضرورت ماعد للصلوٰۃ ہی میں پوری ہو سکتی ہو، درست نہیں ہے کیونکہ ہندیہ میں مطلقاً ایک مسجد کی دو مسجدیں کرنے کے لئے بیچ میں دیوار بنانے کی اجازت دی ہے، یہ قید نہیں لگائی ہے کہ ایک مسجد کی دو مسجدیں بنانے کی کوئی

ضرورت واقعہ موجود ہو، تو بیچ میں دیوار بنانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔

(۶) اس جگہ سیڑھی نہ بنانا اولیٰ تھا لیکن جب سیڑھی نصف یا زیادہ تعمیر ہو چکی ہے تو اب صرف اولیٰ پر عمل کرنے کیلئے اس کو توڑنا بھی جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بلا ضرورت مسجد کی تعمیر میں توڑ پھوڑ کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے، نیز مال وقف کی اصاعت بھی لازم آتی ہے، جو کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۷) سیڑھی دوسری منزل میں برائے نماز جانے کے لئے ہے، اس لئے وہ للصلوٰۃ ہی ہے، چاہے دوسری منزل میں نماز کی ضرورت سال میں کم پڑتی ہو یا زیادہ اس سے سیڑھی بنانے کے جواز وعدم جواز پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ماعد للصلوٰۃ کے مشغول کرنے کے جواز وعدم جواز کا مدار للصلوٰۃ ہونے نہ ہونے پر ہے، سخت ضرورت، معمولی ضرورت، قلت ضرورت اور کثرت ضرورت پر ہے ہی نہیں۔

نوٹ: ہم نے زید کے دلائل کے بالمقابل بالترتیب خالد کے دلائل ذکر کئے ہیں۔
تو اب سوال یہ ہے کہ زید اور خالد کی کتنی باتیں دلائل فقہیہ کی روشنی میں درست اور کتنی غلط ہیں، اس سیڑھی کے بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور مصالح مساجد میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، آنحضرت سے باحوالہ و مدلل جواب مطلوب ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی تحقیقات عالیہ سے مستفید فرمائیں گے؟ جتنا جلد جواب موصول ہوگا اتنی ہمیں راحت ہوگی؟

المستفتی: عبداللہ واصدقاءہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کو بغور پڑھا گیا ہے، حدود مسجد اور جماعت خانہ میں، اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ سے متعلق زید کی طرف سے عدم جواز کے دلائل کو بھی دیکھ لیا ہے، اور خالد کی طرف سے جواز کے دلائل بھی دیکھ لئے گئے ہیں، دونوں طرف سے دلائل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خالد کے

دلائل جو جواز سے متعلق ہیں، ان سے ہم کو پوری طرح اتفاق ہے، اور وہی دلائل مذکورہ مسئلہ سے متعلق زیادہ صحیح اور درست ہیں، کہ جماعت خانہ کے اندر سے اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے زینہ بنانا بلا تردد جائز ہے، چاہے جماعت خانہ سے باہر خارج مسجد میں زینہ بنانے کی گنجائش کیوں نہ ہو، اس لئے کہ داخل مسجد میں اوپر کے جماعت خانہ میں جانے کیلئے جو زینہ بنایا جاتا ہے، وہ اسی طرح جزء مسجد ہے، جیسا کہ مسجد کے ستون اور مسجد کی دیوار جزء مسجد ہوتی ہے، نیز داخل مسجد کے زینے سے معتکف کے واسطے اوپر نیچے آنا جانا بلا تردد جائز ہوگا، اور خارج مسجد کے زینہ سے جانا ممنوع ہوگا، نیز مسجد حرام میں اسی وجہ سے اندرون مسجد اوپر جانے کیلئے بہت سے زینے بنائے گئے ہیں، حالانکہ اوپر کی منزلیں مسلسل پورے سال استعمال نہیں ہوتی ہیں، صرف رمضان یا موسم حج میں استعمال ہوتی ہیں، اس لئے ہمیشہ اور مسلسل استعمال نہ ہونا عدم جواز کی دلیل نہیں، اور یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے، کہ زینے کی وجہ سے پانچ سات نمازیوں کی جگہ گھر جاتی ہے، کیونکہ پانچ سات نمازیوں کی جگہ گھرنا جزء مسجد میں سے اوپر کے جماعت خانہ میں پچاسوں نمازیوں کے نماز کیلئے جانے کا ذریعہ ہے، اور خالد نے ہندیہ کے جزئیہ سے دیوار بنانے کے جواز کی جو دلیل پیش کی ہے، وہ عدم جواز کے تمام شبہات کو دور کر دیتی ہے، اور مصالح مسجد سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، ان کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ اصل مسئلہ جماعت خانہ سے زینہ بنانے کے جواز اور عدم جواز سے متعلق ہے، اس لئے اسی کی حدود میں رہ کر مسئلہ کو سمجھنا چاہئے، اور مصالح مسجد میں وضو خانہ، سرداب اور آمدنی کی دکانیں ہوتی ہیں، جو جماعت خانے سے خارج ہوا کرتی ہیں، ان سے متعلق یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جواز کیلئے خالد نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہی کافی ہیں الگ سے مزید دلائل کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ صفر ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۲/۲۵

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۸۴/۳۸)

دوکان یا مکان کی چھت پر مسجد بنانا

سوال: [۹۶۰-]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی توسیع کے سلسلہ میں دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ حسین بخش دہلی سے فتویٰ حاصل کیا گیا، مسجد بہت تنگ تھی، چھوٹی تھی اور مسجد نیچے سے ٹھوس یعنی سڑک سے ایک منزل اوپر بنی ہوئی تھی، جس پر نماز ہوتی تھی، مسجد کے آگے یعنی ٹھوس جگہ کے سامنے دوکانیں ہیں، جن کی چھت مسجد کے اس حصہ کے مقابل ہیں، جس پر نماز ہوتی ہے، اب مسجد کی توسیع کے لئے دوکانوں کے اوپر کے حصہ یعنی چھت کو خرید لیا گیا ہے، جس کے لئے مدرسہ حسین بخش دہلی اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ حاصل کیا گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے عدم جواز کا حکم آیا ہے، مدرسہ حسین بخش کے فتویٰ کی روشنی میں توسیع و تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تاخیر سے پہنچا دونوں فتوے آپ کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں، تحقیق کیلئے کہ کون سا فتویٰ صحیح ہے، اور اب مدرسہ حسین بخش دہلی کے فتویٰ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: گلزار مرزا، دہلی، مدرسہ تعلیم القرآن دہلی

جواب منجانب دارالافتاء مدرسہ حسین بخش دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نمازیوں کی کثرت ہو، مسجد تنگ ہو تو توسیع کی شدید ضرورت ہو، تو سوال میں مذکور مملوکہ دوکانوں کے اوپر کے حصہ کو خرید کر مسجد میں شامل کیا جاسکتا ہے، اس پر نماز درست ہوگی، اور وہ مسجد شرعی کہلائیگی بشرطیکہ آگے چل کر مالکین دکان کی طرف سے مسجد کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو۔

وفی جامع الفتاویٰ إذا کان السفل مملوکاً و فوقہ مسجداً جاز۔

وعن ابی یوسفؒ أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجداً والأعلى ملكاً..... وعن محمدؒ أنه حين دخل الرى ورأى ضيق الامكنة جوز ذلك الخ. (فتاویٰ

تاتارخانیة زکریا ۸/۱۶۱، رقم: ۱۱۵۰۸)

وعن محمدؒ انه حين دخل الرى أجاز ذلك كله لما قلنا (من

الضرورة). (هدایہ ، کتاب الوقف ، اشرفی دیوبند ۲/۶۴۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

حررہ زبیر احمد غفرلہ	الجواب صحیح:	الجواب صحیح:
مدرسہ حسین بخش دہلی	نصیر الدین غفرلہ	احقر محمد اویس غفرلہ
یکم محرم ۱۴۳۳ھ	یکم ۱۴۳۳ھ	۱۴۳۳ھ

جواب منجانب: دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئلہ میں مسجد کے آگے دوکانوں کے صرف اوپری حصہ کو مسجد میں شامل کرنے اور نیچے کے حصے میں دوکانیں انکے مالکان کی ملکیت میں باقی رہنے کی صورت میں وہ اوپری حصہ شرعی مسجد کا حصہ نہیں کہلائیگا، مسجد شرعی نیچے تخت الثریٰ سے اوپر عنان سماء تک مسجد کے حکم میں ہوتی ہے، نیچے کا حصہ بھی حق عبد سے منقطع ہو کر مسجد کے لئے وقف ہونا چاہئے ورنہ وہ حصہ مسجد کی حد میں داخل نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

وقار علی غفرلہ	الجواب صحیح:	الجواب صحیح:
دارالعلوم دیوبند	فخر الاسلام غفرلہ	حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ
۳ محرم ۱۴۳۳ھ	۳ محرم ۱۴۳۳ھ	۳ محرم ۱۴۳۳ھ

جواب منجانب: دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، مراد آباد

الجواب وبالله التوفيق: مسئلہ مذکورہ سے متعلق فقہاء احناف کے مختلف اقوال ہیں، کچھ اقوال ضعیفہ ہیں، اور کچھ اقوال ظاہر الروایۃ میں سے ہیں، جو راجح اور مفتی

بہ ہیں، اور رائج اور مفتی بہ قول یہی ہے کہ اگر دوکان یا مکان کی چھت کے اوپر مسجد بنائی جائے تو وہ شرعی مسجد اس وقت ہو سکتی ہے، جب نیچے دوکان اور مکان وغیرہ مسجد کے مصالحوں اور آمدنی کیلئے مسجد ہی کی ملکیت میں مسجد کیلئے وقف ہوں اور مسجد جب چاہے اس کو توڑ کر مسجد کے اندر داخل کر سکے یا مسجد کے دیگر مصالح و ضو خانہ وغیرہ بنایا جاسکے یا امام صاحب یا مؤذن کا کمرہ بنایا جاسکے یا مسجد کا سامان وغیرہ رکھنے کیلئے استعمال ہو سکے، اور جب نیچے کا حصہ مسجد کی ملکیت نہ ہو اور مسجد پر وقف نہ ہو بلکہ کسی دوسرے انسان کی ملکیت ہو تو اوپر کا حصہ مسجد شرعی نہیں بنے گا، اس میں نماز پڑھنے سے شرعی مسجد کا ثواب نہیں ملیگا۔ یہی حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ ۶۸۴/۲ میں وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، اسی طرح فتاویٰ محمودیہ ڈبھیل ۱۴/۱۴۲ میں موجود ہے، لہذا مدرسہ حسین بخش کے جواب میں جو فقہاء کی عبارتیں لکھی گئی ہیں، وہ ہدایہ وغیرہ کے اقوال ضعیفہ ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کا جواب فی الجملہ صحیح ہے، اب ہم اس سلسلہ میں ظاہر الروایۃ کے مطابق اور مفتی بہ اقوال سے متعلق ذیل میں چند عبارتیں پیش کرتے ہیں۔

ومن جعل مسجداً تحتہ سرداب أو فوقہ بیت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله بمن ملکہ فله أن یبیعہ وإن مات یورث عنہ ؛ لأنه لم یخلص لله تعالیٰ لبقاء حق العبد متعلقاً بہ ولو کان السرداب لمصالح المسجد جاز کما فی مسجد بیت المقدس وتحتہ فی الکفاية قوله: ” فله ان یبیعہ“ ائی لایکون مسجداً وهو ظاهر الروایۃ لأن المسجد ما یكون خالصاً لله تعالیٰ : قال الله تعالیٰ : وأن المساجد لله أضاف المساجد إلى ذاته مع أن جمیع الأماکن له فاقضی ذلك خلوص المساجد لله تعالیٰ ومع بقاء حق العباد فی أسفله أو فی أعلاه لا یتحقق الخلو ص . (هدایہ مع الکفاية ، کتاب الوقف ، فصل وإذا بنی مسجداً لم یزل ملکہ ،

دارالفکر بیروت ۶/۲۳۴، زکریا ۶/۲۱۷، کوئٹہ ۵/۴۴۴)

لانه لم یخلص لله ؛ لبقاء حق العبد فيه والمسجد لا يكون إلا خالصاً لله لماتلونا ، ومع بقاء حق العبد في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه محيطاً به لا يتحقق الخلو ص كله (إلى قوله) بخلاف مسجد بيت المقدس فإن السرداب فيه ليس بمملوك لأحد بل هو لمصالح المسجد. (تبيين الحقائق، ملتان پاکستان ۳/۳۳۰، زکریا ۴/۲۷۱)

لوجعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد قيل : لا يستحب ذلك ، ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً ، وماتحته صار وقفاً عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته . (حاشیہ چلبی علی التبین ، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰، زکریا ۴/۲۷۱)

وحاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: " وأن المساجد لله " بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز ، إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تنمिम مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهنا روايات ضعيفة مذكورة في الهداية، وبما ذكرنا علم أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجداً لأنه من المصالح . (البحر الرائق، كوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱)

هكذا في الشامية: (كراچی ۴/۳۵۷، زکریا ۶/۵۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری

۸/ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۳/۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۶۳۸/۳۹)

مسجد کی موقوفہ زمین میں نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانا

سوال: [۷۹۶۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تعمیر مسجد کا پروگرام ہے اور نیچے دوکانیں بنانے کا ارادہ ہے اور اوپر مسجد بنادیں کیا ایسا کر سکتے ہیں، کہ نیچے دوکانیں اور اوپر مسجد جبکہ واقفین زمین نے فقط مسجد کیلئے زمین دی ہے؟

المستفتی: مولانا عجاز احمد، مدرس دارالعلوم چلہ امروہہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر دوہی آدمیوں نے مسجد کے لئے پیسے دئے ہیں، تو وہ لوگ نیچے دوکان بنانے کی اجازت دیں گے، تب اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور اگر زمین دینے والے دوسرے لوگ ہیں، تو ان کی مرضی کے بغیر نیچے دوکانیں بنانے کی اجازت نہ ہوگی، اور اگر وہ اجازت دیدیں تو اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ واقفین کی غرض کی رعایت لازم ہوتی ہے۔

ان مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب مراعاة

غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵ھ/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۷۹۳۱)

دو منزلہ مسجد بنا کر نیچے دوکان بنانا

سوال: [۷۹۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو منزلہ ایک جدید مسجد تعمیر کی گئی ہے، مسجد تیار ہونے کے بعد یہ بات طے ہوئی ہے کہ اوپر کی منزل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اور نیچے کی منزل دوکان کیلئے کرایہ پر دیدی جائیگی، تاکہ اس سے جو کرایہ حاصل ہوگا، اس سے امام و مؤذن کی تنخواہ دی جائے گی، تو بتلائیں کہ مسجد

کے نیچے والی منزل کو دوکان کیلئے کرایہ پر دینا اور اس میں دوکان کرنا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: سعید الاسلام، مدنا پوری، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب نماز پڑھنے کی نیت سے دو منزلہ مسجد تیار کی گئی ہے، تو پوری مسجد مسجد شرعی بن گئی اب مسجد بننے کے بعد نیچے کی منزل کو امام و مؤذن کی تنخواہ وغیرہ کیلئے کرایہ پر دینا اور اس میں دوکان کرنا جائز نہیں۔ (عزیز الفتاویٰ/ ۵۹۷)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع . (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار، کتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد زكريا ۶/ ۵۴۸، کراچی ۵۱۲/۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/ ۲۹۶)

قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فئائه لأن المسجد إذا جعل حانوتا أو مسكنا تسقط حرمة وهذا لا يجوز . (فتاویٰ عالمگیری، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/ ۶۲۲، جدید ۲/ ۴۱۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/ ۲۴۹، زکریا ۵/ ۴۱۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/ ۲۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۷/۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲/ رجب ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۱/۳۶)

حد و مسجد سے باہر مسجد کا سامان رکھنے کیلئے حجرہ بنانا

سوال: [۷۹۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں صحن کے آخر میں وضو خانہ ہے، وضو خانہ کے اوپر دو چھتی ہے، جس پر ایک صف نمازیوں کی بن جاتی ہے جب نمازی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، اس دو چھتی کے اوپر منزل میں حجرہ ہے، واضح رہے کہ یہ مسجد پوری طرح تین منزل ہے دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ

جو دو چھتی ہے اس میں صف کی جگہ پر ایک ایسا اسٹور بنایا جاسکتا ہے، جس میں مسجد اور جماعت کے متعلق سامان رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مسجد کا سامان جیسے صفیں لوٹے وغیرہ جماعت کا سامان یعنی وہ جماعتیں جن کا مسجد میں قیام ہوتا ہے، وقتی طور پر ان کا سامان بطور حفاظت اسٹور میں رکھ دیا جائے؟ بیان فرمائیں

المستفتی: سرفراز احمد، محلہ بارہ درہ، سرائے ترین، ضلع: سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: وضو خانہ اور اس کے اوپر جو حجرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب حدود مسجد سے خارج شمار ہوتے ہیں اور حدود مسجد سے خارجی حصہ میں مسجد کی ضروریات کیلئے حجرہ بنانا بلاشبہ جائز ہے اور مسجد میں نمازیوں کی کثرت کے وقت ان حجروں میں کھڑے ہو کر نماز میں شرکت کرنے والے کو جماعت کا ثواب تو ملیگا، البتہ حدود مسجد کا ثواب نہیں ملیگا، ان حجروں میں مسجد کی صفیں، لوٹے ضروری سامان وغیرہ رکھنا بھی جائز ہے، نیز تبلیغی جماعت کے لوگوں کا سامان رکھنا بھی بلاشبہ جائز ہے، اب ذمہ داران مسجد کو اختیار ہے، کہ اگر اس جگہ مسجد کا سامان رکھنے کیلئے الگ سے کوئی کمرہ مخصوص کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نیز اگر حدود مسجد کے اندر جماعت خانہ سے اوپر کی منزل میں یا نیچے تہہ خانہ میں مسجد کا سامان رکھنے کیلئے کوئی جگہ مخصوص کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔

یکرہ التوضؤ فی المسجد إلا إذا کان فیہ موضع أعد لذلك لأنه

مستثنیٰ منه حیثئذ . (حلبی کبیر، فصل فی أحكام المسجد اشرفیہ دیوبند/ ۶۱۱)

ولا بأس بأن يتخذ فی المسجد بیت یوضع فیہ الحصر ومتاع

المسجد به جرت العادة من غیر نکیر . (حلبی کبیر، اشرفی دیوبند/ ۶۱۲)

إذا جعل تحتہ سردا بالمصالحه أی المسجد جاز .

(درمختار، کتاب الوقف، مطلب فی أحكام المسجد کراچی ۴/ ۳۵۷،

زکریا ۶/۴۷ (۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ رجب ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۳۳/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵/۷/۱۴۳۱ھ

مسجد کا دروازہ توڑ کر مدرسہ کا چھجنا نکالنا

سوال: [۷۹۶۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے دروازہ کو توڑ کر مدرسہ کا چھجنا نکالنا کیسا ہے؟

المستفتی: شمس الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جائز نہیں ہے، بلکہ قیامت تک مسجد ہی کے حکم میں رہے گا!

لو خرب المسجد أو غيره كوئنه ۳/۴۰۶، كراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸، مجمع الأنهر،

إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب فيما

دار الكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۵، قديم ۱/۷۴۸، قاضى خان زکریا جديده ۳/۲۰۴، وعلى

هامش الهندية زکریا ۳/۲۸۸، هندية زکریا قديم ۲/۵۵۸، جديد ۲/۴۱۰، البحر الرئق،

كوئنه ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱، تاتار خانية زکریا ۸/۱۶۴، رقم: ۱۱۵۱۹، المبسوط

للسرخسى، دار الكتب العلمية بيروت ۱۲/۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/زیقہ ۲۰۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۲۳)

احاطہ مسجد میں تبلیغی جماعت کی کمیٹی کا اپنے مصارف سے مطبخ تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۶۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

باؤنڈری کے اندر اجتماعی تبلیغی جماعت کمیٹی اپنے مصارف سے جماعتوں کے کھانا بنانے اور ان کا سامان رکھنے کے لئے کمرہ تعمیر کرنا چاہتی ہے، کیا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتی: عبدالسلام، سکریٹری منظمہ کمیٹی جامع مسجد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کو اس جگہ کی ضرورت نہیں ہے، تو مسجد کی کمیٹی کی رضامندی سے مناسب قیمت ادا کر کے تبلیغی جماعت کمیٹی کے لئے مالکانہ طور پر اپنے مصارف سے مذکورہ مقاصد کے لئے تعمیر کرنا درست ہے ورنہ نہیں۔

اشتری المتولی بمال الوقف دارالوقف لا تلحق بالمنازل الموقوفة
ویجوز بیعها فی الأصح الخ. (الدر المختار، کتاب الوقف، مطلب اشتری بمال الوقف

دارالوقف لایجوز بیعها، زکریا ۶/۶۲۷، کراچی ۴/۱۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ صفر ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۶۷۲۵)

منبر سے متصل مغربی جانب مسجد کا بیت الخلاء وغیرہ بنانا

سوال: [۷۹۶۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی مغربی جانب مسجد کے منبر سے بالکل متصل مسجد کی زمین ہے، اس زمین میں بیت الخلاء اور غسل خانہ بنانے اور نل لگانے کو متعلقین مسجد ناجائز سمجھ رہے ہیں، اسلئے کہ وہ زمین مسجد کی مغربی دیوار کے بالکل متصل ہے، لہذا آپ حضور والا سے درخواست ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ وہاں نل، غسل خانہ اور بیت الخلاء بنانا جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتی: بصلیان مسجد مرکزی، معصوم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر نمازیوں کو کوئی خلل نہ ہو تو مسجد کی اس زمین میں جو منبر سے متصل مغربی جانب واقع ہے، نل لگانے غسل خانہ بنانے اور بیت الخلاء بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً درست ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۲)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أى المسجد جاز . (درمختار مع الشامی، کتاب الوقف، مطلب فی أحكام المسجد کراچی ۴/۳۵۷، زکریا ۶/۵۴۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲۰۲، الدر المنتقى، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۴، ہدایہ اشرفی دیوبند ۲/۶۴۴)

وفی تقریرات الرافی تحت قول لمصالحه : لیس بقید بل الحکم كذلك إذا كان یتنفع به عامة المسلمین علی ما أفاده فی غایة البیان: (الرافی فی آخر الشامی، زکریا ۶/۸۰، کراچی ۴/۸۰) فقط والله سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ رجب الثانی ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۶۱۰۳)

مسجد میں انگریزی بیت الخلاء بنانا

سوال: [۷۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، جس میں انتظامیہ نے انگریزی بیت الخلاء بنوادیا ہے، جس کے بارے میں کافی چیمگیوں ہوتی رہتی ہیں، کہ مساجد و مدارس یہ دین کے قلعے مانے جاتے ہیں، اس میں اس قسم کی چیزیں نہ ہونی چاہئے، جبکہ انتظامیہ جواب میں کہتے ہیں کہ معذورین کیلئے بنوایا گیا ہے، واضح ہو کہ بمبئی جیسے شہر میں بھی نہ کسی مدرسہ میں اس قسم کا بیت الخلاء ہے، نہ مسجد میں بعض لوگ اس کے جواز میں سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں، کہ وہاں اس قسم

کے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، بہر حال شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟
المستفتی: ابوالحسن، سینا مڑھی، مسجد صفہ منیٰ ممبئی، انڈیا
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مساجد و مدارس کے عمومی چندے سے انگریزی
 بیت الخلاء بنانا جائز نہیں ہے، البتہ اگر ضرورت ہو تو خاص اسی ضرورت کیلئے مستقل چندہ کر لیا
 جائے یا کسی صاحب خیر کے ذریعہ سے بنوایا جائے۔

إن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی مراعاة
 غرض الواقفين واجبة کراچی ۴/۴۴۵، ذکر یا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۱/۲/۱۷ھ
 ۱۴۲۱/۲/۱۷ھ (الف فتویٰ نمبر: ۶۴۹۸/۳۴)

اپنے اور مسجد کے پیسہ کو ملا کر تعمیر کرایا گیا کمرہ کس کی ملک ہے؟

سوال: [۷۹۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 جناب حاجی اسماعیل صاحب اپنی بہتی کی خستہ حالت کو مد نظر رکھ کر مسجد و مکتب کے
 اخراجات پورے کرنے کی غرض سے مختلف جگہ سے چندہ جمع کر کے تقریباً ۲۴ ہزار
 روپے لائے اس کے بعد انھوں نے مذکورہ رقم سے چند کمرے بنانے کی غرض سے ایک
 مربع جگہ خریدی لیکن خریدتے وقت انھوں نے حساب کر کے دیکھا کہ اتنی رقم میں یہ جگہ
 خریدنے کے بعد اتنے کمرے بننے والے ہیں، تو انھوں نے اس وقت اور ۲۴ ہزار
 روپے اپنے ذاتی اس جمع شدہ چندے میں شامل کئے، اب کل ۴۸ ہزار روپے ہوئے،
 مذکورہ جگہ کو خرید کر باقی ماندہ پیسے سے چھ کمرے بنائے تین اپنے اور تین مسجد کے یہ چھ
 کمرے بنانے کے بعد بھی بلڈنگ کے مغرب سمت تقریباً ۲۰-۲۲ فٹ جگہ خالی پڑی
 رہی، بلڈنگ مکمل تیار ہونے کے بعد چھ کمرے کو کرایہ پر دیدیا تین کمرے کا پیسہ حاجی محمد

عمر صاحب جماعت کے حوالے کرتے رہے اور تین کمروں کا پیسہ خود لیتے رہے، لیکن پوری جگہ مع کمرہ کے اپنے نام رجسٹرڈ کرائی اس پر جماعت المسلمین نے حاجی عمر سے کہا کہ مسجد یا جماعت المسلمین کے نام پر چندہ جمع کیا ہے، لہذا نصف جگہ مع کمرہ کے مسجد کے نام یا جماعت المسلمین کے نام رجسٹرڈ وقف کر دیجئے، جواب میں حاجی عمر صاحب نے کہا کہ تم لوگ خیانت کرو گے، جماعت نے کہا کہ آپ ٹرسٹ بنا کر رجسٹرڈ کر دیجئے تاکہ ہر سال سرکاری دفتر میں حساب ہوتا رہے، ساتھ ہی ساتھ خیانت کا بھی شک نہ ہو، پھر بھی حاجی عمر صاحب نے رجسٹرڈ وقف کرنے سے انکار کر دیا لیکن بدستور تین کمروں کا پیسہ جماعت کے حوالے کرتے رہے، اتفاقاً ایک دن جماعت اور حاجی عمر صاحب کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اس دوران بہت ساری باتیں بڑھ جاتی ہیں، بالآخر جماعت نے حاجی عمر صاحب سے کہہ دیا کہ جب تک آپ تین کمروں کو مع ان کی جگہ کے مسجد کے نام یا جماعت کے نام رجسٹرڈ وقف نہیں کریں گے، جب تک آپ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جماعت المسلمین نے جو پیسہ لینے سے انکار کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ حاجی عمر صاحب احسان جتلا یا کرتے تھے، اس سے قبل جماعت دس سال تک تین کمروں کا کرایہ لیتی رہی، اب اس جھگڑے کے بعد حاجی عمر صاحب جماعت سے فوراً نکل گئے، اس کے بعد وہ اپنے گھر میں مکتب کھول کر اس پیسے سے مکتب چلاتے رہے، پہلے گاؤں کے پندرہ بیس بچے آتے تھے، بعد میں جماعت نے پابندی لگا دی، اسلئے فی الوقت صرف گھر کے بچے پڑھتے ہیں، لہذا کیا شرعاً اس پیسے سے گھر میں مکتب چلانا اور اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دینا صحیح ہے برائے کرم مدلل تحریر فرمائیں؟

نوٹ: جس سے جگہ خریدی گئی ہے اس سے یہ کہا گیا کہ یہ مسجد کیلئے یعنی اللہ خریدی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بیچنے والے نے قیمت میں ترمیم کر دی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ سے واضح ہو رہا ہے کہ حاجی محمد عمر صاحب

مرحوم نے چھ کمروں میں سے تین اپنے لئے اور تین مسجد و مکتب کیلئے بنوائے تھے اس لئے تین کمرے حاجی عمر صاحب کی ملکیت میں داخل ہوں گے، اور باقی تین کمرے مکتب و مسجد کی ملکیت میں داخل ہوں گے، لہذا حاجی محمد عمر صاحب یا ان کے ورثہ پر لازم ہوگا کہ چھ کمروں میں سے تین کمروں کو مسجد و مکتب کے نام رجسٹری کر کے مسجد و مکتب کے ذمہ داروں کے حوالہ کر دیں، ان تینوں کمروں کی آمدنی سے خاص کر گھر کے بچوں کو تعلیم دلانا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس آمدنی سے عام لوگوں کے بچوں کیلئے مکتب چلانا لازم ہوگا۔

بنی المتولی من مال الوقف فی عرصۃ الوقف أو من مال نفسه للوقف أو لم يذكر شیئاً كان وفقاً بخلاف الأجنبي، وإن أشهد أنه بناه لنفسه كان ملکاً له الخ. (فتاویٰ بزازیہ، کتاب الوقف، الرابع فی المسجد وما یصل به جدید زکریا ۳/۱۴۴، وعلی ہامش الہندیۃ زکریا ۶/۲۷۰)

وإن بناه من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی حکم بناء المتولی وغیره فی ارض الوقف زکریا ۶/۲۷۹، کراچی ۴/۴۵۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/رجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۱۶/۲۳)

رام لکھی ہوئی اینٹوں سے مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکر نے بھٹے سے اینٹیں خریدی مسجد کے واسطے اینٹیں گھر آنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اس پر لفظ رام لکھا ہوا تھا، جبکہ رام کو وہ اپنا امام اور خدا مانتے ہیں تو کیا اس طرح کی اینٹ کو مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبدالملک، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو اینٹیں مسجد کی تعمیر کیلئے لائی گئی ہیں، جس میں رام لکھا ہوا ہے، اس سے تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے جس میں صرف خدا کی عظمت مقصود ہوتی ہے، اور رام غیر مسلموں اور اہل باطل کی عبادت میں عظمت کی چیز ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

وإن وجلوا فی الغنیمۃ قلائد ذہب أو فضة فیہا الصلیب و التماثل فإنه یستحب کسرہا الخ. (تاتارخانیۃ ۱۲۱/۷، رقم: ۱۰۱۰۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ صفر ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۰۷/۳۴)

۹ الفصل التاسع: مسجد کی رقم ضروریات مسجد میں صرف کرنے کا بیان

مسجد کی رقم سے ضروریات مسجد کیلئے کمرہ بنانا

سوال: [۷۹۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد کے پاس اچھی خاصی رقم ہے اور مسجد کے پاس جگہ بھی ہے، مسجد کے متولی اور کمیٹی مسجد کے پیسے سے مسجد کے بالکل برابر میں ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں تبلیغی جماعت اپنا سامان اور کھانا وغیرہ پکا اور کھالیا کریں، کیا شرعاً متولی یا اراکین کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے، کہ وہ اس مسجد کے پیسے سے مذکورہ کمرہ بنوادیں جو مسجد ہی کا ہوگا، زید کا کہنا ہے کہ چندہ دہندگان کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہیں، مگر چندہ دہندگان متعین نہیں ہیں، باہر کے لوگ بھی آ کر نماز پڑھ جاتے ہیں، اور مسجد کی گولک میں پیسے ڈال جاتے ہیں، ان سے کیسے اجازت لی جائیگی، شرعاً فقہاء کا جو فیصلہ ہو وضاحت سے تحریر فرمادیں؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی زمین میں مسجد کے پیسے سے بوقت ضرورت کام آنے والا کمرہ بنانا جائز اور درست ہے، اس میں مسجد کی ضروریات کا سامان بھی رکھا جاسکتا ہے، اور بوقت ضرورت امام و مؤذن کی رہائش اور مہمان بھی رہ سکتے ہیں، اسی طرح تبلیغی جماعت والے بھی اپنی ضروریات اس کمرہ سے پوری کر سکتے ہیں۔

يبدأ من غلته بعمارته ثم ماهو أقرب لعمارته إلى الآخر

المصالح . (شامی، الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها

زکریا ۶/۵۵۹، ۵۶۰، کراچی ۴/۳۶۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۶/۲۹۲،

ہندیہ زکریا قدیم ۲/۳۶۸، جدید ۲/۳۵۶)

والذی یتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد. (البحر الرائق،، كوئٹہ ۲۱۳/۵، زکریا ۳۵۶/۵)

لو بنی فوقہ بیتا للإمام لا یضر لأنه من المصالح. (البحر، کوئٹہ ۲۱۵/۵، زکریا ۳۵۸/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۲۲/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۲/۱۸ھ

مدرسہ کی آمدنی کو مسجد کی ضرورتوں میں صرف کرنا

سوال: [۷۹۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد سے ایک مدرسہ کا الحاق ہے، مدرسہ میں کچھ دوکانیں ہیں، کیا مدرسہ کی آمدنی کو مسجد کی ضرورتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے، مذکورہ دونوں سوالوں کے جواب واضح فرمائیں؟
المستفتی: ابوالکلام، گردھی،
پیر خاں، ٹھا کر گنج، لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس مسجد سے مدرسہ ملحق ہے، نیز چندہ مشترکہ طور پر ہوتا ہے اور دونوں کے ذمہ دار ایک ہیں، اور دونوں ایک نظام کے تحت ہیں، اور چندہ دینے والے جانتے ہیں کہ ہمارا چندہ ان سب کاموں میں مشترکہ طور پر خرچ کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں مدرسہ کی آمدنی سے مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے، اور اگر دونوں کا نظام الگ الگ ہے اور دونوں کی آمدنی اور چندہ بھی الگ الگ ہے، تو ایک کی آمدنی دوسرے پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۲۲۴/۹، جدید زکریا دیوبند ۸۸/۹)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدین أو رجل مسجداً
ومدرسة، ووقف عليهما أوقافاً لا يجوز له ذلك، تحته فى الشامية: قال
الخیر الرملى أقول ومن اختلف الجهة ما إذا كان الوقف منزلین أحدهما
للسكنی والآخر للاستغلال فلا یصرف أحدهما للآخر وهی واقعة الفتوى .
(الدرع مع الرد، الوقف، مطلب فى نقل أنقاض المسجد ونحوه، کراچی ۴/ ۳۶۰، ۳۶۱،
زکریا ۶/ ۵۵۱، ۵۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۲/۱۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ صفر ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۳۲/۳۳)

مسجد کے کام کے لئے مسجد کی رقم سے کرایہ دینا

سوال: [۷۹۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
کے کام کیلئے مسجد کی رقم سے کرایہ یا اجرت دینا کیسا ہے؟
المستفتی: عبدالرحیم، بڈیڈوی غنی عنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے کام کیلئے مسجد کے روپیہ سے کرایہ اور
اجرت دینا درست ہے۔

وللمتولی أن یستأجر من یخدم المسجد، یکنسہ ونحو ذلك بأجر
مثله. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما یتعلق بہ، زکریا قدیم ۲/ ۶۱۱، جدید
۲/ ۴۱۲، الفتاویٰ التاتار خانیہ، زکریا ۸/ ۱۷۵، رقم: ۱۱۵۵۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۳/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۵۵/۳۵)

مسجد کے روپیہ سے ٹنکی وغیرہ خریدنا؟

سوال: [۷۹۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے روپے سے نمازیوں کیلئے پانی پینے کیلئے مہیا کرنا جیسے کہ (۱) ٹنکی کا خریدنا۔ (۲) برف کا خریدنا۔ (۳) جگ گلاس وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سہراب، ٹال والی
مسجد، نئی سڑک، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے روپے سے مذکورہ چیزوں کا خریدنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر مذکورہ چیزوں کے بغیر مصلیوں کی جماعت بالکل کم ہو جانے کا خطرہ ہو تو بدرجہ مجبوری گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۷۷)

والذي يتبدأ به من ارتفاع الوقف، أي من غلته عمارته شرط
الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة..... ثم السراج
والبساط كذلك إلى آخر المصالح. (الدر مع الرد، الوقف، مطلب يبداً بعد
العمارة بما هو أقرب إليها زكريا ۶/۵۶۰، كراچی ۴/۳۶۷، الموسوعة الفقهية الكويتية
۳۶/۲۹۲، هندیہ زكريا قديم ۲/۳۶۸، جديد ۲/۳۵۶، البحر الرائق، كوئٹہ ۵/۲۱۳،
زكريا ۵/۳۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رمضان ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۸۴/۲۵)

مسجد کی رقم سے اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر خریدنا

سوال: [۷۹۷۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد

کے پیسے سے مسجد میں اذان دینے کیلئے لاؤڈ اسپیکر خریدنا چاہتے ہیں، کیا خرید سکتے ہیں؟
المستفتی: صلاح الدین، ڈھکیہ جمعہ، کندرکی، ضلع، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد اتنی مالدار ہے کہ لاؤڈ اسپیکر خریدنے کی وجہ سے اخراجات مسجد میں کوئی فرق اور نقصان نہیں آتا ہے، تو اسکی گنجائش ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۰۲/۹، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۵۲) البتہ اس میں کمیٹی اور ذمہ داران مسجد کی اجازت لازم ہے۔

ولہم أيضا أن يفرشوا بالآجر والحصير ويعلقوا القندیل لكن من أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم الخ. (بزازیہ، الوقف، الفصل الرابع فی المسجد وما يتصل به، زکریا جدید ۳/۱۴۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۶/۲۶۸-۲۶۹)

قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما تری من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی

المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۶۶۱، جدید ۲/۱۳۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳/۲۶۸/۱۴۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/ربیع الاول ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۷/۲۱۴)

مسجد کی رقم سے مانگ خریدنا

سوال: [۷۹۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے روپیہ سے مسجد کیلئے مانگ خریدنا یا مانگ خریدنے کیلئے چندہ متعین کر کے یا غیر متعین کر کے لینا اور اس روپیہ سے مانگ خریدنا کیسا ہے؟ اور خرید کر کے مسجد کے کام کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سعید الرحمن، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مائیک خریدنے کے وجہ سے مسجد کے ضروری اخراجات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت لمفتی قدیم ۲۰۲/۹، جدید مطول ۱۰/۲۵۲) قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: نفع ما تری من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۶۱، جدید ۲/۴۱۳، وھکذا فی المحيط البرھانی المجلس العلمی ۹/۱۳۶، رقم: ۱۳۸۱، الفتاوی التاتار خانیة زکریا ۸/۱۷۵، رقم: ۱۱۵۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ رجب الاول ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۱۷۰)

مسجد کی دوکان کو فروخت کر کے آمدنی تعمیر مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۷۹۷۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں میں ایک مسجد خستہ حالت میں تھی، گاؤں کے لوگوں نے مسجد کو شہید کر کے از سر نو تعمیر شروع کر دی مسجد کی تعمیر کے لئے گاؤں میں چندہ وغیرہ کیا گیا، لیکن گاؤں غریب ہونے کی وجہ سے مسجد کا تعمیری کام مکمل نہ ہو سکا، مسجد سے ۱۰۰ گز کی دوری پر ایک دوسری مسجد ہے، اور اس کے برابر میں دو دوکانوں کی جگہ ہے، جو دونوں مسجدوں کے نام ہے، اور مسجد کے لئے وقف نہیں ہے، تو تعمیر مسجد کی کمیٹی اور گاؤں کے لوگ اپنی مسجد کی جگہ فروخت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسجد کا کام مکمل ہو سکے، کیا مذکورہ صورت حال کے پیش نظر تعمیر مسجد کے نام دوکان کی جگہ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: فہیم انور قریشی، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زیر تعمیر مسجد کے نام جو دوکان ہے، اور کمیٹی اور گاہکوں کے ذمہ دار حضرات اس دوکان کو بیچ کر اس کی آمدنی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ذمہ داران کمیٹی کو اس کا اختیار نہیں، اس لئے کہ مسجد کی ملکیت کی جائیداد فروخت ہو جانے کے بعد اگر اس کا بدل دوسری جگہ نمل سکے تو خرد برد کے مترادف ہو جاتی ہے، بعد میں مسجد کی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے آگے چل کر دقتیں پیش آ سکتی ہیں، اس لئے اس جگہ کو نہ بیچا جائے، اور مسجد کا تعمیر کام عامۃ المسلمین کے چندہ سے مکمل کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے۔

أما أهل تلك المحلة فلهم أن يهدوا ويجددوا وبناءً هـ - لكن من مال أنفسهم ، أما من مال المسجد فليس لهم ذلك . (ہندیہ ، الباب الحادی عشر فی المسجد ، وما يتعلق به ، زکریا قدیم ۲/۵۷ ، جدید ۲/۱۰۴)

أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد أو نزل المسجد — قال
الصدر الشهيد: والفتوى على أنه لا يجوز . (التاتارخانية ، زکریا ۸/۱۷۸ ، رقم:
۱۱۵۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۶/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۰۰۳)



۱۰ الفصل العاشر: ایک مسجد کی اشیاء کا دوسری مسجد میں استعمال مسجد کی آمدنی کیلئے موقوفہ زمین پر مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۷۹۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں واقف مسجد نے ایک قطعہ زمین مسجد سے کچھ دوری پر دوسرے علاقہ میں مسجد کے خرچہ اخراجات کے لئے وقف کی جس سے مسجد کے امام و مؤذن کی تنخواہ اور دیگر ضروریات پوری کی جاتی ہیں، مسجد کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اب جس علاقہ میں وہ زمین ہے، کچھ لوگ اس میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس جگہ از روئے شرع مسجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ بینوا و تو جروا

المستفتی: اراکین کمیٹی مسجد مدن پور، دیوریا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ مسجد کیلئے چونکہ اس قطعہ زمین کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی موجود نہیں ہے، اس لئے جب تک اس مسجد کیلئے کسی ذریعہ آمدنی کا انتظام نہ کر دیا جائے اور اس قطعہ زمین سے مسجد مستغنی نہ ہو جائے، اس وقت تک اس زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۶/۵۴)

شرط الواقف كنص الشارع أي فی وجوب العمل به وفي المفهوم

والدلالة . (الاشباه كراچی ۲/۱۰۶، قواعد الفقہ، اشرفی / ۸۵، رقم: ۱۵۲)

وقد علم بهذا التقرير إعمال الغلتين إحياءً للوقف ورعاية شرط

الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى وقد علم أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاء هرة صرف أحد الواقفين للآخر . (البحر الرائق، الوقف،

زكريا/ ۳۶۲، كونه ۵/ ۲۷۱)

سئل عن شمس الأئمة الحلوانى أنه سئل عن مسجد أو حوض

خرب ولا یحتاج إلیه لیتفرق الناس عنه: هل للقاضی أن یصرف أوقافه إلی مسجد آخر أو حوض آخر؟ فقال نعم. (ہندیہ، الباب الثالث عشر فی الأوقاف التی یتستغنی عنها زکریا قدیم ۲/۷۸، جدید ۲/۱۹، مجمع الانہر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۵۹۶، قدیم ۱/۷۴۸، ۷۴۹، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۵۱، رقم: ۱۱۴۴۱، الفتاویٰ التاتار خانیۃ زکریا ۸/۱۹۶، رقم: ۱۱۶۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۳۵/۵/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتاویٰ نمبر: ۱۱۵۳۱/۲۰)

ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا کب جائز ہے؟

سوال: [۷۹۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ہمارے یہاں شادیوں کے موقعوں پر دولہا کی طرف سے مسجدوں کیلئے کچھ سامان دینے کا رواج ہے، جس میں بالٹی رسی قرآن پاک رحل لوٹے صفیں گھنٹے بالعموم اور بہت سے لوگ پکھے وکولرو وغیرہ بھی لاتے ہیں، تعمیر وغیرہ کا کام شروع ہوتا ہے، اور بغیر کام کے بھی مسجد کے لوگ اس سامان کو فروخت کر کے حسب مرضی رقم کو خرچ کرتے ہیں، ”یادگار شیخ“ سہارنپور پندرہ روزہ میں ایک استفتاء کے جواب میں مسجد کا سامان بیچنا ناجائز لکھا ہے، آپ وضاحت کیساتھ اس مسئلہ کو صاف تحریر فرمائیں کہ مسجد کے سامان کی فروخت کی درست ہے یا نہیں؟ اگر کچھ گنجائش ہے تو کس صورت میں؟ اگر کمیٹی یا متولی کو اختیار ہے تو کس وقت؟

(۲) تقرر کس طرح سے کیا جائیگا، صرف نمازی ہی کر لیں گے یا بستی و محلہ کے سب لوگ بالاتفاق کمیٹی یا متولی بنائیں گے؟

المستفتی: عبدالرحیم، بڈبڈوی عفی عنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ اشیاء مسجد کی ضروریات سے زائد

ہیں، اور فروخت کرنے میں دینے والوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فاضل اشیاء کو فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۳۸۰، ڈی اے بھیل ۱۴/۵۷۵، فتاویٰ رشیدیہ قدیم/۵۳۵، جدید زکریا مہتاب/۵۱۵)

لو اشتری حشیشا، أو قندیلا، للمسجد فوق الاستغناء عنه، کان ذلک له إن کان حیاً. (البحر الرائق، الوقف، فصل فی أحكام المسجد زکریا ۵/۲۳، کوئٹہ ۵/۲۵۲، الدر مع الرد، زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹)

(۲) بہتر شکل یہی ہے کہ سب کے اتفاق سے کمیٹی یا متولی کا تقرر کیا جائے اور اگر محلہ کے بااثر اور صاحب رائے حضرات کے اتفاق سے بنایا جائے تب بھی جائز اور درست ہوگا۔
کما استفید من عبارة الشامی، ویصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین الخ. (شامی، الصلاة، باب الجمعة، زکریا ۳/۱۴، کراچی ۲/۱۴۴، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، دارالکتاب دیوبند/۵۰۷، ہندیہ زکریا قدیم ۱/۴۶، جدید ۱/۲۰۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۳/۱۴۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۹۳۲۸)

ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں دینا

سوال: [۷۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ لوگ کبھی کبھی مسجد کے پیسے چھپا لیا کرتے تھے، لیکن لکھ کر رکھتے تھے، ان کا بھی حساب موجود ہے تو کیا جس مسجد کے پیسے لئے تھے، اسی مسجد میں دینا ضروری ہے، یا دوسری مسجد میں دینے سے کام چل سکتا ہے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: مشتاق احمد، محلہ تھانہ مروہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس مسجد کا روپیہ چھپا لیا ہے، اسی مسجد کو ادا کرنا ضروری ہے دوسری مسجد کو دینے سے وہ بری الذمہ نہ ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۷۰۱، فتاویٰ ر شیدیہ قدیم/۵۳۶، جدید مبوب/۵۱۵، فتاویٰ محمودیہ/۱۸۶، جدید ڈائجیل/۵۰/۱۵)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدین أو رجل مسجداً ومدرسةً ووقف علیهما أوقافاً لایجوز له ذلك. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل أنقاض المسجد ونحوہ زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، الفقہ الإسلامی وأدلته، دارالفکر ۱۰/۷۶۷، ۴/۷۶۷، ہدی انٹر نیشنل دیوبند ۸/۲۱۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۶/۶/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۳۲/۳۲۸۲)

ایک مسجد کے بچے ہوئے تعمیری سامان کو دوسری مسجد میں لگانا

سوال: [۷۹۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد کی نئی تعمیر ہوئی ہے، اس کی پرانی اینٹیں کچھ سا بوت اور کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ چھت کی سریا وغیرہ بھی بچی ہوئی ہیں، اب مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، سر دست اس مسجد میں ضرورت نہیں ہے، جس کی زمین پر یہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، یا پورا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے جلد ہٹا لینے کا تقاضہ کر رہا ہے، نیز اگر اس کو وہاں سے نہ ہٹایا گیا تو ضائع ہونے یا دھیرے دھیرے غائب ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، اسلئے دریافت یہ کرنا ہے کہ ان اینٹوں کو یا بچے ہوئے ملبہ کو کسی دوسری مسجد یا مدرسہ میں جہاں تعمیری کام جاری ہیں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ تحریر فرمادیں؟

المستفتی: متولی مسجد فتح پور، کملا پور، سیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں جو اینٹیں اور سریا وغیرہ مسجد کی ضرورت سے زائد ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زائد از ضرورت ملبہ کو کسی دوسری مسجد یا کسی دینی مدرسہ میں لگانا جائز اور درست ہے۔

یصرف وقفہا لأقرب مجانس لها. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیرہ زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۶۱) **فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر.** (فتاویٰ عالمگیری، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۵۸، جدید ۲/۴۱۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۲، زکریا ۵/۴۲۳)

والذی ینبغی متابعة المشایخ المذکورین فی جواز النقل
ولا سیما فی زماننا فإن المسجد أو غیرہ من رباط أو حوض إذا لم ینقل
یأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد. (شامی،
زکریا ۶/۵۵۰، کراچی ۴/۳۶۰) مستفاد: انوار رحمت/۱۴۴، فتاویٰ محمودیہ
ذابھیل ۱۵/۴۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۱/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰/۱۲/۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۶/۳۹)

ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا

سوال: [۹۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اور وہاں کے مسلمان اپنے مکانوں کو خالی کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اب جو سامان ہے، اس کو اس مسجد کے لوگ دوسری مسجد میں دینا چاہتے ہیں، اور

اس میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ لوگ اس مسجد کے سامان کو وہاں چھوڑتے ہیں، تو کافر لے جائیں گے، اور مسجد کے منہدم ہونے کا پورا پورا امکان ہے، اور کافروں کے ظلم و ستم سے وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، اب وہ لوگ اس مسجد کا سامان دوسری مسجد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں؟ مہربانی ہوگی؟ مسجد کا سامان یہ ہے، لاؤڈ اسپیکر، لوٹے صرف دو سامان ہیں؟

المستفتی: لیاقت حسین مجلہ:
اسلام نگر، کرولہ، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی وہاں سے تمام مسلمان منتقل ہو کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور اس مسجد کے ویران ہونے کا خطرہ ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے، کہ اس مسجد کو رجسٹرڈ کرائیں اور وقف بورڈ کے ماتحت اسکی حفاظت ہوتی رہے اور اس مسجد کے لوٹے اور لاؤڈ اسپیکر کو دوسری جگہ کی مسجد میں استعمال کرنا شرعاً جائز و درست ہوگا۔ (مستفاد: امداد المفتیین کراچی/۷۷۰)

سئل شیخ الاسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجد ها إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلون إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم الخ. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل أنقاض المسجد ونحوه، زکریا ۵۵۰/۶، کراچی ۴/۳۶۰، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۷۹، جدید ۲/۴۱۹، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۵۱، رقم: ۱۱۴۴۲، الفتاوی التاتار خانیة زکریا ۸/۱۹۷، رقم: ۱۱۶۲۶، منحة الخالق، زکریا ۵/۴۲۵، کوئٹہ ۵/۲۵۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/رجب ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۵۰/۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۷/۱۴۱۳ھ

ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۷۹۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قصبہ شیرکوٹ کی ایک مسجد المعروف بعلی اس کے دو فنڈ ہیں ایک فنڈ جائیداد کے کرایہ کی بابت جو رقم وصول ہوتی ہے، وہ رقم تو مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے خازن کے پاس جمع رہتی ہے، جو مسجد کے ماہانہ اخراجات میں صرف ہوتی ہے، دوسرا فنڈ وہ ہے جو بیاہ شادی وغیرہ میں لوگ مذکورہ (علی مسجد) کو بطور امداد کرتے ہیں، اور وہ نامزد کر کے علی مسجد ہی کو دے کر جاتے ہیں، یہ رقم کمیٹی کے علاوہ برادری کے ایک امین شخص کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، کہ کسی وقت کوئی بڑا کام مسجد میں ہو تو یہ رقم کام آئے گی، اب علی مسجد میں ایک اہم کام کا آغاز ہے دوسرے فنڈ کے متعلق اس فنڈ کے خازن کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقم بجائے علی مسجد کے دوسری ایک مسجد میں دیدی جائے، کیونکہ علی مسجد مالدار مسجد ہے، وہ دوسری مسجد رقم کے اعتبار سے کمزور ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معطلی نے یہ رقم علی مسجد کے نام سے دی ہے، آپ صرف امین یا خزانچی ہیں، یہ علی مسجد میں ہی خرچ ہونی چاہئے اب سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد میں خزانچی یا امین کا بغیر اجازت معطلی لگانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حاجی اقبال احمد، سکرپٹری،

علی مسجد، قصبہ: شیرکوٹ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو پیسے لوگوں نے علی مسجد کو امداد کے طور پر

دیئے ہیں، ان پیسوں کو علی مسجد ہی کے مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، کسی دوسری مسجد پر ان پیسوں کا صرف کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر دوسری مسجد مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو علی مسجد کی کمیٹی کے تمام افراد کے اتفاق سے دوسری مسجد کو دیا جاسکتا ہے، نیز اگر معطیین موجود اور متعین ہوں تو ان کو بھی خبر کر دی جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۱۸۵، ڈبھیل ۱۳/۵۸۱)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلا من مسجدين أو رجل مسجداً
ومدرسةً ووقف عليهما أو قافلاً لا يجوز له ذلك. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل
انقراض المسجد ونحوہ زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، الفقہ الإسلامی وأدلته، ہدیٰ

انٹرنیشنل ۸/۲۱۸، دارالفکر ۱۰/۷۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۲/۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۲۷۳۳۸)

کیا ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد یا مدرسہ میں صرف کر سکتے ہیں؟

سوال: [۷۹۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
زید نے کچھ رقم مسجد کی تعمیر میں دی تھی لیکن اس مسجد کی خود اتنی آمدنی ہے کہ ضرورت سے
زیادہ بچی رہتی ہے، کیا وہ رقم وہاں سے نکال کر کسی دوسری مسجد کی یا مدرسہ کی تعمیر میں
لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالمعید قاسمی، اعجاز

پریس، کلین، ہلدوانی، مین تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بینک سے ضائع ہونے کی بات نہیں ہے،

تو دوسری مسجد یا مدرسہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہوگا، البتہ اگر چندہ دہندگان سے رابطہ قائم کرنا

ممکن ہوتوان کی اجازت سے دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز ہو سکتا ہے، نیز مدرسہ میں صرف کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ موب/۵۳۶، جدید زکریا موب/۵۱۵، امداد الفتاویٰ/۲/۵۹۶)

وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجداً
ومدرسةً ووقف عليهما أو قافلاً لايجوز له ذلك. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل
انقراض المسجد ونحوہ زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، الفقہ الإسلامی وأدلته، ہدی
انٹرنیشنل ۸/۲۱۸، دارالفکر ۱۰/۷۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۴۱/۲۶)

ایک مسجد کی جانماز معطی کی اجازت سے دوسری مسجد میں دینا

سوال: [۷۹۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے مسجد میں چندہ دیا اس کی جانماز خریدی گئی اب اس جانماز کا استعمال اسی مسجد میں ہونا ضروری ہے جس کے واسطے اس نے چندہ دیا تھا، یا دوسری مسجد میں چندہ دہندگان کی اجازت سے استعمال کرنا درست ہے؟

المستفتی: مولانا ظہیر احمد، مفتی جامع العلوم، کانپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد یا دینی ادارہ کی جانماز یا دوسری چیز جبکہ ایسے چندہ کی رقم سے خریدی گئی، جو اسی مسجد کے لئے خاص ہے اور چندہ دیتے وقت چندہ دہندہ نے دوسری مسجد میں تصرف کی صراحت نہیں کی ہے، اور وہ جانماز وغیرہ اسی مسجد کی ضروریات کے لائق بھی ہے، تو دوسری مسجد میں تصرف ناجائز ہے، اگر وقت اعطاء رقم دہندہ نے دوسری

مسجد میں تصرف کی بھی صراحت کر دی تھی، تو جائز ہے بعد کی اجازت معتبر نہیں، کیونکہ ملکیت سے خارج ہو جانے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔

وإنما تثبت ولاية الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لاتثبت الخ.

(قاضیخان، الوقف، فصل فی مسائل الشرط فی الوقف، زکریا جدید ۳/۴۱، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۳۰۷، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۰۶، زکریا ۵/۳۴۵، الموسوعة الفقهیة الکویتیة ۴/۱۹۸)

وأجمعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال وأما بدون الشرط أشار في السير أنه لا يملك الاستبدال الخ. (قاضیخان، زکریا جدید ۳/۴۱، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۳۰۶)

والمالك يزول أي ملك الواقف فيصير الوقف لازماً للاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه الخ. (الردّ مع الدر، مطلب شرائط الواقف معتبرة إذالم تخالف الشرع کوئٹہ ۳/۳۹۵، کراچی ۴/۴۳۳، زکریا ۶/۵۲۷)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۷۷)

ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنا

سوال: [۷۹۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صحن مسجد میں جو کنواں اور کمرہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کی تعمیر میں ایک دوسری مسجد کے چوکے (اینٹیں) استعمال کی گئیں ہیں، جبکہ خود اس دوسری مسجد کا تعمیر کام ہو رہا ہے، لہذا شرعاً ایک مسجد کی اینٹیں دوسری مسجد کے غیر شرعی کام میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں براہ کرم مفصل ہر دو سوال

کا جواب باحوالہ تحریر فرمائیں؟

المستفتی: عبدالسلام، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: امداد الفتاویٰ ۲/۵۴۹، فتاویٰ رشیدیہ قدیم ۵۳۳/ جدید زکریا مبوب/۵۱۲، کفایت المفتی ۷/۶۲، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۳۵، وغیرہ میں صراحت موجود ہے، کہ صورت مذکورہ میں دوسری مسجد کے کام میں استعمال ناجائز ہے!

وإن اختلف أحدهما بان بنی رجلان مسجدین أو رجل مسجداً أو مدرسة ووقف علیهما أوقافاً لایجوز له ذلك الخ. (الدر مع الرد، الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوه زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، الفقہ الإسلامی وأدلته، ہدیٰ انٹرنیشنل دیوبند ۸/۲۱۸، دارالفکر ۱۰/۷۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ذیقعدہ ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۴/۲۴)

پرانی مسجد کی جائیداد و رقم نئی مسجد میں لگانا

سوال: [۷۹۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پرانی مسجد کی جائیداد و رقم نئی مسجد کی تعمیر میں لگانا صحیح ہے یا نہیں؟

المستفتی: ربیع الحق، مرشد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر پرانی مسجد کی جائیداد و رقم اس کی ضرورت سے زائد ہے تو نئی مسجد میں اس کا اثاثہ لگانا جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۳۹)

یصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو حرب
 المسجد أو غیره زکریا ۶/۹۵۴، کراچی ۴/۳۵۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۶۱)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۶/۶/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۴۸/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۶/۱۰ھ

الفصل الحادی عشر: اشیاء مسجد کا استعمال

مسجد میں موجود تاڑی کے درخت کی آمدنی کا مصرف

سوال: [۷۹۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی زمین میں یا قبرستان کی زمین میں جو تاڑی کا درخت ہوتا ہے، اس کی تاڑی جو بیچی جاتی ہے، اور اس سے جو آمدنی آتی ہے، اس رقم کو کیا کرنا چاہئے بتایا جائے یعنی یہ کہ مسجد و قبرستان کی تعمیر وغیرہ میں خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں یا سڑک کی نالی وغیرہ درست کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا اس کے علاوہ کس مصرف میں لایا جاسکتا ہے؟

المستفتی: فیاض الدین، بہار شریف، نالندہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تاڑی اور اس کی آمدنی کی حالت اور حرمت کا مدار اس میں نشہ ہونے اور نشہ نہ ہونے پر ہے، اگر نشہ دار نہ ہو صرف بیٹھا عرق فروخت ہوتا ہو تو وہ جائز اور حلال ہے اسکی آمدنی اسی مسجد یا قبرستان کے اخراجات تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا ضروری ہے، اور اگر باقاعدہ اس میں نشہ آچکا ہے، تو حضرت امام محمدؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور یہی مفتی بہ قول ہے، لہذا نشہ دار تاڑی کا کاروبار ہرگز نہ کیا کریں۔ (مستفاد: فتاویٰ احیاء العلوم/۱/۲۳۰)

عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعینھا قلیلھا و کثیرھا، و السکر من کل شراب. (سنن النسائی، الاشریة، النسخة الهندیة ۲/۲۸۳، دارالسلام رقم:

۵۶۹۵، السنن الکبریٰ للبیہقی، دارالفکر بیروت ۱۳/۸۶، رقم: ۱۷۸۹۲)

و حرمھا محمدؐ أي الاشریة المتخذة من العسل و التین و نحوهما قاله المصنف مطلقا قلیلھا و کثیرھا و به یفتی. (درمختار کتاب الاشریة، کراچی

۶/۴۰۴، زکریا، ۱/۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۲۶۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۱۴۱۷ھ

کیا مسجد کی چیزوں کا استعمال عوام کیلئے جائز ہے؟

سوال: [۹۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ایک مسجد کا خادم ہوں یہ بازار کی مسجد ہے، نمازیوں میں اکثر دوکاندار حضرات ہیں، دوکاندار مسجد کا بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، کچھ دوکاندار اپنے برتن بھی مسجد ہی میں دھوتے ہیں، محلہ کے نمازیوں میں سے کچھ لوگ مسجد کا گرم پانی اپنے گھر پر لیجا کر استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کپڑے مسجد میں ہی دھولیتے ہیں، میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیا مسجد کی چیزیں عوام کیلئے جائز ہیں، کیا مسجد کی سیڑھی اسٹول وغیرہ لوگوں کو ان کے گھروں کے استعمال کیلئے دیا جاسکتا ہے، کیا مسجد کی چیزیں اجرت لے کر لوگوں کو کچھ وقت کے لئے دی جاسکتی ہیں، کیا انتظامیہ کے مانگنے پر بھی اجرت نہ دئے جانے پر انتظامیہ ذمہ دار ہے؟ جبراً اجرت نہ دینے پر انتظامیہ کیا کرے؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

المستفتی: ناصر پرویز، مسجد ترپولہ، امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) محلہ کے لوگوں کا مسجد میں آ کر مسجد کے پانی سے غسل کرنا، کپڑے وغیرہ دھونا اور سردی کے زمانہ میں مسجد کا گرم پانی بالٹیوں میں بھر کر اپنے گھروں میں لے جانا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ یہ ساری چیزیں نمازیوں کیلئے وقف ہوتی ہیں، رفاہ عام کیلئے وقف نہیں ہوتیں اسلئے نمازیوں کیلئے نماز کے اوقات میں تو استعمال کرنا جائز ہے لیکن دیگر لوگوں کیلئے استعمال کی اجازت نہیں ہے، البتہ ہینڈ پائپ (ہتھی کانل) سے پانی لینا جائز ہے، اسلئے کہ ہینڈ پائپ (ہتھی کانل) سے پانی زمین سے نکلتا ہے،

جس کی کوئی قیمت نہیں، دریائی پانی کے مانند ہے۔

ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته . (عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ ، الباب السابع فيما يفسد الصلوٰۃ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوٰۃ الخ، زکریا قدیم ۱/۱۱۰، جدید ۱/۱۶۹)

وإذا رأى حشيش المسجد فرفعه إنسان جاز، إن لم يكن له قيمة فإن كان له أدنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولى والقاضى أو أهل المحلة أو الإمام . (البحر الرائق، کتاب الوقف ، فصل فى احكام المسجد زکریا ۵/۴۲۰)

(۲) مسجد کی اشیاء کا عام لوگوں کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود استعمال کر لیا تو اس مسجد کیلئے اس پر اجرت لازم ہوگی۔

فإن كان له أدنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولى والقاضى أو أهل المسجد أو الإمام . (البحر الرائق، زکریا ۵/۴۲۰، کوئٹہ ۵/۲۵۱)

(۳-۴-۵) مسجد کی سیڑھی اور اسٹول وغیرہ لوگوں کے مانگنے پر ان کو عاریتہ نہیں دیا جاسکتا ہے، البتہ اجرت پر دیا جاسکتا ہے، اجرت کے بغیر دینا درست نہیں ہے، اور انتظامیہ کے مطالبہ کے باوجود اگر کوئی شخص اجرت ادا نہ کرے اور ظالمانہ رویہ اختیار کرے تو وہ شخص گنہ گار ہوگا، اور مسجد کی انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہ ہوگی، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔

سئل القاضى الإمام شمس الاسلام محمود الأوز جندى عن أهل المسجد تصرفوا فى أوقاف المسجد يعنى آجروا المستغل وله متول قال لا يصح تصرفهم ولكن الحاكم يمضى ما فيه مصلحة المسجد . (عالمگیری،

زکریا قدیم ۲/۶۶۳، جدید ۲/۴۱۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۴/۱۴۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ رجب الثانی ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۸/۲۸۷۹۲)

مسجد کی دیوار میں تصرف کر کے دوکان بنانا

سوال: [۷۹۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد گھیر ملا ملوک کی جنوبی دیوار بارہ فٹ اونچی اور چار فٹ چوڑی ہے اس دیوار میں آٹھ فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی ڈاٹ نکال کر ایک دوکان بنالی ہے، اس دیوار کے اوپری حصہ کو بالکل نہیں چھوا گیا ہے، اور نہ ہی مسجد کی چار دیواری میں تصرف کیا گیا صرف سڑک کی جانب سے ڈاٹ نکال کر اور دیوار کے ساتھ افتادہ زمین پر یہ دکان تعمیر کی گئی ہے، تاکہ مسجد کے مصارف میں کام آسکے کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کی رو سے مفصل و مدلل جواب مطلوب ہے؟

المستفتی: خالد حسین صدیقی،
بازار گنج، شاداب مارکیٹ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسجد کی مسجدیت مکمل ہوگئی ہے، تو اب اس کی دیواروں پر تصرف کر کے دوکان وغیرہ بنانا جائز نہیں ہوگا، نیز اسکی دیوار پر دوسری عمارت کی کڑی رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس سے مسجد کو اجرت وغیرہ بھی ملتی ہو!

أما لو تَمَّتِ المسجدية ثم أراد البناء منع (قولہ) فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً الخ. وفي الشامية وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة الخ. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد كراچی ۴/ ۳۵۸، زکریا ۶/ ۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/ ۲۹۶، النهر الفائق، الكتب

العلمیة بیروت ۳/۳۰ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۲۲۳)

مسجد کی چٹائی وغیرہ کا عید گاہ میں استعمال کا حکم

سوال: [۷۹۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی چٹائی اور ٹاٹ کا عید گاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کیلئے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اسی طرح مسجد کا مانگ عید گاہ میں تقریر اور نماز کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ، اصالتپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی چٹائی اور فرش اسی طرح مسجد کا مانگ وقف کرنے والے نے اگر خاص مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تو اس کو عید گاہ میں نماز وغیرہ کیلئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ معطلی اور واقف کی غرض کے مطابق مسجد ہی میں استعمال کرنا واجب ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳/۱۶۳، جدید زکریا ۹/۹۳، عزیز الفتاویٰ کراچی ۵۹۲/۲، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۲۰۴، جدید ڈیڑھیل ۴/۶۲۳)

نیز اس طرح کی عبارت جس سے مذکورہ مسئلہ مستفاد ہوتا ہے ہندیہ میں ان الفاظ سے موجود ہے۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف كذا في الذخيرة . (ہندیہ، الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی فی الوقف علی المسجد الخ، زکریا قدیم ۲/۴۶۳، جدید ۲/۴۱۳، المحيط البرہانی، المجلس العلمی بیروت ۹/۱۳۷، رقم: ۱۱۳۸۱، تاتار خانینہ زکریا

(۱۷۵/۸، رقم: ۱۱۵۵۴)

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۵۰۳۵)

مسجد کی صفوں اور لاؤڈ اسپیکر کو عید گاہ میں لے جانا

سوال: [۷۹۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی صفوں اور لاؤڈ اسپیکر کا عید گاہ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: عبد المعید قاسمی، آزادنگر، ہلدوانی، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب صفیں اسی مسجد کیلئے وقف کی گئی ہیں تو ان وقف شدہ صفوں کو عید گاہ میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔

ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر الخ. (شامی، کتاب الوقف مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیرہ کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/۴۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۷۹۲۲۸)

متولی یا عوام کا مسجد کا موٹر چلا کر ذاتی طور پر پانی استعمال کرنا

سوال: [۷۹۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

ایک مسجد کا متولی ہے، بااجازت متولی ایک ہندو مسجد کے اندر جا کر موٹر چلاتا ہے، اور مسجد کا پانی اپنے استعمال میں لاتا ہے، کیا متولی کو ایسی اجازت دینا اور کسی ہندو کو مسجد کے اندر جانا اور مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد حسین، دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: متولی اور ذمہ دار ان کیلئے ہندو یا مسلمان کو مسجد کا موٹر چلا کر ذاتی طور پر پانی استعمال کرنے کی اجازت دینے کا حق نہیں، ہاں البتہ موٹر استعمال کرنے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اگر ہندو یا وہ مسلمان ادا کر دیتا ہے، تو متولی کیلئے اجازت دینے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۱۷۸، جدید ڈائجسٹ ۱۴/۶۵۵)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء . الحديث:

(مسلم شریف، کتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، النسخة

الهنديّة ۱۹/۲، بيت الافكار، رقم: ۱۵۶۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ محرم ۱۴۱۵ھ

۱۸/۱۱/۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۸۳)

ذاتی ضرورت کیلئے مسجد کی لائٹ پنکھا وغیرہ استعمال کرنا

سوال: [۷۹۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

لائٹ پنکھے اور دیگر چیزیں اپنی ذاتی ضرورت کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد شریف، محلہ رائڈ، ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی لائٹ پنکھے اور دیگر چیزیں اپنی ذاتی

ضرورت کیلئے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۲۹۶، جدید ڈائجسٹ ۱۴/۶۲۳)

متولی المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته. (ہندیہ ، کتاب الوقف ، الباب الحادی عشر فی المسجد ، الفصل الثانی زکریا قدیم ۲/۶۲ ، ۴ ، جدید ۲/۴۱۳ ، فتاویٰ قاضی خان ، باب الرجل يجعل داره مسجداً جدید زکریا ۳/۲۰۵ ، وعلى هامش الهندية زکریا ۳/۲۹۴ ، تاتار حانیة زکریا ۸/۱۶۹ ، رقم : ۱۱۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۸۱/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۴/۱۹ھ

مسجد کی بجلی کے بل کی ادائے گی کرنے والے کا اپنے گھر میں کنکشن لینا

سوال: [۷۹۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسجد کی بجلی کا بل دیتا ہے، یعنی جتنا بل آجائے وہی شخص دیتا ہے، کیا وہ بجلی مسجد میں سے اپنے گھر میں لے سکتا ہے یا نہیں؟ بجلی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟

المستفتی: عبدالستار بچھرا یوں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسجد کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اسمیں حکومت کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں اور یہ قانونی جرم بھی نہیں ہے، تو بجلی کا کنکشن لینا جائز ہوگا جبکہ پورا بل ادا کر دیا جائے، اور اگر قانوناً جرم ہے تو اس سے احتراز لازم ہے۔

قال الله تعالى: ' وَلَا تَلْفُؤْاْ بِاَيْدِيكُمْْ اِلَى التَّهْلُكَةِ، الْاَيَةُ: (البقرة: ۱۹۵)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۵/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۱۰/۲۶)

مسجد کا کولرنیچ کر بجلی کا بل ادا کرنا

سوال: [۷۹۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں گل پورہ میں ایک مسجد ہے، جو ہمارے باپ دادا کی بنوائی ہوئی ہے، اور اس میں گاؤں کے سبھی لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی دوران ایک صاحب ایک کولر مسجد کے لئے دے گئے تھے، لیکن کچھ حالات بگڑنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور مسجد کا بجلی کنکشن ہم لوگوں کے نام تھا، اور ہم لوگوں نے مشورہ کر کے بجلی کے کنکشن کا بل ادا کرنے کے پیسے مانگے وہ لوگ دینے سے منع کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کولر ہمارے قبضہ میں ہے اور اس بل کی قیمت تقریباً ۴ ہزار روپیہ ہے، تو اس کولر کو نیچ کر اسکی رقم کو بل کے ادا کرنے میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: زاہد حسین، مناظر حسین، گل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسئلہ صورت میں مسجد کے اس کولر کو نیچ کر بل ادا کرنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ واقف نے نمازیوں کی راحت رسائی کیلئے کولر کو وقف کیا ہے، نہ کہ نیچ کر بل ادا کرنے کیلئے، لہذا آپ لوگ بل والے روپیہ کے سلسلہ میں کمیٹی والوں سے بات کریں، لیکن مسجد کے کولر کو بیچنے کی اجازت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۴/۱۳۸، جدید ڈائجیل ۱۴/۱۳۷۲، احسن الفتاویٰ ۶/۲۵۰)

شرط الواقف كنص الشارع. (شامی، كتاب الوقف، مطلب في قولهم شرط

الواقف كنص الشارع، كراچی ۴/۳۳، زکریا ۶/۶۴۹)

لا يباع ولا يوهب. (شامی، الوقف، مطلب متی ذکر الواقف شرطین متعارضتین

الخ، كراچی ۴/۴۴، زکریا ۶/۶۶۳)

لو باعوا غلة المسجد الاصح انه لا يجوز. (فتاویٰ عالمگیری،

الباب الحادى عشر فى المسجد، الفصل الثانى زكربا قديم ۲/۶۳، جديده
 ۴/۱ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ جمادى الثانیہ ۱۴۲۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۷۲۶۴۳۵)

مقروض مسجد میں پانی گرم کرنے کیلئے گیزر لگوانا

سوال: [۷۹۹۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 ایک مسجد تقریباً اٹھانوے ہزار روپیہ کی مقروض ہے، بجلی کا بل سالوں سے ادا نہیں
 ہو سکا ہے، تو ایسے حالات میں مسجد میں پانی گرم کرنے کیلئے گیزر لگوانا اور اس طرح
 نمازیوں کو گرم پانی فراہم کر کے مسجد کو مزید زیر بار کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور اس مسجد
 میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز میں مسجد کے مقروض ہونے سے کوئی کراہت تو
 نہیں اس کے شرعی حکم سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: ایم محبوب، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب مسجد مقروض ہے گیزر سے پانی گرم
 کر کے مسجد کو مزید مقروض کر دینا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی صاحب خیر اپنی جیب
 سے اس کا خرچہ برداشت کر لے تو گنجائش ہے، ورنہ جائز نہ ہوگا اور ٹھنڈے پانی سے
 وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔

عن عمر بن يحيى المازنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. (مؤطا امام مالك، كتاب القضاء، القضاء فى
 الرفق، النسخة الهنديه/۳۱۱)

لا ضرر ولا ضرار، الحديث: (الاشباه، قديم/۱۳۹)

اور اب تک جو محلہ والوں نے گیزر چلا کر بل میں اضافہ کیا ہے، اس کا خرچہ محلہ والوں پر لازم ہے، اور جب محلہ والے بل ادا کر دیں گے تو ان کی نماز بھی کراہت سے محفوظ ہو جائیگی۔

قال الله تعالى: وَلَا تَنْزِرُوا آيَاتِنَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَنْزِرُوا آيَاتِنَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَنْزِرُوا آيَاتِنَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا (الانعام: ۶۴، الاسراء

۱۵، الفاطر: ۱۸، الزمر: ۷، النجم: ۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ شعبان ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۲۲۴)

مسجد کا سامان غصب کرنے کا حکم؟

سوال: [۷۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کا کچھ سامان وہاں کے لوگوں نے اپنے صرفہ میں لے لیا ہے، اب وہ لوگ اس سامان کو یا اسکی قیمت کو دینا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے، اور ان لوگوں پر اس سامان کا واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب باصواب سے نواز کر عند اللہ ماجور ہوں؟

المستفتی: محمد یوسف، موضع شاہ نگلا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کا سامان اپنے صرفہ میں لانا ناجائز

اور حرام ہے، مسجد کا سامان ان لوگوں سے واپس لینا ضروری ہے، اور اگر سامان موجود نہ ہو تو قیمت وصول کی جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۵۹، جدید زکریا مطول

۱۰/۱۱۶، امداد الفتاویٰ ۲/۶۷۲، فتاویٰ رشیدیہ، قدیم/۵۳۳، جدید زکریا/۵۱۲)

وفي الحاوی ویفتی بالضممان في غصب عقار الوقف و غصب

منافعه و کذا کل ما هو أنفع للوقف الخ. (البحر الرائق، کتاب الوقف زکریا

۵/۳۹۶، کوئٹہ ۵/۲۳۷)

أما الوقف فقد قال في الذخيرة : الغاصب إذا غصب الدار الموقوفة فهدم بناء الدار وقطع الأشجار للقيم أن يضمه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء مبنياً وقيمة النخيل نابتاً في الأرض لأن الغصب ورد هكذا (وقوله) ولم يفصل فيه بين المسجد وغيره من الوقف الخ . (شامی، کتاب الغصب مطلب فيما لو هدم حائط ، مطبوعه كوئٹہ ۱۲۷/۵، كراچی ۱۸۱/۶، زكريا ۲۶۵/۹، ہندیہ زكريا قديم ۴۴۸/۲، جديد ۴۰۴/۲، المحيط البرهاني، المجلس العلمي بيروت ۱۰۸/۹، رقم: ۱۱۲۹، تانار

خانية، زكريا ۱۴۰/۸، ۱۴۱، ۱۴۱ (رقم: ۱۱۴۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۹ رمضان ۱۴۰۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۳۲۴)

غیر شرعی مسجد کا ملکہ اپنے کام میں لانا

سوال: [۷۹۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک پلاٹ ۳۰×۱۵ فٹ کا دوکان کیلئے سرکاری کرایہ پر الاٹ ہے جن صاحب نے کرایہ پر اپنے نام الاٹ کرایا، انہوں نے اپنے خرچہ سے اس کو تعمیر کرا کر اگلے حصہ میں دوکان اور پچھلے حصہ میں نماز قائم کرائی وہاں جماعتیں بھی ٹھہرتی تھیں پنج وقتہ نمازیں بھی ہوتی تھیں، رمضان میں تراویح بھی ہوتی تھی، اب وہ جگہ تقریباً دس سال سے بند ہے، کوئی نماز وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پیسہ چندہ سے نہیں لگاتھا، اب وہ شخص اپنا ملکہ فروخت کر رہے ہیں جبکہ زمین گورنمنٹ سے کرایہ پر ہے، تو اس کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور خریدنے والے کو اس میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حاجی ابرار احمد، لائن مین، نئی کالونی، کالا گڈھ پوڑی گڑھوال، اتر اگھنڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ کے انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ جس حصہ پر نماز پڑھی جا رہی تھی، اس کو باضابطہ مسجد نہیں بنایا گیا اور نہ اس کو مسجد بنانے کا حق تھا، بلکہ عارضی طور پر نماز کیلئے عبادت خانہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جیسا کہ بڑے بڑے فرموں اور فیکٹریوں میں بھی یہ سلسلہ اور دستور ہے کہ عارضی طور پر فرم کے کسی ایک حصہ کو نماز کیلئے خاص کر لیتے ہیں، اس میں شرعی مسجد کا ارادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ پنجوقتہ نماز اس میں پڑھنا مقصد ہوتا ہے، ایسی جگہ مسجد نہیں بنتی ہے، جب چاہے اسے توڑ کر یا اسی حالت میں اسے دوسرے کام میں لانا جائز ہے، لہذا سوالنامہ میں بھی یہی صورت معلوم ہوتی ہے، لہذا اس جگہ کے ملبہ کو اپنے دوسرے کام میں لانا یا اس کو فروخت کرنا بلاشبہ جائز ہوگا۔

أَوْ يَرْضَى الْمَوْجِرَ عَطْفًا عَلَى يَغْرَمُ بَتْرَكِهِ أَى الْبِنَاءِ وَالْغَرَسِ فَيَكُونُ الْبِنَاءُ وَالْغَرَسُ لِهَذَا وَالْأَرْضُ لِهَذَا وَهَذَا التَّرَكُّ إِن بَأَجْرٍ فِإِجَارَةٍ وَإِلَّا فِإِعَارَةٍ فَلَهُمَا أَنْ يُؤْجِرَاهُمَا لِثَلَاثٍ وَيَقْسِمَا الْأَجْرَ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ بِلَا بِنَاءٍ وَعَلَى قِيمَةِ الْبِنَاءِ بِلَا أَرْضٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ حَصَّتِهِ. (شامی، کتاب الاجارۃ، باب ما يجوز من الاجارۃ کراچی ۳۱/۶، زکریا ۴۱/۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۵/۱۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۶۵۶۳۶)

مسجد میں آئی مٹھائی و پھل کا استعمال

سوال: [۷۹۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کچھ مٹھائی لیکر مسجد میں دیکر چلا آیا زید نے کس نسبت سے دی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تو اس مٹھائی کو کیا لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اس کو بیچ کر مسجد میں دیا جائے۔

فاطمہ نے ارادہ کیا کہ ہمارے پیڑ کے پہلے پھل جو ہوں گے، مسجد میں دوں گی اس کے بعد فاطمہ نے اس پھل کو مسجد میں دیدیا اب اس کو مصلیٰ یا امام یا مؤذن صاحب کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کھا سکتے ہیں، تو کس شکل میں کھا سکتے ہیں، قیمتاً یا بغیر قیمت کے اگر نہیں کھا سکتے تو اس پھل کو کیا کیا جائے؟

المستفتی: حبیب محمد حسین، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ کھانے پینے کی اشیاء جو مسجدوں میں بھیجی جاتی ہیں، وہ نمازیوں کے کھانے کیلئے بھیجتے ہیں، اور پیڑ کا پہلا پھل اور مرغی کا پہلا انڈا نمازیوں کو کھلا کر برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں سارے نمازی اس کو کھا سکتے ہیں، اور کسی کام کے رک جانے کی وجہ سے یوں نذر مانی ہے کہ اگر فلاں کام ہو جائیگا، تو مسجد میں فلاں کھانے کی چیز دوں گا، تو ایسی چیز غریب اور فقیر نمازی کھا سکتے ہیں، اور اگر کھانے کی چیز نہیں ہے، تو اس کو یا اس کی قیمت کو مسجد کی ملکیت میں دیدینا لازم ہوگا، کیونکہ غیر ماکول اشیاء نمازیوں کیلئے نہیں بھیجی جاتیں بلکہ صرف مفاد مسجد کیلئے بھیجی جاتی ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۲/۱۳۴، ۱۲/۱۴۲، فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۳/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۸۳۲/۴)

شادی میں مسجد کی ٹنکی کا پانی استعمال کرنا

سوال: [۸۰۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا پکانے کیلئے مسجد کی ٹنکی کے پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عارف حسین، اصالت پورہ، مرد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی ٹٹکی کا پانی مسجد ہی کے لئے خاص ہے شادی بیاہ کیلئے اس کا استعمال کرنے سے مسجد کی چیز کو دوسرے مقاصد میں لگانا لازم آئے گا، لہذا اگر کسی کو مسجد کی ٹٹکی کے پانی کی ضرورت ہو تو مسجد کو اس کا کرایہ دے کر کے پانی استعمال کرنا چاہئے، بغیر کرایہ کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته. (ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ قبیل

الباب الثامن فی صلوٰۃ الوتر زکریا قدیم ۱/۱۱۰، جدید ۱/۱۶۹، بزازیہ، کتاب الوقف، فصل فی المسجد ۶/۲۷۰ جدید ۳/۱۴۴)

ولیس لمتولی المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته.

(البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل ومن بنی مسجداً لم یزل ملکہ کوئٹہ ۵/۲۵۰، زکریا ۵/۴۲۰، ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد الفصل الثانی زکریا قدیم ۲/۴۶۲، جدید ۲/۴۱۳، قاضی خان باب الرجل يجعل داره مسجداً جدید زکریا ۳/۲۰۵، وعلیٰ ہامش الہندیۃ زکریا ۳/۲۹۴، تاتار خانیۃ زکریا ۸/۱۶۹، رقم: ۱۱۵۳۵)

ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل. (ہندیہ، کتاب الوقف، الباب

الخامس فی ولاية الوقف زکریا قدیم ۲/۴۱۹، جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۱/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/زیقعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۲۹)

مسجد کے پڑوسیوں کا مسجد سے پانی بھرنا

سوال: [۸۰۰۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے

پڑوسیوں کا مسجد سے پانی بھرنا کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالمعید قاسمی، آزادنگر، ہلدوانی ضلع: مین تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر کنواں مسجد کے حدود سے باہر ہے، تو سب لوگ پانی بھر سکتے ہیں، اور اگر حدود مسجد کے اندر ہو تو عورتوں اور بچوں کو وہاں سے پانی بھرنا جائز نہیں ہے اسلئے کہ یہ حرمت مسجد کے خلاف ہے، کنویں کے پانی سے کسی کو روکنا ممنوع ہے، ہاں البتہ سرکاری ٹل کا پانی ہے اور اس کی فیس منجانب مسجد ادا کرنی پڑتی ہے، تو محلہ والوں کو اس میں سے پانی بھرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۱۶۰، جدید ڈبھیل ۱۴/۶۳۶)

ولا بأس أن يشرب من الحوض والبئر، ويسقى دابته، ويتوضأ منه .
(البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل فی أحكام المسجد زکریا ۵/۴۲۷، کوئٹہ ۵/۲۵۵)
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۷۹/۲۸)

مسجد کا لوٹا لیکر مدرسہ میں وضو کرنا

سوال: [۸۰۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا لوٹا لیکر مدرسہ میں وضو کرنا اور پانی پینا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: اشرف الحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد و مدرسہ دونوں کے ذمہ دار الگ الگ ہیں اور دونوں کا چندہ بھی الگ الگ آتا ہے، تو مسجد کا لوٹا مدرسہ میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو (إلى غيره) مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف الخ. (ہندیہ، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل

الثانی فی الوقف علی المسجد زکریا قدیم ۲/۶۳، جدید ۲/۱۳، المحيط
البرہانی، المجلس العلمی بیروت ۹/۱۳۷، رقم: ۱۱۳۸۱، تاتارخانیۃ
زکریا ۸/۱۷۵، رقم: ۱۱۵۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ صفر ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۶۰۷)

مسجد میں لگے درخت کا پھل کھانا

سوال: [۸۰۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ استاذ
ذی جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم فتاویٰ رشیدیہ میں ہے کہ، جو درخت کسی نے مسجد میں
نمازیوں کے کھانے کو لگا یا ہو، اس میں سے کھانا درست ہے، مگر اس مسئلہ کے بارے
میں عالمگیری کی عبارت اس طرح ہے۔

مسجد فیہ شجرة تفاح للقوم أن یفطر بہذا التفاح قال الصدر الشہید
المختار أنه لا یباح کذا فی الذخیرة . (الہندیہ ، ۲/۴۷۷)
تاتارخانیۃ ۵/۱۸۷ اور شامی میں یہ ہے:

لو غرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد . (شامی ، باب احکام

المسجد ، ۴، کراچی / ۴۴۴)

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ نمازیوں کیلئے مسجد سے لگائے گئے درخت
کا پھل کھانا درست نہیں ہے، جس میں لگانے والے کی نیت کا کچھ تذکرہ نہیں ہے اگر فتاویٰ
رشیدیہ کے مطابق کوئی عربی جزئیہ ہو تو امید ہے کہ جو ابی خط میں رقم فرمائیں گے، اور اس
بارے میں فتویٰ کیا ہے، وہ تحریر کریں گے مذکورہ مسئلہ فتاویٰ رشیدیہ جو رجمیہ سے چھپی ہے اس
میں ۴۱۴/۲، پر مسجد کے پھل دار درخت کے حکم کے عنوان سے لکھا ہے یہ خط میں ایک ادنیٰ
شاگرد عبد السلام معمار سے لکھ رہا ہوں؟

المستفتی: عبد السلام غفرلہ، بردوان، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فتاویٰ رشیدیہ کے موافق عربی عبارت ذیل میں

درج ہے:

أما غرس فى المسجد من الأشجار المثمرة إن غرس للسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دخل المسجد من المسلمين أن يأكل منها وإن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف. (البحر الرائق، كتاب الوقف، زكريا/ ۵، ۳۴۲، كوئثه ۵/ ۲۰۵، درمختار مع الشامى، كتاب الوقف، مطلب استأجر داراً فيها اشجار كراچى ۴/ ۳۲، شامى، زكريا ۶/ ۴۸، ۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۵۵۴۳۳)

مسجد کی دیوار پر اپنے گھر کا بھیم یا لینٹر رکھنا

سوال: [۸۰۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے دھکن طرف عام راستہ ہے جو مغرب سے مشرق یا مشرق سے مغرب کو جاتا ہے، اس راستہ کے دھکن طرف رہائشی مکانات ہیں، مسجد کے بالکل پڑوس میں جو مکان ہے اس کی بالائی منزل کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ مسجد کی دیوار پر اور اپنے مکان کی دیوار پر بھیم اور لینٹر ڈال کر راستہ کو پاٹ دیا گیا ہے، اس پر دو منزلہ تعمیر کی گئی ہے، اس پر ایک عالم صاحب نے ہی جواب دیا کہ مسجد مس ذاتی تصرف کسی بھی شخص کیلئے جائز نہیں کیونکہ مساجد وقف ہوتی ہیں، مسجد کی دیوار پر دو منزلہ عمارت تعمیر ہوگئی ہے اسلئے نقصان سے بچانے کیلئے یہ راستہ اختیار کیا جائے، کہ اتنی جگہ کا مناسب کرایہ اہل محلہ اپنی صوابدید پر طے کر دیں اور اس آمد کو مسجد کے صرفہ میں استعمال کریں، تو دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کرایہ لیکر معاملہ ختم

کیا جائے تو کیا ایسا کرنا دوسری مساجد کیلئے نظیر ثابت نہیں ہوگا، دوسرے حضرات تو اس سے بہت آگے کی حدیں پار کر جائیں گے، یہاں تک کہ مسجدوں کو وہی گھروں کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے یہاں تک کہ مسجد کی دیوار پر سے اس کے بھیم اور لینٹر کو ہٹایا جائے؟

المستفتی: جمیل احمد قاسمی، بازار پہاڑ
دروازہ، قصبہ نگینہ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی دیوار پر کسی شخص کو بھی اپنے گھر کا بھیم یا لینٹر رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جو دو منزلہ عمارت مسجد کی دیوار پر بنائی گئی ہے اس کا کرایہ بھی اہل مسجد کو لینا جائز نہیں ہے، بلکہ اس دو منزلہ عمارت کو فوراً توڑ کر وہاں سے بھیم اور لینٹر الگ کر لیا جائے، ورنہ سخت گنہگار ہوں گے۔

فیجب ہدمہ ولو علی جدار المسجد ولا یجوز أخذ الأجرة منه.
(الدر المحتار مع رد المحتار، کتاب الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد کراچی
۳۵۸/۴، زکریا ۶/۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹۶/۱۲)

و به علم حکم ما یصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوعه علی
جداره فإنه لا یحل ولو دفع الأجرة. (شامی، کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸)
ولا یوضع الجذع علی جدار المسجد وإن کان من أوقافه.
(البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل ومن بنی مسجداً لم یزل ملکہ زکریا ۵/۱۹،
کوئٹہ ۵/۲۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۲/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
یکم رجب الثانی ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۹۷۴)

۱۲/ الفصل الثانی عشر: مسجد کی رقم کا دوسری جگہ استعمال

مسجد کا سامان عید گاہ کیلئے استعمال کرنے کا حکم

سوال: [۸۰۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد و عید گاہ کی انتظامیہ کا آمد و صرف علیحدہ ہونے کی صورت میں مسجد کی صفیں لوٹا و مانگ وغیرہ جملہ سامان عیدین کی نماز کیلئے عید گاہ لیجانے کا کیا حکم ہے، جبکہ عید گاہ کے قیام سے ہی ایسا ہوتا آرہا ہے، اگر درست نہیں ہے، تو کیا مسجد کی انتظامیہ عاریتہ یا واجبی اجرت پر مذکورہ بالا سامان دے سکتی ہے، حالانکہ اجرت پر دینے کا رواج نہیں ہے؟

المستفتی: حمید الرحمن، ساکن رسول پور، کھیری لکھیم پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی دریاں لوٹا، مانگ، جملہ سامان عیدین کی نماز کیلئے عید گاہ لیجانا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ مسجد کی انتظامیہ یہ سب سامان کرایہ پر دے سکتی ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۳/۱۰۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۸۰، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۲۰۴، ۱۵/۲۳۶، جدید ۱۴/۶۲۳، ۶۵۳)

متولی الوقف إذا أسکن رجلاً بغير أجر ذكر هلال أنه لاشئى على الساكن وعامة المتأخرين من المشائخ أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أولم تكن . (التاتارخانية، زکریا ۸/۷۰، رقم: ۱۱۲۳۹، ہندیہ، کتاب الوقف، الباب الخامس فی ولاية الوقف الخ، زکریا قدیم ۲/۴۲۰، جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۷/۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۲ھ/۷/۷

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰۳۵/۷)

مسجد کی چیزیں عید گاہ یا دیگر دینی امور میں استعمال کرنا

سوال: [۸۰۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے فرش مانک وغیرہ عید گاہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دیگر دینی امور میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد یونس علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے فرش، مانک وغیرہ عید گاہ اور دوسرے امور دینیہ میں استعمال کرنا واقف کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، ہاں البتہ کرایہ دیکر گنجائش ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۰۸/۳، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۸۰)

لايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أولا. (رد المحتار، کتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره كراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۱، خلاصۃ الفتاویٰ اشرفیہ دیوبند ۴/۴۲۴)

لا تجوز اجارة الوقف إلا بأجر المثل. (الهنديہ، الباب الخامس فی ولاية الوقف الخ، زکریا قدیم ۲/۱۹۴، جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۱۳/۲/۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۶۲۵)

مسجد کے نام پر چندہ کر کے مدرسہ کے اساتذہ کو تنخواہ دینا

سوال: [۸۰۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا مسجد کے نام پر چندہ کر کے اس سے مدرسہ کے اساتذہ کو تنخواہ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ دلائل سے

وضاحت فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتی: نور الامین، بردوان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے نام پر چندہ کر کے اس پیسے سے مدرسہ کے اساتذہ کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن امام و مؤذن کی تنخواہ مسجد ہی کے اخراجات میں شامل ہے، اس لئے امام و مؤذن کی تنخواہ دینا جائز ہے، ہاں البتہ اگر مسجد کے زیر انتظام مکتب چلتا ہے، تو مکتب کا سارا خرچہ مسجد ہی کے ضمن میں آتا ہے، اس لئے مکتب کے استاذ کی تنخواہ مسجد کے اخراجات میں شامل ہونے کی وجہ سے مسجد کے فنڈ سے دینا جائز ہے۔

قال الخیر الرملى: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزليين: أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتاوى . (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوه زکریا دیوبند ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، ۳۶۱)

أى مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام الجامع . (شامی، کتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، کراچی ۴/۳۶۷، زکریا دیوبند ۶/۵۶۱) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۵/۱۴۳۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۴۰۳۸/۴۱)

مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: [۸۰۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا مسجد کے نام پر چندہ کر کے مدرسہ کی ضروریات میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے صریح جزئیات نقل فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: نور الامین، بردوان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مدرسہ کے نام سے چندہ کر کے مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر مسجد کے زیر انتظام مسجد ہی میں مکتب بھی چلتا ہے، تو مکتب کا خرچہ مسجد کے پیسے سے چلانا جائز ہے، اس لئے کہ مکتب مسجد کے ضمن میں ذیلی طور پر چلتا ہے، مستقل نہیں ہے، اسی طرح مدرسہ کے زیر انتظام مدرسہ ہی کی مسجد بھی ہے، تو مدرسہ کے چندہ کے پیسے سے مسجد کا خرچ چلانا بھی جائز ہے، اس لئے کہ مسجد مدرسہ کے ضمن میں شامل ہے، مستقل الگ سے نہیں ہے، اور اس طرح کا معاملہ مسلمانوں میں رائج اور متعارف ہے۔

قال الخیر الرملی: أقول: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف

منزلین: أحدهما للسكنی والآخر للاستغلال فلا یصرف أحدهما للآخر

وهی واقعة الفتاویٰ . (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوه

زکریا دیوبند ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۰، ۳۶۱)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص . (عقود رسم المفتی، دارالکتاب

دیوبند/۵۳، قواعد الفقہ، اشرفی/۷۴، رقم: ۱۰۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۵/۱۴۳۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۴۰۴۰/۴۱)

مسجد کے نام سے چندہ کر کے مدرسہ میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: [۸۰۰۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ایک مسجد مدرسہ کے ضمن میں ہے جیسا کہ شاہی مسجد، مدنی مسجد، تو اب سوال یہ ہے کہ اس

مسجد کے نام پر چندہ کر کے اس پیسے کو مدرسہ میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر اس مدرسہ

کا کوئی مدرس اس مسجد کے نام پر چندہ کر کے حاصل شدہ رقم سے اپنی تنخواہ وصول کر لے تو

اس طرح مسجد کے نام پر چندہ شدہ رقم سے تنخواہ لینا مدرس کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ جب مدرس صاحب اس پیسے سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، تو وہ پیسے مدرسہ میں بالکل جمع نہیں کرتے؟

المستفتی: محمد عبدالستار، چلپائی گوڑی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مدرسہ کے ماتحت اور اس کی زمین میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، آمدنی اور خرچ کے اعتبار سے وہ مدرسہ کے تابع ہوتی ہے، اس کے خرچہ اور اخراجات کے لئے الگ سے چندہ کر کے ضرورت پوری کی جاسکتی ہے، اور اس کی گنجائش ہے، کہ مدرسہ کے نام سے جو چندہ آتا ہے، اس کے ذریعہ اس مسجد کی ضروریات پوری کی جائیں اسی طرح جو مدرسہ سے اور مکتب کسی مسجد کے ضمن اور ماتحت میں چلتے ہوں، اس کا خرچہ اور اخراجات مسجد کی آمدنی کے ذریعہ سے پورا کرنا جائز ہے، لیکن چندہ کرنے والے کے لئے چندہ کا پیسہ دفتر میں یا ذمہ دار کے پاس جمع کئے بغیر اپنے طور پر اس میں سے اپنی تنخواہ وصول کر لینا اس کیلئے جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ پہلے دفتر یا ذمہ دار کے پاس جمع کر دے، اس کے بعد اپنا مشاہرہ وصول کرے۔

والذی یبدأ بہ من ارتفاع الوقف: ای من غلتہ - عمارتہ شرط
الواقف أولاً، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد
والمدرس للمدرسة یصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط
كذلك إلى آخر المصالح. (شامی، كتاب الوقف، مطلب: یبدأ بعد العمارة بما
هو أقرب إليها، زکریا ۶/۵۶۰، کراچی ۳/۳۶۷، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۳۶۸، جدید
۲/۳۵۶، البحر الرائق، زکریا ۵/۳۵۶، کوئٹہ ۵/۲۱۳)

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان
فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع

إلیٰ غیرہ . (شامی، الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاءً، زکریا ۳/۱۸۹، کراچی ۲/۲۶۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۰۹۷/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۶/۱۷ھ

مسجد کی مد سے مدرس کی تنخواہ دینا

سوال: [۸۰۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا مدرس کو جو امامت بھی کرتا ہو اور امامت کی اجرت نہ لیتا ہو مسجد کی مد سے مدرس کی تنخواہ دی جاتی ہے جبکہ چندہ مسجد کے نام سے ہوتا ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد ریحان، اسرائیل، کالا گڈھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مدرس کو مدرسہ کی تنخواہ مسجد کے مد سے دینا اس وقت درست ہے جبکہ مدرسہ مسجد کے نظام کے تحت چلتا ہو یا مسجد مدرسہ کے نظام کے تحت چلتی ہو اور دونوں کا نظام ایک ہی ذمہ دار کے ماتحت ہو۔

ويبدأ من غلته بعمارة ثم ما هو أقرب لعمارة المسجد ومدرس مدرسة يعطون ، وفي الشامية: ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة . (الدرالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها كراچی ۴/۳۶۷، زکریا ۶/۵۶۰)

الذی یبدأ من ریع الوقف عمارتہ ، شرط الواقف أم لا ، ثم إلى ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة . (ہندیہ، الباب الثالث فی المصارف زکریا قدیم ۲/۳۶۸، جدید ۲/۳۵۶، البحر الرائق،

زکریا ۵/۳۵۶، کوئٹہ ۵/۲۱۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/۱۲۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۹۵۰)

مسجد کی دوکانوں کی آمدنی مدرسہ کی تعمیر میں لگانا

سوال: [۸۰۱۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین جو مدرسہ و مسجد کے نام وقف ہے، اسی زمین میں مدرسہ ہے اور اسی زمین میں مسجد ہے، مسجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں، مدرسہ میں بھی وہی امام بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور تنخواہ مسجد ہی سے دی جاتی ہے، اسی زمین میں مسجد کی دوکانیں ہیں، جس کا کرایہ آتا ہے، تو کیا ان دوکانوں کی آمدنی سے اس مدرسہ کی از سر نو تعمیر کرنا جائز ہے، جبکہ اس مدرسہ کا تعلق مسجد ہی سے ہے؟

المستفتی: محمد تسلیم راہینی، محمد وسیم قاسمی، بازار کلاں، قصبہ منڈوار، ضلع: بجنور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مدرسہ و مسجد دونوں کیلئے مخلوط طور پر وقف کیا ہے، تو دوکانوں کی آمدنی میں سے مدرسہ میں بھی اور مسجد میں بھی اور دونوں کی تعمیر میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اسلئے کہ یہ غرض واقف کے خلاف نہیں ہے۔

انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی،

کتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، زکریا ۶/۶۶۵، کراچی

۴/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/شوال ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۰۱۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹/۱۰/۱۴۱۷ھ

مسجد کی آمدنی دارالافتاء و مدرسہ کے مصارف میں لگانا

سوال: [۸۰۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: ہمارے یہاں ایک مسجد میں دارالافتاء قائم ہے، جس میں مفتی صاحب کی تنخواہ مسجد ہی کی آمدنی سے دی جاتی ہے، نیز اگر کتابیں خریدنے کی ضرورت ہو تو کتابیں بھی مسجد ہی کی آمدنی سے خریدی جاتی ہیں، الغرض دارالافتاء کے تمام مصارف، مسجد کی آمدنی سے ادا ہوتے ہیں، تو اس طرح مسجد کی آمدنی سے دارالافتاء کے مصارف ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ واضح ہو کہ دارالافتاء مسجد ہی کے تابع ہے، نیز مسجد کی آمدنی اتنی ہے کہ ان مصارف کا مسجد پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے؟

نیز مسجد میں مدرسہ بھی چلتا ہے، فی الحال تو مدرسین کی تنخواہ چندہ وصول کر کے ادا کی جاتی ہے، مسجد والے چاہتے ہیں، کہ مدرسین کی تنخواہ مسجد کی آمدنی سے ہی دی جائے مدرسہ مسجد ہی کے تابع ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد زبیر مظاہری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دارالافتاء اور مدرسہ دونوں مسجد ہی کے تابع ہیں، اور مسجد ہی کے خرچہ سے دارالافتاء اور مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور سب چیزوں کا ذمہ دار فرد واحد ایک ہی شخص ہے یا سب چیزوں کی ذمہ دار مسجد کی کمیٹی ہی ہے، اور مسجد ہی کی رسید سے سب کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، اور الگ رسید کے ذریعہ سے الگ الگ چندہ کا انتظام نہیں ہے، اور مسجد کے الگ ذمہ دار یا دارالافتاء کے الگ ذمہ دار نہیں ہیں، اور چندہ وغیرہ بھی صرف مسجد ہی کے نام سے ہوتا ہے، اور اسی سے سب کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور اکثر چندہ دہندگان کو اس کا علم بھی ہے، کہ بجانب مسجد، مسجد اور دارالافتاء اور مدرسہ کے سب کا خرچہ چلتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ دارالافتاء مسجد سے الگ ہے اور نہ ہی مدرسہ مسجد سے

الگ ہے، سب چیزوں کی آمدنی اور خرچہ مشترک طور پر جائز اور درست ہے ہاں البتہ اگر دارالافتاء کے ذمہ دار مسجد سے الگ ہیں، یا مدرسہ چلانے کا ذمہ دار مسجد سے الگ کوئی دوسرا ہے یا دارالافتاء یا مدرسہ کی رسیدیں مسجد سے الگ الگ ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد کی آمدنی سے دارالافتاء اور مدرسہ کا خرچہ درست نہیں ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ/۷۶، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۸/۸، جدید ڈائجیل ۱۵/۵۳)

اتّحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه : لانهما حينئذ كشيئ واحد وفي الشامية: لأن غرضه إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجد کراچی ۴/۳۶۰، زکریا ۶/۵۵۱)

أما إذا اختلفت الواقف أو اتحدت الواقف واختلفت الجهة ، بأن بنى مدرسة ومسجداً ، وعين لكل وقفاً ، وفضل من غلة أحدهما ، لا يبدل شرط الواقف ، وكذا إذا اختلفت الواقف لالجهة ، يتبع شرط الواقف ، وقد علم بهذا التقرير أعمال الغلتين إحياء للوقف ورعاية شرط الواقف ، هذا هو الحاصل من الفتاوى ، وقد علم أنه لا يجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر. (البحر الرائق، كوثه ۵/۲۱۶، زکریا ۵/۳۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۶/۱۴۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۳۹/۳۸)

مسجد کے فنڈ سے افطار کا انتظام کرنا

سوال: [۸۰۱۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رمضان

شریف میں مسجد کے مصلیوں کیلئے مسجد کے فنڈ سے افطار کا انتظام کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

در صورت مذکورہ افطار کا بندوبست کس طرح ہونا چاہئے؟

المستفتی: مسیح الرحمن قاسمی، ۲۴ پرگنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے فنڈ کو مسجد کی ضروریات میں ہی استعمال

کرنا ضروری ہے، اسکے خلاف کرنیکی صورت میں منظمہ کمیٹی پر ضمان واجب ہوگا۔

أهل المسجد تصرفوا، في أوقاف المسجد.....! لا يصح

تصرفهم . (ہندیہ کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی زکریا

قدیم ۲/۶۳، جدید ۲/۴۱۴)

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامی، کتاب الوقف،

مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵)

ہاں اگر کمیٹی اور محلہ والوں کی طرف سے آپس کے مشورہ سے یہ بات طے ہو جاتی

ہے، کہ افطار و ضیافت کا ایک فنڈ مقرر کر لیا جائے، اور لوگ بخوشی اسی فنڈ میں چندہ دیدیں تو

اس پیسے سے افطاری کا نظم کرنا جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰ھ/۲۵

۱۴۲۰ھ/۲۵

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۱/۳۳)

مسجد یا مدرسہ کی رقم ذاتی تجارت میں لگانا

سوال: [۸۰۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک

امام مسجد نے دو ہزار روپے مسجد کی جمع میں سے اٹھائے اور ان سے سامان خرید ا اور ایک مہینہ

بعد اس سامان کو بیچ دیا جس سے ۵۰ روپے نفع ہوا، اور ایک مہینہ بعد مسجد کی رقم پھر مسجد کی جمع

میں رکھ دی، دریافت طلب امر یہ ہے کہ امام مسجد کیلئے وہ نفع استعمال کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: رئیس احمد، قصبہ: منگور،

محلہ پٹھان پورہ، ضلع: ہری دوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد یا مدرسہ کی رقم امانت ہوتی ہے، ذمہ دار کیلئے اس رقم سے اپنی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، یہ سخت خیانت ہے اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوگا۔
(مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم/۵۳۳، جدید زکریا/۵۱۳)

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی علیہ وسلم قال: آیۃ المنافق ثلاث: إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. (صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب علامۃ المنافق ۱/۱۰، رقم: ۳۳)

ومقتضی ما قالہ أبو السعود أنه یقبل قوله فی حق براءۃ نفسه، لا فی حق صاحب الوظیفۃ، لأنه أمين فیما فی یدہ، فیلزم الضمان فی الوقف، لأنه عامل له، وفیہ ضرر بالوقف. (شامی، کتاب الوقف، مطلب إذا کان الناظر مفسداً لا یقبل قوله کراچی ۴/۴۹۹، زکریا ۶/۶۷۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ رذی الحج ۱۴۱۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۵۲۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۱۲/۲۱ھ

مسجد یا مدرسہ کی رقم سے کاروبار کرنا یا قرض دینا

سوال: [۸۰۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے پاس مسجد اور مدرسہ کی رقم ہے کیا اس رقم کو کسی کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیز اس میں سے کسی کو قرض دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مدرسہ یا مسجد ضرورت مند ہو تو اس رقم سے اس کا تعاون کر دیں تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: مولانا عبدالناصر، مدرس:

مدرسہ ہذا، محلہ: لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد یا مدرسہ کی رقم کو کاروبار میں لگانا جائز نہیں اگر لگا دیا تو لگانے والا ذمہ دار ضامن ہوگا، نقصان کی تلافی اپنی جیب سے کریگا، اور جو نفع ہوگا وہ مسجد یا مدرسہ کو ملے گا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۶۶۳، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۲۸۸)

ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه، لا في حق صاحب الوظيفة، لأنه أمين فيما في يده، فيلزم الضمان في الوقف، لأنه عامل له، وفيه ضرر بالوقف. (شامی، کتاب الوقف، مطلب إذا كان الناظر مفسداً لا يقبل قوله كراجی ۴/۴۹۹، زکریا ۶/۶۷۰)

نیز مسجد یا مدرسہ کی رقم کسی خاص شخص کو بطور قرض دینا جائز نہیں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۴۱۷، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۶/۱۰۷، جدید ڈائجیل ۱۵/۵۰۳)

وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكة، والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئاً منها ضمن. (هندیہ، کتاب الوديعة زکریا قدیم ۴/۳۳۸، جدید ۴/۳۴۹، البحر ائق، کوئٹہ ۷/۲۷۵، زکریا ۷/۴۶۷)

نیز مسجد یا مدرسہ کی رقم دوسری ضرورت مند مسجد یا مدرسہ کو بطور قرض دینے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۲/۱۷۸، جدید زکریا ۹/۸۸، ۸۹)

اور تعاون اس وقت کرنے کی گنجائش ہے کہ جب تعاون کرنے والی مسجد یا مدرسہ کو اس رقم کی کبھی بھی ضرورت نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۲۸۳، جدید ڈائجیل ۱۵/۴۸)

يجب عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتاً يخصه ولا يخلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج إلى مصرف خزانة، وليس فيها ما يفي به، يستقرض من خزانة غيرها، ثم إذا حصل للتي استقرض لها مال، يُرد إلى

المستقرض . (شامی، کتاب الزکاة، باب العشر، مطلب فی بیان بیوت المال، کراچی ۳۳۷/۲، زکریا ۳/۲۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۰/۲/۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۱۳۱۷)

مسجد کی رقم سے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس مسجد کو دینا

سوال: [۸۰۱۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دوست اپنے محلہ کی مسجد کے لئے کچھ روپیہ چندہ اکٹھا کر کے لائے اس رقم میں سے ہم نے ۵۰ روپیہ لے لئے تھے، اب ہم اس رقم کو (یعنی ۵۰ روپیہ) کو مسجد کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ رقم مسجد کو کس طرح ادا کریں، آپ کی عین نوازش ہوگی؟ اور آپ ہمارے اس گناہ کے لئے خدا سے بھی دعاء کریں کہ خدائے پاک ہمیں اس غلطی کے لئے معاف فرمائیں؟

المستفتی: محمد عارف مین تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر دونوں پچاس، پچاس روپیہ مسجد کو ادا کر دیں گے، تو ادا ہو جائیگا، اور مسجد کا کوئی حق آپ دونوں کے ذمہ باقی نہیں رہیگا!

ولو جمع مالاً لینیفقہ فی بناء المسجد فأنفق بعضہ فی حاجتہ ثم رد بدلہ فی نفقة المسجد لایسعه أن یفعل ذلك فإذا فعله (إلی قوله) قالوا شرح حوالہ فی الاستحسان الجواز إذا أنفق مثله فی المسجد ویخرج عن العہدة فیما بینہ وبين اللہ تعالیٰ . (البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل ومن بنی مسجداً لم یزل ملکہ کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۰، فتاویٰ قاضی خان جدید زکریا ۳/۲۰۹،

وعلیٰ ہامش الہندیہ زکریا ۳/۲۹۹، تاتار خانیہ زکریا ۸/۱۹۸، رقم: ۱۱۶۲۹)

البتہ کی ہوئی خیانت پر ندامت سے توبہ کر لینی چاہئے۔

قال الله تعالى: 'إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.' (النساء: ۱۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ / رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۳۵/۲۵)

مسجد کا پیسہ ذاتی معاملات کیلئے بطور قرض دینا

سوال: [۸۰۱۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی آمدنی سے کسی شخص کو اپنے ذاتی معاملات کیلئے قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد سردار، بمبئی، لیٹنگ، کیلو، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کی پوری کمیٹی کی اجازت سے ایسے مالدار شخص کو بطور قرض کے مسجد کی ضرورت سے فاضل رقم دی جائے، جو امانت دار قابل اطمینان ہوتو اسکی گنجائش ہوگی۔

یقرض القاضی مال الوقف والغائب واللقطة والیتیم من ملئ مؤتمن
وتحتہ فی الشامی، یسع للمتولی إقراض مافضل من غلة الوقف لو أحرز.

(الدر المختار مع الشامی، کتاب القضاء، مطلب للقاضی اقراض مال الیتیم، ونحوہ

کراچی ۵/ ۱۷/ ۴، زکریا ۸۱۰/ ۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ / صفر ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۶۲۳/۲۵)

مسجد کی رقم کسی کو بطور قرض دینا

سوال: [۸۰۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا کوئی شخص مسجد کی لمبی رقم کو اس حالت میں جبکہ مسجد خود مقروض ہو اپنے ایسے دوست کو دے جس سے مسجد کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو یہ عمل شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عقیل احمد، فروز آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی رقم لمبی ہو یا مختصر مسجد کی ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد کیلئے کسی دوسرے شخص کو قرضہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔

مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد فلو أقرضه ضمن ،

وكذا المستقرض . (البحر الرائق، كتاب الوقف، زكريا ۵/ ۴۰۱، كوئٹہ ۵/ ۲۳۹)

اور جو شخص مسجد کی رقم کو اس طرح مالکانہ طور پر جس کو چاہے جہاں چاہے دیتا ہو ایسا آدمی شرعاً مسجد کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، محلہ کے سب لوگوں کو مل کر ایسے شخص کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دینا چاہئے۔

ولو شرط الولاية لنفسه وكان خائناً تنزع منه وإن شرط الواقف أن

لاتنزع لأنه مخالف للحكم الشرعي فيبطل . (مجمع الانهر، كتاب الوقف،

فصل إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه، دارالكتب العلمية بيروت ۲/ ۶۰۲)

فاستفيد منه أنه إذا تصرف بما لا يجوز كان خائناً يستحق العزل .

(البحر الرائق، كتاب الوقف كوئٹہ ۵/ ۲۳۴، زكريا ۵/ ۳۹۲) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴/ ۱۲۳۳ھ

۱۲۳۳/ ۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۱۵/۲۰)

تبلیغی جماعت والوں کیلئے مسجد کے فنڈ سے بیت الخلاء بنانا

سوال: [۸۰۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے فنڈ سے تبلیغی جماعت والوں کیلئے بیت الخلاء و پیشاب گھر بنائے جاسکتے ہیں یا نہیں؟
المستفتی: عطاء الرحمن، کوری روانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے فنڈ سے محض تبلیغی جماعت والوں کیلئے بیت الخلاء اور پیشاب گھر بنانا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے، کہ اس کام کیلئے الگ سے چندہ جمع کیا جائے پھر اسی پیسہ سے مذکورہ چیزوں کی تعمیر کی جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۱۶۶، ڈا بھیل ۱۴/۳۱۵)

لایجوز صرف وقف مسجد خرب الیٰ حوض و عکسہ . (شلمی، کتاب الوقف، مطلب فیما لو خرب لمسجد کراچی ۴/۳۵۹، زکریا ۶/۵۴۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۳۲۸/۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۴/۱۴۲۵ھ

مسجد کی رقم سے سرٹھکیں بنانا

سوال: [۸۰۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے روپے سے مسجد میں بیت الخلاء، غسل خانہ، مسجد میں آمدورفت کی سہولت کیلئے سرٹھکیں بنانا، یا پرانی بنی ہوئی سڑک کی مرمت کرانا، اسی طرح لوگوں کی راحت رسائی کیلئے مسجد کے آگے پارک بنانا، یا مسجد کے احاطہ میں پھول وغیرہ درخت خرید کر لگانا، از روئے شریعت کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل تشفی بخش جواب تحریر فرمائیں؟
المستفتی: حفیظ الحق، گڈاوی، معلم مدرسہ ہذا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے پیسے سے مسجد میں بیت الخلاء غسل خانہ وغیرہ بنانا تو جائز ہے، تاکہ وقت بوقت نمازیوں کی ضرورت پوری ہو سکے، البتہ مسجد کے پیسے سے سڑکیں بنانا یا ان کی مرمت کرانا، نیز پارک وغیرہ بنانا شرعاً جائز نہیں، ایسی چیزوں کی ضروریات باہمی تعاون سے پوری کی جائیں۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۵/۲۲۶، جدید ڈائجیل ۱۵/۶۱)

إن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح. (عالمگیری، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد زکریا قدیم ۲/۴۵۷، جدید زکریا دیوبند ۲/۴۰۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۲۹/۳۵)

مسجد کے پیسے سے عام راستے کی نالی بنوانا

سوال: [۸۰۲۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کاپانی عام راستے کے کنارے بہتا ہے، مگر چونکہ نالی پختہ نہیں ہے، اسلئے کوڑے کباڑے میں رکتا ہے جس سے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور مسجد کے متصل آباد لوگوں کو بھی سخت دشواری کا سامنا ہے، اگر مسجد کے پیسے سے نالی بنا کر دور پہنچایا جائے تو اسکی اجازت ہے یا نہیں؟
المستفتی: عبدالرحیم، بڈبڈوی عفی عنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہندیہ میں ہے: إن أرادوا أن يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح. (ہندیہ، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد زکریا قدیم ۲/۴۵۷، جدید ۲/۴۰۹)

جیسا کہ اس عبارت سے مسجد کی زمین میں لوگوں کیلئے عام گزرگاہ بنانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح مسجد کے پیسے سے نالی بنانا بھی ممنوع ہے ہاں البتہ نالی بنانے کیلئے لوگوں سے الگ سے چندہ کیا جاسکتا ہے، پھر اس چندہ کے پیسے سے نالی بنا کر دور تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۶۲۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۲۶ھ

مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چارپائی و تختہ وغیرہ خریدنا

سوال: [۸۰۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کیلئے جو پیسے گاؤں ہی سے چندہ کرتے ہیں، گاؤں والوں کے مشورہ سے وہی پیسہ امام و مؤذن مسجد کی دیگر ضروریات بیت الخلاء وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی مسجد کے پیسے سے گاؤں والوں کے ہی مشورہ سے جنازہ کی چارپائی اور نہلانے کا تختہ بھی خرید لیتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا چندہ دہندگان کی اجازت سے مسجد کے پیسے سے جنازہ کی چارپائی و تختہ وغیرہ خرید سکتے ہیں، جبکہ یہ سب سامان مسجد ہی کے کمرہ میں رکھا رہتا ہے؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے لئے جو چندہ کیا جاتا ہے، اس کو مسجد ہی کی ضروریات میں خرچ کرنا لازم ہے، اور جنازہ کی چارپائی وغیرہ مسجد کی ضروریات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے؛ اسلئے اس کا انتظام محلہ کے لوگ اپنے ذاتی پیسے سے کریں مسجد کا پیسہ اسمیں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

الوکیل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إليه، فلا

یملك الدفع إلى غيره. (شامی، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء
کراچی ۲/۲۶۹، زکریا ۳/۱۸۹)

ولیس لقیم المسجد أن یشتری جنازة وإن ذکر الواقف أن القیم
یشتری جنازة. (ہندیہ، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی
زکریا قدیم ۲/۴۶۲، جدید ۲/۴۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۴/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/۴/۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۳۴۲)

۱۳/ الفصل الثالث عشر: مساجد کی چیزیں کرایہ پر دینے کا بیان کیا متولی اور کرایہ داروں پر معاہدہ کی پابندی لازم ہے؟

سوال: [۸۰۲۳: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سائل کی پردادی کی کچھ جائیداد تھی جس کو انھوں نے وقف علی الاولاد کر دیا اور تقریر متولی کیلئے یہ شرط رکھی کہ تاقیام نسل میری اولاد ذکور میں سے ہی متولی ہوتے رہیں گے، اسی طرح سائل اس جائیداد کا متولی ہے، واقعہ نے انتظامی امور سے متعلق جملہ اختیارات متولی کو عطا کئے ہیں، اس جائیداد میں اس وقت علی گڑھ میں کچھ مکانات اور کچھ دوکانیں اور کچھ آراضی ہے جو سب ہی کرایہ پر اٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کرایہ دار ۱۹۵۷ء سے آباد ہیں، اور کچھ اس سے پہلے کے بھی ہیں، اور کچھ اس کے بعد کے بھی ہیں، مکانوں اور دوکانوں کے جو کرایہ دار ہیں وہ اپنے زیر کرایہ داری جائیداد کی مرمت و دیکھ بھال اور اپنی آسائش اور ضرورت کے لحاظ سے رد و بدل وغیرہ اپنے صرفہ سے کرواتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے آراضی کرایہ پر لی ہے، وہ اس شرط پر ہے کہ آراضی پر اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنے صرفہ سے تعمیرات کروالیں گے، اس طرح وقف کی آراضی پر کرایہ داروں نے اپنی ضرورت کے مطابق تعمیرات کروالی ہیں، اور ان تعمیرات کی مرمت و دیکھ بھال اپنے صرفہ سے خود کرواتے رہتے ہیں؟

(۲) ۱۹۹۵ء سے پہلے وقف جائیداد پر قانون کرایہ داری کا نفاذ ہوتا تھا، جس کے تحت دوکانیں و مکانات ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے یہاں سے الارٹ ہوتے تھے، متولی کو دوکانیں و مکانات کو کرایہ پر اٹھانے یا دوکانوں مکانوں و آراضی کے کرایہ میں اضافہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، ۱۹۹۵ء میں قانون پاس کر کے وقف جائیداد کو کرایہ داری سے مستثنیٰ کر دیا گیا جس کے تحت متولی کو قانوناً وقف جائیداد کو کرایہ پر اٹھانے کرایہ دار سے خالی کرانے اور کرایہ میں اضافہ کرنے اور وقف جائیداد کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی غرض سے نئی تعمیرات کرانے کا حق حاصل ہو گیا، وقف جائیداد کے قانون کرایہ داری سے مستثنیٰ ہونے کے بعد

وقف بورڈ کی جانب سے متولیان کیلئے ہدایت جاری کی گئی کہ وقف جائیداد کے کرایہ میں موجودہ بازار در سے اضافہ کیا جائے، اور جو جو کرایہ دار موجودہ بازار در سے کرایہ میں اضافہ کرنے کیلئے تیار نہ ہو اس کو بے دخل کرنے کی کارروائی کی جائے؟

(۳) جب کرایہ داروں سے کرایہ اضافہ کرنے کیلئے کہا گیا تو کچھ کرایہ داروں نے کرایہ میں معمولی سا اضافہ کر دیا جو موجودہ بازار کا پچیس فیصدی بھی نہیں ہے، کرایہ میں اضافہ کرتے وقت جو اقرار نامہ لکھا گیا اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے، کہ کرایہ دار تین سال کے بعد اصل کرایہ میں پانچ فیصد کا اضافہ کرتا رہے گا، لیکن کچھ کرایہ دار ایسے ہیں، جو کرایہ میں معمولی سا اضافہ بھی کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں؟

(۴) اس وقت حالات یہ ہیں، جو مکان اس وقت سو روپیہ ماہوار کرایہ پر اٹھا ہوا ہے، اس کا کرایہ موجودہ بازار در سے سات آٹھ ہزاروں روپیہ ماہوار بنتا ہے اتنا کرایہ دینے کیلئے کرایہ دار تیار نہیں ہے اگر کرایہ دار کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جاتی ہے، تو عدالت میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور میں عدالتی اخراجات اور پریشانیوں کی وجہ سے عدالتی کارروائی سے بچتا ہوں؟

(۵) جن کرایہ داروں نے کرایہ میں معمولی سا اضافہ کیا ہے انھوں نے ایک اقرار نامہ لکھا ہے، جس میں کرایہ دار اور متولی کی رضا مندی سے کچھ شرائط لکھی گئی ہیں، جیسے کرایہ ماہ بمابہ ادا کروں گا، ذیلی کرایہ دار نہیں رکھوں گا، بغیر متولی اجازت کے مکان یا دوکان میں کوئی رد و بدل یا نئی تعمیرات نہیں کروں گا، جس کام کیلئے مکان یا دوکان یا آراضی کو کرایہ پر لیا ہے، صرف اسی کام کیلئے استعمال کروں گا، اور قانوناً بھی کرایہ دار مندرجہ بالا شرائط کا پابند ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس ماہ کا کرایہ ہے اسی ماہ میں ادا کروں گا، مندرجہ بالا حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں:

الف: کہ کرایہ دار جو وقف کے مکان میں رہ رہا ہے، یا کاروبار کر رہا ہے یا دوکان میں کاروبار کر رہا ہے، لیکن متولی کے طلب کرنے کے باوجود بازار در سے کرایہ نہیں دیتا، متولی

کا کہنا ہے کہ یا تو موجودہ بازار در سے کرایہ دو یا جگہ خالی کر دو تو کیا ایسی صورت میں کرایہ دار غاصب سمجھا جائے گا، اور کیا کرایہ دار عند اللہ ماخوذ ہوگا؟ اور ایسے کرایہ دار جو مکان دوکان یا آراضی پر بطور غاصب قابض ہیں، کیا اس جگہ پر ان کی نماز عند اللہ مقبول ہوگی؟

ب: مکان یا دوکان میں جو کرایہ دار آباد ہیں، انہوں نے بغیر متولی کی اجازت کے ذیلی کرایہ دار رکھ رکھے ہیں، یا جن لوگوں نے آراضی کرایہ پر لے کر مکان تعمیر کر لیا اس میں بغیر متولی کی اجازت کے ذیلی کرایہ دار رکھتے ہیں، جبکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے وقف کی زمین کرایہ پر لیکر تعمیرات کرائیں تو وہ تعمیرات وقف کی ملکیت ہو جائیں گی، ایسی صورت میں کیا ذیلی کرایہ دار رکھنا جائز ہوگا، اور کرایہ دار نے ذیلی کرایہ دار سے جو رقم بطور کرایہ وغیرہ وصول کی ہے، کیا وہ رقم کرایہ دار کیلئے حلال ہوگی؟

ج: اگر کرایہ دار ماہ ب ماہ کرایہ ادا نہیں کرتا یا ذیلی کرایہ دار رکھتا ہے یا مکان رہائش کیلئے کرایہ پر لیا تھا، اور اس میں کاروبار بھی کرتا ہے، یا دوکان جس کام کیلئے لی تھی اس کام کے بجائے یا اس کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کرتا ہے، یا متولی کی اجازت کے بغیر مکان یا دوکان میں ردو بدل یا نئی تعمیرات کرتا ہے، تو کیا کرایہ دار وعدہ خلائی کا مرتکب مانا جائے گا، اور گنہگار ہوگا؟

د: کرایہ دار مکان میں رہ رہا ہے، یا کاروبار کر رہا ہے، یا دوکان میں کاروبار کر رہا ہے، یا وقف کی آراضی کرایہ پر لیکر اپنے صرفہ سے تعمیرات کرانے کے بعد اس میں رہ رہا ہے، یا کاروبار کر رہا ہے، لیکن متولی کے طلب کرنے کے باوجود موجودہ بازار در سے کرایہ نہیں دیتا اور متولی یہ کہتا ہے، کہ یا تو موجودہ بازار در سے کرایہ دو یا جگہ خالی کر دو لیکن کرایہ دار نہ تو موجودہ بازار در سے کرایہ دیتا ہے، اور نہ جگہ خالی کرتا ہے، تو کیا اس جگہ پر کرایہ دار کا قبضہ غاصبانہ سمجھا جائے گا، اور اس جگہ پر کاروبار کر کے کرایہ دار جو پیسہ کما رہا ہے، کیا وہ پیسہ کرایہ دار کیلئے حلال ہوگا؟

ه: جن لوگوں نے وقف کی آراضی کرایہ پر لیکر اپنے صرفہ سے تعمیرات کروائیں اور قانوناً وہ تعمیرات وقف کی ملکیت ہو گئیں تو کیا وہ کرایہ دار ان تعمیرات میں بغیر متولی کی

اجازت کے رد و بدل یا نئی تعمیرات کر سکتے ہیں؟

المستفتی: محمد مجیب علی خاں، انونہ
ہاؤس، سول لائن، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ کی منتشر فائل کے منتشر سوالات کا جواب ایک ساتھ دیا جاتا ہے، سوالنامہ میں مذکورہ جن شرائط کیساتھ مقید کر کے وقف کی جائیداد کرایہ پردی گئی ہے، اور فریقین پر ان شرائط کی پابندی لازم اور واجب ہے، اور جن شرائط کے مطابق کرایہ بڑھانے کی قید لگائی گئی ہے، ان کی پابندی کرایہ دار پر لازم ہے متولی کی اجازت سے کرایہ دار کا وقف کی عمارت میں تعمیر و مرمت کرنا جائز ہے اور تعمیر و مرمت کا خرچہ کرایہ میں مجبوری ہوتا رہے گا، لہذا اگر کرایہ دار کرایہ نامہ میں لگائی گئی شرائط کی پابندی نہیں کرتا اور ضابطہ کے مطابق کرایہ نہیں بڑھاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جائیداد کو خالی کر دے اور متولی کیلئے جائز ہے کہ کرایہ دار سے خالی کرا کر اپنے قبضہ میں لے لے پھر مناسب کرایہ پر دوسرے لوگوں کو کرایہ پر دیدے اور اگر کرایہ دار کسی بھی بات پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے، تو قبضہ غاصبانہ کے مرادف ہوگا، اور گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا، اور وہاں پر نماز پڑھنا غصب کی زمین پر نماز پڑھنے کے درجہ میں ہوگا، یعنی اس کی نماز مکروہ ہوگی، حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان آپس کے معاملات میں شرائط متعین کریں اس کی پابندی لازم ہے اسی طرح جس بات پر صلح اور اتفاق کر لیں، اس کی پابندی بھی لازم ہے اور اسکی خلاف ورزی جائز نہیں ہے، حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں:

عن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. (سنن الترمذی، الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلح بین الناس ، النسخة الهندية ۱/ ۲۵۱ ، دار السلام رقم:

(۱۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ شعبان ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۳/۸۵۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۸/۱۴۲۵ھ

ذمہ داران مسجد کا کرائے دار سے ایک لاکھ روپیہ مانگنا

سوال: [۸۰۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے شہر کی جامع مسجد کی دوکانوں میں سے ایک دوکان پچیس سال قبل سے محمد اسلم نے بطور کرایہ لے رکھی ہے اسی دوکان پر محمد اسلم کی روزی روٹی زندگی کے اخراجات چلتے ہیں کچھ مہینے پہلے مسجد کے ذمہ داروں نے محمد اسلم سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور ایک لاکھ نہ دینے پر دوکان خالی کرنے کو کہا محمد اسلم نہایت ہی غریب آدمی ہے، اور ابھی قریب ہی اس کی دونوں آنکھوں کا آپریشن بھی ہوا ہے، ایک لاکھ روپے دینے کی قطعاً اس کی حیثیت نہیں ہے، محمد اسلم نے ذمہ داروں سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو دوکان کے کرایہ میں اضافہ کرنا ہو تو میں راضی ہوں، مگر میں ایک لاکھ روپے نہیں دے سکتا، بالآخر ایک دوسرا شخص ایک لاکھ روپے ذمہ داروں کو دینے پر تیار ہو گیا، اور محمد اسلم کو کہا کہ تم دوکان خالی کر دو ہم یہ دوکان دوسرے شخص کو دے رہے ہیں، محمد اسلم کے انکار کرنے پر معاملہ کورٹ میں گیا، اور کورٹ میں مسجد والوں نے حج کو ایک موٹی رقم دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، دریافت طلب امور یہ ہیں؟

(۱) حج کو رشوت کی رقم مسجد کی آمدنی سے دینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) اس طرح حج کو خرید کر اپنے حق میں کروا لیا گیا فیصلہ کیا شرعاً قابل قبول ہے؟

(۳) اس بدترین حرکت میں جاہل، خاندانی قاضی بھی ملوث ہے کیا شہر قاضی کی یہ

حرکت درست ہے؟ کیا ایسے قاضی سے نکاح پڑھوانا جائز ہے؟

(۴) اسی قاضی نے کورٹ میں کھلم کھلا جھوٹے بیان بھی دیئے اور لوگوں نے کہا کہ تم نے قاضی صاحب بہت جھوٹ بولا ہے، تو قاضی نے کہا کہ کورٹ میں تو جھوٹ ہی چلتا ہے، اسلئے میں نے بھی جھوٹ بولا قاضی کی یہ دلیل کہاں تک صحیح ہے، ایسے قاضی پر شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟

المستفتی: امام الدین جوئے، سابق صدر ضلع
وقف میٹنی کھرگون، مدھیہ پردیش

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال نامہ میں جامع مسجد کے ذمہ داروں کا محمد اسلم سے بیجا ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا اور نہ دینے کی صورت میں اس سے دوکان خالی کرانا ناجائز اور محمد اسلم پر ظلم و زیادتی ہے، اور وہ ایک لاکھ روپیہ مسجد کیلئے حلال نہ ہوگا، کیونکہ سوال نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ محمد اسلم دوکان کا برابر کرایہ ادا کرتا رہا ہے، اور کرایہ میں اضافہ کرنے پر بھی راضی ہے۔

المستاجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزكاة وتحتة في الشامية: قد علم مما قررناه أن قولهم إن المستأجر الأول أولى إنما هو فيما إذا زادت أجرة المثل في أثناء المدة قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة، وأما إذا فرغت مدته، فليس بأولى إلا إذا كان له فيها حق القرار، وهو المسمى بالکردار على ما قدمناه مبسوطاً في مسألة الأرض المحتكرة من أن له الاستبقاء بأجرة المثل دفعا للضرر عنه مع عدم الضرر على الوقف. (شامی، الوقف، مطلب مهم في معنى قولهم المستأجر الأولی، زکریا ۶/۶۱۰، کراچی ۴/۴۴۰)

(۲) مسجد کی آمدنی کورشوت میں دینا قطعاً طور پر ناجائز ہے، اور جو ذمہ دار مسجد کی آمدنی کورشوت میں خرچ کرے گا، اس کے اوپر مسجد کے اس پیسے کا تاوان لازم ہوگا۔

قال في البحر! قدمنا أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته بل

بخیانہ ظاہرہ بینہ وإن امتناعه من التعمير خيانة وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف تصرفاً جائزاً عالمياً به . (شامی، الوقف، مطلب یأثم بتولية الخائن، زکریا ۶/۵۷۸، کراچی ۴/۳۸۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۴۵، زکریا ۵/۴۱۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۶/۱۰۴)

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرثي .
(ترمذی شریف، باب ماجاء فی الراشي والمرثي فی الحكم، النسخة الهندية ۱/۲۴۸، دارالسلام رقم: ۱۳۳۷)

(۳) حج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا شرعاً ناجائز ہے۔

الرشوة أربعة أقسام منها ما هو حرام على الآخذ والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء والأمانة والثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق وفي الخانية: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاءه فيما ارتشى فيه قلت حكاية الإجماع منقوضة بما اختاره البزدوى واستحسنه في الفتح وينبغي اعتمادها للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن لأنه لا تخلوا قضية عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم وبعده فيلزم تعطيل الأحكام . (شامی، القضاء، مطلب فی الكلام على الرشوة والهداية، زکریا ۸/۳۴، ۳۵، کراچی ۵/۳۶۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲/۲۲۲، النهر الفائق، دارالکتب العلمية بیروت ۳/۵۹۸، فتح القدير، دارالفکر حلی مصر ۷/۳۵۴، زکریا دیوبند ۷/۲۳۶، کوئٹہ ۵/۳۵۸)

(۴-۵) ایسا قاضی جو عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے وہ مرتکب کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اور قاضی کا یہ کہنا کہ عدالت میں تو جھوٹ ہی چلتا ہے، بے اصل ہے، شریعت نے نکاح میں بہت سہولت رکھی ہے، چنانچہ فاسق کی گواہی کے ساتھ اور فاسق نکاح خواں کے ذریعہ سے بھی نکاح شرعاً درست ہو جاتا ہے، لہذا مذکورہ قاضی کے فاسق

ہونے کے باوجود اس کا نکاح پڑھانا جائز اور درست ہوگا، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ تنج شریعت عالم دین کے ذریعہ سے ہی نکاح پڑھوایا جائے۔

والفاسق من فعل کبیرة أو أصر علی صغیرة . (شامی، کتاب الشہادات ، باب القبول وعدمہ زکریا ۸/۲۰۴، کراچی ۵/۸۳۰)

ویندب إعلانہ وتقدیم خطبته وكونه فی مسجد یوم جمعة بعاقده رشید وشہود عدول . (شامی، زکریا ۴/۶۶، کراچی ۸/۳، الموسوعة الفقہیة الکویتیة ۱/۲۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۶۰۴/۳۹)

موقوفہ کرایہ کی دوکان میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی

سوال: [۸۰۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حکیم

یامین حسین خان کے دو بیٹے ہیں۔

(۱) نسیم حسین۔

(۲) تسلیم حسین۔ نسیم حسین خاں والد کی وفات سے ۲۶/۲۷ سال قبل الگ ہو گئے

تھے، وہ اپنا الگ کاروبار کر رہے تھے، تسلیم حسین خاں والد صاحب کے ساتھ رہے، اور باپ کی تحویل میں کرایہ کی دوکانیں تھیں، ایک دوکان وقف کی جائیداد کی جو کہ سرکاری قانون کے اعتبار سے متولی جب چاہے خالی کرا سکتا ہے، اور دوسری دوکان باضابطہ قانون کے مطابق کرایہ داری کی نہیں اور اس دوکان کے کرایہ کی کوئی سند بھی نہیں صرف زبانی اور تعلقات کے کرایہ کی ہے، اس دوکان کے خالی کرانے میں کرایہ دار کو کچھ نہیں مل سکتا اور نسیم حسین کے پاس کاروبار کیلئے ذاتی دوکان ہے اب والد کی وفات کے بعد کرایہ کی مذکورہ دونوں دوکانیں تسلیم حسین کے پاس آ گئی ہیں، مگر تسلیم حسین کا کہنا ہے کہ ایک دوکان شرع کی رو سے مجھے بھی ملنی

چاہئے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کرایہ کی دوکان میں کیا وراثت کا تعلق ہو سکتا ہے؟
المستفتی: حکیم تسلیم حسین، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وقف کی جائیداد کی دوکان کرایہ پر لینے سے ملکیت میں نہیں آتی کیونکہ موقوفہ زمین میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی نیز آجکل حکومت ہند کا قانون بھی یہی ہے کہ اوقاف کی جائیداد جو کرایہ پر ہے، ذمہ داران وقف اسے خالی بھی کرا سکتے ہیں، اور مناسب کرایہ بھی بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح جو دوکان غیر ضابطہ کرایہ پر ہے جس کی قانونی رسید وغیرہ نہیں ملتی ہے، ایسی دکانوں کے خالی کرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی پگڑی وغیرہ دینی پڑتی ہے، اور نہ ہی کرایہ دار کو پگڑی ملتی ہے، کرایہ دار کی جو اولاد مالک کو کرایہ ادا کرتی چلی آ رہی ہے، وہی پگڑی سچھی جاتی ہے، اور اس میں شریعت کی رو سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لہذا کرایہ دار کی دوسری اولاد کو اسمیں اپنے حق وراثت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ شریعت کی رو سے وراثت مرحوم کی ملکیت میں جاری ہوتی ہے، اور یہ دکانیں مرحوم کی ملکیت کی نہیں ہیں۔

إن الأجرة عندنا تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع
 شيئاً فشيئاً، وإن كان كذلك في ما يحدث من المنافع في يد الوارث لم
 يملكها المورث لعدمها، والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها
 الوارث إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك المورث فما لم يملكه
 يستحيل وراثته بخلاف بيع العين. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، باب ما يتهيأ به

عقد الإجارة زكريا ۹۰/۴، کراچی ۲۰۲۲/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۲/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۱۲۵)

مسجد کی آراضی کو کرایہ دار سے خالی کرانا

سوال: [۸۰۲۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد موقوفہ سے ملحق ایک آراضی افتادہ موقوفہ مسجد مذکور کے متعلق ایک کرایہ دار کو عرصہ بیس سال کا ہوا کرایہ پر اس شرط کیساتھ دی گئی تھی، کہ وہ اپنے خرچ سے اس میں اپنا موٹر گیرج برائے مرمت وغیرہ تعمیر کر کے اپنے تصرف میں لاوے، اور جو کچھ تعمیر میں خرچ ہوگا، وہ کرایہ میں مجرا ہو جائے گا، خرچہ تعمیر گیرج بعد حساب نہی کرایہ میں مجری ہو چکا ہے، اور کرایہ بھی دو گنا مقرر کر دیا گیا ہے، اب مسجد کی توسیع کیلئے موٹر گیرج کی آراضی میں سے کچھ آراضی اپنی زیر تعمیر مسجد کیلئے ضرورت درپیش ہے، کرایہ دار سے کہا گیا، تو وہ کرایہ دار نصف آراضی اپنی زیر کرایہ داری میں سے دینے کو تیار ہے۔

(۱) کہ میں یا میرے وارثان و قائم مقامان ہی موجودہ کرایہ بدستور دیتے رہا کریں گے؟
 (۲) متولی کو بھی کسی وقت میں کرایہ کے اضافہ کرنیکا کوئی حق نہ ہوگا؟
 (۳) اگر میں یا میرے وارثان یا قائم مقامان کسی دوسرے شخص یا پارٹی کی شرکت میں کوئی دیگر کام کرنا چاہیں گے تو متولی کو اعتراض نہ ہوگا، یہاں پر یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ کرایہ دار موصوف اب تک تین اشخاص کو اس آراضی میں جگہ دیکر مختلف کام کرتے رہے اور ان تینوں کی کل آمدنی سے نصف خود لیتے رہے جبکہ مسجد کو صرف مقررہ کرایہ ہی ادا کرتے رہے، بقیہ آمدنی جو مقررہ کرایہ سے آٹھ دس گنا زیادہ تھی، خود فائدہ اٹھاتے رہے، اب دریافت طلب مسئلہ حسب ذیل ہے۔

(۱) کیا کسی موقوفہ آراضی پر بحیثیت کرایہ دار ہمیشہ کیلئے اپنی وراثت قائم کر سکتا ہے؟
 (۲) کیا موجودہ کرایہ پر ہمیشہ کیلئے پابندی لگانا کہ آئندہ کسی کرایہ کے اضافہ کا کوئی حق متولی کو نہ ہوگا شرعاً جائز ہے؟
 (۳) کیا جس کام کیلئے کرایہ دار کو آراضی دی گئی ہے وہ اپنی طرف سے کسی دیگر شخص

کے ذریعے شرکت کر کے کوئی دیگر کام کر کے مقررہ کرایہ کے علاوہ بقیہ آمدنی سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ مسجد کو صرف مقررہ کرایہ ہی دیا جاتا ہے؟

(۴) کیا موقوفہ آراضی کا کرایہ دار اپنی مرضی سے خود بغیر متولی کی رضا مندی کے دیگر غیر متعلقہ لوگوں کے ذریعے یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے زیر کرایہ داری میں سے صرف نصف آراضی مسجد کے مفاد کیلئے دیدے جبکہ کل آراضی میں پندرہ سولہ دوکانات تعمیر ہونے سے مسجد کو کافی آمدنی ہو سکتی ہے، جس سے اس کا خرچہ بخوبی پورا ہو سکتا ہے؟

(۵) کیا موجودہ کرایہ کے علاوہ جو زائد کام سے فائدہ خود حاصل کیا ہے، وہ شرعاً جائز ہے؟ گذارش ہے کہ براہ کرم مذکورہ بالا حالات پر غور فرما کر ان پانچوں مسائل کا مکمل شرعی نقطہ نظر سے جواب مرحمت فرمائیے، اور شکر یہ کا موقع دیں؟

المستفتی: محمد جان، متولی مسجد نشی
کریم اللہ والی، وقف ۶۵۳، پرنس روڈ،
گانڈھی نگر، مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) وقف کی سلکنائی جائیداد کو ایک سال سے زیادہ اور صحرائی جائیداد کو تین سال سے زیادہ کرایہ کیلئے دینا جائز نہیں ہے، نیز مذکورہ معاملہ میں کرایہ دار کی موت کے بعد بھی کرایہ داری کی باقی رہنے کی شرط شرعاً باطل ہے، اور شرائط فاسدہ کی بناء پر عقد کرایہ داری منسوخ ہو جاتا ہے، اس لئے مذکورہ کرایہ داری شرعاً ناجائز اور فاسد ہے، اسلئے اس معاملے کو ختم کر کے مسجد کی پوری جائیداد مسجد کے حوالے کر دینا لازم ہے۔

الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع. (هدایہ، کتاب الإجارة، باب

الإجارة الفاسدة اشرفی ۳/۱۰۱)

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة

الخ. (هدایہ، باب فسخ الإجارة اشرفی ۳/۱۰۵، قدوری/۱۰۵)

وبها أي بالسنة يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض الخ. (الدر المختار، الوقف، فصل يراعى شرط الواقف في إجارته زكريا ديوبند ۶/۶۰۵، كراچی ۴/۴۰۰، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴۴/۱۷۷، الفقه الإسلامي وأدلته، دارالفكر ۱۰/۷۶۸۸، هدى انتر نیشنل ديوبند ۸/۲۳۲، مجمع الأنهر دارالكتب العلمية بيروت ۳/۵۱۴، قديم ۲/۳۶۹)

(۲) یہ شرط منفعت وقف کے خلاف ہے اور ناجائز ہے نیز اجرت مثل سے کم میں وقف کی جائیداد کو کرایہ پر دینا ناجائز نہیں ہے۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل الخ. (الدر مع الرد، مطلب في الإجارة الطويلة بعقود، زكريا ۶/۶۰۸، كراچی ۴/۴۰۲، الفقه الإسلامي وأدلته، دارالفكر ۱۰/۷۶۸۹، هدى انتر نیشنل ديوبند ۸/۲۳۳، ہندیہ، زكريا قديم ۲/۴۱۹، جديد ۲/۳۸۷، مجمع الانهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۵۱۴، مصرى قديم ۲/۳۶۹)

(۳-۴) جب معاملہ شرعاً واجب الفسخ ہے تو بعد کے سارے معاہدے اور معاملے ناجائز ہیں، ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

(۵) کرایہ داری ختم کر کے مسجد کو جائیداد واپس کرنا اور جتنے عرصہ کرایہ دار نے اپنے قبضہ میں رکھا ہے، اس کے مثل اجرت مسجد کو دیدینا لازم ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۱۰۳/۲۶)

نیچے دوکان اوپر مسجد کا حکم

سوال: [۸۰۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کیلئے ایک زمین خریدی گئی اور پروگرام یہ ہے کہ نیچے تہ خانہ بنایا جائے گا، پھر اس کے اوپر

مسجد کا جماعت خانہ بنایا جائے گا، جیسے کہ مسجد رشید بنی ہوئی ہے، اور نیچے کے تہ خانہ کو مسجد کی آمدنی کیلئے کرائے پر دیا جائے گا، جس کو کرایہ دار اپنا مال گودام بنائے گا، یا دوکان وغیرہ بنائے گا، جس میں خرید و فروخت ہوگی اور کرائے دار مسجد کو ماہانہ کرایہ دیتا رہے گا، جس سے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، جیسے کہ یہاں کی سنہری مسجد ہے، تو اس طرح نیچے آمدنی کی دوکانیں اور اوپر شرعی مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تہ خانہ میں خرید و فروخت ہوگی، تو وہ مسجد کی زمین تو ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کی حد میں داخل نہیں ہو سکتی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کیلئے خریدی گئی زمین میں مسجد کی مصلحت کے پیش نظر نیچے کے حصہ میں مسجد کی آمدنی کیلئے دوکان وغیرہ بنانا اور اوپر شرعی مسجد بنانا جائز ہے، اور اس میں یہ شرط بھی ہے کہ نیچے کے حصہ میں جو دوکان وغیرہ بنائی جائے وہ بھی مسجد ہی کی ملکیت میں رہے اور مسجد جب چاہے اس کو خالی کرا کے مسجد میں کر سکتی ہے! (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۶۸۳/۲، فتاویٰ رحیمیہ ۹۳/۹)

ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كمافي مسجد بيت المقدس كذا في الهداية. (هنديہ، الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به زكريا قديم ۴۵۵/۲، جديد ۴۰۸/۲)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصاحله أي المسجد جاز كمسجد المقدس. (شامی، کراچی ۳۵۷/۴، زکریا ۶/۶۷۷)

بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المنهه. (البحر الرائق، زکریا ۵/۴۲۱، کوئٹہ ۵/۲۵۱)

ولو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفاً على المسجد قيل لا يستحب ذلك ولكن لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً و ماتحتة صار وقفاً عليه ويجوز

المسجد والوقف الذی تحته . (تبيين الحقائق، زکریا ۴/ ۲۷۱، امدادیہ ملتان ۳/ ۳۳۰)
 ولو جعل العلو مسجداً والسفل وقفاً علی المسجد وأخرجه من یدہ
 یجوز وکذلک لو جعل السفل مسجداً للناس أو سرداباً وقفاً علی ذلک
 وأخرجه من یدہ یصح لأنه لله تعالیٰ . (تاتارخانیة زکریا ۸/ ۱۶۲، رقم: ۱۱۵۱۳)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ/۱۶

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۶۹/۲۰)

نیچے دوکان اور اوپر مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۸۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 چند بھائیوں نے اپنی جگہ برائے تعمیر مسجد وقف کی ہے، مسجد کے موجودہ ذمہ دار یہ چاہتے ہیں،
 کہ مسجد دوسری منزل پر بنادی جائے، اور اس کے نیچے دوکانیں اور ہال کی تعمیر ہو جائے تاکہ
 آمدنی کا سلسلہ بھی ہو جائے، اور ہواروشنی کا اس کے ذیل میں نظم ہو جائے آپ مہربانی
 فرما کر تحریر فرمائیں، کہ اس طور پر تعمیر کرنا درست ہے؟

المستفتی: حاجی عقیل الرحمن،

کلاتھ مرچنٹ، تحصیل: ٹانڈہ، ضلع: رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر وقف کر نیوالوں کی طرف سے اس کی
 اجازت ہے تو تعمیر کی ابتداء میں اس طرح دوکانیں وغیرہ بنانے کی فقہاء نے اجازت
 دی ہے بشرطیکہ مسجد کے منافع ومصالح مقصود ہوں اور اگر وقف کی طرف سے اجازت
 نہیں ہے، تو جائز نہیں ہے، اس لئے کہ غرض واقف کی رعایت واجب ہے۔ (مستفاد:
 امداد الفتاویٰ ۲/ ۲۰۷، فتاویٰ رحیمیہ ۳/ ۱۶۲، جدید زکریا دیوبند ۹/ ۹۳، کفایت المفتی ۷/ ۱۷، جدید

زکریا مطول ۱۰/۱۲۵، فتاویٰ محمودیہ ۱/۴۹۶، ڈیجیٹل ۱۳/۵۲۳ (۵۲۳)

لو جعل تحته حانوتاً وجعله وقفا على المسجد قيل لا يستحب ذلك ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً و ماتحته وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ولو أنه بنى المسجد أولاً ثم أراد أن يجعل تحته حانوتاً للمسجد فهو مردود باطل الخ. (حاشیة چلبی علی التبیین، الوقف، فصل فی أحكام المسجد زکریا ۴/۲۷۱، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰)

إن مرعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، مطلب مرعاة غرض الواقفين واجبة کوئٹہ ۳/۴۶۴، کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۵۷/۲۵)

مسجد کے حصہ اور وضو خانہ کی جگہ پر دوکان بنانا

سوال: [۸۰۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد کے دائیں بائیں جانب مسجد سے متصل جماعت خانہ سے الگ احاطہ مسجد میں داخل کچھ جگہ خالی تھی جس میں دائیں جانب ایک کنارہ پر امام صاحب کا حجرہ اور دوسرے کنارے پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، حجرہ اور کمرہ کے درمیان جگہ خالی تھی، جس میں محلہ کے بچے پڑھتے تھے، بائیں جانب میں ایک کنارے پر دوکان تھی، باقی جگہ خالی تھی جس میں مسجد کا سامان جنازہ کی چارپائی وغیرہ رکھی رہتی، قدیم طرز پر بنی ہوئی مسجد نمازیوں کیلئے ناکافی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ بسا اوقات بہت سے لوگوں کو مسجد میں جگہ نہیں مل پاتی تھی، اہل محلہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کے دائیں بائیں جانب کو مسجد میں شامل کر کے وسعت پیدا کر لی جائے لہذا اس ارادہ کو لیکر قدیم مسجد کو شہید کر کے از سر نو

تعمیر کی گئی جس سے مسجد میں کافی وسعت ہوگئی، دائیں جانب کا اندر باہر کا مکمل حصہ مسجد میں اور بائیں جانب کا اندر کا حصہ مسجد میں اور باہر کے ٹوڑے ہوئے حصہ میں وضو خانہ بنایا گیا ہے، باقی حصہ مسجد ہی میں شامل رہا اب کچھ عرصہ بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ مسجد کی جگہ میں دوکان تھی، وہاں اب بھی دوکان بنانی جائے، کیونکہ مسجد کا حق صرف مینار تک ہے، تو اب اس میں معلوم یہ کرنا ہے کہ جو جگہ مسجد کے اندر شامل کر لی گئی تھی اور تعمیر کے وقت اس میں دوکان وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے جیسا کہ قدیم مسجد کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کر کے نیز دائیں جانب کے اندر باہر کے حصہ کو مسجد میں شامل کرنے اور بائیں جانب کے اندر حصہ کو شامل کرنے اور باہر کے کچھ حصہ کو شامل کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ اہل محلہ کا ارادہ اس جگہ کو مسجد میں شامل کرنے کا ہے، دوکان وغیرہ کا نہیں ہے، تو کیا اس صورت حال کے ہوتے ہوئے اب وضو خانہ کو ختم کر کے اور جو حصہ مسجد میں شامل کیا تھا، اس کو ختم کر کے دوکان وغیرہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حسین احمد، خادم: مدرسہ فیض
القرآن، قصبہ، گلینہ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جماعت خانہ سے متصل دائیں اور بائیں جانب کی افتادہ زمین تعمیر نو میں جماعت خانہ میں شامل کر لی گئی اور مکمل طور پر مسجد ہوگئی تو اب اس جماعت خانہ کے کسی حصہ کو خارج کر کے اس پر دوکان وغیرہ بنانا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ جو حصہ مسجد میں شامل ہو گیا ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی شمار ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۱۷۶) اب رہی وضو خانہ کی پٹی تو اس کو مصالح مسجد و منافع مسجد میں استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اگر دوکان کے کرایہ کی مسجد کو شدید ضرورت ہے اور مسجد کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو صرف وضو خانہ کی پٹی ہی میں دوکان بنانے کی گنجائش ہے اس سے زائد ایک انچ دوکان وغیرہ کیلئے بڑھانا قطعاً جائز اور حرام ہے۔

أما لولمت المسجدية ثم أراد البناء منع فيجب هدمه ولو على جدار المسجد. (درمختار مع الشامى، الوقف، مطلب فى أحكام المسجد زكريا ۶/۴۸، ۵ كراچى ۴/۳۵۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۳۰۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۶۹/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/۵/۱۴۲۱ھ

صحن مسجد کے نیچے دوکانیں تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۳۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد سطح زمین سے سات فٹ اونچائی پر واقع ہے اس میں داخل ہونے کیلئے چھ سیڑھیاں ہیں جانب شمال مسجد سے متصل ایک کمرہ مع برآمدہ ہے جو ایک زمانہ میں مدرسہ کے طور پر مستعمل رہا ہے، مسجد کے جنوبی جانب بھی ایک حجرہ ہے، مسجد کی پوری عمارت قدیم ہونے کی وجہ سے خستہ ہے جس کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، مسجد کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، اہل محلہ چاہتے ہیں، کہ مسجد کی کفالت کیلئے صحن مسجد کے نیچے والے حصہ میں دوکانیں تعمیر کر لیں ان دوکانوں کی چھت صحن مسجد میں شامل ہوگی، اب سوال یہ ہے کہ

(۱) کیا جانب شمال والا حجرہ جو مدرسہ کی حیثیت میں بھی رہا ہے، مسجد میں شامل

کیا جاسکتا ہے؟

(۲) کیا صحن مسجد کے نیچے دوکانیں بنائی جاسکتی ہیں، امید کہ وضاحت فرما کر ممنون

فرمائیں گے؟

المستفتی: جناب تسلیم احمد، محلہ:

چودھریان، قصبہ سہسپور، ضلع بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جانب شمال والا حجرہ جو مسجد کے زیرِ تحت مدرسہ کی شکل میں تھا، اس کو مسجد میں شامل کر لینا شرعاً جائز اور درست ہوگا، لیکن صحن مسجد جو حد و مسجد میں داخل ہے اس کے نیچے دوکانیں بنانا جائز نہیں ہوگا۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فإذا كان هذا في الوقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه الخ. (درمختار، الوقف، مطلب في احكام المسجد زكريا ۶/۵۴۸، كراچی ۳۵۸/۴، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳۳۰/۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۰/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شوال ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۵۱/۲۸)

مسجد کے نیچے خالی حصہ کو دوکان بنانا

سوال: [۸۰۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد تین منزلہ ہے جس کے نیچے والی منزل جو ہے اس میں دس فٹ چوڑائی میں کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سولہ فٹ جگہ ٹھوس ہے، نماز دوسری منزل پر پڑھتے ہیں، امام گاہ بھی دوسری منزل پر ہے اس وجہ سے مسجد دوسری منزل کو قرار دیا ہے، اور وہ جگہ بالکل خالی ہے، اگر ان کمروں کو دوکان کیلئے کرایہ پر دیدیا جائے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نیز پہلی منزل میں یعنی بالکل نیچے کبھی باجماعت نماز ادا نہیں ہوتی ہے، جواب دیکر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: ضمیر الدین، موضع شہزاد پور، بجنور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چکی منزل بانیان نے شروع ہی سے مسجد کی غرض

سے نہیں بنائی بلکہ اس کو خارج مسجد رکھ کر دوسری منزل سے مسجد کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر واقعۃً ایسا ہی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ دوسری منزل ہی سے مسجد کا سلسلہ شروع ہے اسلئے نچلی منزل میں مسجد کی آمدنی کی غرض سے دوکان وغیرہ کی گنجائش ہے، مگر جو حصہ ٹھوس تھا، اس کو اب مسجد کے جماعت خانہ کے علاوہ کسی دوسرے کام میں لینا قیامت تک کیلئے کسی طرح جائز نہ ہوگا، بلکہ اس کا مسجد کے لئے رہنا لازم ہوگا۔

وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد أو كان وقف عليه كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد لقوله تعالى وأن المساجد لله بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية . (شامی، الوقف، مطلب فی احکام

المسجد زکریا ۶/۵۴۷، کراچی ۴/۳۵۷، البحر الرائق، زکریا ۵/۲۱، کوئٹہ ۵/۲۵۱)

لیکن پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے، کہ جب سے اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت سے یہ منزل خالی کیوں رہی آخر کس وجہ سے بنائی گئی، سوال میں یہ واضح نہیں ہے، اگر یہ بات واضح ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۵/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۱۵)

مسجد کے نچلے حصہ کو رہائش گاہ بنانا

سوال: [۸۰۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے نچلے حصہ میں عورت و مرد رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟
المستفتی: محمد عباس، رائے پور، رانی پور روڈ، ضلع، جھانسی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورت و مرد کا فیملی کی حیثیت سے مسجد کے نیچے کی

منزل یا تہہ خانہ کو رہائش گاہ بنا لینا جائز نہیں ہے، نیز آداب مسجد کے خلاف امور کا اس میں صادر ہونا جائز نہیں۔

لأنه مسجد إلى عنان السماء (إلى قوله) وكذا إلى تحت الثرى الخ.
(الدر المختار، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد
زكريا ۲/۴۲۸، كراچی ۱/۶۵۶)

وكذا يكره أن يتخذ طريقاً وأن يحدث فيه حديث الدنيا الخ.
(البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد كوئنه ۵/۴۲۰)

ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه الخ. (شامی،
كراچی ۱/۶۵۶، زكريا ۲/۴۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ رجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۴۴/۲۵)

پٹہ پر زمین لیکر مسجد کی آمدنی کیلئے دوکانیں بنانا

سوال: [۸۰۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
کیا مسجد یا مسجد کیلئے مکانات یا دوکانیں بنانا جس کے کرایہ سے مسجد کا خرچ پورا ہوتا ہے،
سرکار سے یا نگر پالیکا وغیرہ سے پٹے پر زمین لیکر تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: مظہر احمد، بنیانگر، دہرادون

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ شکل میں مسجد کے منافع اور اس کی مصلحت کو
پیش نظر رکھتے ہوئے دوکانیں بنا کر کرایہ پر دینا شرعاً جائز اور درست ہے، بشرطیکہ آئندہ
آگے چل کر اختلاف اور نزاع کا خطرہ نہ ہو۔

الثامنة في وقف المسجد يجوز أن يبنى من غلته منارة قال في

الحخانية: معزيا إلى أبي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق، الوقف، زكريا ۵/۳۶۰، كونه ۵/۲۱۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۹۹/۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۴/۱۷ھ

مسجد کے فائدے کیلئے مسجد کے نیچے چوپال بنانا

سوال: [۸۰۳۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں اٹھسینی میں ایک چھوٹی مسجد ہے اس کے آگے جانب قبلہ ایک چوپال ہے نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے مسجد کی توسیع کا ارادہ کیا کہ چوپال کو مسجد میں شامل کر لیا جائے، اسی نیت سے چوپال کو توڑ کر اس کی بنیاد کھدوائی گئی، اور چہاردیواری کرادی مسجد کی محراب باہر نکلی ہوئی تھی، چوپال والی دیوار سیدھی کر نیکی غرض سے محراب کے اگلے حصہ کو بھی توڑ دیا گیا ہے، نئی جگہ میں ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اب لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اس نئی جگہ کو مسجد میں شامل کر نیکی غرض سے کھدوایا گیا ہے، اور چہاردیواری کرائی گئی ہے، اس کا بھراؤ نہ کر کے اس کے اوپر لینٹر ڈال کر نیچے چوپال اور اس کے اوپر مسجد بنالیں مسجد کے نیچے جس کو چوپال بنایا جائیگا، اس کا استعمال مختلف مقاصد کیلئے ہوگا، مثلاً بارات کا قیام جنازہ کی نماز کسی قومی کام کا مشورہ وغیرہ؟ کیا مذکورہ صورت میں شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: رفیع الدین، امام مسجد عائشہ، اٹھسینی، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ چوپال پر مسجد کی نیت سے تعمیر مکمل ہوگئی

ہے، تو اس کو مسجد ہی رکھنا لازم ہوگا، اور اگر ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے اور جن مختلف مقاصد

کیلئے استعمال کا ارادہ ہے ان کا کرایہ مسجد کو جائے گا، اور ان مقاصد میں شریعت کی خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا، تو نیچے چوپال رکھنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۲۸۸، کفایت المفتی ۷/۱۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۲۵)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ. (شامی الوقف مطلب فی أحكام المسجد زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالکتب العلمية بیروت ۳/۳۳۰)

وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه أي المسجد جاز كمسجد القدس

الخ. (درمختار زکریا ۶/۵۴۷، کراچی ۴/۳۵۷، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۵۵، جدید ۲/۴۰۸، البحر الرائق، زکریا ۵/۴۲۱، کوئٹہ ۵/۲۵۱)

یہ یاد رکھیں کہ بارات میں خلاف شریعت باتیں پیش آتی ہیں، اسلئے بارات کا قیام جائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲/۲۳۵/۱۴۲۵ھ

۳ صفر ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۲۳۰۳۷)

مسجد کی سیڑھی کے نیچے کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں پرانی مسجد کی جگہ نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کنارہ صحن مسجد (لب سڑک) اوپر منزل میں جانے کیلئے سیڑھی ہے، سیڑھی کے نیچے جو جگہ خالی تھی اسے کمرہ کی شکل دیدی گئی اس جگہ گرمیوں میں نمازیں پڑھی گئی ہیں، کیا اس کمرہ کو کرایہ پر جس سے مسجد کی آمدنی ہونے لگ جائے دیا جاسکتا ہے؟ مفصل جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتی: عبدالاحد، تاجر کتب بڑھار ضلع: شہدول، ایم پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر سیڑھی کے نیچے کا حصہ مسجد سے خارج ہے، تو جائز ہے، اور اگر وہ جگہ مسجد کا ہی ایک حصہ ہے تو جائز نہیں ہوگا، متولی مسجد سے معلوم کریں کہ وہ مسجد کا حصہ ہے یا نہیں؟

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً الخ. (شامی، مع الدر المختار، الوقف، مطلب فی أحكام المسجد زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۳۰، الموسوعة الفقهیة الكويتیة ۱۲/۲۹۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۹۳۷)

مسجد کیلئے کرایہ کی دوکانیں و گودام بنانے کا حکم

سوال: [۸۰۳۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین مسجد کی تعمیر کے واسطے وقف کی گئی ساتھ ہی واقف نے مسجد کی ضرورت کیلئے ایک یادو دوکانیں بنانے کیلئے اجازت دیدی ابتدائی نقشہ کے مطابق یہ دوکانیں مسجد شرعی سے خارج حدود مسجد میں آرہی تھیں، اور کافی حد تک دیواریں بلند ہو گئیں تھیں کہ ذمہ داران نے یہ کہا کہ مسجد شرعی کے نیچے کچھ حصہ میں حوض دوکانیں وغیرہ بنائی جائیں، اس پروگرام کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کیلئے مسجد کی وہ دیواریں اور بنیادیں منہدم کر دی گئیں جو پروگرام میں حائل تھیں، پھر تیسری بار پروگرام بدلا اور اب نقشہ یہ ہیکہ نیچے کے حصہ میں دوکانیں گودام و وضوخانہ رہے اور پھر مکمل مسجد رہے، اور یہ سب کام عامۃ المسلمین کے چندہ سے

ہو رہا ہے، اب سوال طلب بات یہ ہے کہ نچلے حصہ میں مکمل دوسری چیزیں اور اوپر کے حصہ میں مسجد رہے کیا اس طرح تعمیر کرانا جائز ہے؟
اور اس بنی ہوئی مسجد کو مسجد شرعی کہیں گے؟ اور اگر یہ ناجائز ہے تو کیا ایک اور دو شکلیں جائز تھیں واضح اور مدلل جواب سے نوازیں؟

المستفتی: لیاقت علی عفاعنہ، محلہ:

چوک ٹانڈہ بادلی، ضلع: رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقف نے اجازت دی ہے تو بیت الخلاء کے علاوہ باقی وضو خانہ کرایہ کی دوکانیں اور گودام وغیرہ کی شدت ضرورت کی بنا پر فقہاء نے اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گودام اور دوکان کے کرایہ دار ہر سال بدلے جاتے رہیں اور کرایہ دار کو ایک سال سے زائد اجازت دینا اور باقی رکھنا جائز نہیں ہے۔

إذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه وعن أبي يوسف أنه يجوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل كأنه اعتبر الضرورة وعن محمد أنه حين دخل الرى أجاز ذلك كله وتحتة في العناية عن محمد أنه أجاز ذلك كله أي ما تحتة سرداب وفوقه بيت مستغل أو دكاكين الخ. (هدايه مع العنايه، الوقف، فصل في أحكام المسجد، دارالفكر مصری ۶/۲۳۵، زكريا ۶/۲۱۷، ۲۱۸، كوئٹہ ۵/۴۴۵)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحتة مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحتة شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى منه ومنه يعلم حكم كثير من مساجد المصر التي تحتها صهاريج ونحوها الخ. (تقريرات رافعى كراچى ۴/۸۰، زكريا ۶/۸۰، تبیین الحقائق، مکتبہ

امدادیہ ملتان ۳/ ۳۳۰، زکریا ۴/ ۲۷۱)

والظاهر عدم الصحة جعله مسجد يجعله بيت الخلاء تحته فقراء
الذمی تحت عبادة الثاني، لم أره صريحاً. (تقريرات رافعی کراچی ۴/ ۸۵،
زکریا ۶/ ۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۵۲/۲۵)

مسجد کے گودام اور وضوخانہ کی چھت پر کمرہ بنا کر کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
مسجد کے برابر میں ایک کمرہ ہے جو مسجد کا گودام ہے اسکی چھت اور وضوخانہ کی چھت ملی ہوئی
ہے، اب سوال یہ ہے کہ دونوں کی چھت کے اوپر کمرہ بنا سکتے ہیں، جو رہائش کیلئے کرایہ پر
اٹھادیں تاکہ مسجد کو آمدنی ہو جائے؟

المستفتی: حافظ محمد جان، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر وہ حصہ حدود مسجد سے باہر ہے اور مسجد کو
ضرورت ہے کہ کرایہ پر دیکر آمدنی حاصل کر کے ضرورت پوری کی جائے، تو مسجد کی کمیٹی کی
اجازت سے جائز ہو سکتا ہے، لہذا کمرہ کے اوپر کمرہ بنا کر کرایہ پر دینے کی گنجائش ہے، مگر
وضوخانہ کے اوپر کرایہ وغیرہ کے کمرہ بنانے سے فقہاء نے منع فرمایا ہے، جبکہ وضوخانہ پہلے
سے بنا ہوا ہو۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/ ۶۸۸)

هل يجوز أن تؤجر قطعة منها بقدر ما ينفق عليها أم لا؟ أجاب مقتضى
ما في الخلاصة جواز ذلك وهذه المسئلة دليل على أن المسجد
المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه. (تقريرات رافعی
زکریا ۶/ ۸۰، کراچی ۴/ ۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۹/۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۴/۱۴۱۴ھ

شرعی مسجد کے نیچے دوکانیں بنا کر کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: [۸۰۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد گھیر سعید خاں جو کہ محلہ فیض گنج میں واقع ہے، اسکی ایک کمیٹی ہے، جسکے سکریٹری اختر حسین و نر: انچی مہدی حسن خاں صاحب ہیں انہیں حضرات نے مندرجہ ذیل کام کو انجام دیا ہے؟
(۱) مسجد کے فرش پر پانچ وقت نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اس فرش کو کھدوا کر کچھ دوکانیں نکالی گئی ہیں۔

(۲) اور تقریباً ڈیڑھ دو فٹ جگہ زمین بغیر اجازت میونسپل بورڈ کے مسجد میں

لے لی گئی ہے؟

(۳) ان دوکانوں کی آمدنی شریعت کی نظر میں کیسی ہے؟

(۴) وہ آمدنی مسجد میں خرچ کیجا سکتی ہے یا نہیں؟

(۵) جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے ان کی شریعت کی رو سے کیا سزا ہے؟

المستفتی: مولانا الطاف الرحمن، پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد مکمل ہونے کے بعد جماعت خانہ کے

فرش کے نیچے دوکان بنا کر کرایہ پر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے مسجد کی آمدنی کی ہی غرض سے کیوں نہ کیا گیا ہو۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم

يصدق فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار

المسجد ولا يجوز اخذ أجره منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا

سکنی الخ. (الدر المختار، الوقف، مطلب فی أحكام المسجد زکریا ۶/۵۴۸، کراچی

۳۵۸/۴، وهكذا فی البزازیة زکریا جدید ۳/۱۵۲، وعلى هامش الهندية ۶/۲۸۵)

(۲) میونسپل بورڈ کی اجازت کے بغیر اس کی زمین پر دوکان بنا کر مسجد کیلئے آمدنی

فراہم کرنا اور اسکو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۱۷، ڈابھیل

۱۴/۶۱۴، کفایت المفتی ۷/۴۴، جدید مطول ۱۰/۱۳۳)

(۳-۴) مذکورہ دوکانوں کی آمدنی اسوقت تک مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں

ہوگا جب تک کہ میونسپل بورڈ سے اجازت حاصل نہ کی جائے، یا اس کا معاوضہ میونسپل

بورڈ کو ادا نہ کر دیا جائے۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره له

لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب الخ. (شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة،

وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸)

(۵) جن لوگوں نے ایسا کیا وہ سب شرعاً گنہگار ہوں گے، ان پر لازم ہے کہ

جماعت خانہ کا حصہ دوکانوں سے خالی کر کے مسجد کے حوالہ کر دیں اور جو حصہ میونسپل

بورڈ کا ہے میونسپل بورڈ کی اجازت کے مطابق اس میں عمل کریں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۸۱/۲۶)

مسجد کے نیچے بغرض آمدنی ہال بنانا

سوال: [۸۰۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

کے خاندان کے لوگوں نے اپنی ملکیت کی ایک بڑی جگہ میں سے ایک ٹکڑا مسجد کیلئے وقف

کیا کئی برس تک یہ جگہ بغیر تعمیر کے پڑی رہی اسی جگہ پر ایک سوکھا کنواں تھا جو تعمیر کیلئے تکلیف

وہ تھا، اسے مٹی سے بھرنا ضروری تھا، مگر اخراجات زیادہ تھے، اسی لئے وقف کرنے والوں اور متولیوں نے مشورہ میں طے کیا کہ مسجد کی عمارت کے نیچے بیس میٹ (تل گھر) بنایا جائے اور تل گھر بنانے کے لئے پانچ فٹ گہرائی چالیس (۳۰×۴۰) فٹ کا گڑھا کھود کر اس کی مٹی سے اس سوکھے کنویں کو پاٹ دیا جائے، اور نیچے کے اس ۳۰×۴۰ کے ہال کو مسجد کی آمدنی کیلئے شادی بیاہ ولیمہ کیلئے کرایہ پردے کر اس کی آمدنی سے مسجد کے اخراجات پورے کئے جائیں، اور اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس ہال میں کوئی بھی غیر شرعی عمل نہ ہونے پائے، اور باقی کے دنوں میں اس ہال کو مدرسہ کی دینی تعلیم، دینی جلسہ اور بوقت ضرورت نماز کیلئے بھی استعمال کیا جائے، چنانچہ اسی طرح تعمیر کی گئی، تعمیر کے تقریباً تمام اخراجات بھی واقف لوگوں نے کئے ہیں، اور مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے وضو خانہ وغیرہ کا کام بھی جاری ہے ابھی تک مسجد میں نماز شروع نہیں ہوئی ہے، دریافت طلب امر یہ ہے:

- (۱) کیا نیچے کے (۴۰×۳۰) فٹ کے ہال (تل گھر) کو مسجد کے اخراجات کی غرض سے شادی بیاہ کیلئے کرایہ پر دیا جاسکتا ہے؟
- (۲) اگر جواب ہاں میں ہو تو کیا اسی کرایہ کی آمدنی کو مسجد کے اخراجات کیلئے خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: نثار احمد، حاجی عبدالستار، ۱۳۵۳ھ/اسلام پورہ،

نشاط روڈ، مالہ گاؤں، ضلع ناسک، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ کے بموجب ابھی تک زمین کا وہ موقوفہ ٹکڑا خالی پڑا ہوا تھا، اور اس پر اب مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے نیچے والے حصہ کی تعمیر مسجد کی نیت سے نہ کی جائے، بلکہ مسجد کی آمدنی کی نیت سے کی جائے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ حصہ ہمیشہ مسجد کی ملکیت رہا کرے گا، اور اسمیں ایسا کوئی پروگرام کرنے سے گریز کرنا چاہئے جو غیر شرعی ہو اور مسجد اور نمازیوں کیلئے فتنہ کا ذریعہ بنتا ہو بعض شادیوں

میں ڈھول تاشہ باجا اور ویڈیو فلم وغیرہ کام ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی پروگرام اس میں جائز نہ ہوگا، ہاں البتہ مہذب طریقہ سے مہمانوں کو بٹھانے اور کھانا کھلانے کا پروگرام کیا جاسکتا ہے، اور اس کا کرایہ وصول کر کے مسجد میں خرچ کیا جاسکتا ہے، تفصیل (امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۵) میں ملاحظہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۱۰۰۰۵)

مسجد کی دوکان کو کرایہ پر دینے سے متعلق چند سوالات کے جوابات

سوال: [۸۰۴۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی آراضی میں ۴ دوکانیں تعمیر کی گئیں ہیں، ۳ دوکانیں ایک صاحب نے کرایہ پر لی ہیں، اور مبلغ ۲۵ روپیہ ماہوار کرایہ کے حساب سے ۱۵ سال کا کرایہ پیشگی ادا کر دیا اور ایک دوکان میں نے مبلغ ۲۵ روپیہ ماہوار کرایہ پر لی اور ۱۵ سال کا کرایہ پیشگی ادا کر دیا اور کمیٹی سے تحریر لکھوائی میں سعودیہ عربیہ کا روباری سلسلہ میں چلا گیا، میں نے اپنے چچا کو مبلغ ۷۰ روپیہ ماہوار کرایہ پر دیکر بٹھا دیا اور میں وہ کرایہ وصول کرتا رہا۔

میرے اور میرے چچا کے درمیان اختلاف پیدا ہوا میں نے دوکان خالی کرنے کو کہا میرے چچا نے انکار کر دیا اسمیں ۳ رٹالٹوں نے یہ فیصلہ دیا کہ مبلغ ۵ ہزار روپیہ میرے چچا جھکو دیدیں اور ۷۵ روپیہ ماہوار کرایہ مسجد کو دیدیں اگر چہ میں اور میرے چچا راضی نہ تھے، مگر مجبوراً مجھ کو اور چچا کو یہ فیصلہ منظور کرنا پڑا، اسکے بعد ارباب کمیٹی مسجد نے میرے چچا کو مبلغ ۷۵ روپیہ ماہوار کرایہ پر دیدی اور تحریر لکھدی اور اب کمیٹی مسجد میرے چچا سے مبلغ ۷۵ روپیہ ماہوار کرایہ وصول کر رہی ہے، جبکہ ۳ دوکانوں سے مبلغ ۲۵ روپیہ ہی وصول کئے جا رہے ہیں۔

(باعث استفسار مندرجہ ذیل امور ہیں)

(۱) اس طرح مبلغ ۷۵ روپیہ میرے چچا سے جو وصول کئے جا رہے ہیں، وہ مسجد میں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں؟

(۲) ان ۷۵ روپیہ کا میں مستحق ہوں یا نہیں؟

(۳) اب تک جو ۷۵ روپیہ وصول کئے جا رہے ہیں، اگر مسجد اس کی مستحق نہیں وہ رقم مسجد سے واپس لیجائے یا نہیں؟

(۴) کیا یہ کرایہ دار کسی اور شخص کو کم و بیش کرایہ پر دے سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: حاجی تسلیم احمد قریشی،

محلہ افغانان شرگت، معرفت محمد محفوظ الرحمن

غفرلہ مہتمم مدرسہ رحمانیہ، شرگت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دو وجہوں سے مسجد کی دوکانوں کی کرایہ داری موجودہ کرایہ داروں سے ختم کرنا واجب ہے!

(۱) مسجد کی جائیداد کو ایک آدمی کے ہاتھ ایک سال اور زیادہ سے زیادہ ۳ سال اس سے زائد کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے۔

(۲) مسجد کی دوکانوں کا کرایہ موجودہ زمانہ کے اعتبار سے کم ہی نہیں بلکہ غبن فاحش ہے!

قیل تقید بسنة مطلقاً وبها أى بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى

الأرض (إلى قوله) قلت لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة

ولو بعقود ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل وفى الشامية وعليه الفتوى

الخ. (الدر المختار مع الشامى، الوقف، فصل يراعى شرط الواقف فى إجارة زكريا ۶/ ۶۰،

كراچى ۴/ ۴۰۲، مجمع الانهر، دار الكتب العلمية بيروت ۳/ ۱۴، مصرى قديم ۲/ ۳۶۹،

الفقه الاسلامى وأدلته، دار الفكر ۱۰/ ۷۶۸۹، هدى انتر نيشنل ديو بند ۸/ ۲۳۳)

نیز یہ بھی ناجائز ہے کہ کرایہ دار کسی دوسرے کو کرایہ پر دیدے بلکہ آپکو سعودیہ جاتے

وقت مسجد کے حوالہ کر کے جانا چاہئے تھا۔ (فتاویٰ رحیمیہ ۳/ ۲۵۷)

(۱) درست ہے۔ (۲) مسجد ہی اسکی مستحق ہے۔ (۳) نہیں لی جائیگی۔ (۴) جو بھی زیادہ کرایہ دیگا اس کو دینی چاہئے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۵۲۲۴)

مسجد کی دوکان اور مکان کرائے پر دینا

سوال: [۸۰۴۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید مسجد کی دوکانوں میں سال ہا سال سے کرایہ دار ہے، ایک دوکان میں بذات خود کاروبار کرتا ہے، اور ایک دوکان میں اشتراک کر کے مختلف شکلوں میں دوکان پر کاروبار کرتا کرتا رہتا ہے، اب ایک دوکان خالی ہونے کی بناء پر مندرجہ ذیل شرائط پر اشتراک و اخوت باہمی کیساتھ شرعی جدو جہد میں پاک و صاف کاروبار کرنا چاہتا ہے، اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے۔

- (۱) یہ کہ زید کرایہ دار ہے کرایہ نامہ اسی کے نام رہے گا؟
- (۲) یہ کہ زید پچاس ہزار اور عمر و بکر ایک ایک لاکھ مالیت لگائیں گے؟
- (۳) یہ کہ دوکان میں موجود جزوی فرنیچر زید کا ہے اسی کا رہے گا، اور حسب ضرورت مزید فرنیچر عمر و بکر لگائیں گے، اور وہ انھیں کا ہوگا؟
- (۴) یہ کہ دوکان میں زید جزوی طور پر ہی وقت دیا کرے گا، اور عمر و بکر حسب ضرورت جان لگائیں گے، اور مزید مال کی ضرورت پڑنے پر حسب ضرورت جان و گنجائش زید عمر و بکر مشورہ کر کے لگایا کریں گے؟
- (۵) یہ کہ یہ اشتراک حسب موقع و ضرورت تا عمر یا تا ضرورت ہوگا، اور کسی وقت یا مدت کی کوئی قید نہ ہوگی؟

(۶) یہ کہ دوکان کا کرایہ و بجلی جرنیٹر وغیرہ کے تمام اخراجات فرم کے ہونگے اور کرایہ جو

مسجد کی طرف سے طے شدہ ہے وہی فرم ادا کرتی رہے گی، اور رسیدزید کے نام ہی کٹتی رہے گی؟
(۷) یہ کہ مال کے نفع و نقصان کے تینوں برابر کے شریک ہوں گے؟

(۸) یہ کہ زید کرایہ دار کو مسجد کمیٹی سے اجازت کے بغیر اپنی کرایہ داری میں خالی دوکان پر مزید شرکت دار بنانے کی شرعی اجازت ہے یا نہیں؟ اور یہ شرکت دوکان کی کرایہ داری میں صرف فرم کی طرف سے ادائیگی کرایہ داری و کاروبار میں ہوگی؟ کرایہ دار مندرجہ بالا طریقہ پر زید ہی رہے گا؟

المستفتی: حبیب الرحمن انصاری، محلہ قاضیان شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی ملکیت کی دوکان اور مکانوں کو ایسی شرائط کیساتھ کرایہ پر دینا اور لینا جائز نہیں ہے جن شرائط کی بنیاد پر کرایہ دار کو مالکانہ تصرف کا حق حاصل ہو جائے، سوالنامہ میں جس انداز سے کرایہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مالکانہ تصرف کے مرادف ہے، اس لئے مسجد کی ملکیت کی جائیداد کو سوالنامہ میں مذکورہ شرائط کے ساتھ کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، بلکہ منجانب مسجد ایسی شرطیں لگانا ضروری ہیں، جن شرائط کی بنیاد پر مسجد کا مالکانہ حق مکمل باقی رہے، اور مسجد جب چاہے کرایہ دار سے خالی کرا سکے اور جب چاہے کرایہ بڑھا سکے، یا خالی کرانے میں اور کرایہ بڑھانے میں اور کرایہ دار کی تبدیلی میں مسجد کو مکمل اختیار حاصل ہونا لازم ہے، اور کرایہ دار کو کوئی اختیار اس سلسلہ میں حاصل نہیں ہونا چاہئے، اگر کرایہ داری کی رسیدیں کٹیں تو ان تمام رسیدوں میں ان اختیارات کی صراحت ہونی چاہئے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر تین سال میں کرایہ دار کی تبدیلی ہونی چاہئے، تاکہ کرایہ دار اس میں اپنا تسلط نہ جمائے۔

و بہا أي بالسنة یفتی فی الدار وبثلاث سنین فی الأرض - قال أبو جعفر الفتویٰ علی إبطال الإجارة الطویلة ولو بعقود لتحقق المحذور المار فیہا هو أن طول المدة یؤدی إلى إبطال الوقف . (شامی، الوقف، فصل یراعی

شرط الوقف فی إجارته ذکر یا ۶/۶ تا ۶۰۷، ۶۰۷، کراچی ۴/۴۰۰، ۴۰۲)

ولم تزد فی الأقالف علی ثلاث سنین فی الضیاع وعلی سنة فی غیرها (درمختار) و فی الشامیة: و کذا أرض الیتیم - و اکثر کلامهم علی أنه المختار المفتی به لو جود العلة فیهما، و هی صونهما عن دعوی الملکیة بطول المدّة. (شامی، کتاب الإجارة، زکریا ۸/۹، کراچی ۶/۶)

تاہم سوالنامہ میں شرکت کی جو شکل بیان کی گئی ہے، وہ شرکت فی العنان کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اس کی صحت کیلئے شرط یہ ہے کہ جس شریک کا جتنا مال لگا ہو اس کو اتنا ہی فیصدی نقصان برداشت کرنا پڑے، لہذا یہ شرط لگانا کہ نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، یہ شرط باطل ہے، بلکہ نقصان میں اپنی حصہ داری کے اعتبار سے شریک ہوں، اور باقی شرائط جو سوالنامہ میں بیان کی گئیں ہیں، ان کیساتھ شرکت درست ہے، اور مسجد کی کرایہ داری سے مذکورہ شرکت کا معاملہ بالکل الگ ہے، یہ معاملہ کسی بھی جگہ پر کیا جاسکتا ہے، اس کو مسجد کی کرایہ داری کیساتھ جوڑنا بے موقعہ ہے۔

اشترکا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفین علی أن الربح والوضیعة نصفان فالعقد جائزٌ، والشرط فی حق الوضیعة باطل، فإن عملا وربحا فالربح علی ماشرطا، وإن خسرا فالخسران علی قدر رأس مالهما. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الشركة، الباب الثالث فی شرطه العنان، الفصل الثانی فی شرط الربح الوضیفة و هلاك المال زکریا قدیم ۲/۳۲۰، جدید ۲/۳۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۲۲۱/۳۸)

وقف کی جائیداد کا کرایہ کس تناسب سے ہو

سوال: [۸۰۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد تھی، جو پرانی نہیں تھی، اس مسجد کا نقشہ بدلنے کیلئے دوبارہ تعمیر کرانے کی وجہ سے مسجد کو شہید کر کے تعمیر کام ہو رہا ہے، اس مسجد کی سات دوکانیں تھی، اور پرانے کرایہ

داردوکانیں چلا رہے تھے، ان دوکانوں سے انکے اہل و عیال کا گزارہ چل رہا تھا، جب مسجد کی کمیٹی نے مسجد کا کام شروع کرانا چاہا تو دوکانداروں سے کہا کہ ہم مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا چاہتے ہیں، آپ لوگ دوکانیں خالی کر دیں، دوکاندار حضرات نے مسجد کمیٹی کے متولی صدر خزانچی ممبران سے کہا کہ آپ لوگ ہمکو ایک تحریر لکھت روپ میں عنایت فرمادیں انھوں نے دوکاندار حضرات سے کہا کہ آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں ہم لوگ آپ کو دوکانیں دوبارہ بنا شرط واپس دیں گے، ہم لوگوں نے یہ بات سنکر دوکانیں خالی کر دیں، اس وقت مسجد کا اور دوکانوں کا تعمیری کام مکمل ہو گیا ہے، تو ہم نے کہا کہ اب ہمکو دوکانوں کی چابی دیدو اب مسجد کی کمیٹی کے کارکنان ہمکو جواب دیتے ہیں، کہ اب ہمارے پاس کرایہ دار آ رہے ہیں، ہم لوگ پرانے کرایہ دار ہیں اور ۱۹۷۰ء کے ہیں، ان دوکانوں کا کرایہ ۳۰ روپے ماہ سے بڑھتے بڑھتے ۶۰۰ روپے ماہ وار ہے، اور ہم لوگ ان دوکانوں سے اپنے اہل و عیال کا گزارہ کر رہے تھے، وہ کافی عرصہ سے بند ہو گیا، اور یہ لوگ پرانے کرایہ داروں کو دوکانیں دینا نہیں چاہتے، یہ مسجد کے کارکن لوگ ہماری روزی روٹی چھین رہے ہیں، اللہ کے گھر کا سہارا لیکر کہ اللہ روزی دیتا ہے، یہ چھین رہے ہیں، میری آپ مفتیان کرام سے عرض ہے کہ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟ آپ کی عنایت ہوگی؟

المستفتی: معراج، محلہ مقبرہ، بازار والی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے متولی اور ذمہ داران پرانے کرایہ داروں کو وعدے کے مطابق دوکانیں کرایہ پر دینے کیلئے آمادہ ہیں، جیسا کہ سوالنامہ سے واضح ہے لیکن ساتھ میں اس زمانہ کے متعارف اور مناسب کرایہ کا مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ صحیح اور درست ہے، اور آئندہ کیلئے بھی ذمہ داروں پر لازم ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب کرایہ بڑھاتے جائیں، ورنہ مسجد کی حق تلفی ہوگی، اور ذمہ داروں پر لازم ہے کہ

مسجد کی جائیداد اور اس کے حقوق کی حفاظت کریں، اور کرایہ داروں کا یہ کہنا ”کہ ہم لوگ اپنے اہل و عیال کا گزارہ کر رہے تھے، اور وہ کافی عرصہ سے بند ہو گیا اور مسجد کے کارکن مسجد کا سہارا لے کر ہماری روزی روٹی چھین رہے ہیں“ غلط ہے، بلکہ کرایہ داروں نے اب تک مسجد کا حق مارا ہے، اور مسجد کی حق تلفی کر کے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کہاں تک درست ہو سکتا ہے، بلکہ مناسب کرایہ کے ذریعہ مسجد کا حق مسجد کو دے کر اپنے بچوں کی روٹی کا انتظام کریں، تو درست ہے ورنہ کرایہ داروں کی طرف سے مسجد پر ظلم ہوگا، نیز مسجد کمیٹی کیلئے مناسب یہی ہے کہ قانون ہند کے مطابق ۱۱ مہینے کا اگر مینٹ کر لیا کریں اور ہر سال اسکی تجدید کیا کریں تاکہ کوئی کرایہ دار مناسب کرایہ ادا کرنے میں آنا کافی کرے تو اس سے دوکانیں آسانی کے ساتھ خالی کرائی جا سکیں اور دوسروں کو مناسب کرایہ پردے سکیں، اور مسجد حق تلفی سے محفوظ رہے۔

ولو اجر الناظر بدون اجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى، قيل: إن استأجر داراً لوقف بمدة طويلة إن كان السعر بحالها حيث لم يزد ولم ينقص يجوز وإن غلا أجر مثلها يفسخ العقد ويحدد ثانياً، وكذا إذا استأجرها إلى سنة فغلا السعر بعد مضي نصف السنة يفسخ العقد ويجب المسمى ويجدد ثانياً. (مجمع الانهر، كتاب الإجارة، دارالكتب العلمية بيروت ۵۱۴/۳، مصرى قديم ۳۶۹/۲)

وإن كانت الزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولى، فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها ممن زاد: فإن كانت داراً أو حانوتاً أو أرضاً فارغة عرضها على المستأجر فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط. (درمختار مع الشامى، الإجارة، مطلب فى بيان المراد، بالزيادة على أجر المثل زكريا ۳۰/۹، ۳۲، كراچى ۶/۲۳، ۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ذی الحجہ ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۹۱/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۲۹/۱۴۳۵ھ

مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا

سوال: [۸۰۴۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد شیخوں والی کی کئی دوکانیں ہیں، ایک دوکان تقریباً بیس سال سے میرے پاس کرایہ پر ہے، اور رسید بھی میرے ہی نام سے کٹتی چلی آرہی ہے اب متولی صاحب نے کرایہ زیادہ حاصل کرنے کے لالچ کی بناء پر رسید میرے بیٹے کے نام کاٹ دی اور کرایہ ۴۰۰ روپیہ وصول کر لیا، جبکہ دیگر دوکانوں کا کرایہ اب ۱۵۰ روپیہ ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے، کہ جو دوکان میرے نام کرایہ پر بیس سال سے ہے اب جبکہ ہم نے کرایہ داری ختم نہیں کی تو بیٹے کے نام رسید کاٹنا کیسا ہے؟ رسید باپ ہی کے نام کاٹنی چاہئے، یا باپ کا نام ختم کر کے بیٹے کے نام رسید کاٹی جاسکتی ہے، جبکہ دیگر دوکانوں کے برابر باپ بھی کرایہ دینے کو تیار ہے، مسجد کے متولی اور کمیٹی والوں کا یہ عمل شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

المستفتی: عبدالعزیز، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد اور دیگر اوقاف کی جائیداد کو اتنی طویل مدت

کیلئے کرایہ پر دینا ممنوع ہے، زیادہ سے زیادہ تین سال کے معاہدہ کی گنجائش ہے، اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ مسجد کی کمیٹی کو کرایہ میں بار بار اضافہ کرنا جائز ہے، لہذا اگر باپ کو مطلع کرنے کے باوجود کرایہ میں اضافہ نہیں کیا ہے، اور بیٹا بجائے ڈیڑھ سو روپیہ کے چار سو روپیہ دینے کیلئے تیار ہے، تو مسجد کمیٹی کو بجائے باپ کے بیٹے کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔

من استأجر داراً کل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد

في بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة فان سكن ساعة من

الشهر الثاني صح العقد فيه وليس للمواجر أن يخرجه إلى أن ينقضى
وكذلك كل شهر سكن في أوله. (هدايه، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة
اشرفی ۳/۳۰۲، قدوری/۱۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹ھ/۵/۳۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: (۵۷۸۹/۳۳))

مسجد کی دوکان کا کرایہ بڑھانا

سوال: [۸۰۴۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں
کرایہ دار محلہ قاضی باغ کاشی پور کا ہوں، جس کا پچھلا کرایہ ۱۲۰ روپیہ چلا آ رہا ہے، اب نئی
کمیٹی کا مسجد پر تسلط ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا رعب جمائے ہوئے یہ کہتے ہیں، کہ اگر آپ
مسجد کی دوکان میں رہنا چاہتے ہیں، تو اپنا کرایہ چار سو روپیہ مہینہ دیکھتے نہیں تو خالی کر دیجئے
اگر آپ نے چار سو روپیہ نہیں دیا تو ہم سامان نکال کر پھینک دیں گے، جب کہ ہم کو کسی طرح
کی کوئی سہولت وغیرہ مسجد کی کمیٹی نہیں دیتی اور یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرانے پڑتے ہیں،
اور ہر ماہ کرایہ وقت پر ادا کرتے ہیں، ایسی حالت میں آپ سے درخواست ہے کہ احکام
شریعت کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: شرافت حسین، محلہ قاضی باغ، الیکٹریشن، کاشی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی جائیداد کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے
کہ زمانہ اور حالات کے اعتبار سے موجودہ زمانہ میں ایسی جائیداد کا عام طور پر جو کرایہ
ہوسکتا ہے، اس سے کم میں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، لہذا اگر مذکورہ دوکان چار سو روپیہ کرایہ
کے لائق ہے تو ذمہ داران مسجد کیلئے اس سے کم میں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، اور مثل کرایہ نہ
دینے پر آپ سے دوکان خالی کرانے کے مجاز ہیں۔

ولا یوجر الوقف إلا بأجر المثل حتی لو آجر بدون أجر المثل لزمه
اتمامه بالغاً بلغ وعلیه الفتویٰ. (مجمع الانهر، کتاب الوقف، فصل دارالکتب
العلمیة بیروت ۲/۵۹۷، مصری قديم ۱/۷۵۰، الدر مع الرد، مطلب فی إجارة الطويلة
بعقود، زکریا ۶/۶۰۸، کراچی ۴/۴۰۲)

ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر المثل الخ. (هنديہ، الباب الخامس في
ولاية الوقف، قديم ۲/۴۱۹، جديد ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۶/۲۲۵۶)

مسجد کے کمرہ میں مدرس کا بلا کرا یہ رہنا

سوال: [۱۸۰۴۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
میں مسجد ہی کی رقم سے امام صاحب کیلئے کمرہ بنایا گیا تھا، اس میں امام صاحب اپنے اہل
وعیال کیساتھ رہتے تھے، پھر اپنے اہل وعیال کیساتھ اپنے نجی مکان میں چلے گئے اب اس
جگہ میں مدرسہ کے دو مدرس کا مع اہل وعیال کے بغیر کرائے کے اس حالت میں رہنا کہ مسجد
کی بجلی پانی اور دوسری چیزوں کے ذریعہ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور ان کی طرف سے کچھ ایسے
کام پائے جارہے ہوں، جس کی وجہ سے پولیس کے ذریعہ مسجد کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو کیسا
ہے؟ مثلاً مدرس کا سالہا اسی حجرہ میں لڑکی بھگا کر لے آیا؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: حاجی جاوید، اعظم،

رشید احمد، محلہ حاجی پور، ضلع: فیروز آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مدرسہ مسجد سے منسلک ہے تو ایسی صورت میں
مسجد کے حجرے میں مدرس کی رہائش میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مدرسہ مسجد سے منسلک
نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں کا انتظام بھی الگ الگ ہے تو ایسی صورت

میں بغیر کرایہ کے مسجد کے حجرہ میں مدرس کی رہائش درست نہیں ہے، ہاں البتہ اگر مدرس وہاں پر رہائش اختیار کرنے کے ساتھ نماز بھی پڑھا دیتا ہے، تو بلا کرایہ رہائش جائز ہے؟

ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه . (ہندیہ ، الباب الباب الخامس

زکریا قدیم ۲/۴۰، جدید ۲/۳۸۷)

ولیس للقیم أن یسکن فیہا أحداً بغير أجر . (تاتار خانیہ، الفصل السابع،

تصرف القیم فی الأوقاف زکریا ۸/۶۷، رقم ۱۱۲۲، المحیط البرہانی ، المجلس العلمی ۲۹/۹، رقم: ۱۱۰۳۰، ہندیہ ، زکریا قدیم ۲/۴۱۸، جدید ۲/۳۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۱۲/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۱۲/۲۰)

مسجد کی دوکانیں کم اجرت میں کرائے پر دینا

سوال: [۸۰۴۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے شہر کاٹی میں جو جامع مسجد گری بازار تمباکو میں ہے، اس میں جو کرایہ دار ہیں وہ پانچ سال سے کرایہ نہیں دے رہے ہیں، کرایہ دار میں سے کوئی دس سال سے ہے کوئی پندرہ سال سے ہے، کوئی بیس سال سے ہے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے پرانی کمیٹی نے ان سے ۳۵۰ روپیہ کرایہ طلب کیا تھا، جو دوکانداروں نے دینے سے انکار کیا پھر ایک اور ثالث کمیٹی نے ان دونوں کے بیچ میں آ کے فیصلہ کیا کہ دونوں پارٹی کے متعلق ثالث جو فیصلہ دے اس کو مانیں گے، ثالث کمیٹی کے فیصلہ کو چونکہ ہر دو فریق ماننے کیلئے تیار تھے، اسلئے ثالث کمیٹی نے دونوں سے ایک کورے کاغذ پر دستخط لے لئے اور فیصلہ دیدیا کہ دوکاندار دو سو پچاس روپے مہینہ دیں گے، اور دوکانوں کا ٹیکس بھی دیں گے، لیکن پھر دوکانداروں نے اس بات سے انکار کر دیا اور بات طے نہیں ہوئی پھر مارچ ۱۹۹۶ء میں دوسری کمیٹی آئی اس نے اپنی طرف سے دو سو روپیہ مہینہ کرایہ طے کیا، اور ٹیکس مسجد کی طرف رکھا اس پر بھی وہ راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم

پرانے کرایہ میں کچھ بڑھا کر دیں گے، ان کا پرانا کرایہ کسی کا ۴۲، کسی کا ۷۰، کسی کا ۲۸، کسی کا ۶۳، کسی کا ۱۳۰، اور کسی کا ۱۵۰ روپیہ ہے، جس سے مسجد کا خرچ پورا نہیں ہوتا ایک بات یہ بھی ہے کہ ان دوکانداران نے غیر مسلموں سے ساز باز کر رکھی ہے، اور ان کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، کیا ایسے دوکانداروں کو رکھنا چاہئے یا خالی کروانا چاہئے، عام مسلمانوں کا کہنا ہے کہ خالی کروانا چاہئے، اب آپ جو فیصلہ دیں گے، انشاء اللہ اس پر ہی عمل ہوگا؟

المستفتی: محمد اسلم لہارو، معرفت:

مفتی متین الرحمن مدرسہ اسلامیہ

دارالعلوم، کائیٹ، ناگیپور، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس علاقہ کی تمام دوکانوں کو جتنی اجرت میں کرایہ پر دیا جاتا ہے، اس سے کم اجرت پر مسجد کی موقوفہ زمین اور دوکانیں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی پہلے سے موجود کرایہ دار اتنی اجرت دینے سے انکار کر دے تو اسے خالی کروا دینا چاہئے، کیونکہ اس سے وقف اور مسجد کا بڑا نقصان ہے۔

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل أي لا يصح ايجار الوقف بأقل من أجره المثل إلا عن ضرورة . (شامی، الوقف، مطلب لا يصح ايجار الوقف، بأقل من أجره الا عن ضرورة، زکریا ۶/۶۰۸، کراچی ۴/۴۰۶، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۱۹، جدید ۲/۳۸۷، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۵۹۷، مصری قدیم ۱/۷۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۳۶/۳۲)

چندہ کی شرط لگا کر مسجد کا کمرہ کم کرایہ پر دینے کا حکم

سوال: [۸۰۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی جائیداد میں ایک کمرہ خالی ہے، کمیٹی والوں نے یہ طے کیا ہے، کہ جو کمرہ لینا چاہے اسے مبلغ پندرہ ہزار روپے / ۱۵۰۰۰ / مسجد میں چندہ دینا ہوگا، رقم دینے کے عوض میں اس گھر کا کرایہ ۲۵۰ روپیہ رکھا گیا ہے، جبکہ اس وقت اس کا کرایہ ۴۰۰ روپے ہونا چاہئے، کیا کمرہ کے عوض میں یہ روپے لینا درست ہے؟ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ یہ کمرہ مجھے دیدتجھے میں مسجد کو پندرہ ہزار روپیہ چندہ دوں گا مگر کرایہ ۲۵۰ روپیہ دوں گا، جبکہ اس کا کرایہ چار سو روپے ہونا چاہئے تھا، کیا اس شرط پر چندہ کی یہ رقم لینا درست ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے واضح فرمائیں؟

المستفتی: وسیم احمد، کانکی نارہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: پندرہ ہزار روپیہ چندہ دینے کی شرط کے ساتھ مسجد کا کمرہ کچھ رقم کم کر کے کرایہ پر دینا از روئے شرع درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط شرط فاسد ہے، لہذا اس شرط کے بغیر کرایہ داری کا معاملہ کیا جائے، اور کرایہ دار سے پورے چار سو روپیہ کرایہ مقرر کیا جائے۔

تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسد ها..... كشرط طعام عبد و علف دابة و مرممة الدار..... (شامی، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، زکریا ۶۴/۹، کراچی ۶/۶۴)

ويؤجر بأجر المثل فلا يجوز بالأقل . (الدرمع الرد، الوقف، مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل، زکریا ۶/۶۰۸، کراچی ۴/۴۰۶، هكذافي الفقه الإسلامي وأدلته، دارالفكر مجمع الانهر، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۵۱۴، مصري قديم ۲/۳۶۹)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ صفر ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۹۲/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۲/۲۵

مسجد کے کرایہ دار سے مرمت وغیرہ کی شرط لگانا

سوال: [۸۰۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلہ کی مسجد کا ایک مکان ہے جو ناقابل رہائش ہے، اب متولی صاحب اس کو کرایہ پر دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی شرائط یہ ہیں، کہ جو مکان کرایہ پر لے گا اس کو مکان از سر نو تعمیر کرنا ہوگا، اور تعمیر ہونے کے بعد بنانے والے کا اس مکان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، وہ مکان مسجد ہی کی ملکیت میں رہیگا اور نیز اس کو اپنی لگائی ہوئی لاگت کو واپس لینے کا بھی حق نہ ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ کرایہ پر لینے والے کو ایڈوانس روپے جمع کرانے ہوں گے، جو نہ تو کرایہ میں کٹیں گے اور نہ ہی مکان خالی کرنے پر واپس ملیں گے، یہ شرائط متولی اور مسجد کی کمیٹی نے طے کی ہیں، اب بعض لوگ ماہانہ کرایہ ۱۰۰۰ روپیہ اور ایڈوانس ڈھائی لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہیں، اور بعض لوگ کرایہ ۴۰۰۰ روپیہ اور ایڈوانس پچیس ہزار روپے دینے کو تیار ہیں، تو اب دریافت یہ کرنا ہے، کہ متولی مسجد اور کمیٹی کا مذکورہ شرط لگانا درست ہے یا نہیں؟ اور متولی اور کمیٹی والوں کو مذکورہ کرایہ داروں میں سے کس کو کرایہ پر دینا چاہئے، کرایہ کم اور ایڈوانس زیادہ دینے والوں کو یا ایڈوانس کم اور کرایہ زیادہ دینے والوں کو شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: خلیفہ محمد اسلم قریشی، فیل خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) متولی اور مسجد کے ذمہ داروں کا یہ شرط لگانا کہ کرایہ دار پر لازم ہوگا، کہ مکان کو از سر نو تعمیر کرے اور تعمیر کا خرچہ یا تعمیر کے ملبہ کو واپس لینے کا کرایہ دار کو حق نہ ہوگا، یہ غیر شرعی شرط ہے، ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہوگا کہ

یا تو تعمیر کا ملکہ واپس لے لے یا مسجد اس کی قیمت ادا کرے۔

ولو استأجر أرضاً موقوفةً وبنى فيها حانوتاً وسكنها..... ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعه، لأنه ملكه وإن كان يضر به فليس له رفعه، لأنه وإن كان ملكه فليس له أن يضر بالوقف ثم إن رضى المستأجر أن يملكه القيم للوقف بالقيمة مبنياً أو منزوعاً، أيهما ما كان أخف يملكه القيم. (البحر الرائق، الوقف، زكريا ۳۹۸/۵، كوئته ۲۳۷/۵، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۳۵/۹، رقم: ۱۱۰۵۱، تاتار خانية، زكريا ۷۳/۸، برقم: ۱۱۲۴۷)

رجل استأجر أرضاً موقوفةً، وبنى فيها حانوتاً وسكنها..... فبعد ذلك رفع البناء إن كان لا يضر بالوقف فللباقى رفعه، وإن كان يضر ليس له رفعه فبعد ذلك، إن رضى المستأجر ان يملكه القيم مبنياً أو منزوعاً أيهما كان أقل فيهما. (هنديہ، الوقف، الباب الخامس، زكريا قديم ۴۲۲/۲، جديد ۳۸۸/۲)

(۲) اور یہ شرط بھی ناجائز شرط ہے کہ ایڈوانس روپیہ جو جمع ہوگا وہ نہ کرایہ پر لگے گا اور نہ زرخمانت کے طور پر خالی کرتے وقت واپس ملے گا، اب رہی ماہانہ کرایہ کی بات تو اس کے بارے میں متولی اور کمیٹی کے لوگوں کو اختیار ہے کہ مسجد کے فائدہ کے لئے زیادہ سے زیادہ کرایہ پر دیا جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، کہ مسجد کے اوقاف کو ہمیشہ کے طور پر کرایہ داری کے لئے نہ دیا جائے، بلکہ ایک سال یا تین سال کے اگر یہ بیٹ کے طور پر دیا جائے، تا کہ تبدل زمانہ کی وجہ سے آئندہ کرایہ بڑھانے میں پریشانی نہ ہو۔ (تفتیح الفتاویٰ الحامدیہ ۲۰۹/۱، بحوالہ محمودیہ ڈابھیل ۳۴۳/۱۴)

لأن لناظر التصرف في الوقف بما فيه الحظ والمصلحة. (تفتيح

الفتاوى الحامديه ۲۰۹/۱، بحوالہ محمودیہ ڈابھیل ۳۴۳/۱۴)

روى عن الفقيه ابى جعفر أنه كان يقول فى الوقف لا يؤجر أكثر من

سنة . (تاتار خانایہ زکریا/۶۸، رقم: ۱۲۳۲)

المختار أن يفتى في الضياع بالجواز في ثلاث سنين - إلى - لا ينبغي أن يوجر أكثر من ثلاث سنين . (المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۹/۳۱، رقم:

۱۱۰۳۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ذیقعدہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۴۱/۲۰۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۱۱/۱۴۳۲ھ

موقوفہ جائیداد کی آمدنی بڑھنے کا حکم

سوال: [۸۰۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی کچھ جائیداد غیر منقول وقف اللہ تعالیٰ کی اور کل آمدنی کا حق دار مسجد و مدرسہ کو بنا دیا گیا جس وقت جائیداد وقف کی گئی اس وقت کل کرایہ کی آمدنی تیس روپیہ تھی، جس میں سے دو روپیہ ماہوار مسجد کیلئے وقف کی گئی تھی، اور بقیہ مدرسہ کیلئے یہ دو روپیہ ماہوار عرصہ دراز سے دیا جا رہا ہے اب جب جائیداد موقوفہ کی کرایہ کی آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، اب مسجد والوں کا کہنا ہے، کہ جب آمدنی وقف کی بڑھ گئی ہے اس حساب سے مسجد کو بھی بڑھا کر دیا جائے جبکہ وقف نمبر ۴ میں یہ تحریر ہے کہ مسجد کو دو روپیہ ماہوار دیا جاتا رہیگا، برائے مہربانی مندرجہ بالا مسئلہ کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں؟ عنایت ہوگی؟

المستفتی: محمد یامین، بدھ بازار، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آمدنی بڑھ گئی ہے تو اس حساب سے مسجد کو

بھی بڑھا کر دینا ہوگا۔

وإن شرط الواقف قسمة الربيع على الجميع بالحصة أو جعل لكل

قدر أو كان ما قدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطى قدر الكفاية لئلا يلزم

تعطیل المسجد (إلى قوله) والشعائر بقدر ما يقوم به الحال (قوله) أن مراد
الواقف انتظام حال مسجد ۵ أو مدرسته الخ. (شامی، الوقف، مطلب يبدأ بعد
العمارة بما هو أقرب إليها زكريا ۶/۵۶۱، كراچی ۴/۳۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ رزی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۱۰۳۹)

مسجد کی زائد از ضرورت زمین کو کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۵۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک
زمین مسجد کے نام وقف ہے، فی الحال مسجد کا کوئی کام اسمیں نہیں ہو رہا ہے، اب کمیٹی کے ذمہ
داران گاؤں والوں کے مشورہ سے اسمیں مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، شرعی اعتبار سے مسجد کیلئے
وقف شدہ اس زمین میں مدرسہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حبیب الرحمن، محلہ خواجہ فیروز، شاہجہاں پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وہ زمین مسجد کی ضروریات سے زائد ہے
تو مسجد کیلئے یہ جائز ہے کہ اہل مدرسہ کو کرایہ پر دیدے اور اہل مدرسہ اس زمین میں کرایہ
ادا کر کے مدرسہ چلاتے رہیں، تاکہ مسجد کو بھی اس زمین کی آمدنی حاصل ہوتی رہے، اور
مدرسہ بھی چلتا رہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۶/۷۶، جدید زکریا دیوبند ۹/۱۵۳، فتاویٰ محمودیہ
۱۲/۲۵۴، ڈبھیل ۱۴/۶۱۳)

لزم أجرة المثل بناء على المفتی به عند المتأخرین من أن منافع العقار
تضمن إذا كان وقفاً أو موعداً للاستغلال. (شامی، الوقف، مطلب سكن دارائم ظهر
أنها وقف يلزمه أجرة ماسكن زكريا ۶/۵۴۰، كراچی ۴/۳۵۲، ہندیہ زکریا قدیم
۲/۴۱۹، جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۸۲۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۶/۲۳ھ

مسجد کے اوپر مدرسہ بنا کر کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اور مسجد کی جگہ میں مدرسہ قائم ہے اور وہ مدرسہ مسجد کے اوپر ہے، اور اس میں لڑکے تعلیم پاتے ہیں، اب مسجد کو مدرسہ کا کرایہ یا بتی کا کرایہ لیکر مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا مفصل جواب دیکر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: حاجی احمد رضا صاحب

عرف حاجی گلن گلاب والی مسجد محلہ

پیرزادہ، ضلع مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد بن چکنے کے بعد اس کے اوپر مدرسہ بنا کر

کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے!

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه

ولو على جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه الخ. (الدر المختار مع الشامی،

الوقف، مطلب فی أحكام المسجد، زکریا ۶/۵۴۸، کراچی ۴/۳۵۸، کوئٹہ ۳/۴۰۶، بزازیہ

زکریا جلد ۳/۱۵۲، وعلیٰ هامش الہندیہ ۶/۲۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ذیقعدہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۱/۲۳)

مسجد کے فائدے کیلئے دس بیگہ زمین کو بائیس بیگہ بتانا

سوال: [۸۰۵۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فدوی نے جامع مسجد ٹانڈہ کی موقوفہ آراضی برائے کاشت پانچ سال کیلئے ٹھیکہ پر لی ٹھیکہ سے متعلق تمام شرائط معاملات نائب متولی صاحب سے طے ہوئے، نائب متولی صاحب نے زمین کا رقبہ بائیس بیگہ بتلایا ہے، فدوی کے معلوم کرنے پر کہ بائیس بیگہ سے کم تو نہیں ہے، تو نائب متولی نے فرمایا کہ ہم نے کئی بار پیمائش کرائی ہے، رقبہ پورا بائیس بیگہ ہے، لہذا بیس ہزار روپیہ سالانہ کے اعتبار سے پانچ سال کے لئے مبلغ ایک لاکھ روپیہ میں معاملہ طے ہو گیا اور کمیٹی کے پاس پچیس ہزار روپیہ بطور پیشگی قسط جمع کر دئے گئے، لیکن جب فدوی آراضی پر پہنچا، اور زمین پر قبضہ لیا، تو وہاں پر لوگوں نے بتلایا کہ یہ آراضی دس بیگہ ہے، اور سرکاری کاغذات میں بھی ۱۶ ڈسمل (دس بیگہ) ہی ہے، میں نے یہ بات نائب متولی صاحب و دیگر ممبران کمیٹی کو تحریراً اور بالمشافہ بتلائی کہ میرا معاملہ ۲۲ بیگہ کا ہے، اور آراضی صرف دس بیگہ ہے، لہذا زمین چھوڑ رہا ہوں، اور میرا پیسہ واپس کر دیا جائے، اس پر کمیٹی والے بضد ہیں کہ آپ کو پورا پیسہ دینا ہوگا، اور زمین بھی پورے پانچ سال رکھنی ہوگی، اگر آپ زمین چھوڑتے ہیں، تو ہم زمین نیلام کر دیں گے، اور اس میں جو نقصان ہوگا، وہ آپکا ہوگا، مسجد نقصان نہیں اٹھائیگی، ایسی صورت میں دس بیگہ کی جگہ بائیس بیگہ بتا کر مسجد کے فائدہ کیلئے زیادہ آمدنی کرانے والی کمیٹی روز قیامت عند اللہ العظیم لائق عذاب ہوگی یا مستحق ثواب ہوگی، اور اس طرح دھوکہ دیکر جبراً دھاندلی سے لئے ہوئے پیسہ کا مسجد صحیح مصرف ہوگی، جبکہ میرا معاملہ صراحتاً بائیس بیگہ کا ہے، جس کا اقرار نائب متولی صاحب کو آج بھی ہے، اور رقبہ دس بیگہ ہے از روئے شرع مجھے کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

المستفتی: ماسٹر محمد حنیف، محلہ سمندرین، ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ آنے کے بعد معاملات طے کرنے کے معاہدہ نامہ کیلئے بھی ہم نے مطالبہ کیا تو معاہدہ نامہ کی ایک فوٹو کا پی ساٹل نے لا کر پیش کی اور اسی معاہدہ نامہ کی دوسری عین فوٹو کا پی مسجد کمیٹی کی طرف سے جناب قاری نعیم صاحب مدظلہ کے توسط سے دارالافتاء میں داخل ہوئی، تینوں کاغذات کو بغور دیکھا گیا ہے کہ معاہدہ ۲۲ بیگہ پر ہوا ہے، اور پانچ سال کی مدت میں ایک لاکھ روپیہ کرایہ دینے کی بات طے ہوئی ہے، جس کی پوری تفصیل معاہدہ نامہ میں موجود ہے، جس میں فریقین اور گواہوں کے دستخط بھی ہیں، لیکن ایک افسوس کی بات سامنے آئی کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے جناب قاری نعیم صاحب کے توسط سے جو معاہدہ نامہ کی فوٹو کا پی دارالافتاء میں داخل ہوئی، اس میں ایسی جعل سازی کی گئی ہے جسے ہر دیکھنے والا دیکھ کر افسوس کریگا، کہ جو فوٹو کا پی ساٹل محمد حنیف نے داخل کی ہے، بعینہ اسی طرح کی فوٹو کا پی مسجد کمیٹی نے بھی داخل کی، مگر مسجد کمیٹی نے یہ جعل سازی کی ہے کہ ۲۲ بیگہ جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے اس کے اوپر عددوں میں جو ۲۲ لکھا ہوا ہے، اسکو بارہ بنا دیا ہے اور ۲۲ کے نیچے عبارت میں ۱۲ لکھ دیا پھر بھی عبارت میں ۲۲ اپنی جگہ پر موجود ہے، مسجد کمیٹی کے اس جعل سازی کو معاہدہ نامہ دیکھنے کے بعد ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، اور ایسی جعل سازی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً، اور نہ ہی معاشرہ میں کوئی مسلمان اس کو جائز قرار دے سکتا ہے، شریعت میں ایسے جعل ساز اور خائن متولی کو مسجد کی تولیت سے برطرف کر دینے کا حکم ہے، ایسے لوگ امور دینیہ کے ذمہ دار نہیں بن سکتے، اس لئے مسجد کمیٹی پر لازم ہے کہ جیسے ۲۲ بیگہ سے متعلق معاہدہ طے ہوا ہے ویسے ہی ۲۲ بیگہ فریق ثانی کو دیدے، ورنہ موقع پر جتنی بیگہ موجود ہے اتنی بیگہ کا معاملہ دوبارہ الگ سے کریں، اور فریق ثانی کا پیسہ پیشگی لیکر دالینا قطعاً ناجائز اور حرام ہے، مسجد کمیٹی پر لازم ہے، کہ معاملہ شریعت کے مطابق کر لے، اگر ۲۲ بیگہ نہیں

دے سکتے ہیں، تو فریق ثانی کا پیسہ واپس کر دے، ورنہ جتنی بیگہ موقع پر موجود ہے اسکا معاملہ دوبارہ الگ سے طے کرے، اور پہلا معاملہ مسترد کر کے فریق ثانی کا پیسہ واپس کر دے، اور مسجد اپنی زمین واپس لے لے یہی شریعت کا حکم ہے۔

ولا یولی إلا أئمن قادر بنفسه أو بنائیه، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه یخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا یحصل به . (شامی، الوقف، مطلب فی شروط المتولی زکریا ۵۷۸/۶، کراچی ۴/۳۸۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۶۶، زکریا ۵/۳۷۸، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۰۸، جدید ۲/۳۸۰)

ولیس للبائع فی البیع الفاسد أن یأخذ المبیع حتی یرد الثمن . (ہدایہ، اشرفی، ۳/۶۵)

أن سعید ابن زید قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول: من ظلم من الأرض شیئاً طوقه من سبع أرضین . (بخاری شریف، باب إثم من ظلم شیئاً من الأرض، النسخة الهندیة ۱/۳۳۲، رقم: ۲۳۸۸، ف: ۲۴۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷ شعبان ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۵۳۵/۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۸/۷ھ

مسجد کی دوکان کا کرایہ نہ ادا کرنے والے کا حج کرنا

سوال: [۸۰۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
(۱) ایک شخص مسجد کی دوکان پر ستر مہینے سے بنا کرایہ دیتے ناجائز طور پر قابض ہے تقاضوں کے بعد بھی نہ کرایہ ادا کرتا ہے نہ دوکان خالی کرتا ہے، اس شخص کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟
(۲) یہ شخص حج کیلئے جا رہا ہے کیا مسجد کا کل پیسہ کرایہ ستر ماہ ادا کئے بنا اس کا حج کیلئے

جانا شرعاً جائز ہے ستر ماہ کا کرایہ بحساب چار سو روپیہ ماہوار اٹھائیس ہزار روپیہ ہوتا ہے؟

(۳) اس شخص سے مسلمانوں کو کیسے معاملات رکھنے چاہیں؟

المستفتی: عظیم عرشى الصابرى، گول گھر، منڈی چوک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مسجد کی کمیٹی اور ذمہ داروں پر لازم ہے کہ مسجد کی دوکان شخص مذکور سے فوراً خالی کروالیں اور جس طرح بھی دباؤ اور اثر ڈالا جاسکتا ہے، ڈال کر مسجد کا پیسہ اس سے وصول کرنا ضروری ہے۔

ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردّها إلى الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد. (عالمگیری،

الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف زكريا قديم ۲/۴۷، جدید ۲/۳۰۳، ۴۰۴)

(۲) مسجد کا قرض اٹھائیس ہزار روپیہ ادا کرنا حج پر مقدم ہے مسجد کے قرض کا بار لیکر حج کیلئے جانا عبادت کا کارنامہ نہیں ہے، با اثر لوگوں کو مسجد کا پیسہ وصول کرنے میں اس شخص پر اپنا اثر استعمال کرنا ضروری ہے۔

وكذا الغريم لمديون لامال له يقضى به والكفيل لو بالإذن فيكره خروجه بلا إذنه كما في الفتح وظاهره أن الكراهة تحريمية. (شامی،

كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام زكريا ۳/۴۵، کراچی ۲/۴۵۶)

(۳) مسلمانوں کو اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے، یہ بات واضح ہے کہ جس طرح معاملہ کرنے سے مسجد کا حق مسجد کو وصول ہو جائے وہی اختیار کرنا چاہئے، اگر بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کرنے سے کام چل سکتا ہے، تو حقہ پانی بند کر دیا جائے، اور اگر کوئی طاقت استعمال کرنے سے مسجد کا حق وصول ہو جائے تو طاقت استعمال کرنی چاہئے، ایسا شخص ظالم اور خائن ہے مسجد کے ذمہ داروں پر لازم ہے کہ اس شخص سے کسی بھی طریقہ سے مسجد کا حق وصول کریں۔

وأما عزل الخائن وإقامة غيره ممن يحفظ الوقف إلى ما قال..... وإن

عزلہ واجب علی کل مسلم یتطیعہ فإنہ من قبیل إنکار المنکر . (تقریرات

رافعی مع شامی، زکریا ۶/۸۴، کراچی ۴/۸۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹ ذیقعدہ ۱۴۲۲ھ

۱۱/۱۱/۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۱۹۲/۳۷)

میلے کیلئے کرایہ پردی گئی مسجد کی زمین کے کرایہ کا حکم

سوال: [۸۰۵۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

ایک زمین ہے اس کو کرایہ پردیا جاتا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کرایہ پر لینے والا اس زمین پر کوئی پروگرام کرا کر روپیہ کماتا ہے، مثلاً میلانیٹیشن وغیرہ اور اس کمائی سے مسجد کا کرایہ ادا کرتا ہے، تو اس روپیہ سے مسجد کی تعمیر کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد ریاض الدین، کولکاتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بطور کرایہ مسجد کو جو رقم حاصل ہوئی ہے، وہ درست

اور صحیح ہے اس سے مسجد کی تعمیر درست ہے، البتہ آئندہ یہ خیال رکھیں کہ ایسے شخص کو زمین کرایہ پر نہ دیں جو اس میں گناہ معصیت کا پروگرام کراتا ہو۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدہ: ۲)

وتصح إجارة أرض للبناء والغرس وسائر الانتفاعات كطبخ آجر

وخنزف ومقيلاً ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم . (درمختار مع الشامی،

الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها زکریا ۹/۴۰، کراچی ۶/۳۰)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۵/۱۴۲۶ھ

۱۱/۱۱/۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۱۸/۳۷)

مسجد کی کرایہ دار عورت اگر تنگ دست ہو تو کیا کریں؟

سوال: [۸۰۵۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد سنبھلی گیٹ مراد آباد کی ایک دوکان کی کرایہ دار بیوہ تھی، عدالت سے وہ بے دخل ہو گئی اس پر دوکان کا کرایہ و خرچہ باقی ہے، جسکے ڈگری کی کارروائی چل رہی ہے، اسکے پاس اتنا نہیں ہے، کہ وہ ادا کر سکے ایسی صورت میں متولی کو کیا کرنا چاہئے، نیز اسکی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، ایسے حالات میں کیا معاملہ کیا جائے، رہنمائی فرمائیں؟

المستفتی: نسیم احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں متولی کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . (البقرة: ۲۸۰)“ پر عمل کرنا چاہئے! یعنی استطاعت تک مہلت دینی چاہئے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ذیقعدہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر الف: ۹۶۴/۲۳)

مسجد کی بالائی منزل پر ٹیلر کی دوکان کرنا

سوال: [۸۰۵۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد دو منزلہ ہے نیچے نماز باجماعت ہوتی ہے، اور اوپر کی منزل خالی ہے اب اگر بالائی منزل پر کوئی ٹیلر ماسٹر سلائی کی دوکان کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کی رو سے ایسا کرنا کیسا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد زکریا، امام مسجد چورہا، منڈی چوک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جائز نہیں ہے۔

وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفاً عليه

صار مسجداً . (الدر مع الرد، الوقف، مطلب في أحكام المسجد زكريا ۶/۵۴۷،

کراچی ۴/۳۵۷، کوئٹہ ۳/۴۰۶، البحر الرائق، زکریا ۵/۴۲۱، کوئٹہ ۵/۲۵۱)

عن وائلة بن الاشقع، أن النبي ﷺ قال: جنبوا مساجدكم

صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع

أصواتكم، الحديث: (سنن ابن ماجه، باب ما يكره في المساجد، النسخة الهندية

۱/۵۴، دار السلام رقم: ۷۵۰، المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي ۲۰/۱۷۳،

رقم: ۳۶۹ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ شوال ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۶/۲۳)

مسجد کے مکان میں کرایہ دار کا جو اوغیرہ کھیلنا

سوال: [۸۰۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

مسجد کے مکان میں رہتا ہے، زید کے لڑکے مسجد ہی کے مکان میں جو بازی وغیرہ کرتے ہیں،

اور جوے ہی کے پیسے سے زیورات اور کپڑے رنگائی کا کام کرتے ہیں، تو زید کے لڑکے رنگ

کی چوری بھی کر لیتے ہیں، اور زید کا لڑکا ایسی عورت کیساتھ رہتا ہے، جس کا کوئی شوہر نہیں

ہے، نعوذ باللہ من ذلک اور وہ عورت غیر مسلمہ ہے، زید کی بہو کے ذریعہ یہ ساری باتیں معلوم

ہوئیں، اور اہل محلہ کو بھی یہ حالات معلوم ہیں، ان تمام کاموں کے باوجود زید اپنے آپ کو متقی

و پرہیزگار بھی سمجھتا ہے، تو مسئلہ دریافت یہ کرنا ہے، کہ زید اور اس کے لڑکوں کا مسجد کے مکان

میں رہنا کیسا ہے؟ جبکہ زید نے اپنی پوتی کے نام فکسڈ ڈپازٹ بھی کرا رکھا ہے؟
المستفتی: محل حسین، سینٹاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدہ: ۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۶/۵/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۸۸۴۱/۳۷)

مسجد کی دوکانوں میں ریڈیو کی دوکان کھولنا

سوال: [۸۰۵۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

دوکانوں میں ریڈیو کی دوکان کھولنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمود احمد، محلہ لوہانی، قصبہ پہانی، ہردوئی، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ریڈیو فلم وغیرہ تماشائی کیلئے ہی مسجد کی دوکان

کرایہ پر دی ہے، تو واپس کر لینا ضروری ہے، اور اگر اس غرض سے نہیں دی ہے، لیکن بعد میں

کرایہ دار نے اس کو اس قسم کے خرافات کی دوکان بنالی ہے، اور اسکی آواز وغیرہ مسجد میں بھی

آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں خالی کر لینا چاہئے، تاکہ نمازیوں کو نقصان نہ ہو، نیز اگر آواز

بھی نہیں آ رہی ہے، تب بھی تعاون علی المعصیۃ کو ختم کرنے کیلئے خالی کر لینا چاہئے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدہ: ۲)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۱۴/۲۹)

مسجد کی دوکان شراب فروخت کرنے والے کو کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی مسجد کی ایک دوکان ہے اور اس دوکان کو کسی مسلمان کو کرایہ پر دی اور اس کرایہ دار نے اپنا کاریگر ہندو کو رکھا اور یہ کاریگر مسجد کی دوکان میں شراب بیچا کرتا ہے، اس پر مسجد والوں نے اعتراض کیا اور دوکان بند کر دی، کچھ دنوں کے بعد اس کاریگر نے کرایہ دار سے معافی مانگی پھر اسی کو دوکان میں بٹھا دیا، تو معافی مانگنے کے بعد اس ہندو کاریگر کو دوکان میں بٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس دوکان میں شراب بیچنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد حسین، دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی دوکان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسجد اور نمازیوں کیلئے پریشانی کا باعث ہو مثلاً اس دوکان میں ریڈیو باجایا آزاد لوگوں کی مستقل آمد و رفت یا شراب وغیرہ کا تماشہ ہوتا ہو یہ سب امور تعاون علی المعصیت کے مرادف بھی ہیں، اسلئے اسمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۱۰۸، جدید زکریا دیوبند ۹/۱۱۳)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدہ: ۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ محرم ۱۴۱۵ھ

۱۸/۱۱/۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۸۳)

مساجد کی املاک سودی کاروبار کرنے والوں کو دینا

سوال: [۸۰۶۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مساجد کی املاک کو ذمہ دار لوگ سودی کاروبار (بینک) کیلئے کرایہ پر دئے ہوئے ہیں، اور اس سے

جو کرایہ وصول ہوتا ہے، وہ مصارف مسجد میں صرف ہوتا ہے، مثلاً امام و مؤذن کی تنخواہوں اور دیگر مصارف میں شہر بنگلور میں دیکھا جا رہا ہے، کہ اکثر مساجد کی املاک سودی کاروبار کرنیوالے بینکوں کو کرایہ پردی گئی ہیں، جس میں فی الوقت شہر کے ۶ یا ۷ مساجد اور ادارے شامل ہیں، اور اس معاملہ کو دیکھ کر لوگ اپنی ذاتی جائیداد بھی سودی کاروبار کیلئے کرائے پر دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ وجہ جواز کی ہے، کہ مساجد کی املاک بھی سودی کاروبار کیلئے دیدی گئیں ہیں، اس سلسلہ میں ان سوالوں کا جواب مطلوب ہے؟

- (۱) مساجد کی یا اپنی املاک کو سودی کاروبار کرنے والوں کو کرایہ پردینا جائز ہے یا نہیں؟
- (۲) اس معاملہ سے حاصل ہونے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اعانت علی المعصیۃ کی وجہ سے کرایہ پردینا

ناجائز ہے، دینے والے گنہگار ہوں گے۔

تولہ تعالیٰ: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدہ: ۲)

(۲) البتہ حاصل شدہ کرایہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بلا کراہت جائز اور حلال ہوگا،

کیونکہ کرایہ اپنی املاک اور جائیداد کی منفعت ہے! اور سودی کاروبار کا گناہ فاعل مختار پر ہوگا۔

وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار الخ. (شامی، کتاب الحظر

والاباحۃ، باب الاستبراء وغیرہ زکریا ۵۶۲/۹، کراچی ۳۹۲/۶)

اور حضرات صاحبین کے نزدیک اجرت کراہت تنزیہی کے ساتھ حلال ہوگی!

لو أجره دابة لينقل عليها الخمر أو أجر نفسه ليرعى له الخنازير

يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره الخ. (شامی، زکریا ۵۶۲/۹، کراچی

۳۹۲/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۰۹/۵/۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۲۵/۲۴)

مسجد کا سامان ہندو کو کرایہ پر دینا

سوال: [۸۰۶۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کی ملکیت میں کچھ پلٹیں ہیں، جو مسجد کی غرض سے کرایہ پر دی جاتی ہیں، کیا غیر مسلموں کو بھی کرایہ پر دے سکتے ہیں، اور مسجد کیلئے اسکی اجرت جائز ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرشید، مدرسہ شاہی، سلیم پور، بھوجور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حدیث شریف میں غیر مسلموں کے استعمال شدہ برتنوں وغیرہ سے احتیاط کا حکم وارد ہوا ہے، بحالت مجبوری خوب مبالغہ کیساتھ پاک کر کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو مسلمانوں کی بالارادہ اپنے برتنوں کو غیر مسلموں کے استعمال میں دینے سے بالکل بے احتیاطی یہ منشاء رسول کے خلاف ہے، اسلئے اس سے بچنا لازم ہے، البتہ اگر اجرت وصول کر لی ہے، تو وہ بلا کراہت مسجد کیلئے جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی خبث و نجاست شامل نہیں ہے، آئندہ کیلئے احتیاط لازم ہے۔

عن ابی ثعلبۃ الخشبی، أنه سأل رسول الله ﷺ قال: إنا نجاور أهل

الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيةهم الخمر، فقال رسول الله ﷺ: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واكلوا واشربوا. (سنن ابی داؤد باب فی

استعمال آنية أهل الكتاب، النسخة الهندية ۲/۵۳۷، دارالسلام رقم: ۳۸۳۹)

الأكل والشرب في أواني المشركين يكره. (الموسوعة الفقهية الكويتية

۱۰/۴۰، ہندیہ زکریا قدیم ۵/۳۴۷، جدید ۵/۴۰۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رجب الثانی ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۰۲۳)

مسجد کے مانگ سے اعلان کرنا

سوال: [۸۰۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں ودیہاتوں میں مساجد کے مانگ سے گاؤں میں فروخت ہونے والی اشیاء کپڑے، سبزی اور برتن وغیرہ کے اعلانات ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کے یہاں شادی ہو تو کھانا شروع ہونے پر مہمانوں کو مسجد کے مانگ سے اعلان کے ذریعہ اطلاع دی جاتی ہے، اور ہر اعلان پر متعینہ فیس بھی لی جاتی ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ مساجد کے مانگ سے کسی بھی قسم کے اعلانات جائز ہیں یا نہیں؟ اگر جائز ہیں تو مطلقاً یا کسی خاص قسم کے اعلانات؟ مفصل جواب با وضاحت مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: (مولانا) عبدالعظیم، امام مسجد موضع پاوٹی، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کا مانگ جماعت خانہ سے الگ حجرہ میں رکھا ہوا ہے، تو فیس لے کر اس مانگ سے اعلان کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس لئے کہ اس میں مسجد ہی کا فائدہ ہے، بس اتنی بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہ اس اعلان کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو، اور خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں مسجد کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور اگر مسجد کا مانگ جماعت خانہ کے اندر ہے جیسا کہ بعض مساجد میں محراب ہی کے پاس ہوتا ہے، تو ایسے مانگ سے ہر طرح کا اعلان کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے۔

القیم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أن يستغل أویباع عند الحاجة جاز له، إن كان له ولاية الشراء. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی، زکریا قدیم ۴۲۲/۲، جدید ۴۱۳/۲)

و یجب علی الحاکم أن یأمره بالاستیجار بأجرة المثل
و یجب علیہ أجرة المثل بالغاً ما بلغ و علیہ الفتوی. (البحر الرائق،

کتاب الوقف، زکریا ۵/۳۹۵، کوئٹہ ۵/۲۳۵، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۱۹،
جدید ۲/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۷۸/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۲/۷ھ

مسجد کے مانگ سے تقریر کرنا

سوال: [۸۰۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد اتنی بڑی ہے، کہ اس میں نماز جمعہ میں اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ اگر بغیر مانگ کے وعظ و تقریر کی جائے، تو خطیب کی آواز تمام مصلیان کو نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اس مسجد میں مانگ کے ذریعہ تقریر اس غرض سے کی جاتی ہے، تاکہ بستی کے بقیہ مصلیان بھی مسجد میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کر لیں؟

حضرت مفتی صاحب سے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ سوال میں مذکور مسجد میں مانگ کے ذریعہ سے وعظ و تقریر کرنا یہ عمل جائز ہے یا بدعت، تسلی بخش جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سائل نے سوالنامہ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مذکورہ مسجد میں مانگ کے ذریعہ وعظ و تقریر کرنا یہ عمل جائز ہے یا بدعت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جائز اور درست ہے، اور وعظ و تقریر کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی اور اصلاحی فائدہ پہنچے، لہذا اس مسجد میں مانگ کے ذریعہ تقریر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ویجوز الدرس بسراج المسجد وإن كان موضوعاً فیہ للصلاة.....
إلیٰ ثلاث اللیل. (البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل فی أحكام المساجد،

زکریا ۵/۴۲۰، کوئٹہ ۵/۲۵۰، خلاصۃ الفتاویٰ ۴/۴۲۲)

لو وقف علی دهن السراج للمسجد لایجوز وضعه جمیع اللیل بل

بقدر حاجة المصلين ، يجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إن احتيج إليه للصلاة
فیه . (ہندیہ ، الباب الحادی عشر ، فی المسجد الفصل الأول ، زکریا قدیم ۴۵۹/۲ ،
جدید ۴۱۱/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ صفر ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۷۱/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۲/۶ھ



۱۴/ الفصل الرابع عشر: مسجد کی اشیاء کی خرید و فروخت

مسجد میں مسجد کی اشیاء کو فروخت کرنا

سوال: [۸۰۶۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض مرتبہ مسجد میں کچھ اشیاء مسجد کے اخراجات سے زائد ہو جاتی ہیں جیسے پنکھے یا گھڑیاں انہیں ذمہ داران مسجد فروخت کر سکتے ہیں، مسجد میں اعلان کر کے کہ مسجد کی فلاں شیئی فروخت ہوگی بعد فراغت نماز باہر مسجد کے فرش پر ان اشیاء کا نیلام کرتے ہیں، تو مسجد کے فرش پر مسجد کی اشیاء فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: اقبال احمد، سکریٹری شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد نماز و جماعت کیلئے متعین کی گئی ہے، اسلئے وہاں کسی قسم کی خرید و فروخت کرنا (خواہ مسجد ہی کا سامان ہی کیوں نہ ہو) ناجائز ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، الحديث: (سنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلوة، النسخة الهندية ۱/۱۵۴، دار السلام رقم: ۱۰۷۹، السنن الترمذی، كتاب الصلوة، باب ماجاء في كراهية البيع والشراء، النسخة الهندية ۱/۷۳، دار السلام رقم: ۳۲۲)

وكرهه أى تحريماً لأنها محل إطلاقهم إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعه غير المعتكف مطلقاً (قوله مطلقاً) للنهي سوا إحتاج لنفسه أو عياله أو كان للتجارة أحضره أولاً. (شامی، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، كراچی ۲/۴۴۹، زکریا ۳/۴۴۰)

قالوا يكره إحضار السلعة للبيع والشراء، لأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بهوا يكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه. (هدايه ، اشرفی دیوبند ۱/۲۳۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۲/۳۰۳، زکریا ۲/۵۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۳۶۳۷۵)

مسجد کا سامان بیچنا

سوال: [۸۰۶۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک پرانی مسجد تھی، جس کو توڑ کر نئی بنائی گئی ہے اور اس مسجد کی کچھ چیزیں بچ گئی ہیں، اور اسی گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہے، جس میں اسی گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں، تو اس مدرسہ میں مسجد کی بچی ہوئی چیزیں استعمال کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ اگر استعمال میں لائی جاسکتی ہیں، تو کس طریقہ پر قیمتاً یا بغیر قیمت کے؟

(۲) مسجد کی بچی پرانی چیزوں کو فروخت کرنا یا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اسکو مطبخ بیت الخلاء و وضو خانہ وغیرہ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ پھر کس میں لگایا جائے؟

المستفتی: عزیز الرحمن، ۲۴ پرگنوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) پرانی مسجد کے ملبہ اور دیگر اشیاء جو بچ گئی ہیں اور مسجد کو ان اشیاء کی ضرورت بھی نہیں ہے تو انکو فروخت کر دینا جائز ہے، اور مدرسہ والے لینا چاہیں تو قیمت ادا کر کے لے سکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۱۷۴، جدید ڈائجیل ۱۴/۸۷۵)

وما انهدم من بناء الوقف و آلتہ صرفہ الحاکم فی عمارة الوقف إن احتاج إلیہ وإن استغنی عنہ أمسکہ حتی یحتاج إلی عمارتہ ، فیصرف فیہا..... وإن تعذر إعادة عینہ إلی موضعہ بیع و صرف ثمنہ إلی المرمة

صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل . (ہدایہ ، کتاب الوقف ، اشرفی دیوبند ۲/۶۴۲ ، الدر المختار ، کتاب الوقف ، مطلب فی الوقف إذا خرب ولم یمكن عمارتہ کراچی ۴/۳۷۶، ۳۷۷، زکریا ۶/۵۷۳)

(۲) فروخت کرنا اور خریدنا دونوں جائز ہے اور خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے صرف کرے لہذا خریدنے والا مدرسہ مطبخ بیت الخلاء وغیرہ میں بھی لگا سکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۳/۲۵۱، جدید ڈائجیل ۱۴/۳۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۶۳۶/۳۲۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۱/۱۴۱۷ھ

مساجد کی اشیاء کے خرید و فروخت کا حکم

سوال: [۸۰۶۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر نو تعمیر مسجد میں صفوں وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو پہلی مسجد والے اگر رعایتی قیمت پر کچھ سامان دیدیں جیسا کہ یہاں مسجدوں کے سامان کو لوگوں کیلئے فروخت کیا جاتا ہے، تو کیا شرعاً درست نہیں کہ اس دوسری مسجد کی بھی اعانت ہو جائے کیا شرعاً اس میں کچھ قباحت ہے؟

المستفتی: عبدالرحیم، بڈ بڈوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کے صفوں قابل استعمال ہیں، تو انہیں فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر مسجد کی ضرورت سے زائد ہیں اور کام میں نہیں آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یہ صفوں کسی نے دی ہیں تو اسکی اجازت سے دوسری مسجد میں فروخت کرنے کی گنجائش ہے، اور پیسہ اسی مسجد میں خرچ ہوگا، اور اگر کسی شخص نے نہیں دی ہیں، بلکہ مسجد میں پہلے سے خریدی گئی تھیں اور اب ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے فروخت کرنا ہے، تو ذمہ داران مسجد اس کو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ اسی میں خرچ ہوگا، اور دوسری مسجد والوں کیلئے رعایتی قیمت میں ان صفوں کو خرید کر اپنی مسجد میں استعمال کرنا بلا تردد جائز

ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۳۰۴، جدید ڈبھیل ۱۲/۴۷۱)

و کذا لو اشترى حشيشا أو قنديلاً فوق الاستغناء عنه كان ذلك له
إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً. (البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل فی أحكام
المساجد کوئٹہ ۲۵۲/۵، زکریا ۲۳/۵، شامی، کتاب الوقف، مطلب فیما لو حرب
المسجد أو غیرہ کراچی ۴/۳۵۹، زکریا ۶/۵۴۹)

وما انهدم من بناء الوقف وألته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن
احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرف
فيها..... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيعه وصرف ثمنه إلى المرممة
صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل. (هدایہ، کتاب الوقف، اشرفی دیوبند ۲/۶۴۲،
درمختار، مطلب فی الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته کراچی ۴/۳۷۶، زکریا
۶/۵۷۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/۳/۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۵۵۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۳/۱۴۲۱ھ

وقف شدہ قرآن کریم مسجد سے باہر لے جانا

سوال: [۸۰۶۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
کے لئے وقف شدہ کلام پاک کا مسجد سے باہر لے جانا کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالمعید قاسمی،

آزادنگر، ہلدوانی، ضلع: منی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وقف شدہ کلام پاک کو باہر لیجانا ممنوع ہے۔

(مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۲/۲۹۶، جدید ڈبھیل ۱۲/۵۸۵)

إذا وقف كتباً وعین موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم

یجز نقلها منه الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی نقل کتب الوقف من محلها، کراچی ۴/۳۶۶، زکریا ۶/۵۵۹)

وبهذا عرف حکم نقل کتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها.....
فإن كان الواقف وقفها على المستحقين في وقعه لا يجوز نقلها. (منحة الخالق على البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۰۲، زکریا ۵/۳۳۸، درمختار کراچی ۴/۳۶۵، زکریا ۶/۵۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ رجب الاول ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۷۹/۲۸)

مسجد کے بوسیدہ قرآن کم قیمت میں ہدیہ پر دینا

سوال: [۸۰۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں بہت سارے قرآن شریف ہیں، جو ایک کوٹھری میں رکھے ہوئے ہیں، پانی کی نمی سے گل کر خراب ہو گئے جو کچھ بچے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، مسجد کے امام نے مشورہ دیا کہ اب یہ قرآن شریف نہایت کم قیمت میں ہدیہ پر دیدیئے جائیں، تاکہ کسی کے پڑھنے کے کام آجائیں، اور مسجد میں پیسے آجائیں مگر مسجد کا منتظم اس بات کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ چاہے خراب ہوں مگر اتنا سستا ہم نہیں دیں گے، کیا اس طرح مسجد کا مال خراب کرنا خصوصاً قرآن کریم کو بر باد کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالرحیم، بڈ بڈوی عفی عنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس سلسلہ میں امام صاحب کا مشورہ مناسب ہے اس پر عمل کرنا چاہئے، نیز دوسری مسجد میں جب دیئے جائیں تو اس مسجد سے قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مفت میں دیئے جائیں، اسلئے کہ دینے والوں نے تلاوت ہی کیلئے

دیئے ہیں، بیچنے کی اجازت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیمہ ۶/۷۷، جدید زکریا ۹/۳۸)

إذا وقف مصحفاً على أهل مسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون
جازه، وإن وقف على المسجد جازاً ويقرأ في ذلك المسجد وفي موضع
آخر ولا يكون مقصوراً على هذا المسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوثنه
۲۰۲/۵، ۲۰۳، زکریا ۵/۳۳۸)

وما فضل من حصر المسجد وزينته ولم يحتج إليه جازاً أن يجعل في
مسجد آخر. (اعلاء السنن، كتاب الوقف، باب حكم حصر المسجد الخ، دارالكتب
العلمية بيروت ۱۳/۲۳۳، کراچی ۱۳/۱۹)

وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ومثله حشيش المسجد
وحصره مع الاستغناء عنهما،..... فيصرف وقف المسجد..... إلى أقرب
مسجد. (درمختار کراچی ۴/۳۵۸، زکریا ۶/۵۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۳/۱۴۲۱ھ
۳۵/۲۵۵ (الف فتویٰ نمبر: ۲۵۵)

مسجد کی چیز دوسری جگہ لے جانا

سوال: [۸۰۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
میں وقف شدہ قرآن یا دینی کتابیں جو لوگ استعمال میں نہیں لارہے ہیں، بلکہ یونہی مسجد
میں رکھی ہوئی ہے، زید چاہتا ہے کہ اس قرآن یا کتابوں کو اپنے استعمال میں لائے تو اس
کا کیا طریقہ ہے یونہی مسجد سے لے کر آجائے یا انتظامیہ سے بات کر کے اسکا کچھ عوض
دے کر لائے شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: علی حسین بن عبدالقدوس، معلم دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مساجد میں جو قرآن کریم وقف کیا جاتا ہے، وہ مسجد ہی میں تلاوت کی غرض سے وقف کیا جاتا ہے، اسے گھروں اور دوکانوں میں لیجانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر دوسری مسجد میں قرآن کریم نہیں ہے، اور یہاں ضرورت سے زائد ہے تو دوسری مسجد میں منتقل کیا جاسکتا ہے، اور جب زید یہ چاہتا ہے، کہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن پاک اور دینی کتابیں استعمال ہونی چاہئیں، تو زید کو چاہئے کہ مسجد میں بیٹھ کر وقف شدہ قرآن کریم کی تلاوت اور وقف شدہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، لیکن ان کو مسجد سے اپنے گھر یا دوسری جگہ لیجانے کی اجازت نہیں ہے۔

وقف مصحف اعلیٰ اهل مسجد للقراءة ان يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز و يقرأ فيه ولا يكون محصوراً على هذا المسجد و به عرف حکم نقل كتب الأوقاف عن محالها..... فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها (در مختار) قال الشامي: تحته ”يقرأ فيه“ فإن ظاهره أنه يكون مقصوراً على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك المسجد. (شامی، کتاب الوقف، مطلب متى ذکر للوقف مصرفاً لا بد ان يكون فيهم تنصيص على الحاجة كراچی ۴/۳۶۵، زکریا ۶/۵۵۸)

وما فضل من حصير المسجد وزينته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. (اعلاء السنن، کتاب الوقف، باب حکم حصير المسجد الخ، دارالکتب

العلمية بيروت ۱۳/۲۳۳، کراچی ۱۳/۱۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

۱۳/۴/۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۲۱/۳۹)

آلات مسجد و مدرسہ کے استغناء کی صورت کا حکم

سوال: [۸۰۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آلات

مسجد و مدرسہ کا استغنیٰ کی صورت میں مسئلہ کا حکم مختلف فیہ ہے، اور امام محمد کے قول کو مفتی بہ قرار دیا گیا ہے، کہ آلات مسجد و مدرسہ استغنیٰ کی صورت میں اصل مالک کی ملکیت کی طرف لوٹ جائیگا، اگر وہ زندہ ہو، ورنہ ورثاء اسکے مالک ہوں گے؟

جبکہ عرف عام یہ ہو چکا ہے، کہ متولی حضرات اور مہتمم حضرات آلات مسجد و مدرسہ سے استغنیٰ کی صورت میں ان چیزوں کو فروخت کر کے مسجد و مدرسہ کیلئے کوئی دوسری چیزیں خرید لیتے ہیں، اور واقفین بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کرتے ہیں، گویا ان کی جانب سے دلالت اجازت ہوتی ہے، کہ استغنیٰ کی صورت میں تم اسے فروخت کر سکتے ہو تو آیا عرف عام کی بناء پر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف کا قول نفع للوقف بھی ہے؟

المستفتی: مفتی حسام الدین، مقیم امراتوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے سامان و آلات، جن کی مسجد کو ضرورت

نہیں ہے، انکے بارے میں فقہاء نے جو اختلاف نقل فرمایا ہے، کہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مسجد کی ملکیت میں رہیگا، اور امام محمدؒ کے نزدیک مالک کو واپس کیا جائے گا، اور امام محمدؒ کے قول کو مفتی بہ لکھا گیا ہے، تو اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں، کہ امام محمدؒ کے قول پر مالک کو واپس کئے جانے کیلئے یہ شرط ہے کہ وہ آلات منتفع بہ نہ رہے ہوں، اگر کسی طرح کا ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا ان کو بیچ کر ان کی قیمت مسجد یا مدرسہ کی دوسری ضروریات میں لگائی جاسکتی ہے، تو امام محمدؒ کے نزدیک بھی مالک کو واپس نہیں کیا جائے گا، نیز اگر مختلف چندہ کے پیسوں سے وہ سامان مہیا کیا گیا ہے، تب بھی مالکوں کو واپس نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ ہوگا، ہاں البتہ اگر کوئی متعین چیز مالک نے مسجد کو دی ہے، تو امام محمدؒ کے قول کے مطابق مالک یا اسکے ورثاء کو واپس کر دیا جائیگا، ورنہ اس کی قیمت سے مسجد کی دوسری ضروریات پوری کی جائیں گی، علامہ شامیؒ نے اس پر آخری فیصلہ لکھا ہے، اسلئے کہ وقف میں نفع للوقف پر ہی فتویٰ ہوتا ہے، علامہ شامیؒ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

قال فی الدر : وعاد إلى الملك أي ملك الباني أو ورثته عند محمد وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي وتحتة فی الشامیة: فيرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافاً لأبي يوسف، لكن عند محمد إنما يعود إلى ملكه ماخرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية، كحانوت احترق، إلى قوله فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. (درمختار مع الشامی، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد،

کراچی ۴/۳۵۹، ۳۵۹، زکریا ۶/۵۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ صفر ۱۴۲۹ھ

۲۵/۲/۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۸۳/۳۸)

غرض واقف کے خلاف اشیاء مسجد کے استعمال کا حکم

سوال: [۸۰۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد ہاشم خاں مرحوم پاکستانی نے بحیات خود ایک فوقانی مسجد کے برآمدہ کیلئے کچھ روپیہ محبوب خاں مرحوم کو بر موقع چند عنایت فرمایا تھا، محبوب خاں کے وارثوں کے کہنے کے مطابق، مگر محبوب خاں نے کسی وجہ کے باعث وہ پیسہ مسجد کے متولی کو نہیں دیا تھا، اسی اثنا میں محبوب خاں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور محمد ہاشم خاں بھی محبوب خاں کے چند ہفتہ بعد انتقال کر گئے، محبوب خان کے وارثوں نے اس پیسہ کی انیٹ سر یا سمنٹ لاکر مسجد کے مقام پر رکھ دیا ہے، مسجد کے متولی کا کہنا ہے کہ برآمدے کے بالمقابل مسجد کے حجرے کی چھت اور مسجد کے مکتبہ کالینٹر پڑنا نہایت ضروری ہے؟ ورنہ مسجد کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ محبوب خاں کے وارثین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، مسجد فوقانی کی چھت بننا چاہئے، دونوں میں آپسی اختلافات بھی ہیں، کیا متولی اس سرے وغیرہ سے حجرے کی چھت بنا سکتے ہیں، جواب سے سرفراز فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: مصلیان حنفی مسجد، پتیا پاڑی، چاند پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: برآمدہ مسجد کے نام جو رقم ہاشم خاں نے دی ہے وہ رقم خاص طور پر مسجد یا مسجد کے برآمدہ پر خرچ کرنا لازم ہوگا، خارج مسجد حجرہ کی چھت بنانا اس رقم سے چندہ دہندہ کی غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، کتاب

الوقف مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۵/۶ کراچی ۴/۴۵/۴)

نیز حجرہ کی چھت کی اگر زیادہ ضرورت ہو تو اس کیلئے الگ سے رقم فراہم کیجا سکتی

ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۲۳۰)

قبضہ کے اندیشہ سے مسجد کی موقوفہ زمین فروخت کرنے کا حکم

سوال: [۸۰۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

نے مسجد کے لئے ایک زمین وقف کی تھی، زید کا انتقال ہو گیا موقوفہ زمین ایسی جگہ پر ہے،

جس پر اہل بدعت کے قبضہ کر لینے کا پورا یقین ہے، اس لئے اس کو فروخت کر کے اس کے

بدلے دوسری ایسی جگہ خرید کر جہاں مسجد کی شدید ضرورت ہے وقف کر دی جائے، تو ان

پیسوں کو یہ جگہ خریدنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا نہیں؟

المستفتی: محمد اشرف، محلہ قاضی پورہ، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مذکورہ وقف کی جائیداد پر اہل بدعت کے

قبضہ کر لینے کا سخت خطرہ ہے، تو اس غیر محفوظ وقف کی جائیداد کو فروخت کر کے اس کے بدلے

میں دوسری مناسب اور محفوظ جگہ پر جہاں مسجد کی ضرورت ہے مسجد کے لئے اسی پیسے سے

زمین خرید کر مسجد بنوادینا جائز ہے۔

وكذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت وخرجت عن انتفاع الموقوف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وقفاً مكانها . (اعلاء السنن، كتاب الوقف الأرض الخ، باب إذا خرب المسجد أو الوقف، دارالكتب العلمية بيروت ۱۳/۲۴۷، کراچی ۱۳/۱۱۲)

وفى القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا فى محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيراً من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز، وإن كان المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة .

(البحر الرائق، كتاب الوقف، كوثه ۵/۲۲۳، زكريا ۵/۳۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۲/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۰۰۴/۴۱)

مساجد کے قرآن ضرورت مند شخص یا مکتب میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟

سوال: [۸۰۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر لوگ ثواب کی نیت سے غم یا خوشی کے موقع پر قرآن مجید مساجد میں تلاوت کی غرض سے رکھوا دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بڑی تعداد میں قرآن مسجد میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جن کو کبھی کھولنے کی نوبت بھی نہیں آتی، کیا مسجد کی کمیٹی والے ان قرآن مجیدوں کو ضرورت مندوں یا مکتب و مدرسہ میں دے سکتے ہیں، جہاں طالب علموں کے کام آسکیں؟ ہماری مسجد میں پچاس پچپن قرآن مجید بالکل نئے رکھے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے کی نوبت تک نہیں آتی؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحق، ہلدوانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قرآن کریم مسجد میں دینے میں دینے والوں کا مقصد قرآن کے ان نسخوں میں تلاوت کرنا ہے، اور جب ایک مسجد میں قرآن کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جائے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کے بعض نسخے مہینوں اور سالوں تک تلاوت کے کام نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے دینے والوں کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت سے زائد نسخوں کو دوسری مسجد میں دینا جہاں قرآن کے نسخے نہیں ہوتے ہیں یا بہت ہی کم ہوتے ہیں، جائز اور درست ہے، اسی طرح مدارس میں درجہ حفظ کے بچے اور تلاوت کرنے والوں کو دینا بھی جائز ہے، اس لئے کہ دینے والوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔

لو وقف المصحف علی المسجد ای بلا تعیین أهله قیل یقرأ فیہ ای یختص بأهل المترددین إلیه، وقیل: لا یختص به ای فیجوز نقله إلی غیره .
(شامی، مطلب فی نقل کتب الوقف من محلها، کراچی ۴/۳۶۶، زکریا ۶/۵۵۹)

وقف مصحفاً علی أهل مسجد للقراءة إن یحصون جاز وإن وقف علی المسجد جاز ویقرأ فیہ، ولا یكون محصوراً علی هذا المسجد وبه عرف نقل الكتب الأوقاف من محالها للانتفاع به .
(درمختار، مطلب متی ذکر للوقف مصرفاً لا بد أن یكون فیهم تنصیص علی

الحاجة، کراچی ۴/۳۴۵، زکریا ۶/۵۵۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۲/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۴۰۰۸/۲۱)

۱۵/ الفصل الخامس عشر: مسجد میں مدرسہ وغیرہ تعمیر کرنا مسجد کو مسما کر کے مدرسہ بنانا

سوال: [۸۰۷۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں قدیم مسجد جو بالکل ناکافی ہے اور لب سڑک ہونے کی وجہ سے شور و شغف بھی رہتا ہے، اسلئے ہم لوگ قدیم مسجد سے پیچھے کی طرف ہٹ کر نئی مسجد کی بنیاد ڈال چکے ہیں، اور اس قدیم مسجد کو مرمت کر کے مسجد ماتحت مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تو از روئے شرع کیا ایسا کرنا درست ہے یا اس کی کیا شکل ہے، مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب کسی زمین پر ایک دفعہ مسجد بن جاتی ہے، تو وہ زمین قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، اسکو مسجد کے علاوہ کسی اور امور میں منتقل کرنا جائز نہیں رہتا ہے، اس لئے اس کو مدرسہ میں منتقل کرنا جائز نہ ہوگا، ہاں البتہ قدیم مسجد کو مسجد باقی رکھتے ہوئے جدید حصہ کو قدیم کیسا تھ ملانا جائز ہو سکتا ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق (قوله) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه بيقى مسجداً عند الإمام الخ. (درمختار كتاب الوقف، مطلب فى أحكام المسجد كراچى ۳۵۸/۴، زكريا ۵۴۸/۶، بزازيه جديد زكريا ۱۵۲/۳، وعلى هامش الهندية زكريا ۲۸۵/۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹۶/۱۲، النهر الفائق،

دارالكتب العلمية بيروت ۳/۳۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ شوال ۱۴۱۹ھ

۱۴/۱۰/۱۳۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۹۳۳۴)

مسجد کی چھت پر مدرسہ تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی مسجد کے وضو خانوں اور دوکانوں کی چھت پر جو اسی مسجد کی ملک ہیں کوئی دینی مدرسہ جسمیں ذیلی طور پر پرائمری درجات قائم ہوں، مصلیان و متولیان مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ ازراہ کرم مدلل تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: داستان برادر، احمد آباد، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وہ چھت مسجد ہی کی ملک میں ہے اسپر مدرسہ کی عمارت بنا کر اسکو مدرسہ کی ملک میں کر لینا غرض واقف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، البتہ یہ صورت جواز کی نکل سکتی ہے، کہ مسجد کے پیسے سے عمارت بنا کر مدرسہ سے اسکا کرایہ وصول کر کے مسجد کے منافع میں صرف کیا جائے تو جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۹۵، جدید زکریا یوبند ۹/۱۳۶)

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، کتاب الوقف مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، کراچی ۴/۴۴۵، ذکر یا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۸/۲۳)

مسجد و مدرسہ او پر نیچے بنانا کیسا ہے؟

سوال: [۸۰۷۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے ۲۰۰ گز زمین دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسمیں مسجد اور مدرسہ دونوں او پر نیچے قائم کرنا ہے، اب آپ یہ فرمائیے کہ مسجد نیچے او پر مدرسہ یا مدرسہ نیچے اور مسجد او پر تعمیر کی جائے،

اس میں بہتر کون سی صورت ہوگی تحریر فرمائیں عین کرم ہوگا؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد بنائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔

إذا جعل تحته سرداباً لمصالحة أى المسجد جاز كمسجد القدس

الخ. (درمختار كتاب الوقف، مطلب فى أحكام المسجد كراچی ۴/۳۵۷، زکریا ۶/۵۴۷،

الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲۰۲، الدر المنتقى دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۴،

هدایہ اشرفی دیوبند ۲/۶۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۵/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۸۱۸)

مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانہ کے اوپر مدرسہ بنانا

سوال: [۸۰۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد

کے بیت الخلاء غسل خانے کے اوپر مدرسہ والے درجہ حفظ کے لئے ایک کمرہ مدرسہ کے

پیسوں سے بنانا چاہتے ہیں، اسی میں بچے پڑھیں گے اور اسی میں رہیں گے، مجبوری یہ ہے کہ

مدرسہ والوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے یا جگہ ہے تو وہاں پر رات میں بچے جنگل قریب ہونے

کی وجہ سے ڈرتے ہیں رہ نہیں پائیں گے، اس حالت میں مسجد کی متعلقہ زمین جو غسل خانوں

کے اوپر ہے مدرسہ کے پیسوں سے کمرہ بنا کر پڑھائی شروع کر سکتے ہیں؟

(۲) کیا مسجد کے فنڈ سے خارج مسجد کی جگہ پر جو مسجد ہی کی زمین ہو کمرہ بنا کر درجہ

حفظ کے بچوں کی تعلیم اور ان کی رہائش کیلئے مسجد کا کمرہ دے سکتے ہیں، اگر متولی اور گاؤں

والوں کا مشورہ ہو؟

المستفتی: ابراہیم محمد، محسن پور، ٹکینہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانہ کے اوپری حصہ میں دینی تعلیم کیلئے مدرسہ بنانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ دونوں کے ذمہ دار اور کمیٹی ایک ہو، اگر مسجد و مدرسہ دونوں کے ذمہ دار اور کمیٹی الگ الگ ہوں گے، تو پھر مسجد کی زمین میں مدرسہ بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۲۸)

الثامنة: فی وقف المسجد یجوز أن یبنی من غلته منارة قال فی الخانیة: معزياً إلى أبي بكر البلخی إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به الخ. (البحر الرائق، کتاب الوقف، کوئٹہ ۵/۲۱۵، زکریا ۵/۳۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۱۱/۳۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ ذیقعدہ ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۳۰/۹۷)

نیچے مدرسہ اوپر مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قطعہ آراضی اس نیت سے خریدی گئی ہے کہ تہ خانہ کے حصہ کو مدرسہ کیلئے تعمیر کیا جائے، اور اوپر کے حصہ کو مسجد کیلئے اور یہ تعمیر مکمل بھی ہو چکی ہے، اور یہ عمارت مسجد و مدرسہ کیلئے چند سال سے استعمال بھی ہو رہی ہے، جبکہ تہ خانہ کے حصہ میں درس گاہ اور دارالاقامہ دونوں ہیں یہ واضح فرمائیں کہ مذکورہ بالا صورت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مشاہد حسین مظاہری، مدرسہ
مدینۃ العلوم، رام نگر، صوبہ: کرناٹک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر شروع ہی سے یہی پلان ہے کہ نیچے مدرسہ اور

اوپر مسجد تعمیر کرنا ہے، تو یہ عمل جائز ہے اور نیچے کا حصہ خارج مسجد اور اوپر کا حصہ داخل مسجد ہوگا۔
(مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۷، جدیدزکریا مطول ۱۰/۱۲۵، امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۵)

فإن قيل لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل لا يستحب ذلك ، ولكنه لو جعل في الابتداء هكذا صار مسجداً وماتحته صار وقفاً عليه ، ويجوز المسجد والوقف الذي تحته ، ولو أنه بنى المسجد أولاً ، ثم أراد أن يجعل تحته حانوتا للمسجد فهو مردود باطل . (حاشية چلبی علی التبینین ، کتاب الوقف ، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰ ، زکریا ۴/۲۷۱)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها . (تقريرات رافعی علی الشامی ، کراچی ۴/۸۰ ، زکریا ۶/۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲/۵/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۰۰۲/۳۱)

اوپر مسجد اور نیچے مدرسہ بنانا

سوال: [۸۰۷۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگوں نے جس وقت مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کی جگہ خریدی تھی، اس وقت یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مدرسہ کی دوسری منزل پر طلبہ اور مدرسین وغیرہ کے واسطے مسجد بنائیں گے، اور نیچے کی منزل میں مدرسہ چلائیں گے کیا یہ بات حضرت مفتی صاحب قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیز اس پر ہم مستقل مسجد بنائیں یا عارضی؟

مدلل و مفصل جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد اقبال حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر پہلے سے یہی پروگرام ہے کہ نیچے مدرسہ اور اوپر مسجد بنانی ہے اور نقشہ تیار کرنے سے پہلے یہ طے ہو چکا ہے، اور مسجد اور مدرسہ دونوں کا ذمہ دار بھی ایک ہی ہے تو اسکی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ عبدالحی، مکتبہ تھانوی ۲/۳۲۲، امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۵، احسن الفتاویٰ ۶/۴۴۳)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به؟ قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها. (تقريرات رافعي على الشامي، كراچی ۴/۸۰، زكريا ۶/۸۰، حاشية چلبی على التبيين، فصل ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه، امداديه ملتان ۳/۳۳۰، زكريا ۴/۲۷۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷/ربیع الاول ۱۴۱۸ھ
پر الف فتویٰ نمبر: ۵۲۱۵/۳۳

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۳/۷ھ

اوپر مسجد نیچے مدرسہ بنانا

سوال: [۸۰۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین کا بیعانہ دیا یا ۳۲ ہزار روپیہ مسجد کیلئے اور نیت کی کہ نیچے حصہ میں مدرسہ اور مدرسہ کی چھت پر مسجد ہوگی، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب اس نیت سے زمین خریدی جائے کہ نیچے

مدرسہ اور اوپر مسجد بنائی جائیگی تو اس زمین میں اسی نیت کے مطابق عمل کرنا جائز ہے۔
(مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۳)

فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس
يستفون به؟ قيل إذا كان تحته شيء ينفع به عامة المسلمين يجوز لأنه إذا
انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالى أيضا: ومنه يعلم حكم كثير من
مساجد مصر التي تحتها صهاريج ونحوها. (تقريرات رافعي على الشامي،
كراچی ۴/۸۰، زكريا ۶/۸۰، حاشية چلبی علی التبيين، فصل ومن بنى مسجداً لم يزل
ملكه، امداديه ملتان ۳/۳۳۰، زكريا ۴/۲۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ ذیقعدہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۲۰۳۶۳۱)

مدرسہ کی چھت پر مسجد بنانا

سوال: [۸۰۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدرسہ
اسلامیہ عربیہ خازن العلوم ڈھیلال مین روڈ پروجیکشن ہے مدرسہ کے سامنے جانب مشرق یہ روڈ
ہے، صورت حال یہ ہے کہ ندی کا پل قریب ہونے کی وجہ سے مدرسہ کے سامنے روڈ کی
اونچائی قریب بیس فٹ ہے، مدرسہ کی سطح زمین سے روڈ سے ملا ہوا ندی کا حفاظتی باندروڈ
پانچ فٹ نیچا ہے، جو مدرسہ کے شمال میں ہوتا ہوا مغرب کی طرف چلا گیا ہے مدرسہ شمال مشرق
کی طرف ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، جو مدرسہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ روڈ سے نکلنے
والوں کی نماز ادا کرنے میں کام آسکے اسلئے صورت یہ ہے کہ وہ مسجد سطح مدرسہ سے ۱۵ فٹ
اونچی بنائی جائے، اور باہر والوں کی آمد و رفت باند سے کی جائے اور مدرسہ والوں کی آمد
ورفت مدرسہ دارالطعام یا تعلیمی درسگاہ میں استعمال کر لیا جائے، اس صورت میں دریافت

طلب امریہ ہے کہ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت تو نہیں ہے؟

المستفتی: محمد عثمان، جامعہ عربیہ خازن العلوم ڈھیلیال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جہاں پہلے سے مسجد نہیں تھی وہاں پر اس طرح

کرنا کہ نیچے مدرسہ کی ضروریات کیلئے درس گاہ، امتحان گاہ، وغیرہ کا کام لیا جائے اس کے بعد اوپر کی منزل شرعی مسجد کے طور پر مدرسہ کے نظام کے مطابق بنائی جائے جبکہ نیچے کی منزل کسی کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ وہ بھی وقف ہی ہو تو یہ جائز اور درست ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ مدرسہ والے مسجد میں زینہ سے چڑھ کر پہنچیں اور باہر کے لوگ روڈ کی طرف سے ڈائریکٹ مسجد میں پہنچ جائیں۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجیل ۱۲/۴۲۱، امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۴)

فعلى هذا المساجد التي في المدارس بجر جانبية خوارزم مساجد

لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل ومن بنى مسجداً لم يزل ملكه زكريا ۵/۴۱۸، كوئٹہ ۵/۲۴۹)

إذا كان تحته شيئى ينتفع به عامة المسلمين يجوز، لأنه إذا انتفع به عامة المسلمين صار ذلك لله تعالى أيضاً. (شلبى على الزيلعى، فصل ومن بنى مسجداً لم يزل ملكه امداديه ملتان ۳/۳۳۰، زكريا ۴/۲۷۱، تقريرات رافعى على الشامى، كراچى ۴/۸۰، زكريا ۶/۸۰)

إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب. (فتح القدير، زكريا ۶/۲۱۸، كوئٹہ ۵/۴۴۵، دارالفكر بيروت ۶/۲۳۴، شامى، مطلب فى أحكام المسجد كراچى ۴/۳۵۸، زكريا ۶/۵۴۷)

ولا يضر جعله تحته سرداباً لمصالحه فيجوز كما فى بيت المقدس.

(مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۵۹۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۷/۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم رجب ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۴/۳۹)

مسجد کو مدرسہ سے تبدیل کرنا

سوال: [۸۰۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پندرہ ہزار اسکوائر فٹ کا قطعہ آراضی جس میں میں اور میرے رشتہ دار رہائش پذیر ہیں، اس جگہ میں ایک قدیم مسجد جو آبائی طور پر ہمارے زیرِ تولیت تھی موجود ہے، یہ مسجد تقریباً ۳۵ سال سے ویران تھی، اسلئے کہ اس سے بالکل قریب کشادہ اور بڑی عمومی مسجد موجود ہے، آج سے دس سال قبل اس غیر آباد قدیم مسجد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی اور اسی وقت میں نے ۵۱۵ اسکوائر فٹ جگہ مدرسہ کو وقف کر دی اب ہم نے اس پورے قطعہ آراضی کو بلڈر کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، مسجد چھوڑ کر ۵۰۰۰ اسکوائر فٹ میں چاروں طرف سے جگہ چھوڑ کر تعمیر کرنے کی اجازت حکومت سے ملتی ہے، اب ۱۵ اسکوائر فٹ جگہ جو میں نے مدرسہ کیلئے وقف کر دی تھی، اس میں تین شکلیں درج ذیل ہیں، (کل جگہ ۱۵ ہزار اسکوائر فٹ مدرسہ کیلئے وقف کردہ ۱۵ اسکوائر فٹ)۔

(۱) ۱۵ اسکوائر فٹ کا پورا پلاٹ مدرسہ کیلئے دیدیا جائے، نیچے سے اوپر تک۔

(۲) ۱۵ اسکوائر فٹ کا ایک فلور مدرسہ کو دیدیا جائے اور اس فلور کے اوپر کا حصہ

بلڈر کے استعمال کیلئے دیدیا جائے، اس صورت میں مدرسہ کو صرف ایک فلور ۱۵ اسکوائر فٹ کا استعمال کرنیکی اجازت ہوگی۔

(۳) ۵۵ سو اسکوائر فٹ تین فلور پر ایک دوسرے کے اوپر مدرسہ کو دیدیا جائے، ان

تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت وقف کے پورا ہونے کے لئے شرعاً درست اور صحیح اور

جائز ہے، جواب دیں؟

المستفتی: حسن ہاشمی، مدرسہ درالابرار، پونہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو زمین ایک دفعہ شرعی مسجد بن جاتی ہے، وہ قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، اس کو کسی اور کام کے لئے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا قدیم مسجد کا جو حصہ پہلے سے متعین ہے اس کے دائرہ میں مسجد ہی باقی رکھنا لازم اور واجب ہے، چاہے اس کے بالکل قریب دوسری کشادہ مسجد موجود ہو تب بھی وہ مسجد ہی رہے گی، اس کو مدرسہ میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر پرانی مسجد کی حدود سے زائد حصہ مدرسہ کیلئے دیا گیا ہے، تو وہ مسجد کے ایک جانب ہو یا متعدد جانب ہو اس میں کمرے بنا کر احاطہ مسجد کے طور پر مدرسہ کے کام میں لایا جاسکتا ہے، لیکن سوالنامہ میں قدیم مسجد کا رقبہ کتنا ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا ہے، صرف مدرسہ کا رقبہ بتلایا گیا ہے، جس کے اندر وہ قدیم مسجد شامل معلوم ہوتی ہے، لہذا آپ نے قدیم مسجد کے رقبہ کو مدرسہ کیلئے جو وقف کیا ہے، وہ درست نہیں ہوا اور پہلے دوسرے اور تیسرے فلور کی بات مسجد کا مسئلہ حل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکتی ہے، اور قدیم مسجد کے اوپر چٹنی منزلیں بنائی گئی ہیں، وہ مسجد ہی ہوں گی، اس میں سے کوئی حصہ اور کوئی منزل بلڈر کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

إذا صح الوقف لم یجز بیعہ ولا تملیکہ. (ہدایہ، کتاب الوقف

اشرفی دیوبند ۲/۶۴۰)

ولا یجوز تغیر الوقف عن ہیئتہ ، فلا یجعل الدار بستاناً ولا

الخان حماماً ولا الرباط دکاناً. (ہندیہ، الباب الرابع، فی المتفرقات، زکریا

قدیم ۲/۴۹۰، جدید ۲/۴۲۳)

قال فی البحر: وحاصلہ أن شرط کونہ مسجداً أن یکون سفله

وعلوه مسجداً لینقطع حق العبد عنه لقوله تعالیٰ: ”وأن المساجد لله“.

(شامی، کتاب الوقف، مطلب فی احکام المسجد کراچی ۳۵۸/۴، زکریا ۶/۵۴۷)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۱۲/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۵/۲۸ھ

مسجد کیلئے موقوفہ مکان میں مدرسہ بنانا

سوال: [۸۰۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بیوہ عورت نے اپنا مسجد سے متصل مکان مرنے سے پہلے مسجد کے نام اسلئے وقف کر دیا تھا، کہ مسجد کی آمدنی بڑھے اور مسجد کی توسیع ہو مگر اس جگہ پر بجائے مسجد کی توسیع کے ایک مکتبہ بشکل مدرسہ قائم کر دیا گیا اب اس میں بیرونی طلبہ کا بھی قیام ہے، مکان جس نظریہ سے وقف کیا گیا تھا، کہ مسجد کی توسیع و آمدنی بڑھے لیکن نہ تو مسجد کی توسیع ہوئی نہ آمدنی میں اضافہ ہو سکا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد کی زمین میں مدرسہ قائم کیا جاسکتا ہے کیا مدرسہ کا کرایہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے؟ جواب سے نوازیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: عبدالماجد، محلہ پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد کی توسیع نہیں ہو سکی ہے اور توسیع کی ضرورت ہے تو اس جگہ پر اس وقت تک کیلئے مدرسہ قائم رکھنا درست ہو سکتا ہے جب تک توسیع مسجد کا پروگرام نہ ہو اور پروگرام ہونے تک مدرسہ پر لازم ہے کہ مسجد کا کرایہ ادا کرتا رہے، اور جب توسیع مسجد کا پروگرام شروع ہو جائے تو مدرسہ پر لازم ہے کہ اس زمین کو خالی کر دے تاکہ غرض واقف کے مطابق مذکورہ زمین توسیع مسجد کے اندر داخل کی جاسکے، اور وہاں مدرسہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا، اسلئے کہ غرض واقف کی رعایت کرنا واجب ہے۔

وإن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب

مراعاة غرض الواقفین واجبة کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۴/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۳۹/۲۷)

مکتب کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگانا

سوال: [۸۰۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد میں مکتب تھا، جو کہ تقریباً چار سال مسجد میں قائم رہا اور اب تین سال سے مکتب ختم ہو چکا ہے، مکتب کے چلانے کی نوعیت یہ تھی کہ کم و بیش بارہ آدمی تنخواہ دیتے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ امداد دوسرے لوگ کرتے تھے، اب مکتب ختم ہونے کے بعد اسکی رقم تقریباً دو ہزار روپیہ جمع ہے، جس مسجد میں مکتب تھا اسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کیا اس مکتب کی بچی ہوئی رقم کو مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، جبکہ مکتب میں چندہ دینے والے اکثر لوگوں سے مذکورہ رقم کو مسجد میں لگانے کے واسطے معلوم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر چندہ دینے والے مسجد ہی کے نمازی ہیں، تو کیا اس صورت میں یہ رقم مسجد کی تعمیر میں لگانا درست ہے اگر نہیں ہے، تو پھر اس رقم کو کہاں استعمال کریں، مدلل جواب دیکر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چندہ دہندگان کی اجازت سے مسجد میں مذکورہ رقم

خرچ کرنا جائز اور درست ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۵۹۵)

إنہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة الخ. (شامی،

کتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة، کراچی ۴/۴۴۵،

زکریا ۶/۶۶۵ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الآخرة ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۳۲/۲۸)

مسجد کا روپیہ مدرسہ میں خرچ کرنا

سوال: [۸۰۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا روپیہ مدرسہ کے کام میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جواب دیکر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: متولی حاجی احمد رضا

صاحب، عرف حاجی کلن گلاب والی

مسجد، محلہ پیرزادہ، مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مالکانہ طور پر مدرسہ کے کام میں خرچ کر دینا جائز نہیں ہے، البتہ بشرط وصول قرض دیا جاسکتا ہے! (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۴۹۱، جدید ڈائجیل ۱۵/۴۷)

أن للمتولی إقراض مال المسجد بأمر القاضی . (شامی، کتاب القضاء

مطلب للقاضی إقراض مال الیتیم کراچی ۵/۴۱۷، زکریا ۷/۱۱۱)

القیم لو أقرض مال المسجد لیأخذه عند الحاجة وهو أحرز من

إمساكه فلا بأس به . (البحر الرائق، کتاب الوقف، کوئٹہ ۵/۲۳۹، زکریا ۵/۴۰۱)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/زیقہ ۲۰۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۱/۲۴)

مسجد سے ملحق مدرسہ کو مسجد کے تابع کرنا

سوال: [۸۰۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مدرسہ جو مسجد کی جائداد میں ہے، لیکن خارج مسجد ہے جو تمام شہر کے لوگوں سے ابتداء سے

الگ ہی رہی ہے، مسجد کی کمیٹی بہت بدلی لیکن کسی کمیٹی نے اعتراض نہیں کیا لیکن معترض موجود کمیٹی ہے اور کہتی ہے کہ مسجد کو اس مدرسہ کا کرایہ دیا جائے یا مسجد کی کمیٹی کو مدرسہ سونپ دیا جائے، جبکہ شہر کے لوگ اس بات کے خلاف ہیں، اکثریت یہ چاہتی ہے کہ مسجد اور مدرسہ کی کمیٹیاں الگ ہی رہیں، شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: شاہد رضا، رانی کھیت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مدرسہ چلانے کا تجربہ علماء دین ہی کو ہوتا ہے، اگر مدرسہ اور مسجد دونوں کا انتظام کسی متبحر شریعت عالم دین کے ہاتھ میں ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر علماء کے ہاتھ میں الگ الگ انتظام ہے، تو دونوں کمیٹی بغیر اختلاف و انتشار کے آپس میں ایک ہو جائیں، اور مسجد و مدرسہ ایک ہی کمیٹی بغیر انتشار کے چلا سکتی ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو تو جو نظام چلا آ رہا ہے اسی کو باقی رکھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی اختلاف وجود میں نہ آسکے۔

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ . (سورہ بقرہ رقم الآیة: ۲۱۷)

اور جب شروع سے ہی دونوں اداروں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کرایہ دار نہیں ہے، تو آج کرایہ داری کا مسئلہ اٹھانا فتنہ کو ہوا دینا ہے، اگر یہ سوال ہوتا ہو کہ مسجد کی زمین میں مدرسہ قائم ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، جیسا کہ مرکز نظام الدین مسجد کی زمین میں ہے، مدرسہ امینیہ مسجد کی چہار دیواری میں ہے، مدرسہ حسین بخش مسجد کی زمین میں ہے، مدرسہ عبدالرب مسجد کی چہار دیواری میں ہے، مدرسہ عالیہ فتحپوری مسجد کی چہار دیواری میں قائم ہوا، اور مدرسہ شاہی مراد آباد مسجد کی چہار دیواری میں قائم ہے، اور کبھی کبھار دونوں کی انتظامیہ بھی الگ الگ رہی، مگر ایک دوسرے سے کرایہ داری کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔

عن زبیر بن العوام عن النبی ﷺ قال: والذی نفسی بیدہ لاتدخلوا

الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. (ترمذی، ابواب صفة القيامة باب

بلا ترجمہ، النسخة الهندية ۷۷/۲، دارالسلام رقم: ۲۵۱۰)

عن أنس رض قال: قال رسول الله ﷺ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباعضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا الخ. (ترمذی، کتاب

البر والصلة، باب ماجاء فى الحسد، النسخة الهندية ۱۵/۲، دارالسلام

رقم: ۱۹۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ شوال ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۱/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۲۸/۱۴۳۲ھ

مسجد کی زمین میں مسافر خانہ تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ راجہ

بازار جامع مسجد کو لاکھ شہر کی معروف و مشہور مسجد ہے جو تقریباً ۱۰۰ سال سے زیادہ قدیم ہے، واقف نے زمین وقف کرنے کے بعد اس کے ایک حصہ میں مسجد کی ایک منزل تعمیر بھی کی تھی، جس کے اوپر چھت تھی، آبادی کے پیش نظر تقریباً ۲۰ سال قبل اس کی توسیع ہوئی تھی اب وہ پانچ منزلہ ہے یہ ۱۵۳ نمبر کیشب چندرسین اسٹریٹ کو لاکھ نمبر ۹ پر واقع ہے؟

دوسرا حصہ وقف جائیداد ہے جو مسجد سے متصل ہے لیکن سڑک کی جانب ہے یہ بھی مسجد کے ساتھ تعمیر شدہ ایک منزلہ تھی، جس کے اوپر چھت تھی اور میناریں بنی ہوئی تھیں، مغرب و عشاء کے علاوہ جمعہ کی نمازیں بھی لوگ اہتمام سے پڑھتے تھے، اس کے نیچے کے حصہ میں مسجد کا مین دروازہ اور چند دوکانیں تھیں، جس کی آمدنی کے کچھ حصوں سے مسجد کے اخراجات پورے کئے جاتے تھے، یہ شکل و ہیئت بھی مسجد کے ساتھ ۱۰۰ سال سے زیادہ پرانی تھی، جو ۱۵۱ نمبر کیشب چندرسین اسٹریٹ میں واقع ہے، مسجد کی موجودہ انتظامیہ نے اسی دوسرے حصہ کو اپنے پلان کے مطابق توسیع مسجد کے بجائے نئے

مسافر خانہ کی تعمیر کا کام ڈیڑھ ماہ قبل شروع کیا تھا، اب تک چار منزلہ ڈھلائی ہو چکی ہے، ایک منزلہ ڈھلائی باقی ہے، جبکہ کولکاتہ کارپوریشن سے انھوں نے مسجد کو دکھا کر پانچ منزلہ نقشہ نکالا ہے، واضح رہے کہ یہ تعمیر عوامی چندہ سے ہوئی ہے، نیز انتظامیہ کے ارکان تقریباً ۸ سے ۱۰ لوگوں پر مشتمل ہے جس میں ایک بھی شخص اہل علم نہیں نہ ہی مفتی سے فتویٰ حاصل کیا ہے، نتیجہً اسے پورے چار علاقوں کے عوام کا اعتماد حاصل نہیں عوام راجہ بازار انتظامیہ کے اس رویہ سے سخت ناراض ہیں، کیونکہ ۲۰ رسال قبل پانچ منزلہ جامع مسجد کی توسیع کے باوجود فی الوقت خاص کر جمعہ کی نماز میں مصلیوں کو عام سڑک پر نماز پڑھنی پڑتی ہے، جس کے نتیجہ میں عام مسافروں اور گاڑیوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ہر وقت فساد ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ نئے مسافر خانہ کی تعمیر میں بہت ساری خامیاں ہیں مثلاً مسافر عورتوں، لڑکیوں اور شریکوں کا ہجوم اختلاط سے بے پردگی کے فتنے، گندگیاں آلودگیاں، پان سگریٹ اور ناجائز مشروبات کے استعمال کا خدشہ، موبائل کے گانے اور شور و غل کی آواز علاحدہ اس کے کسی ناخوشگوار واقعہ یا حادثہ کا ڈر، پولیس کی آمد و گرفتاریوں کا امکان، میڈیا کے اسلام دشمنی کے مواقع، مسجد کا اندھیرا ہونا، ہوا کا بند ہونا، لوڈ سیڈنگ میں مصلیوں کو سخت دقت کا سامنا کرنا اور برسات میں نمازیوں کے آمد و رفت سے افراتفری کا ہونا نیز عبادات میں خلل کا ہونا، مسجد کی عظمت و تقدس اور اس کے آداب و احترام کی پامالی وغیرہ وغیرہ اسکے علاوہ آئندہ دس بیس سالوں میں آبادی میں زبردست اضافہ سے مسجد کا بالکل ناکافی ہونا لازمی ہے، لہذا عوام کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات متولی مسجد سے براہ راست ملے اور ان کو ان نقصانات اور عوام کی بے چینیوں سے آگاہ کیا، متولی نے انتظامیہ کی بہت سی باتوں کے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا، اور بالآخر مسجد کی توسیع کیلئے راضی ہو گئے اور ثبوت کے طور پر متولی مسجد نے اپنے معتمد بھائی کو ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ کو بھیجا جنہوں نے نماز کے بعد عوام کے سامنے اعلان کیا کہ اگر عوام چاہتی ہے تو اس جگہ جامع مسجد ہی کی توسیع ہوگی

، واضح رہے کہ مسجد کے تمام اخراجات حسب معمول عوامی چندہ سے پورے کئے جاتے ہیں، لہذا عوامی ضرورت ہے کہ اس دوسرے حصہ کی زیر تعمیر تمام ایک تا پانچ منزلوں کو جامع مسجد کی توسیع میں شامل کر لیا جائے، اور پرانی شکل و ہیئت کے مطابق نیچے کے حصہ میں مسجد کا مین دروازہ اور چند دوکانیں بنائی جائیں، مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں شرعی حکم ارشاد فرمائیں کہ آیا ’اس نئی زیر تعمیر جگہوں پر جامع مسجد کی توسیع کی جائے یا مسافر خانہ کی تعمیر‘؟

المستفتی: محمد یونس محمد نظام الدین،
محمد شمیم، منجانب: باشندگان راجہ بازار
۱۶۶، کیشب چندرسین اسٹریٹ کولکاتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسؤلہ صورت میں جب مسجد کے اخراجات کی تکمیل کیلئے مزید کسی ذریعہ آمدنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد کی دوکانوں اور عوامی چندہ سے اس کی ضروریات و اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اور مصلحان کی کثرت کے پیش نظر مسجد کی توسیع کی سخت ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں متولی اور ذمہ داران مسجد کو چاہئے کہ وہ موثوقہ زیر تعمیر جگہوں پر مسجد کی توسیع کریں، نیز مسافر خانہ کی تعمیر کی صورت میں مسجد کی بے احترامی اور بے ادبی بھی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

سئل الفقیہ أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف علی المسجد فأرادوا أن یزیدوا فی المسجد من ذلك الوقف قال یجوز .

(تاتار حانیة ۸/۱۵۷، برقم: ۱۱۵۰۰، زکریا)

أرض وقف علی مسجد و الأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن یزیدوا فی المسجد شيئاً من الأرض لکن یرفعوا الأمر إلى القاضي لیأذن لهم، ومستغل الوقف كالدار والحانوت علی هذا . (هنديہ، کتاب

الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد زکریا قدیم ۲/۴۵۶، جدید ۲/۴۰۹، خانیه جدید زکریا ۳/۲۰۴، وعلی ہامش الہندیہ زکریا ۳/۲۹۳)

قیم المسجد لایجوز لہ أن یبنیٰ حوانیت فی حد المسجد أو فی فناءه لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومسکناتسقط حرمتہ وهذا لایجوز والفناء تبع للمسجد فیکون حکمہ حکم المسجد . (ہندیہ، الفصل الثانی فی الوقف علی المسجد وتصرف القیم قدیم زکریا ۲/۴۶۲، جدید ۲/۴۱۳، خانیه جدید زکریا ۳/۲۰۴، وعلی الہندیہ زکریا ۳/۲۹۳)

قیم المسجد إذا أراد أن یبنیٰ حوانیت فی حد المسجد أو فی فناءه لایجوز . (فتاویٰ تاتار خانیه، زکریا ۸/۱۷۸، برقم: ۱۱۵۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
کیم رزی الحج ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۳۰۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۱۲/۲ھ

نیچے مدرسہ ودوکانیں اور اوپر مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک جگہ مدرسہ و مسجد کے نام سے خریدی گئی تھی اس میں دو سال سے مدرسہ چل رہا ہے لوگوں نے سوچا کہ مدرسہ کے اوپر مسجد تعمیر کی جائے، شمال کی جانب چار دوکانیں نکال کر اور مدرسہ کا مدرسہ کے برآمدہ پر لینٹڑ ڈال کر اوپر مسجد تعمیر کی جائے آیا نیچے مدرسہ ودوکانیں اور اوپر مسجد تعمیر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرما کر مشکور فرمائیں؟

المستفتی: منجانب: اراکین مدرسہ
جامعہ مدینۃ الاسلام، مصطفیٰ چوک،
چوکی سہوارہ، ضلع مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب چندہ دینے والوں نے مسجد مدرسہ دونوں کیلئے

چندہ دیا ہے، اور عمارت بنانے سے پہلے ہی سے نیچے دوکان و مدرسہ اور اوپر مسجد بنانے کا پروگرام ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، کہ پہلے دوکان و مدرسہ کی تعمیر مکمل کر لیں پھر اسکے بعد اوپر مسجد تعمیر کریں۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۱۰۳، جدید زکریا ۹/۱۱۰)

فِيَان قَيْلٍ لَوْ جَعَلَ تَحْتَهُ حَانُوتًا وَجَعَلَهُ وَقْفًا عَلَى الْمَسْجِدِ قَيْلٍ لَا يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَوْ جَعَلَ فِي الْإِبْتِدَاءِ هَكَذَا صَارَ مَسْجِدًا وَمَاتَحْتَهُ صَارَ وَقْفًا عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ الْمَسْجِدُ وَالْوَقْفُ الَّذِي تَحْتَهُ ، وَلَوْ أَنَّهُ بَنَى الْمَسْجِدَ أَوْلًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ تَحْتَهُ حَانُوتًا لِلْمَسْجِدِ فَهُوَ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ . (حاشية چلبی علی التبيين، کتاب الوقف، امدادیہ ملتان ۳/۳۳۰، زکریا ۴/۲۷۱)

فِيَان قَيْلٍ أَلَيْسَ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَحْتَهُ مَجْتَمِعُ الْمَاءِ وَالنَّاسِ يَسْتَفْعُونَ بِهِ قَيْلٍ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ شَيْئٌ يَنْتَفِعُ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَعَ بِهِ عَامَتُهُمْ صَارَ ذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى أَيْضًا : وَمَنْ يَعْلَمُ حُكْمَ كَثِيرٍ مِنْ مَسَاجِدِ مِصْرَ الَّتِي تَحْتِهَا صَهَارِيحٌ وَنَحْوُهَا . (تقريرات رافعی علی الشامی، کراچی ۴/۸۰، زکریا ۶/۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ شوال ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۴۹/۲۸)

مسجد کیلئے خریدی گئی زمین میں رہائشی مکان تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارا محلہ جب آباد ہوا تو محلہ والوں نے مسجد کیلئے بھی زمین خریدی جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو مسجد کو قبلہ نما بنانے کی غرض سے مسجد کی زمین میں کمی محسوس کی گئی کہ جگہ کم ہے مسجد کی زمین کے متصل ہی ایک مسلمان کا باغ تھا، محلہ والوں نے باغ والے سے کہا کہ مسجد کیلئے کچھ زمین کی ضرورت ہے تو باغ والے نے کہا تمہیں جتنی ضرورت ہے لے لو اور مسجد کیلئے

مفت زمین ہے، کوئی قیمت نہیں لوں گا، مسجد بنا لو لہذا مکمل مسجد کا اندرونی حصہ مفت والی زمین پر بنایا گیا، اور جو خریدی ہوئی زمین تھی، اس پر کچھ حصہ برآمدے کا ہے، اور کچھ بیرونی فرش اور وضوخانہ ہے بقیہ زیادہ حصہ میں ایک مکان بنا دیا گیا جو ابھی کرایہ پر چلتا ہے، اب محلہ کی آبادی بڑھ چکی ہے، اس وقت کے مقابلہ میں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لہذا مسجد کا فرش چھوٹا محسوس کیا جا رہا ہے، اور وضوخانہ تنگ ہے جو پہلے سے تنگ تھا، کہ کوئی آدمی کھل کر اچھی طرح وضو نہیں کر سکتا دیگر مسجد کے اتر کی جانب پڑوس میں مکان ہے، جو مسجد کی طرف سے پردہ کی دیوار بنا ہوا ہے، اگر مسجد اپنی دیوار تعمیر کرے تو مسجد کا فرش اور زیادہ ہی تنگ ہو جائیگا، اسلئے اب مصلیان مسجد یہ چاہتے ہیں، کہ جو سامنے مسجد کا مکان ہے اس کو کرایہ دار سے خالی کرایا جائے، اور مسجد کی توسیع کردی جائے، تاکہ مسجد بڑی ہو جائے، اور وضوخانہ بھی بڑا ہو جائے، تاکہ مصلیان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جو نمازوں میں تکلیف پیش آرہی ہے دور ہو جائے، خصوصاً جمعہ کے دن اور سخت گرمی کے وقت باہر نماز پڑھنے کی سہولت ہو جائے، اسلئے مکان مسجد خالی کرایا جائے، اس میں کچھ لوگ آڑے آ رہے ہیں، کہ مکان خالی نہ ہو، اور کرایہ پر چلتا رہے، اکثر نمازیوں کی تعداد مکان خالی کرایہ کے مسجد کی توسیع چاہتے ہیں، بلکہ آٹھ دس ماہ قبل ایک اعلان مسجد میں مصلیان مسجد نے کیا تھا، کہ اب مکان کرایہ پر نہ دیا جائیگا، اور اب مسجد کی توسیع ہوگی، مگر متولیان مسجد نے مکان دوبارہ کرایہ پر چڑھا دیا، اور مسجد کی توسیع اب تک نہ ہو سکی، کیونکہ متولیان مسجد بے نمازی ہیں نہ دیندار نہ دیندار مسجد فنڈ کی رقم دوستوں پر استعمال کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان حضرات کے متعلق جو مکان مسجد کا کرایہ دار سے خالی کرانا نہیں چاہتے اور توسیع مسجد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو شریعت کی نظر میں کیسے ہیں، شرعی طور پر ان حضرات کیلئے کیا حکم ہے، دوسرے یہ کہ مسجد کی عمارت بلا قیمت والی زمین پر بنی ہوئی ہے، اور اصل جگہ جو مسجد کے لئے خریدی گئی تھی وہ مکمل طور پر مسجد میں شامل نہیں ہے، مکان بنا ہوا ہے تو کیا حکم ہے اس زمین کا؟

(۱) مکان خالی کرانے میں جو حضرات آڑے آ رہے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟

(۲) ایسے متولیان مسجد جو فنڈ مسجد کا غلط استعمال کرائیں اور مکان خالی کرانے میں آڑے آئیں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: مصلیان مسجد نئی سرائے، دھا پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) جو زمین مسجد بنانے کیلئے خریدی گئی تھی، اسے مکمل طور پر مسجد میں استعمال کرنا ضروری ہے، اس میں رہائشی مکان بنانا جائز نہیں؟ لہذا ذمہ داران مسجد کو مکان خالی کرا کر اسے مسجد میں داخل کرنا بلا تردد جائز ہے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، الآية:

(المائدہ: ۲)

(۲) جو متولی خائن ہو یا غافل ہو یا شریعت کے مطابق مسجد کا انتظام صحیح طور پر نہ کرتا ہو، جس سے مسجد کو نقصان پہنچتا ہو اور اسکی خیانت شرعی شہادت سے ثابت ہو جائے، تو ایسا متولی علیحدگی کے قابل ہے، اور اس کی جگہ کسی دیندار، صالح، امین اور لائق شخص کو متولی بنایا جائے، تاکہ مسجد کا نظام شریعت کے مطابق رہے۔

قال في الإسعاف ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية

مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود الخ.

(شامی، کتاب الوقف، مطلب فی شروط المتولی کراچی ۴/۳۸۰، زکریا ۶/۵۷۸،

البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۲۶، زکریا ۵/۳۷۸، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۴۰۸، جدید ۲/۳۸۰)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۳/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۶۰۸۳)

دوبارہ آیا ہوا سوال اور الگ سے جواب

سوال: [۸۰۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارا محلہ جب آباد ہوا تو ہمارے محلہ والوں نے مسجد کیلئے زمین خریدی جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو زمین میں کمی محسوس کی مسجد کی زمین کے متصل باغ ہے، محلہ والوں نے باغ والے سے کہا کہ مسجد کیلئے کچھ زمین کی اور ضرورت ہے تو باغ والے نے کہا تم کو جتنی ضرورت ہے مفت لے لو اور مسجد بنا لو، لہذا مسجد مکمل مستعار جگہ پر بنائی گئی جو زمین خریدی تھی مسجد کیلئے اس میں کچھ فرش بنا ہوا ہے اور پھر وضو خانہ، بقیہ زمین میں مکان بنا دیا گیا جو کرایہ پر چلتا ہے، اب محلہ کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، کہ مسجد کا بیرونی فرش صحن والا حصہ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، اور وضو خانہ بھی تنگ نظر آ رہا ہے، وضو خانہ تو اول ہی سے تنگ بنایا گیا تھا، کہ آدمی اچھی طرح سے بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتا ہے، اور مسجد کی اتر کی جانب دیوار بھی نہیں ہے، بلکہ مسجد کے پڑوس میں اتر کی جانب مکان ہے اس مکان ہی کے ذریعہ اتر کی جانب سے پردہ ہے اگر مسجد کی طرف سے اتر کی جانب دیوار بنائی جائے تو مسجد کا فرش اور بھی زیادہ تنگ ہو جائے گا، اس لئے اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سامنے جو مسجد کا مکان ہے اس کو کرایہ دار سے خالی کرا کے مسجد کی توسیع کر دی جائے، تاکہ فرش اور وضو خانہ دونوں ہی وسیع ہو جائیں اور مصلیان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جو نمازوں میں تکلیف پیش آ رہی ہے دور ہو جائے، خصوصاً جمعہ کے دن اور سخت گرمی میں باہر نماز پڑھنے کی سہولت ہو جائے، اس سلسلہ میں مکان خالی کرانے میں کچھ لوگ آڑے آرہے ہیں، اکثر نمازی مکان خالی کرا کے مسجد کی توسیع چاہتے ہیں، بلکہ آٹھ ماہ قبل ایک اعلان مسجد میں مصلیان نے کیا تھا، کہ اب مکان کرایہ پر نہ دیا جائیگا، اور مسجد کی توسیع ہوگی، مگر متولیان مسجد نے جو بے نمازی ہیں نہ دیندار نہ دیانتدار مکان دوبارہ کرایہ پر چڑھا دیا، اور مسجد کی توسیع نہ ہو سکی، آپ سے گزارش ہے

کہ وہ حضرات جو کرایہ پر مکان دیکر خالی کرانا نہیں چاہتے، اور توسیع مسجد میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، شریعت کی نظر میں کیسے ہیں؟ شرعی طور پر ان حضرات کیلئے کیا حکم ہے؟ دوسرے یہ کہ مسجد کی مکمل عمارت مستعار جگہ میں ہے خریدی ہوئی جگہ میں کچھ حصہ فرش کا ہے، کچھ حصہ میں وضو خانہ ہے زیادہ حصہ میں مکان مسجد ہے، عند اللہ شریعت کے مطابق مکمل و مدلل جواب سے سرفراز فرمائیں؟

المستفتی: مصلیان مسجد، محلہ نئی

سرائے، قصبہ دھامپور، بجنور، پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب مسجد بنانے کیلئے باضابطہ زمین خریدی گئی ہے، تو اس زمین پر مسجد بنا کر اس کے بڑے حصہ پر رہائشی مکان بنا کر کرایہ پر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد اسی میں بنانی چاہئے تھی، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ مسجد کی زمین کرایہ پر دیکر مستعار زمین پر مسجد کیوں بنائی گئی، اور اسمیں کیا مصلحت تھی، مسائل کو واضح کرنا چاہئے تھا، بہر حال ایک جگہ جب مسجد بن جاتی ہے، تو وہ قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہتی ہے، اس کو مسجد سے دوسرے امور میں منتقل کرنا جائز نہیں، لہذا جس مستعار جگہ پر مسجد شرعی بنائی گئی ہے، اس زمین کی قیمت منجانب مسجد مالک کو ادا کر کے مسجد کی ملکیت میں لے لینا اور اس کا مسجد کے نام وقف ہو جانا لازم ہے، تاکہ یہ مسجد آئندہ ہمیشہ کیلئے وقف شدہ شرعی مسجد بن جائے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۵۳۹)

إن المسجد إذا خرب يبقي مسجداً أبداً. (درمختار مع الشامی، کتاب

الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیرہ کراچی ۳۵۹/۴، زکریا ۵۴۹/۶)

اسکے بعد مسجد اپنی ضرورت کے مطابق خرید شدہ زمین کو ہر طرح اپنے استعمال میں لے سکتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اگر توسیع کی ضرورت پڑے تو کرایہ کا مکان توڑ کر حد و مسجد اور مسجد کی ضروریات وضو خانہ وغیرہ میں شامل کر لینا ذمہ

داران مسجد کیلئے بلا تردد جائز ہے اور مسجد کی ان ضروریات کے باوجود کرایہ پر دینا ذمہ داروں کیلئے ہرگز جائز نہیں ہے، نیز کرایہ دار پر لازم ہے کہ جس وقت بھی مسجد کیلئے خالی کرنا پڑے فوراً خالی کر دے، اور خالی کرانے میں رکاوٹ پیدا کرنا کسی بھی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے، یہ اسکی ایمانی حمیت کیخلاف ہے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، الْآیة:

(المائدہ: ۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۰۶/۳۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۱/۲۵ھ

مسجد کی دیوار پر دوکان بنانا

سوال: [۸۰۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

دیواریں اور چھت وغیرہ اتار دی گئیں ہیں، اور مسجد کی دیواریں کافی چوڑی ہیں، اگر اس دیوار میں سے آدھی دیوار دوکان کیلئے لے لی جائے تو اس بارے میں علماء دین کی کیا رائے ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد اسعد لکھنوی، امام مسجد

ہری جگ، اصالت پورہ، مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب پہلے ایک دفعہ مسجد بن گئی تو وہ شرعی طور

پر مع دیوار کے مسجد کے حکم میں داخل ہو چکی ہے، اسلئے بعد میں اس کی دیوار میں دوکان وغیرہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے۔

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم

يصدق (إلى قوله) فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا

يجوز أخذ الأجرة منه الخ. (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد
 كراچی ٤/٣٥٨، زكريا ٦/٥٤٨، بزازیة جدید زكريا ٣/١٥٢، وعلی هامش الهندیة
 زكريا ٦/٢٨٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/٢٩٦، النهر الفائق، دارالكتب العلمية
 بیروت ٣/٣٣٠) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ١٢ محرم الحرام ١٤١٢ھ
 (الف فتوى نمبر: ٢٩/٢٢٥)



۱۶/ الفصل السادس عشر: سرکاری زمین میں تعمیر مسجد رفاہ عام کی جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنانا

سوال: [۸۰۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ڈونگپوری ٹائڈہ میں ایک مسجد واقع ہے مسجد کے بعد عام راستہ ہے، اس راستہ کی ایک جانب میں کنواں ہے جو عام لوگوں کے پانی پینے کے واسطے تھا، اب وہ کنواں پاٹ دیا گیا ہے، اور یہ جگہ راستہ میں عام لوگوں کے فائدہ کیلئے چھوٹی ہوئی ہے، اس چھوٹی ہوئی جگہ کی سیدھ میں میری چار دوکانیں اور مکان ہے مسجد کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کہ اس گرام سماج کی جگہ میں مسجد کی دوکان بنادی جائے، میرا کہنا ہے کہ جو جگہ رفاہ عام کیلئے تھی، وہ راستہ ہی میں چھوٹی رہے، تاکہ عام آدمی اس جگہ سے فائدہ اٹھائیں، سائل معلوم کرنا چاہتا ہے، کہ لفظ یعنی گری پڑی چیز یا رفاہ عام کی یا گرام سماج کی جگہ جبراً مسجد کیلئے لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: حاجی ظہور احمد ولد عبدالشکور

ڈونگ پوری، ٹائڈہ، ضلع: رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عام لوگوں کے پانی پینے کے لئے گرام سماج کی طرف سے یہ کنواں کھودا گیا تھا، اور اس میں سے عام لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور اب عام لوگوں کو اس کنویں کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈونگپوری ٹائڈہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور مسجد بھی عامۃ المسلمین کی نماز کیلئے وقف علی اللہ ہے کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، اسلئے وہاں کے عام لوگ جو چاہتے ہیں، گرام سماج سے اجازت لے کر وہ کام کر سکتے ہیں، چاہے اس جگہ کو عام لوگوں کے مشورہ سے یوں ہی چھوڑ دیں یا گرام سماج سے اجازت لیکر مسجد کے فائدہ کیلئے دوکان بنادیں ہر طرح کا اختیار ہے۔

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه وفي حاشيته
والإذن عام سواء كان صراحةً أو دلالة . (قواعد الفقه ، اشرفي / ۱۱۰، رقم: ۲۷۰،
شرح المجلة ، رستم مكتبه اتحاد ۱/۶۱، رقم المادة: ۹۶، الموسوعة الفقهية الكويتية
۲۸/۲۹۶، مجلة الأحكام العدلية ، كراچی ۱/۲۷، رقم: ۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵/رجب ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۷/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۴۴/۱۰۷)

گرام سماج کی زمین کس کی ملک ہے؟

سوال: [۸۰۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بلریا
گنچ بازار والی مسجد سے متصل (اتر جانب) گرام سماج کی زمین ہے، جس کو مسجد کی کمیٹی مسجد کی
زمین بتا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کی زمین نہیں ہے، جبکہ وہ زمین میرے گھر اور
دوکان کا واحد صحن ہے اگر اسے گرام سماج کا ہی مان لیا جائے تو کیا مسجد کو ایسی زمین عطا کی
جاسکتی ہے، کیا مسجد کمیٹی کیلئے اس زمین میں تصرف کرنا جائز ہوگا؟

المستفتی: منجانب: ضیاء الرحمن، بلریا گنچ اعظم گڑھ، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کے پاس زمین کے کاغذات ہیں، اور
کاغذات میں مذکورہ زمین بھی شامل ہے تو وہ زمین مسجد کی ملکیت ہے، آپ کو وہ زمین خالی
کر کے مسجد کے حوالے کر دینی چاہئے، اور اگر آپ کے پاس اس زمین کے کاغذات ہیں،
اور مسجد کے پاس نہیں ہیں، تو وہ زمین آپ کی ہے، اور اگر کسی کے پاس کاغذات نہیں ہیں،
اور گرام سماج کے پاس کاغذات ہیں، تو وہ زمین گرام سماج کی ہے، لہذا نہ مسجد اسپر قبضہ کر سکتی
ہے، اور نہ ہی آپ کو اسپر قبضہ کرنے کا حق ہے، البتہ گرام سماج تحریری طور پر جسکو اجازت
دیدے وہ اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔

سئل نجم الدین النسفی عن رجل ادعى أرضاً فى يدرجل أنها ملكه وفى يده هذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه هى ليست بملكى إنما هى وقف على كذا و أنا متولىها فطلب القاضى من المدعى عليه بينة على ما قال فلم تمكنه إقامة البينة على ما قال فأمر القاضى المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعى لتكون فى يده إلى أن يقيم البينة على ما قال قال كل ذلك خطأ ليس ينبغى للقاضى أن يطلب البينة من المدعى عليه على مقالته ولا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعى وإنما يأمر المدعى بإقامة البينة على دعواه الملك على المدعى عليه وبينته على ذلك على المدعى عليه مقبولة لأنه متول فى زعمه والمتولى خصم لمن يدعى الملك لنفسه فى الوقف . (هنديہ ، كتاب الدعوى ، الباب السابع عشر فى المتفرقات زكريا قديم ۴/ ۱۵۳ ، ۱۵۴ ، جديدي ۲/ ۱۵۷ ، الفتاوى التاتارخانية زكريا ۱۳/ ۶۷ ، رقم: ۱۹۸۷۴ ، المحيط البرهاني ، المجلس العلمى ۱۷/ ۹۳ ، رقم: ۱۷۴۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ شوال ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۷۸/۴۱)

پردھان کی طرف سے الاٹ کردہ گرام سماج کی زمین میں تعمیر مسجد کا حکم

سوال: [۸۰۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گرام پردھان پٹواری اور قانون گوٹینوں نے ملکر گرام سماج کی زمین مسجد کیلئے الاٹ کر دی اور کچھ رقم لے لی تو یہ کیسا ہے؟ ایسی جگہ پر مسجد بنانا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: حافظ محمد حنیف، خوشحال پور، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: گرام پردھان، پٹواری اور قانون گونے گرام سماج کی جو زمین مسجد کو رقم لیکر کے دی ہے، وہ مسجد کی ملکیت میں داخل ہو جائیگی، لیکن اس میں لازم یہ ہے کہ باقاعدہ سرکاری ضابطہ کے مطابق مسجد کے نام کا غدی کارروائی کی تکمیل کی جائے، تاکہ مسجد کے نام اور اس کی ملکیت ہونے میں کسی قسم کا تردد نہ رہے، اس کے بعد اس جگہ پر شرعی مسجد بنانا بلاشبہ جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: امداد المفتیین / ۴۹۸، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۱۹۷، جدید ڈابھیل ۱۵/۸۱، ۱۷۹)

ويتفرع على اشتراط الملك أنه لايجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكاً للإمام فأقطعها الإمام رجلاً. (عالمگیری، کتاب الوقف، الباب الأول زکریا قدیم ۲/۳۵۴، جدید ۲/۳۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۸، زکریا ۵/۳۱۴، الدر مع الرد، مطلب فی وقف الإقطاعات، زکریا ۶/۵۹۵، ۵۹۶، کراچی ۴/۳۹۳، الفقه الإسلامی وادلتہ، دار الفکر ۱۰/۷۶۱۳، ہدی انٹرنیشنل دیو بند ۸/۱۶۴، الموسوعة الفقهية الكويتية ۶/۸۶، النهر الفائق، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۳۱۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۲/۱۴۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۶۱۰۷۷)

سرکاری زمین میں مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سرکاری زمین میں مسلمانوں نے مسجد بنانا شروع کیا اور بعد میں غیر مسلموں نے رکاوٹ ڈال دی بالآخر معاملہ عدالت میں گیا ہے اور اب تک زیر بحث ہے، پھر ایک فریق نے اس زمین کے متصل ہی جگہ خرید کر مسجد بنالی اور آراضی متنازعہ فیہہ کا کچھ حصہ

بھی اس میں آ گیا تو اس صورت میں اس مسجد کا کیا حکم ہے، اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اسمیں جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ پھر ایسی مسجد کی تعمیر کیلئے اعانت کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد ہاشم قاسمی، پرولیا، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دوسری جگہ خرید کر مسجد بنائی گئی ہے، تو وہ شرعاً مسجد بن چکی ہے، اور اس میں نماز بھی بلا کراہت جائز ہے لیکن جو حصہ مسجد کی زمین نہیں ہے بلکہ سرکاری زمین ہے، تو جب تک اس زمین کی قیمت ادا نہ کر دی جائے، یا سرکار سے اس کی اجازت حاصل نہ کی جائے گی اس وقت تک اس حصہ میں نماز مکروہ ہوتی رہے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۹۶/۱۰، جدید ڈائجیل ۱۵/۱۷۸، ۱۷۹)

بنیٰ مسجداً فی أرض غصب لا بأس بالصلاة فیہ - إلی - فالصلاة فیہا مکروہة تحریماً. (شامی، الصلاة، مطلب فی الصلاة فی الأرض المغصوبة..... زکریا ۲/۴۵، کراچی ۱/۳۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۷۹۹)

سرکاری زمین پر تعمیر مسجد

سوال: [۸۰۹۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک سرکاری زمین ہے جسے سرکار نے جانوروں کی چراگاہ کے طور پر خالی چھوڑ رکھا ہے، قانونی طور پر خود سرکار بھی اس کو دوسرے کام میں استعمال مستقلاً کر نہیں سکتی ہے، تو کیا بلا اجازت اس زمین پر مسجد کا تعمیر کرنا درست ہوگا؟

المستفتی: محمد سردار، لٹاک، اڑیسہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سرکاری اجازت کے بغیر اس زمین میں مسجد بنانا جائز نہیں ہوگا، لہذا اس کے لئے اولاً اجازت حاصل کی جائے، اس کے بعد ہی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا جائے۔

بنیٰ مسجداً علی سور المدينة لاینبغی أن یصلی فیہ لأنه حق العامة فلم یخلص لله تعالیٰ کالمبني فی أرض مغبوبة و مدرسة السلیمانیة فی دمشق مبنیة فی أرض المرجة التي وقفها السلطان نورالدين الشهيد علی أبناء السبیل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف یثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف فی بنائها شرط وقف الأرض الذی هو كنص الشارع فالصلوة فیها مکروهة تحریماً فی قول وغير صحیحة له فی قول آخر الخ. (شامی، الصلاة، مطلب فی الصلاة، فی الأرض المغصوبة زکریا ۲/۴۵، کراچی ۱/۳۸۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۲/۲۸ھ

۱۴۱۷/۲/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۶۹۴)

حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری زمین میں تعمیر مسجد

سوال: [۸۰۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی زمین ایک جگہ صرف چار میٹر تھی، زید نے کچھ زمین سرکاری دبا کر اور سرکاری کرمچاریوں سے ملکر نقشہ بنوا کر مسجد تعمیر کروانا شروع کر دی، اس دوران کچھ شریکوں نے شریک پیدا کیا اور تعمیر مسجد کو زبردستی لکھوایا بعد میں زید سے صرف چار میٹر جو زید کی تھی، زید پر زور ڈال کر وقف کرائی، مسجد کی چوڑائی ۴۰ میٹر اور لمبائی ۳۰ میٹر ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ زمین زید سے جو وقف کرائی ہے، وہ چار میٹر ہے باقی سرکاری ہے تو ایسی حالت میں اس مسجد میں نماز

ہوگی یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیں، عین نوازش ہوگی؟
نوٹ: اس زمین میں جو سرکاری زمین ہے، وہ وقف نہیں ہوئی ہے، اور نہ کوئی
معاوضہ سرکار کو دیا گیا ہے، اور یہ سرکاری زمین وقف کرنے کا حق کس کو ہے؟
المستفتی: اشتیاق احمد، محلہ امام باڑہ، بہیڑی، بریلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسجد بن چکی ہے، تو حکومت کی زمین کا حصہ
حکومت سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی مسجد شرعی کے حکم میں ہوگا، کسی ترکیب سے
حکومت سے اجازت حاصل کر لینا ضروری ہے، ورنہ وہ حصہ مغضوبہ زمین کے حکم میں ہونے
کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی، یا وقف شرعی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد نہ ہوگی۔

كما استفادہ من الشامی، و مدرسة السليمانية في دمشق.....
و الوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة خولف في بناءها شرط وقف
الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلوة فيها مكروهة تحريماً في قول
وغير صحيحة في قول آخر الخ. (شامی، الصلاة، مطلب في الصلاة في الأرض
المغضوبه..... زكريا ۲/۴۵، كراچی ۱/۳۸۱)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شوال ۱۴۰۸ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۲۳/۹۴۱)

سرکاری افتادہ زمین پر مسجد بنانا

سوال: [۸۰۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سرکاری
غیر مزروعہ افتادہ زمین پر مسجد بنانا از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟ اور اس صفت سے
متصف مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد یا جماعت کا ثواب ملیگا یا نہیں؟

المستفتی: ابو الحسن، سیتا مڑھی،

مسجد صفہ، کلمبوی، نئی بمبئی، انڈیا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سرکاری غیر مزرعہ افتادہ زمین پر سرکار سے باقاعدہ اجازت لیکر مسجد بنانا درست ہے اور اگر بغیر اجازت بنائی ہے تو میونسپلٹی سے کسی طرح اجازت حاصل کر لیں اور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے انشاء اللہ مسجد اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۱۹۶، ۱۹۸، جدید ڈابھیل ۱۵/۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷ صفر ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۲/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۹۸/۳۴)

میونسپلٹی بورڈ کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۰۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے تھوڑی زمین وقف کر دی جس میں پانچ چھ سال کے بچے کی تعلیم اور پنچگا نہ نماز ہوتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد ایم اے ایل سے مطالبہ کرنے پر ایم اے ایل نے تیس ہزار روپے دئے پھر زمین وقف کرنے والے کی بغیر رضامندی سرکاری زمین میں سرکار کی بغیر اجازت عمارت بنائی اور اس روپے سے اینٹ سمنٹ خریدا اور سرکاری باغ سے لکڑی چوری کر کے بیچ رہے تھے، تو خرید کر اس عمارت کیلئے استعمال کیا تو اسمیں تعلیم اور پنچگا نہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: ماسٹر عبدالحمید، آسامی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر زمین میونسپلٹی بورڈ کی ہے اور میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر اسمیں مسجد تعمیر کر لی گئی ہے، تو وہ مسجد مسجد شرعی ہے، لیکن اسمیں اس وقت تک نماز مکروہ رہے گی، جب تک کہ زمین کی قیمت میونسپلٹی کو ادا نہ کر دی جائے، یا اجازت حاصل کر لی نہ جائے، اگر اجازت حاصل نہ کر سکے تو مسجد کو ختم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ یہ مسجد قیامت تک کیلئے

مسجد ہی رہے گی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۹۲، کفایت المفتی ۷/۶۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۸۰)

بنیٰ مسجداً فی أرض غصب لا بأس بالصلاة فیہ وفي الواقعات.....
 فالصلاة فیہا مکروهة تحریماً فی قول. (شامی، الصلاة، مطلب فی الصلاة فی
 الأرض المغصوبة..... زکریا ۲/۴۴، ۴۵، کراچی ۱/۳۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۳ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۱۳۲)

سرکاری زمین میں پر بلا اجازت دوکان بنا کر کرایہ مسجد میں استعمال کرنے کے کا حکم

سوال: [۸۱۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 مسجد کے سامنے ایک سرکاری زمین ہے، اور مسجد کی کمیٹی والے اس سرکاری زمین میں
 حکومت کی اجازت کے بغیر دوکانیں تعمیر کرا کر دوکانداروں سے کرایہ وصول کر رہے
 ہیں، اور وہ رقم مسجد کی تعمیر میں لگا رہے ہیں، نیز ضرورت کے پیش نظر وہ دوکانداروں
 سے پیشگی کرایہ وصول کر کے مسجد میں لگا دیتے ہیں، تو اس طرح بلا اجازت حکومت کی
 سرکاری زمین میں دوکان تعمیر کرانا اور ان کا دوکانوں کا کرایہ وصول کر کے مسجد میں لگانا
 شرعاً کیسا ہے؟ مفصل و مدلل جواب تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: مولانا ربیع الاسلام آسامی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سرکاری اجازت کے بغیر سرکاری زمین پر قبضہ کر کے
 دوکانیں تعمیر کر کے کرایہ پر دینا مسجد کے لئے ناجائز ہے اور اس کا پیسہ مسجد میں خرچ کرنا جائز نہ
 ہوگا، کیونکہ مسجد کی ضروریات میں پاک صاف پیسہ خرچ کرنا لازم ہے، اور یہ پیسہ گھپلہ کا پیسہ

ہے؛ ہاں البتہ اگر میونسپلٹی نے مسجد کو اجازت دی ہو یا زمین کی قیمت ادا کر دی گئی ہو تو جائز ہے۔

قال رسول الله ﷺ: أيها الناس! إن الله طيب، لا يقبل إلا طيباً. (مسلم

شريف، باب قبول الصدقة، من الكسب الطيب وتربيتها، النسخة الهندية ۱/۳۲۶، بيت

الافكار رقم: ۱۰۱۵، مسند أحمد ۲/۳۲۸، رقم: ۸۳۳)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو

ولاية عليه. (شرح المحلة، رستم اتحاد ۱/۶۱، رقم المادة ۹۶)

أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره؛

لأن الله لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامی، زکریا مطلب

فی أحكام المسجد زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

۱۱/۶/۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۰۸۶/۴۱)

سرکاری زمین یا شاہ راہ پر مسجد کے لئے بورنگ بنانا

سوال: [۸۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

(۱) سرکاری زمین پر مسجد کے لئے یا اپنے گھر اور کارخانہ کے لئے بغیر سرکاری اجازت کے

بورنگ کرانا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) سرکاری ہینڈ پائپ لگا ہوا ہے اس میں ہم لوگوں نے اپنی سہولت کے لئے

میونسپل بورڈ چیرمین کی اجازت کے بغیر سمر سیبل لگا لیا ہے، کیا اس سمر سیبل سے کسی بھی مسجد

میں پانی لے جانے کی اجازت ہے؟

(۳) مسجد کی بورنگ یا اپنی ذاتی بورنگ عوامی راستہ پر (جو نگر پالیکا سے سمینڈ ہے)

کر کے مسجد یا اپنے گھر میں پانی لے جایا جاتا ہے، اور راستہ کو بورنگ کرنے کے بعد اس

کو بالکل درست پہلے جیسا کر دیا گیا ہے، مسجد کے اندر بورنگ کے لئے جگہ بھی نہیں ہے،

سوال یہ ہے کہ اس طرح عوامی راستہ پر جو مسجد کی ملکیت نہیں ہے، مسجد کے لئے بغیر چیرمین کی اجازت کے بورنگ کرانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: مجیب الرحمن، جامعہ عربیہ،
گوری نوادہ سمدھن، قنوج، فروخ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) سرکاری زمین سے کون سی زمین مراد ہے، اس کو واضح کرنا چاہئے تھا، بہر حال اگر سرکاری زمین سے راستہ، سڑک، گلی وغیرہ مراد ہے جو میونسپلٹی کے زیر تحت ہوتی ہیں، اس میں مسجد یا کسی کے گھر یا کارخانہ کے واسطہ بورنگ کیا جا رہا ہے، اور اس سے سرکار کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ ہی راستہ چلنے والوں کو کوئی پریشانی ہے، اور سرکاری راستوں اور گلیوں میں عوام کا ذاتی بورنگ کرنے کا تعامل ہے، اس میں سرکار کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے لئے بورنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنے اور وضو کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۲) سرکاری ہینڈ پائپ عوام کے پانی حاصل کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں، جن سے عام طور پر غریب لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور سرکار کی طرف سے کسی کے لئے بھی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی وہاں سے پانی حاصل کر سکتا ہے؛ لہذا اگر ہینڈ پائپ میں مسجد تک پانی پہنچانے کے لئے موٹر لگا دیا جائے، اور عام لوگوں کو اس موٹر کی وجہ سے پانی حاصل کرنے میں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہ ہو، تو مسجد کے لئے موٹر کے ذریعہ پانی حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر عام لوگوں کو ہر وقت پانی حاصل کرنے میں دشواری اور پریشانی لاحق نہیں ہے، تو مسجد کی طرف سے اس میں موٹر لگانا جائز نہ ہوگا، اور سائل نے ہینڈ پائپ میں سرسپیل لگانے کی جو بات کہی ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہاں البتہ موٹر لگانے کی بات ہم نے لکھ دی ہے۔

(۳) تیسرے سوال کا جواب نمبر ۱ میں گزر چکا ہے کہ عوامی راستہ میں بورنگ کرنے کی صورت میں اگر چلنے والوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں مسجد کے واسطے بورنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

إذا بنی قوم مسجداً واحتاجوا إلى مکان لیتسع فأدخلوا شیئاً من الطريق لیتسع المسجد وکان ذلک لایضر بأصحاب الطريق جاز ذلک .
(البحر الرائق، کتاب الوقف، جدید زکریا دیوبند ۲/۴۱۰، قدیم ۲/۴۵۶) مثله فی الھندیة،

کتاب الوقف جدید زکریا دیوبند ۲/۴۱۰، قدیم ۲/۴۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۱/۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۸۵۵/۴۱)

غیر مسلم سے پٹہ کی زمین ٹھیکہ پر لیکر مسجد و مدرسہ بنانا

سوال: [۸۱۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ: صوبہ مغربی بنگال کے ضلع بیربھوم میں تلے ڈانگال کے نام سے ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے قریب کھیتی باڑی کیلئے ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں کی کافی زمین ہے، اسی زمین کے پاس ایک غیر مسلم ہندو ڈوم کے نام پر آدھا بیگہ زمین سرکار نے پٹہ میں کردی ہے، اس پٹہ والی زمین کی حیثیت یہ ہے کہ کبھی بھی وہ زمین کسی کے نام پر رجسٹری نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آدمی اس زمین کا مالک بن سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کے نام پر ریکارڈ کروا سکتا ہے، اور نہ وہ زمین کسی دینی مدرسہ یا مسجد کیلئے وقف ہو سکتی ہے، بلکہ ہمیشہ اس زمین کی اصل مالک سرکار ہی رہے گی، تو کیا کوئی اپنا مسلمان بھائی پندرہ بیس ہزار روپے دے کر غیر مسلم ڈوم کے نام کی زمین کو ۱۰ سال کیلئے ٹھیکہ پر لیکر اس زمین میں دینی مدرسہ یا مسجد شرعی کی تعمیر کرائے تو شریعت کے لحاظ سے جائز اور درست ہے یا نہیں؟ جبکہ اس زمین کے بازو میں اپنے مسلم بھائیوں کی رجسٹری والی

اور وقف کے قابل والی زمین موجود ہے، ممکن ہے کہ ان میں سے کسی مسلم بھائی سے دینی مدرسہ یا مسجد شرعی کیلئے مانگے جانے پر کوئی بھی خدا کا بندہ زمین وقف بھی کر سکتا ہے، یا بصورت دیگر کسی بھی مسلم بھائی سے زمین خرید کر اس کو دینی مدرسہ یا مسجد شرعی کیلئے وقف کروا دیا جائے، جو رجسٹری اور وقف کے قابل ہو تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہئے، کہ غیر مسلم سے پٹہ والی وہ زمین جس کا کوئی آدمی کبھی بھی مالک نہیں بن سکے گا، اور جس کی رجسٹری بھی نہیں ہو سکتی، اور وقف بھی نہیں ہو سکتی، ایسی زمین پندرہ بیس ہزار روپیہ دے کر اس کو لے لیا جائے، اور اس میں دینی مدرسہ یا مسجد شرعی کی تعمیر کی جائے یا کسی اپنے مسلم بھائی سے رجسٹری اور وقف کے قابل زمین خرید کر اس زمین میں دینی مدرسہ یا مسجد شرعی کی تعمیر کرائیں، جائز ہے یا ناجائز صحیح اور درست شریعت میں کیا ہے؟

المستفتی: محمد زین العادین القاسمی،
جامعہ اسلامیہ، دارالعلوم صدائی پور،
رحمت اللہ اسلام، بیر بھوم، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد شرعی کے تحقق کیلئے ضروری ہے کہ مسجد کی جگہ ہمیشہ کیلئے مسجد کے نام پر وقف ہو اور قیامت تک اس کا کوئی انسان مالک نہ ہو اور سو سال کا پٹہ خود ہی بتا رہا ہے، کہ سو سال کے بعد وہ مسجد غیروں کی ملکیت میں جاسکتی ہے، اسلئے اس جگہ پر شرعی مسجد نہیں بن سکتی، لہذا اسوالنامہ میں ذکر کردہ صورت میں ضروری ہے کہ مسجد اور مدرسہ کے نام سے مستقل طور پر زمین حاصل کر کے اس پر مسجد اور مدرسہ بنایا جائے، مذکورہ غیر مسلم سے پٹہ کی زمین ٹھیکہ پر حاصل کر کے اس پر مسجد اور مدرسہ نہ بنایا جائے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۴۲/۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۳۵۰)

رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة فهذا

علیٰ ثلاثہ اوجہ إن أمرهم بالصلوٰۃ فیہا أبدأ نصاباً قال صلوا فیہا أبدأ أو أمرهم بالصلوٰۃ مطلقاً ونوی الأبد ففی هذین الوجهین صارت الساحة مسجداً لومات لا یورث عنه وإما أن وقت الأمر بالیوم أو الشهر أو السنة ففی هذا الوجه لاتصیر الساحة مسجداً لومات یورث عنه . (هنديہ ، الوقف ، الباب الحادی عشر ، فی المسجد وما یتعلق به زکریا قديم ۴۵۵/۲ ، جدید ۴۰۹/۲ ، المحيط البرهانی ، المجلس العلمی ۱۲۵/۹ ، رقم: ۱۱۳۳۸ ، الفتاویٰ التاتار خانیة زکریا ۱۵۷/۸ ، رقم: ۱۱۴۹۹)

ولو خرب ماحوله واستغنی عنه یبقی مسجداً عند الإمام والثانی إلى' قیام الساعة وبه یفتی' . (شامی الوقف ، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره ، زکریا ۵۴۸/۶ ، کراچی ۳۵۸/۴ ، مجمع الانهر ، دارالکتب العلمیة بیروت ۵۹۵/۲ ، مصری قديم ۷۴۸/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۵۹۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵/۵/۱۴۲۹ھ

سماج کی آراضی پر مسجد بنانا

سوال: [۸۱۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سماج کی آراضی مسلمانوں کے محلّہ میں ہے، اور مسلمانوں نے ہی اس پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ آراضی کا مالک بھی سماج ہی ہے، مسلمان بالاتفاق اس مذکورہ آراضی پر مسجد تعمیر کرانا چاہتے ہیں، مسجد بنانا کیسا ہے؟ ہندوؤں کے محلّہ میں جو سماج کی آراضی ہیں ان پر بھی وہی لوگ قابض ہیں، اور اپنے اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ مالک سماج ہی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے استعمال سے آج تک ہندوؤں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہندو اقلیت میں ہیں؟

المستفتی: الحاج نیتا سخاوت حسین
انصاری، شریف نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سماج کی جگہ پر مسجد بنانے سے پہلے محلہ میں رہنے والوں سے خواہ ہندو ہوں یا مسلمان اجازت لے لینی چاہئے، اور باقاعدہ حکومت کے ذمہ داروں سے بھی اس جگہ مسجد بنانے کی تحریری اجازت حاصل کر لینی چاہئے، مثلاً گاؤں کے پردھان اس کی تحریر دیدیں اور اس پر مہر ثبت کر دیں اور حکومت کی طرف سے پردھان اور پٹواری کو اس کی اجازت دینے کا اختیار ہے، تو ان کی تحریری اجازت کے ذریعہ مسجد بنانا درست ہے۔
وأما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضاً للمصلحة العامة فذكر

في الخانية جوازہ . (شامی، الوقف مطلب للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال زکریا ۶/۶۵۴، کراچی ۴/۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۳۲۰۹۲)

دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۱۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں گردھر پور ضلع بستی میں زید نے ایک مسجد بنائی اور جس زمین پر مسجد تعمیر کی گئی وہ خالد و بکر کی تھی، بکر اس زمین کو دینے پر راضی تھا، اور خالد راضی نہیں تھا، چنانچہ مسجد تعمیر ہو گئی اور عرصہ دراز سے مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، دریافت یہ کرنا ہے کہ مسجد کو باقی رکھا جائے، یا دوسری مسجد بنائی جائے، اس مسجد کی تعمیر میں کچھ اینٹ بھٹے والے سے ادھار لی گئی تھیں، ان کی قیمت بھی نہیں ادا کی گئی، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: منجانب: باشندگان بہستی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اب جب اس زمین پر مسجد بن گئی تو وہ قیامت تک کیلئے مسجد ہی رہے گی، مگر اس میں نماز پڑھنا اس وقت تک مکروہ رہیگا، جب تک خالد کو راضی نہ کر لیا جائے یا اس کے حصہ کی قیمت ادا نہ کر دی جائے، نیز بھٹے والے کی اینٹ کی قیمت ادا کرنا بھی لازم ہوگا، اگر فوری ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو ان حقداروں سے ان کی مرضی کے مطابق مہلت لینا لازم ہے، ورنہ ذمہ داران مسجد گنہگار ہوں گے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، جب خالد اور بھٹے والے کا حق ادا ہو جائیگا تو نماز بلا کراہت درست ہوتی رہے گی، اور مسجد کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه،

اشرفی / ۱۱۰، رقم: ۲۷۰، شرح المجلة رستم مکتبہ اتحاد ۱/ ۶۱، رقم المادة: ۹۶،
الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۹۶۲۸)

لو غصب ساحة أى خشبة وأدخلها فى بنائه فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة (قوله) لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعتها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه قديم: ۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۰۵۹/۳۲)



۱۷/ الفصل السابع عشر: مسجد میں سرکاری امداد کا حکم گرام سماج کی زمین مسجد کی ملک ہوگی یا قابض کی؟

سوال: [۸۱۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بلریا گنج بازار والی مسجد سے متصل (اتر جانب) گرام سماج کی زمین ہے، جس کو مسجد کی کمیٹی مسجد کی زمین بتا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کی زمین نہیں ہے، جبکہ وہ زمین میرے گھر اور دوکان کا واحد صحن ہے، اگر اسے گرام سماج ہی کی زمین مان لی جائے تو کیا مسجد کی کمیٹی کا اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، بلرام گنج، اعظم گڑھ یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مسجد کے پاس زمین کے کاغذات ہیں، اور کاغذات میں مذکورہ زمین بھی شامل ہے، تو وہ زمین مسجد کی ملکیت ہے آپ کو وہ زمین خالی کر کے مسجد کے حوالہ کر دینا چاہئے اور اگر آپ کے پاس اس زمین کے کاغذات ہیں، اور مسجد کے پاس نہیں ہیں، تو وہ آپ کی زمین ہے اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس کاغذات نہیں ہیں، بلکہ گرام سماج کے پاس کاغذات ہیں، تو وہ زمین گرام سماج کی ہے، لہذا نہ مسجد اسپر قبضہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو اسپر قبضہ کرنے کا حق ہے البتہ گرام سماج تحریری طور پر جس کو اجازت دیدے وہ اسپر قبضہ کر سکتا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب قبضہ ۳۳ رسال یا ۳۶ رسال سے زیادہ کا نہ ہو بلکہ اس سے کم عرصہ سے چلا آ رہا ہو، لیکن اگر ۳۶ رسال سے زیادہ عرصہ سے قبضہ چلا آ رہا ہے اور گرام سماج کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جس کا قبضہ ہے، اسی کی زمین شمار ہوگی۔

ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن

المبسوط: إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من

الدعوى ثم ادعى لاتسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل الفتوى: لاتسمع الدعوى بعد ست ثلاثين سنة. (شامی، کتاب الخنثی زکریا ۱۰/۶۸، کراچی ۶/۷۴۱، کتاب القضاء، مطلب إذا ترک الدعوى ثلاث وثلاثين سنة لاتسمع زکریا ۸/۱۱۷، کراچی ۵/۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰۲۴/۱۰۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۷۸/۴۱)

ودھا کی کوٹہ کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مسلم ودھا ایک کا پیسہ جو ودھا کی کوٹہ سے ہے، اس کو ذاتی مسجد میں یا مسجد کی چہار دیواری پر خرچ کیا جاسکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟ بیوا تو جروا
المستفتی: محمد شاہد رضا، رانی کھیت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم کا پیسہ مدرسہ یا مسجد میں لگانا جائز ہے، اسی طرح ودھا کی کوٹہ کا پیسہ لگانا بھی جائز ہے، ہاں البتہ اگر سرکاری پیسہ مدارس میں لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر جواز کی بات اپنی جگہ باقی ہے۔ (مستفاد: محمودیہ میرٹھ ۲۲/۲۲، امداد الفتاویٰ ۲/۶۶۴)

ولو أن ذمياً أوصى بأن يشتري بثلث ماله رقاباً..... أو يبنى به مسجد للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية. (هنديہ، الباب الثامن فی وصية الذمی والحربي، زکریا قدیم ۶/۱۳۱، ۱۳۲، جدید ۶/۱۵۲)

وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه كافر أو أوصي بناه
ترميمه إذا لم يكن في ذلك ضرر ديني أو سياسي الخ. (تفسير مراعي ۴/۷۴،
بحواله محمودیہ میرٹھ ۱۲۳/۲۲)

لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا
وعندهم . (البحر الرائق، الوقف، زكريا ۵/۳۱۶، كوئٹہ ۵/۱۹۰، مجمع الأنهر، دارالكتب
العلمية بيروت ۲/۵۶۸، مصرى قديم ۱/۷۳۱، بدائع الصنائع زكريا ۶/۳۹، كراچى
۳۴۱/۷، شامى، زكريا ۶/۵۲۴، كراچى ۴/۳۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
الجبواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ شوال ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۱۱/۳۹)

گرام سبھا کی زمین فروخت کر کے قیمت مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ہماری بستی میں چار مسجدیں ہیں، اور چاروں ہی زیر تعمیر ہیں، اور سخت ضرورت مند ہیں،
ایک محلہ میں پردھان بھی ہیں، انھوں نے معلوم کیا اگر گرام سبھا کی زمین ہم فروخت
کر کے اپنے محلہ کی مسجد میں لگالیں اور اس رقم سے مسجد تعمیر کرائیں کیا یہ درست ہے، بستی
میں کچھ غیر مسلم بھی آباد ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ایسا کرنے میں خلاف قانون یا مسلم وغیر مسلم
میں اختلاف کا سبب نہ ہو، تو گنجائش ہے، اسلئے کہ گرام سبھا کی زمین میں ہندو مسلم سب کا
تعلق ہوتا ہے، اور مسجد صرف مسلم دھرم سے متعلق ہے، لہذا اگر گرام سبھا کی زمین فروخت کر کے
قیمت کو مسجد میں لگانے میں پردھان کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہاں کے غیر مسلم کی طرف

سے رکاوٹ نہ ہونا بھی لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۱۸۸، جدید ڈائجیل ۱۵/۳۱۳، فتاویٰ احیاء العلوم ۱/۳۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵/۳/۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۴۳)

MP یا MLA کو ملنے والے حکومتی فنڈ کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۱۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حکومت کی طرف سے MLA اور MP کو ایسا فنڈ ملتا ہے، جسکو اپنی مرضی سے کسی جگہ بھی خرچ کر سکتا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے مسجد اور مدرسہ کے تعمیری کام میں دے تو لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا اس کام کیلئے بوقت ضرورت مانگا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک اسکے علم میں نہ دیا جائے اسکو ہماری ضرورت کا علم کیسے ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ کارجرٹڈ کرایا جاسکتا ہے یا نہیں، تاکہ حکومت میں یہ ریکارڈ رہے کہ یہاں مدرسہ اتنے دنوں سے قائم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد وسیم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ایم پی یا ایم ایل اے قربت و ثواب کی نیت سے اپنی خوشی سے یا بوقت ضرورت طلب کرنے پر ذکر کردہ فنڈ سے مسجد یا مدرسہ میں کچھ رقم دے تو اسے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی رقم دے کر وہ مدرسہ وغیرہ میں اپنے اختیارات جمانا چاہتے ہوں، اور اسکے عمل میں دخیل ہونا چاہتے ہوں، تو نہ لیا جائے۔ (مستفاد: محمودیہ جدید ۱۵/۶۲۱، کتاب الفتاویٰ ۴/۲۰۹)

اختلف الناس فی أخذ الجائزة من السلطان ، قال بعضهم : يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام ، قال محمد؛ وبه نأخذ ما لم نعرف شيئاً حراماً بعينه

، وهو قول **أبي حنيفة وأصحابه**. (هنديہ، الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، زكريا قديم ۳۴۲/۵، جديد ۳۹۶/۵)

درء المفساد أولى من جلب المنافع؛ أي إذا تعارض مفسدة ومصلة قدم رفع المفسدة. (شرح المحلة رستم، مكتبه اتحاد ديوبند ۱/۳۲، رقم: ۳۰، قواعد الفقه، اشرفی ۸۱/، رقم: ۱۳۳)

(۲) مدارس وغیرہ کا رجسٹریشن کرانا بلاشبہ جائز ہے، اسی لئے ہمارے اکابر نے اداروں اور انکے دستور اساسی کا عصر حاضر کے قوانین کے تحت رجسٹریشن کرایا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۳/۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۰۹/۳۸)

غیر مسلم MP یا MLA کا سرکاری رقم مسجد میں دینا

سوال: [۸۱۰۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) اگر کوئی غیر مسلم ایم ایل اے یا ایم پی سرکاری رقم میں سے مسجد کی تعمیر کاموں کیلئے دے یا عید گاہ اور قبرستان کیلئے دے تو کیا شرعاً ان کی یہ رقم لی جاسکتی ہے؟
(۲) نیز اگر غیر مسلم حضرات اپنی ذاتی رقم میں سے دیں تو کیا لے سکتے ہیں یا نہیں؟
شرعی حکم تحریر فرمادیں؟

المستفتی: مولوی سلیم الدین، محلہ کچا قلعہ نزد پالو بی بی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) ایم پی ایم ایل اے کو رفاہ عام کیلئے منجانب سرکار جو رقم ملتی ہے، اگر اس رقم میں سے مسلم یا غیر مسلم ایم پی یا ایم ایل اے تعمیر مسجد یا عید گاہ یا قبرستان کیلئے کچھ پیسے دیدے تو اس کا مسجد عید گاہ و قبرستان میں خرچ کرنا جائز اور درست

ہے، لیکن شرط ہے کہ سرکار کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے احسان جتانے کی کوئی بات پیش نہ آئے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴/۳۱۷، امداد المفتیین ۱۰۱۹/۱)

شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم كالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس . (شامی، الوقف، مطلب قد یتبث الوقف بالضرورة زکریا ۶/۵۲۴، کراچی ۴/۳۴۱، البحر الرائق، زکریا ۵/۳۱۶، کوئٹہ ۵/۱۹۰)

(۲) جو غیر مسلم کار خیر سمجھ کر اپنی ذاتی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر یا ضروریات میں خرچ کرنے کیلئے دیں، تو اسکو لیکر مسجد یا مدرسہ میں صرف کرنا بلا تردد جائز ہے، اسمیں بھی شرط یہ ہے کہ غیر مسلم کی طرف سے آئندہ احسان جتانے کی بات پیش نہ آئے، اور نہ ہی یہ خطرہ ہو کہ ان کی عبادت گاہوں پر خرچ کرنے کے لئے مسلمانوں پر دباؤ کی شکل پیش آجائے گی (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱/۴۸۷، عزیز الفتاویٰ/۵۹۹)

شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم كالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس . (شامی، الوقف، مطلب قد یتبث الوقف بالضرورة، زکریا ۶/۵۲۴، کراچی ۴/۳۴۱، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۶۸، مصری قدیم ۱/۷۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۳/۱۴۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۳۰۶۳۷)

مسلم پردھان کا پنچایت کی زمین پر لگے سوکھے درخت

کی قیمت مسجد یا مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۱۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے

گاؤں کے پردھان مسلم ہیں، پنچایت کی زمین پر سوکھے پیڑ کھڑے ہیں کیا پردھان ان کو

کٹوا کر مسجد یا مدرسہ میں لگوا سکتے ہیں، جبکہ گاوں کے باشندے کچھ غیر مسلم بھی ہیں، اگر غیر مسلم اعتراض کریں اور یہ شرط رکھیں کہ ہماری دھرم شالہ مندر وغیرہ میں بھی دیں کیا یہ اعتراض ان کا بجائے، یا پردھان کا حق ہے وہ چاہے جہاں لگائے شرعاً جو فیصلہ ہو بیان فرمائیں؟

المستفتی: عبدالرشید، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: گرام سماج کی زمین دراصل سرکار کی ملکیت ہوتی

ہے، اگر سرکار نے پردھان کو پورا اختیار دے رکھا ہے، کہ جہاں مناسب سمجھے اور جہاں ضرورت سمجھے وہاں پر اس زمین کی آمدنی خرچ کرے تو پردھان کو اختیار ہے کہ ان پیڑوں کو کٹوا کر اسکا پیسہ مسجدوں اور مدرسوں میں لگائے اور اگر اجتماعیت کو باقی رکھنے کیلئے مندروں کیلئے بھی پیسے دیدے تو پردھان کو اسکا اختیار ہے۔

قال الشامی، تحت قول المصنف، لیس للمشرف التصرف.....

و مقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولی اعتبر. (شامی، الوقف، مطلب لیس

للمشرف التصرف زکریا ۶/۶۸۳، کراچی ۴/۴۵۸)

الثابت بالعرف کالثابت بالنص. (شامی، الوقف، مطلب فی التعامل والعرف

زکریا ۶/۵۵۶، کراچی ۴/۳۶۴، قواعد الفقہ اشرفی/۷۴، رقم: ۱۰۱، المبسوط،

درالکتب العلمیة بیروت ۱۹/۴۱، ۳۰/۲۲۰، البناہ، اشرفیہ دیوبند ۹/۲۳۸، الموسوعۃ

الفقہیة الکویتیة ۱۶/۲۶۱، ۳۰/۵۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۰۳۸)

مسجد میں سرکار کی بجلی استعمال کرنا

سوال: [۸۱۱۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک

صاحب نے ہمارے محلہ کی مسجد میں بتیاں لگانے کے لئے مقامی کاؤنسلر سے بات کی ہے کہ سرکار/کارپوریشن کی بجلی لائن سے مسجد میں بتیاں روشن کی جائیں جبکہ مسجد اپنے اخراجات کے معاملہ میں خود کفیل ہے مسجد میں پنکھے اور بتیوں کا معقول انتظام ہے، ایسی حالت میں کاؤنسلر کی مدد سے کارپوریشن/سرکار کی بجلی لائن میں مسجد میں اضافی بتیاں روشن کرنا مناسب و جائز ہے؟ مسجد میں کاؤنسلر کے ذریعہ جو اضافی روشنی کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اس اضافی روشنی کے بل کا بوجھ مسجد کے ذمہ نہ ہوگا؟

المستفتی: محمد سلیم، کولوٹولہ، اسٹریٹ، کلکتہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سرکاری بجلی سرکار کی اجازت کے بغیر مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر سرکار کی طرف سے باضابطہ طور پر استعمال کی اجازت مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کے یہاں کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ کو خود معلوم ہوگا۔

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. (السنن الكبرى للبيهقي، الغصب، قبيل باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، دارالفكر ۸/۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴)

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامی، کتاب الحدود، باب التعزیر، مطلب فی التعزیر بأخذ المال زکریا ۶/۱۰۶، کراچی ۴/۶۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۳۵۴، قواعد الفقه اشرفی/۱۱۰، رقم: ۲۶۹)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضامناً. (شرح المحللة رستم، مکتبہ اتحاد ۱/۶۱، رقم المادة: ۹۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شعبان ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۷۱۲/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۸/۱۴۲۹ھ

حکومت کا مسجد کا بجلی بل معاف کرنا

سوال: [۸۱۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سابق تیسرے نمبر پر مسجد کے متولی نے بجلی کا بل نہیں جمع کیا وجہ یہ ہوئی کہ جتنا روپیہ ہونا چاہئے تھا اتنا روپیہ مسجد کے بیلنس میں نہیں تھا، بعد میں سابق متولی صاحب کے صاحبزادے متولی مسجد ہو گئے لگ بھگ ۵ سال تک متولی رہے، انھوں نے بھی اپنے وقت میں بجلی کا بل نہیں ادا کیا بجلی کا بل لگ بھگ ۶ ہزار کا تھا، ان کے پاس مسجد کا بیلنس لگ بھگ ۳ ہزار تھا اب موجودہ متولی کو پچھلا بھی اور اگلا بھی بجلی کا بل جمع کرنا ہے، جبکہ مسجد کے پاس کل رقم ۴ ہزار کے قریب ہے، اور مسجد کی آمدنی ہر ماہ لگ بھگ ۵۰۰ روپیہ ہونی چاہئے دوکانوں کے کرایہ سے، لیکن پچھلے سات سال سے دوکانوں کا کرایہ نہیں وصولا گیا موجودہ متولی نے کوشش کر کے پچھلا باقی کرایہ وصول کیا لیکن برآمد کی ہوئی آمدنی میں اتنی رقم نہیں ہے جس سے مسجد کا بل ادا ہو سکے، ایک صاحب نے کہا میں آدھا بل بجلی کمپنی سے معاف کرادوں گا تو کیا مسجد کا آدھا بل بجلی کمپنی سے معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دلیل و مفصل تحریر کیجئے، بجلی کمپنی کے جو بابو ہیں، انھوں نے کہا ہم لوگ آدھا لیکر ختم کروادیں گے؟

المستفتی: عبید اللہ خان، بختیار نگری، محلہ مولوی گنج

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بجلی کمپنی کے افسران کو حکومت کی طرف سے معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو کمپنی کی طرف سے معاف کرنے سے معاف ہو جائیگا، اور مسجد پر کوئی حق باقی نہیں رہیگا۔

رجل له على رجل ألف درهم (إلى قوله) يقول حططت عنك
خمسة مائة على أن تنقلني خمسة مائة، ولم يوقت لذلك وقتا ففى هذا
الوجه إذا قبل الغريم بذلك برئ عن خمسة مائة الخ. (قاضى خان، كتاب

الصلح ، فصل فی الإبراء عن البعض زکریا جلد ۳/۵۵، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۹۰)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الثانیۃ ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۲۲/۲۷)

مسجد کے بیت الخلاء میں MLA کے کوٹے کا پیسہ لگانا

سوال: [۸۱۱۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں مسجد کا قدیم دروازہ ہے اس کے باہر روڈ تک جگہ کچھ خالی پڑی ہے، جس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہے، اس جگہ میں بیت الخلاء پیشاب خانے اور غسل خانے بنانے کا ارادہ ہے، جس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تو غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خرچ میں ودھا یک ندی یعنی علاقہ کے ایم ایل اے کے کوٹے کا سرکاری پیسہ لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟
المستفتی: راکین کمیٹی بڑی مسجد مرکز والی، رانم نگر، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اصل یہ ہے کہ جو چیز جس غرض سے دی گئی ہے، اسے اسی مصرف میں خرچ کیا جائے، لہذا سوال میں مذکورہ مسجد کے دروازہ کے باہر روڈ تک کا حصہ اگر مسجد و مصلیان کی ضروریات بیت الخلاء وغیرہ کیلئے چھوڑا گیا تھا، تو اس میں بیت الخلاء پیشاب خانے وغیرہ بنانا درست ہے، اور ان چیزوں کی تعمیر میں ایم ایل اے کے سرکاری کوٹے کا پیسہ لگانا درست ہے۔

ومصرف العزیزة والخراج ومال التغلبی وهدیتهم مصالحنا
کسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وکفاية العلماء وكذا النفقة علی
المساجد كما فی زکاة الخانیة فیدخل فیہ الصرف علی إقامة شعائرہا
من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما. (شامی، کتاب الجهاد، باب العشر

والخراج والحزبة، مطلب في مصارف بيت المال زكريا ۶/۳۴۸، ۳۴۹، كراچی
 (۲۱۷/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۱ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۰۴)

مسجدوں کے لئے سرکاری سولر لائٹ لینے کا حکم

سوال: [۸۱۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حکومت کی طرف سے مسجدوں کے لئے سورج سے چارج ہونے والی لائٹیں دی گئی ہیں، کیا مسجدوں میں حکومت کی طرف سے پیش کردہ ایسی چیزوں کا استعمال جائز ہے؟

المستفتی: محمد مسلم عابدی، معصوم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم سرکاری تعاون مسجد کے لئے حاصل کرنا جائز اور درست ہے، لہذا مسجد کی روشنی کے لئے سورج سے چارج ہونے والی لائٹ کا استعمال کرنا بھی شرعاً جائز اور درست ہوگا۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة
 عندنا وعندهم . (البحر الرائق، كتاب الوقف، زكريا ۵/۳۱۶، كوئٹہ ۵/۱۸۹، مجمع
 الأنهر جديد، مكتبه فقيه الأمت ۲/۶۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۳/۲/۲۰۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۳ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
 (الف فتویٰ نمبر: رجسٹر خاص)

مسجد میں چوری کی بجلی کے استعمال کا حکم

سوال: [۸۱۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

دیہات کی اکثر مساجد میں بغیر کنکشن کے بجلی استعمال کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موٹر کے ذریعہ پانی کی ٹینکی بھی بھری جاتی ہے، اور اس پانی کا استعمال وضو اور غسل وغیرہ کے لئے کیا جاتا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے بغیر کنکشن کے مسجد میں بجلی جلا نا ممنوع ہے کیا ایسے پانی سے وضو اور غسل وغیرہ کرنا درست ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب سے آگاہ فرمائیں؟ ممنون و مشکور ہوں گا؟

المستفتی: محمد مسلم عابدی، معصوم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حکومت کی طرف سے کنکشن لگائے بغیر چوری کے کنکشن سے مسجد میں ٹینکی وغیرہ بھرنانی نفسہ یہ عمل ناجائز ہے، اور اس کا گناہ ذمہ دار مسجد پر ہوگا، مگر اس سے جو پانی حاصل کیا گیا ہے، وہ بہر حال پاک اور جائز ہے اس سے وضو غسل وغیرہ سب جائز ہے، اور اس پانی سے وضو کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، وہ سب جائز ہیں، بس ناجائز بجلی کے حاصل کرنے کے گناہ کا وبال ذمہ داروں پر ہوگا نمازیوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔

لايجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته . (شامی، الغصب ،
فیما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح ، زکریا ۹/۲۹۱، کراچی ۶/۲۰۰،
الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/۲۹۶، شرح المحجلة رستم ، اتحاد ۱/۶۱، رقم المادة: ۹۶)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۲/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۹۰۵/۴۱)

۱۸/ الفصل الثامن عشر: دوسرے کی زمین میں مسجد کی تعمیر

غیر کی زمین میں مسجد کا دروازہ کھولنا

سوال: [۸۱۱۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو بھائیوں کی آراضی مسجد کے سامنے افتادہ ہے، دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی اس میں سے ایک بھائی نے اپنا حصہ مسجد کو دیدیا مسجد والوں نے مسجد کی توسیع کیلئے تعمیر شروع کی تو یہ آراضی افتادہ جو کہ مسجد میں دیدی تھی، اس کو مسجد میں شامل کر کے دروازہ مسجد کا اس آراضی کی جانب لگا لیا جو مسجد میں نہیں دی گئی تھی، اور وہ آراضی دوسرے بھائی کے حصے میں تھی، وہ مسجد میں نہیں دینا چاہتا ہے، اس صورت میں مسجد کا دروازہ اس آراضی کی جانب لگانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالسلام، سلیم پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو شخص اپنی زمین بخوشی مسجد کو نہیں دیتا ہے، اس کی بغیر رضامندی کے اس کی زمین کی طرف مسجد کا دروازہ کھول کر اس کی زمین کو اہل مسجد کے لئے گزرگاہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی جدید زکریا مطول ۱۰/۳۳۵)

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد الفقه، اشرفی دیوبند/۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ شعبان ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۶۲/۲۵)

متنازعہ جگہ پر مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۱۱۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی کا

ایک پلاٹ آراضی فریق نمبر ایک اور فریق نمبر دوم کا خالی پڑا ہوا تھا، اسمیں آدھا حصہ فریق دویم سے مسجد کمیٹی نے خرید لیا، ابھی اس جگہ کا بوٹا رہ نہیں ہوا تھا، کمیٹی مسجد نے اس جگہ کے کچھ حصہ میں ٹین شیٹ ڈال کر نماز پڑھنی چاہی، تو فریق اول نے عذر کیا کہ اس میں آدھا حصہ ہمارا ہے، تو کمیٹی مسجد نے کہا کہ فی الحال ہم کچھ بنا نہیں رہے ہیں، بلکہ صرف ٹین ڈال کر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں؟

فریق اول نے اس شرط پر کہ بلا کسی کھدان کے مٹی سے اینٹ کی چھ فٹی دیوار پر ٹین ڈال کر نماز پڑھ لو بوٹا رہ ہونے پر آپ اپنے حصہ میں مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نیز بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے فریق اول نے مسجد کمیٹی سے کہا کہ آپ اس پلاٹ کا بوٹا کر لیں تو مسجد کمیٹی نے کہا کہ مذکورہ جگہ کے بدلے میں جتنی جگہ آپ کی ہوگی اتنی جگہ اسکے آس پاس خرید کر ہم آپ کو دیدیں گے؟

نیز کمیٹی مسجد کی نیت میں فرق آ گیا اور انھوں نے اپنا قبضہ مان کر اس خالی پڑے پورے پلاٹ کی باؤنڈری کھینچ دی؟

فریق اول نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے بلا بوٹا رہ کئے خالی پڑے پلاٹ کی باؤنڈری کیوں کھینچی، اسپر مسجد کمیٹی نے کہا کہ اب جگہ پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، (یعنی فریق نمبر ایک کے حصہ پر)

(۱) اس متنازعہ جگہ پر نماز پڑھنا یا مسجد تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) فریق اول اب اجازت نہ دے کہ جب تک اس متنازعہ جگہ کا بوٹا رہ نہ ہو جائے

اس جگہ نماز نہ پڑھی جائے، اس حالت میں اس جگہ میں نماز ہوگی یا نہیں؟

(۳) مسجد کمیٹی اپنی طاقت کے بل پر یا قابض ہونے کے بل پر فریق اول کو اپنی

مرضی کے مطابق معاوضہ دیکر مسجد تعمیر کر لے جس میں فریق اول نقصان میں بھی ہے، اور

ناراض بھی ہے کیا اس شکل میں تعمیر مسجد میں ادا کیگی نماز جائز ہے؟

المستفتی: عبدالرشید، جھنڈا چوک، کواٹ دوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ زمین کا نصف حصہ واقعی فریق اول کی ملکیت ہے تو فریق اول کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس جگہ مسجد بنانے سے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی، اس میں نماز مکروہ ہو کرے گی، اور شرعی مسجد اس وقت بن سکتی ہے کہ جب فریق اول کو اس زمین کی مناسب قیمت ادا کر کے راضی کر لیا جائے گا، یا وہ بخوشی بغیر کسی کے دباؤ کے اس جگہ مسجد بنا سکیں اجازت دیدے، اسکے بغیر مسجد بنانا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رجیمیہ قدیم ۶/۱۲۷، جدید زکریا ۹/۱۲۳)

فریق اول کے لئے بہتر یہی ہے کہ مسجد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مناسب قیمت لیکر زمین مسجد کی ملکیت میں دیدے، کیونکہ یہ ایک دینی ضرورت ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ ، دارالفکر بیروت ۸/۵۰۶ ، رقم: ۱۱۷۴۰ ، مشکوٰۃ ۱/۲۵۵)

وتحتہ فی المرقاة أى بأمر أو رضا الخ . (مرقاۃ کتاب البیوع ، باب الغصب والعاریة ، الفصل الثانی ، امدادیہ ملتان ۶/۱۱۸)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه . (قواعد الفقہ ، اشرفی دیوبند/۱۱۰)

لو غصب أرضاً فبني فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها . (الاشباه قدیم/۱۴۴)

وكذا تكره في أرض مغصوبة أو للغير لو مزرعة أو مكروبة . (در مختار کتاب الصلوٰۃ ، مطلب فی الصلوٰۃ فی الأرض المغصوبة ، کراچی ۱/۳۸۱ ، زکریا ۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ شوال ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۹)

بیوہ کی اجازت کے بغیر جبراً اس کی زمین میں مسجد تعمیر کرنا

سوال: [۸۱۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک بیوہ عورت کی زمین جو محلہ کٹکھر مراد آباد کی مسجد کے پڑوس میں ہے مسجد کے متولی اور دیگر کچھ محلہ کے لوگوں نے بغیر اجازت بیوہ کی زمین مسجد میں شامل کر لی بیوہ عورت نے ہر چند منع کیا لیکن اس کی کسی نے نہ سنی معلوم طلب یہ امر ہے کہ اس طرح بیوہ عورت کی زمین جبراً چھین کر مسجد میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو مسجد کے متولی اور ان کا ساتھ دینے والے افراد کیلئے کیا حکم ہے؟

(۲) جو نمازیں لوگوں نے اس زمین پر پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث و اقوال فقہاء کی روشنی میں مفصل جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: فاطمہ بیگم بیوہ
محبوب عرف بالے مرحوم،
محلہ کٹکھر، مراد آباد، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی بیوہ عورت کی زمین زبردستی لیکر مسجد میں داخل اور شامل کر لی گئی ہے، تو مسجد کا وہ حصہ جس میں بیوہ کی زمین آئی ہے، اس میں نماز مکروہ ہوگی، ہاں البتہ زمین کی قیمت سے عمارت کی قیمت زیادہ ہے تو بیوہ کو مکمل زمین کی قیمت ادا کر دینے سے وہ حصہ بھی شرعی مسجد کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، پھر نماز بھی مکروہ نہ ہوگی، لیکن زبردستی زمین پر قبضہ کرنے والے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، بیوہ سے معافی مانگ کر راضی کر لینا ضروری ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرى للبيهقي، قبيل باب من غصب

جاریہ فباعہا الخ، دارالفکر بیروت ۵۰۶/۸، رقم: ۱۱۷۴۰، دارقطنی، کتاب البیوع،

دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲۲/۳، رقم: ۲۸۶۱)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه،

اشرفی دیوبند/۱۱۰)

لو غصب أرضاً فبني فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر

قلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الأشباه قديم/ ۱۴۴)

وكذا تكره في أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة. (در

مختار كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة، كراچی ۳۸۱/۱،

زكريا ۴/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۳ھ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۶۸)

یتیم بچہ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنانا

سوال: [۸۱۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک یتیم

بچہ کی زمین پر اس کی بغیر اجازت کے مدرسہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: محمد عباس پوسٹ: رانی پور روڈ، جھانسی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یتیم بچہ کی زمین پر بغیر اس کی اجازت شرعیہ مدرسہ

یا مسجد بنانا ہرگز جائز نہیں، یہ شرعاً سخت ظلم ہے، اس میں امور مدرسہ انجام دینا جائز نہیں ہوگا،

جب تک کہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت شرعیہ حاصل نہ کر لی جائے، یا اسکی

پوری قیمت ادا نہ کر دی جائے، قیمت ادا کر دینے کے بعد زمین یتیم کی ملکیت سے نکل کر

مدرسہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔

ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وقفها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلک المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض الذى هو كنص الشارع فالصلوة فيها مكروهة تحريماً فى قول وغير صحيحة له فى قول آخر وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك ومن هذا القبيل حجرة اليمانيين فى الجامع الأموى الخ. (شامى، كتاب الصلوة مطلب فى الصلوة فى الأرض المغصوبة، كراچى ١/١، ٣٨١، زكريا ٢/٤٥)

قوله عليه الصلوة والسلام ألا لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، الحديث : (السنن الكبرى للبيهقى ، الغصب ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ٨/٥٠٦، رقم: ١١٧٤٠، مشكوة ١/٢٥٥)

وتحتته فى المرقاة أى بأمرٍ أو رضا الخ. (مرقاة، كتاب البيوع ، باب الغصب والعارية ، الفصل الثانى ، امداديه ملتان ٦/١١٨)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى الخ. (عالمگیری، كتاب الحدود ، فصل فى تعزير ، زكريا قديم ٢/١٦٧، البحر الرائق ، ، باب التعزير زكريا ٥/٨٦، كوئته ٥/٤١، شامى، كتاب الحدود ، مطلب فى التعزير بأخذ المال ، زكريا ٦/١٠٦، كراچى ٤/٦١)

وفى الأشباه: لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعتها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الأشباه والنظائر قديم/١٤٤) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتبه: شبیر احمد قاسمى عفا اللہ عنه

٢٥/رجب المرجب ١٤٠٩ھ

(الف فتوى نمبر: ٢٥/١٣٣٨)

مشترکہ زمین میں مسجد بنانا

سوال: [۸۱۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور عمر کی مشترکہ زمین تھی زید نے عمر کی اجازت کے بغیر مسجد کی بنیاد رکھی، بعد ازاں زید کا حصہ متعین ہو گیا، کیا زید کا جو اپنا حصہ ہے وہی مسجد ہے یا پوری آراضی جس میں عمر بھی شریک ہے اب وہ زمین زید اور عمر دونوں سے بکر کو مل گئی، بکر اس میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کیا گھر بنانا اس زمین میں جائز ہے اگر نہیں تو بکر کیا کرے؟ یا زید خود اس زمین پر جہاں مسجد کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، گھر بنانا چاہے تو صحیح ہے کہ نہیں؟

المستفتی: عبداللہ ثناری، پوسٹ: بنتھو، سنت کبیر نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مشترکہ زمین میں زید کے لئے اپنے شریک عمر کی اجازت کے بغیر مسجد کی بنیاد رکھنا جائز نہیں ہے، اور محض مسجد کے ارادہ سے بنیاد رکھ دینے کی وجہ سے شرعی طور پر مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، اور شرعی مسجد اس وقت کہلاتی ہے، کہ جب اسمیں اذان و اقامت کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ نماز ہو چکی ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے، اسلئے مذکورہ زمین میں نہ مکمل حصہ مسجد شمار ہوگا، اور نہ ہی زید کا حصہ لہذا ابھی دونوں کو اختیار ہے کہ تقسیم کے بعد یا تقسیم سے پہلے اس زمین کو جس مصرف میں چاہیں، استعمال کریں اگر دونوں نے نخوشی بکر کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، یا ہبہ کر دیا ہے، تو بکر دوکان بنائے یا مسجد بنائے سب کچھ جائز ہے۔ (امداد المفتیین / ۲۵۹، فتاویٰ محمودیہ قدیم / ۱/ ۴۸۵، جدید ڈائجیل / ۱۴ / ۳۸۷)

التسليم في المسجد أن تصلی فيه جماعة یاذنه (إلى قولها) ويشترط مع ذلك أن يكون الصلاة یاذان وإقامة جهراً لاسراً. (عالمگیری،

کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، زکریا قدیم ۲/ ۴۵۵، جدید ۲/ ۴۰۸)

والحاصل أن وقف المشاع مسجداً أو مقبرة غیر جائز مطلقاً اتفاقاً.

(البحرائق، کتاب الوقف کوئٹہ ۵/۱۹۷، زکریا ۵/۳۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ شوال المکرم ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۱۵۶/۳۷)

مشترکہ زمین میں کسی ایک وارث کا مسجد بنانا

سوال: [۸۱۴۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مشترکہ جائیداد تین بھائیوں کی ۵۴۰۰ رگز پلاٹ نمبر ۵۶۹ ہے، جس کی ابھی تک باقاعدہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، بڑے بھائی محمد نوشے مرحوم کے وارثین اسی پلاٹ کے ایک حصہ میں مسجد تعمیر کرانے کیلئے حدود متعین کر دیئے ہیں، نماز بھی شروع کرادی ہے، دوسرے دو فریق عبدالوحید عرف پیارے مرحوم اور عبدالسلام مرحوم کے وارثین مسجد پر رضامند نہیں ہیں، تو کیا شرعاً نوشے میاں کے ورثاء کا مسجد تعمیر کرنا تقسیم سے پہلے درست ہے یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

نوٹ: ایسی جگہ پر جو نماز ہو رہی ہے وہ ادا ہو جائیگی یا نہیں؟

المستفتی: علی محمد، محمد یامین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بشرط صحت سوال و بعد ادائے حقوق ما تقدم مذکورہ جائیداد تینوں وارثین کی ملکیت ہے، اور تینوں برابر کے حصہ دار ہیں، لہذا تقسیم سے قبل کسی ایک وارث یا اس کے ورثاء کو مشترکہ جائیداد کا کوئی جزء دوسرے وارثین کی اجازت کے بغیر مسجد کو دینا ہبہ کرنا وقف کرنا جائز نہیں ہے، اگر ایسا کریں گے تو انکے حصہ سے مجرئی ہو جائیگا، اور اگر ان کے حصہ کی مقدار سے زائد ہے تو زائد میں وقف، ہبہ، بیع وغیرہ نافذ نہ ہوگی، دوسرے ورثاء کو زائد حصہ واپس لینے کا حق ہوگا، اور اگر زائد ہو بایں طور کہ نوشے مرحوم کے ورثاء کے حصہ سے مسجد کی زمین مجرئی اور منہا ہو جائے گی، تو دوسرے ورثاء کو اپنا حق پورا مل جائے گا، تو

اس مسجد میں نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، بہر حال عبد الوحید اور عبد السلام کے وارثین کے حصہ میں سے کسی جزء کو ان کی اجازت کے بغیر مسجد میں شامل کرنا جائز نہ ہوگا، اگر کریں گے تو اس میں اس وقت تک نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جب تک ان کا حق ادا نہ ہوگا۔

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه،

اشرفی دیوبند/۱۱۰)

والحاصل أن وقف المشاع مسجداً أو مقبرة غير جائز مطلقاً اتفاقاً.

(البحر الرائق، کتاب الوقف کوئٹہ ۱۹۷/۵، زکریا ۵/۳۲۹)

وكذا تركه في أرض مغبوبة أو للغير لو مزرعة أو مكروبة .

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی الصلوٰۃ فی الأرض المغبوبة، کراچی ۱/۳۸۱،

زکریا ۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۰۰۲/۳۲)

مغصوبہ زمین میں نماز اور مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۸۱۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ:

ایک مسجد مغصوبہ زمین میں مکمل بنائی گئی ہے، اس میں نماز بھی ہونے لگی، پھر کسی نے کہا کہ یہ تو مغصوبہ زمین میں بنائی گئی ہے، اس میں نماز بھی نہ ہوگی، لہذا دوسری جگہ خرید کر مسجد بنائی جائے، اس فیصلہ کے مطابق مسجد کی نیت سے زمین خرید کر مسجد کیلئے وقف کر دی گئی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا، ابھی بنیاد ہی رکھی گئی تھی، کہ کسی عالم نے مشورہ دیا کہ پہلی مسجد بیکار ہو جائیگی آپ لوگ ایسا کریں اس مغصوبہ زمین کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دیں، اور اسکو مسجد باقی رکھیں۔

الف: دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو دوسری جگہ جو مسجد کی نیت سے

خرید کر وقف کر دی گئی، اور اس کی بنیاد بھی رکھی جا چکی آیا وہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کو گھریا کسی اور کام میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا یونہی پڑی رہنے دی جائے؟
 ب: اگر اجازت نہ ملے تو مغصوبہ زمین میں ادا کردہ نمازیں مصلین سے ساقط ہوں گی یا نہیں؟

ج: اور وقف کردہ زمین کو منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد فرقان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: الف: واقف نے چونکہ مسجد ہی کیلئے زمین دی ہے اور بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے، لہذا اب اس مؤقف زمین میں مسجد ہی تعمیر کرنا لازم ہے، لیکن شرعی مسجد کا حکم اس وقت جاری ہوگا، جب تکمیل عمارت کے بعد نماز شروع کر دی جائے۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۱/۲۹۸، جدید ڈائجیل ۱۲/۳۸۸)

شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة والعمل
 به . (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی قولہم شرط الواقف كنص الشارع، کراچی
 ۴/۳۳، زکریا ۶/۶۴۹)

إذا بنى مسجداً وأذن للناس بالصلوة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً.
 (تاتار خانیا، زکریا ۸/۱۵۶، رقم: ۱۱۴۹۴، منحة الخالق على البحار الرائق، فصل فی
 أحكام المسجد، کوئٹہ ۵/۲۴۸، زکریا ۵/۴۱۶)

ب: جو نمازیں مغصوبہ زمین پر پڑھی گئی ہیں، وہ کراہت کیساتھ ادا ہو گئیں اور اجازت کے بعد کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱/۴۶، جدید زکریا ۱۰/۳۳۶)

كذاتكره فى أرض مغصوبة أو للغير . (در مختار) إلا إذا
 كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس الخ . (شامی، کتاب
 الصلوة، مطلب فى الصلوة فى الأرض المغصوبة، کراچی ۱/۴۸۱، زکریا ۲/۴۴)

ج: جب وقف مکمل اور تمام ہو گیا، تو اب اس کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔
(مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۲/۲۸، جدید ڈائجسٹ ۱۲/۲۸۴)

فیذا تم ولزم لایملک ولا یعار ولا یرهن. (درمختار کتاب الوقف، کراچی
۳۵۱/۴، ۳۵۲، زکریا ۶/۵۳۹، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۶۰/۶۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۹۴/۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۵/۲۹ھ

خانقاہ کی جگہ پر مسجد بنانا

سوال: [۸۱۲۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد بڑھ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے اس بڑھ والی مسجد کو آج سے برسوں پہلے ایک بزرگ حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، انھوں نے ہی تعمیر کرائی تھی، مسجد کے بالکل برابر میں کافی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس میں ایک خانقاہ بھی تھی، جو اسی بزرگ نے بنوائی تھی، اس کے بعد وہ بزرگ پھر حیدرآباد واپس تشریف لے گئے، پھر مسجد دوبارہ شہید کر کے تعمیر کرا دی گئی مسجد کی صورت حال یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد کی جگہ نا کافی معلوم ہوتی ہے اس لئے لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ کو مسجد میں ملا لیا جائے، ساری جگہ کو مسجد ہی کر لیں، اس پر کچھ معترض حضرات کو اعتراض ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، اس جگہ پر خانقاہ ہی بن جانا چاہئے، کیونکہ خانقاہ کی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ اس جگہ کو مسجد بڑھانے کیلئے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز اس جگہ کو مسجد بنایا جاسکتا ہے یا نہیں اس جگہ پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: گولڈن الیکٹرک اسٹور، آزادنگر، امرودھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب خانقاہ میں تبع شریعت کوئی بزرگ بیٹھ کر تبلیغ

و دعوت اور ہدایت کا کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ کسی خاص شخص کی ملکیت بھی نہیں ہے، تو علاقہ کے ذمہ دار لوگ مل کر اس جگہ پر مسجد بنالیں تو اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، وہ شرعی مسجد ہو جائیگی اس میں نماز بلا کراہت جائز اور درست ہو جائیگی، کیونکہ افتادہ زمین کے حکم میں ہے، اور افتادہ زمین میں اہل محلہ مل کر مسجد بنا سکتے ہیں، نیز اگر مذکورہ جگہ خانقاہ کیلئے وقف کی گئی تھی، اور اب خانقاہ نہیں چل رہی ہے، تب بھی مسجد بنائی جاسکتی ہے، جیسا کہ افتادہ قبرستان میں بھی اس طرح مسجد بنانے کی اجازت ہے۔

ولو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنی قوم علیها مسجداً لم أر
بذلك بأساً الخ. (عمدة القاری شرح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب هل تبش قبور
مشرکي الجاهلیة، دار احیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹، زکریا ۳/ ۳۵، فتح الملہم، کتاب
المساجد اشرفیہ دیوبند ۲/ ۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/ ۵۴۷۷)

موروثی زمین میں مسجد کی ملکیت کا دعویٰ کرنا

سوال: [۸۱۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے دادا نے اب سے تقریباً سو سال پیشتر ایک عمارت بنائی تھی جو کہ وراثتاً مجھ تک پہنچی جس پر میں قابض ہوں، جو کہ جامع مسجد محلہ دربار سرائے ترین کے باہر والے چبوترہ کی حدود میں آتی ہے، جس کو کچھ لوگ مسجد کی کہہ رہے ہیں، میں اس عمارت کو منہدم کر کر دوبارہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں، وہ لوگ مجھے تعمیر سے روکنے کیلئے پولیس کا سہارا لے رہے ہیں، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ میں از روئے شریعت اس کا مالک ہوں یا نہیں؟ جواب مع حوالہ و ترجمہ اردو میں کر کے عنایت فرمائیں، کرم ہوگا؟

المستفتی: حاجی محمد ادریس خاں، دربار سرائے ترین، سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی جائیداد کسی شخص کے قبضہ میں چلی آ رہی ہو اور اس میں کسی نے اپنی ملکیت یا حق کا دعویٰ نہ کیا ہو، اور اسی حالت میں ۳۰-۴۰ سال کا عرصہ گزر جائے پھر اس کے بعد کوئی اسمیں اپنے حق کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور وہ جائیداد جس کے قبضہ میں چلی آ رہی تھی، اسی کی ملکیت مانی جاتی ہے، لہذا سو سال گزر جانے کے بعد محلہ کے لوگوں کا مسجد کا حق اس میں ہونے کا دعویٰ شرعاً جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی مسجد کیلئے اس زمین کو استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے، نیز اسمیں مذکورہ مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں ہوگا، وہ شرعی مسجد نہیں بنے گی۔

إن الدعویٰ بعد مضي ثلاثین سنة أو ثلاث وثلاثین لا تسمع إذا كان التبرک بلا عذر الخ. (شامی، کتاب الدعویٰ، باب التحالف، مطلب لا تسمع الدعویٰ بعد مضي ثلاثین سنة الخ (کراچی ۹۷/۸، زکریا ۶۵/۱۱)، کتاب الخنثیٰ کراچی ۷۴۱/۶، زکریا ۶۸/۱۰، کتاب القضاء، مطلب إذا ترک الدعویٰ ثلاثاً وثلاثین سنة لا تسمع کراچی ۴۲۲/۵، زکریا ۱۱۷/۸، البحر الرائق، کتاب الدعویٰ، فصل فی دفع الدعویٰ کوئٹہ ۲۲۸/۷، زکریا ۳۸۶/۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ر شوال ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۴۳/۳۴)

دوسرے کی زمین میں بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم

سوال: [۸۱۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ریاست رامپور کے زمانہ میں ٹائڈہ بادلی میں علی بہادر خان تھانہ کے انچارج تھے، تھانے دار سے میرا بگاڑ ہو گیا میں نے داروغہ جی کی شکایت افسران بالا سے کر دی جس کی وجہ سے داروغہ جی نے مجھے کئی ناجائز مقدموں میں ملوث کر دیا اور حالات یہاں تک خراب

ہوئے کہ میری زندگی تنگ و تاریک کر دی، جو لڑکا منور علی اس وقت مسجد کا متولی ہے اس کا پر دادا حاجی پتن اس وقت سربراہ کار تھے، وہ بھی مجھ سے رنجش رکھتے تھے، جس کی وجہ سے تھانہ اور تحصیل کا عملہ میرے سخت خلاف تھا میں نے کبھی بھی ان کے دباؤ میں آ کر ان سے خوشامداندہ بات نہیں کی بلکہ خودداری کے تحت میں یہاں کی زندگی سے تنگ آ کر ٹائڈہ چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ داروغہ نے میرا سیٹ کھول دیا تھا، میری رہائشی وکاشت کی جو آمدنی اسکو تحصیل کے عملہ کی مدد سے منشی محمد سمیع جو تحصیل میں وٹا نوق نولیش، اور مسجد کے متولی تھے، میری آراضی پر غاصبانہ قبضہ کر کے کاغذات سرکاری میں مسجد تحصیل والی متولی محمد سمیع کے نام سے اندراج کر دیا اور عرف عام میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ زمین مسجد کیلئے وقف ہوگئی ہے حالانکہ میں نے کبھی بھی اپنی زمین مسجد کو وقف نہیں کی ہے، آج جب میں اپنی جائیداد کا مطالبہ متولی و دیگر ذمہ داران مسجد و محلہ سے کرتا ہوں تو کہتے ہیں، کہ یہ آراضی وقف شدہ ہے، اور مسجد کی ملکیت ہے بشرع شریف یہ بتلایا جائے کہ یہ آراضی بنا میری مرضی و رضامندی کے مسجد کی ملکیت ہو سکتی ہے، کیا اسکی آمدنی مسجد کے مصارف میں لگائی جاسکتی ہے؟

المستفتی: محمد شاہد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ نے مسجد کی ملکیت کیلئے کسی طرح اجازت نہیں دی ہے، تو وہ آراضی شرعی طور پر مسجد کی ملکیت میں صحیح اور شرعی طریقہ سے داخل نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کی زمین ہے، آپ قانونی چارہ جوئی کر کے اپنا حق حاصل کرنے کے مجاز ہیں، اگر مسجد کے ذمہ داران آپ کو مسجد کی طرف سے مذکورہ آراضی کی قیمت ادا کریں گے، تو شرعی طور پر مسجد اس آراضی کی باقاعدہ مالک ہو جائیگی ورنہ وہ آراضی غصب کی ہو جائیگی، ان میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا، اس کی آمدنی مسجد کیلئے جائز نہ ہوگی۔

عن أبي حرة الرقاشی ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال

امری مسلم إلا بطیب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ ، دارالفکر بیروت ۸/۵۰۶ ، رقم: ۱۱۷۴۰ ، دارقطنی ، کتاب البيوع ، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۲۲ ، رقم: ۲۸۶۱)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ . (قواعد الفقه، اشرفی دیوبند/۱۱۰)

و کذا تکره فی أرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مکروبة .

(درمختار ، کتاب الصلوة ، مطلب فی الصلوة فی الأرض المغصوبة ، کراچی ۱/۳۸۱ ، زکریا ۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۱۲/۲۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/رمزی الحج ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۳۵/۳۱)

دوسرے کی زمین میں جبراً بلا اجازت تعمیر مسجد کا حکم

سوال: [۸۱۲۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری ملکیت کی زمین میں میری بغیر اجازت کے مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور مجھ سے جبراً مسجد کیلئے زمین وقف کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا ہے، اب اس صورت میں میری ملکیت کی زمین میں بغیر اجازت مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے، اب اس صورت میں کچھ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، خدا اور رسول اللہ کا واسطہ دیکر مجبور کر رہے ہیں، اور مجھے غربت میں اتنی وسعت نہیں ہے، کہ بغیر قیمت معاف کر دوں تو ایسی صورت میں انکا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا!
المستفتی: محمد رفیق عالم اشرفی، ساکن بروارہ خاص، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مالک کی بغیر مرضی کے اسکی زمین میں مسجد

بنانے سے شرعی مسجد نہیں ہوتی ہے، اسمیں مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے، نماز اس میں غیر مقبول اور مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔

ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض المرجة التي وفقها السلطان نورالدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة فتلك المدرسة حولت في بنائها شرط وقف الأرض الذي هو كنص الشارع فالصلوة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة له في قول آخر. (شامی، کتاب الصلوة، مطلب فی الصلوة فی الأرض المغصوبة، كوئته ۲۸۱/۱، كراچی ۳۸۱/۱، زكريا ۴۵/۲)

(وقوله) قال تاج الشريعة أما لو أنفق من ذلك مالاً خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله الخ. (شامی، کتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة الخ، قبيل مطلب فی أفضل المساجد كوئته ۴۸۷/۱، كراچی ۶۸۵/۱، زكريا ۴۳۱/۲)

البتہ اگر مالک کو زمین کی قیمت لینے پر راضی کر لیا جائے، اور پوری قیمت اس زمین کی ادا کر دی جائے، تو مسجد شرعی ہو جائے گی، ادائیگی قیمت سے قبل اس زمین میں نماز مکروہ تحریمی ہی ہوا کریگی۔

الضرر يزال ومنها لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر فقلعها وردت وإلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه والنظائر، قديم/۱۴۴) نیز مالک اگر بلا قیمت ادا کئے نہ دے تو وہ گنہگار نہ ہوگا، اسکو ہر وقت حق ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۲۱۲۳)

بلا اجازت دوسرے کی زمین میں تعمیر مسجد

سوال: [۸۱۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے وہ پہلے غلطی سے کسی کی زمین میں بنا دی گئی تھی اب اس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ اس کی قیمت لے لیں یا زمین کے بدلے زمین لے لیں، لیکن وہ آدمی کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، اور ہر وقت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیا اس صورت میں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل آئے گا؟ اور اب اس مسجد کو کیا کیا جائے گا؟

المستفتی: محمد انوار الحق قاسمی،

گوندی پہاڑی، جامتاڑا، جھارکھنڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسی کی زمین اس کی اجازت کے بغیر مسجد بنانے سے مسجد شرعی نہیں بنتی اور جب تک مالک راضی ہو کر نماز کی اجازت نہ دے دے، اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا سوالنامہ میں ذکر کردہ صورت میں مالک کی عدم رضا کی وجہ سے اسکی زمین میں بنائی ہوئی مسجد مسجد شرعی نہیں ہے، اور اس میں نماز پڑھنے سے نماز اس وقت تک مکروہ تحریمی ہوگی، جب تک اسکی قیمت اسے نہ دیدی جائے۔ (مستفاد: امدالاً حکام ۲/۶۱، محمودیہ قدیم ۶/۲۱۶، جدید ڈائجسٹ ۱۵/۱۷۱)

وتكره في أرض الغير بلا رضاه وإذا ابتلى بالصلوة في أرض الغير وليست مزرعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها، وإن كانت لكافر صلى في الطريق. (مراقی الفلاح مع حاشية الطحطاوی، فصل فی المكروهات قدیم ۱۹۷/، جدید، دارالکتاب دیوبند/۳۵۸)

وكذا تکره فی أرض مغصوبة أو للغير لو مزرعة أو مكروبة.

(درمختار مع الشامی، الصلوة، مطلب فی الصلوة فی الأرض المغصوبة کراچی ۱/۳۸۱،

زکریا ۲/۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ ربیع الاول ۱۴۲۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۹۶۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/۳/۱۴۲۴ھ

مالک کی رضا مندی کے بغیر زمین مسجد میں شامل کرنا

سوال: [۸۱۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک جائیداد میں پانچ بھائی شریک ہیں، اس جگہ کو تین بھائی بیچنا چاہتے ہیں، اور مسجد کے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، اور دو بھائی بیچنے پر رضا مند نہیں ہیں، تو جو بھائی راضی نہیں ہیں، ان کی بھی زمین کو بغیر مرضی کے زبردستی بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور مسجد کے لوگوں کیلئے ایسی زمین کو خریدنا کیسا ہے؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

المستفتی: بنے شاہ، انحد ادپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو حصہ دار اپنا حق فروخت کرنے سے راضی نہیں ہیں، ان کے حصہ کو ان کی مرضی کے بغیر مسجد کیلئے لے لینا ہرگز جائز نہیں ہے، پہلے ان کی مرضی لازم ہے، لہذا جو تین بھائی بیچنا چاہتے ہیں، ان کے حصہ میں عقد بیع نافذ ہو جائیگی، اور جو دو بھائی راضی نہیں ہیں، ان کے حصہ کی خریداری جائز نہ ہوگی، اور زبردستی ان کی زمین لیکر مسجد میں شامل کرنا ہرگز جائز نہ ہوگا۔

عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ ، دار الفكر بيروت ۸/۵۰۶ ، رقم: ۱۱۷۴۰ ، دارقطنی ، کتاب البيوع ، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۲۲ ، رقم: ۲۸۶۱)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي الخ . (قواعد الفقه ، اشرفی دیوبند/ ۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۷۱/۳۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۲/۱۰ھ

غیر کی زمین کو مسجد کیلئے وقف کرنا

سوال: [۸۱۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پیر بخش کے پانچ لڑکے عبدالرحمن، کالے، عبدالرحیم، چھوٹے، مناہیں، یہ سب سید سرتاج حسین کی ایک زمین کو سید سرتاج حسین کی اجازت سے تصرف کرتے رہے ہیں، ۲۶ رسال کے بعد جبکہ مذکورہ پانچوں بھائی اپنے اپنے حساب و کتاب کھانا پینا وغیرہ الگ الگ کر لئے تھے، عبدالرحمن نے مذکورہ زمین کو مالک سرتاج حسین سے اپنی کمائی سے اپنے نام دس ہزار روپے میں خرید کر اپنے نام بیعنا بھی کر لیا تھا، پھر تقریباً ایک سال کے بعد عبدالرحیم نے عبدالرحمن کی اجازت کے بغیر پانچواں حصہ مسجد میں وقف کر دیا ہے، جبکہ عبدالرحمن ہرگز راضی نہیں ہے، تو کیا عبدالرحمن مالک کی اجازت کے بغیر عبدالرحیم نے جو وقف کیا ہے، شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ اور عبدالرحمن کو اپنی زمین کو مسجد کو اپنے سے روکنے اور مخالفت کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ نیز مسجد والوں نے عبدالرحمن کے خلاف دعویٰ بھی کر رکھا ہے کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟

المستفتی: عبدالرحمن، محلہ لال مسجد، امر وہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوالنامہ کا درج شدہ واقعہ صحیح ہے، تو عبدالرحمن کی اجازت کے بغیر عبدالرحیم نے جس حصہ کو وقف کیا ہے، اس کا وقف شرعاً صحیح نہیں ہوا ہے، اور نہ مسجد کا حق اسمیں ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اس زمین کا مالک شرعاً عبدالرحمن ہی ہے اسکی زمین پر قبضہ کرنے کیلئے دعویٰ دائر کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہوگا۔

الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف الخ. (البحر الرائق، کتاب

الوقف کوئٹہ ۵/۱۸۸، زکریا ۵/۳۱۴، مجمع الأنهر قدیم ۱/۷۳۰، جدید دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۷/۵۶۷، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۳۵۳، جدید ۲/۳۴۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۱۶/۲۳)

دوسرے کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا

سوال: [۸۱۳۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سرکاری زمین ہے جس پر بہت سے لوگوں کے مکانات و گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ایک شخص نے اسی سرکاری زمین میں چھپر ڈال رکھا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بھی کنواں نہیں تھا، بستی کے مسلمانوں نے کنواں بنانے کیلئے اس شخص سے جگہ مانگی اس جگہ میں اس شخص کی رضامندی سے کنواں بنوایا گیا وہ کنواں کچھ مدت کے بعد خراب ہو گیا، اب گاؤں کے کچھ افراد اس جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنوانا چاہتے ہیں، اس کے وارثین اب اس جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنوانے پر رضامند نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہونے پر معاملہ تھانہ تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ زمین کے وارث کی بیوی نے تھانہ میں رپورٹ درج کرادی کیونکہ اس عورت کا شوہر اس وقت یہاں موجود نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہے اب اس زمین پر پولیس نے کام رکوا دیا ہے، اب بیرونی کچھ پنچوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کو سات ہزار روپیہ دیکر مسجد کی دوکانیں بنوادی جائیں اس عورت نے سات ہزار روپیہ وصول کر کے فیصلہ پر انگوٹھا بھی لگا دیا اس فیصلہ کے تین دن بعد اس عورت نے تھانہ میں جا کر یہ رپورٹ کی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کہ کس معاملہ کے تحت میرا انگوٹھا لگایا جا رہا ہے، اب وہ عورت زمین لینے کیلئے اس فیصلہ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، اس جھگڑے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بیرونی پنچ اکٹھا ہوئے گاؤں کی دونوں پارٹیوں کے پانچ پانچ افراد بلوائے گئے، ان کے بیان سنکر یہ فیصلہ طے پایا گیا کہ اس جھگڑے کا استفتاء بھیج

کرمفتیان کرام سے جواب منگوا یا جائے۔

نوٹ: اس عورت کے پاس زمین کے سرکاری کاغذات موجود ہیں، تو اس جگہ میں مسجد کی دوکانیں بنانا جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: سخاوت حسین، سابق:
ایم ایل اے، شریف نگر مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے، کہ بچوں کے دباؤ میں اس کو سات ہزار لینا پڑا نیز جس کاغذ پر انگوٹھا لگوایا گیا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنایا نہیں گیا، نیز اس زمین کا اصل مالک اس کا شوہر ہوگا، تو ایسی صورت میں سات ہزار روپیہ میں اس زمین کی فروختگی درست نہ ہوگی، نیز مدعیوں کے پاس سرکاری کاغذات موجود ہونے کا مطلب یہی ہے، کہ دعویٰ کر نیوالے اس زمین کے حقیقی مالکان ہیں اسلئے مالکان سے باضابطہ خریدنے اور ان کے ایثار کے بغیر اس زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا شرعی طور پر جائز نہ ہوگا، اور سوالنامہ کی صورت حال سے واضح ہوتا ہے، کہ مالکان اس زمین کو دینا نہیں چاہتے ہیں، یا باضابطہ پوری قیمت میں دینا چاہتے ہیں، لہذا ان کی رضامندی سے پوری قیمت ادا کئے بغیر اس زمین میں مسجد کیلئے بھی دوکانیں بنانا جائز نہ ہوگا۔

عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ، دارالفكر بيروت ۸/۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰، دارقطنی، کتاب البيوع،

دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۲۲، رقم: ۲۸۶۱)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي الخ . (قواعد الفقه، اشرفی دیوبند/۱۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۲۷۷/۳۳)

غیر کی زمین میں مسجد کی دوکانیں بنانا

سوال: [۸۱۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے گاؤں کے چوراہے پر ۳ رتیموں اور ان کے دو حقیقی چچا کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اسی زمین سے متصل دوسری زمین بھی ہے، جو کہ جامع مسجد کی وقف کی زمین ہے، جس کا کل رقبہ ۶۸/۱۸ سٹھ ڈسمل ہے، ایک ڈسمل ۲۳۵/۴ چار سو پینتیس مربع فٹ ہوتا ہے، حافظ ریاض احمد خان جامع مسجد کے حال میں امام بھی ہیں، اور متولی بھی ہیں، حافظ ریاض احمد نے مسجد کی وقف کی ہوئی زمین پر مسجد کے لئے دوکانیں بنوانی شروع کیں، بغل کی زمین کے مالک نے حافظ ریاض سے کہا کہ آپ مسجد کی زمین کو پہلے سرکاری اعتبار سے ناپ کرائیں، تاکہ بعد میں کوئی تنازعہ کھڑا نہ ہو، حافظ ریاض احمد خان نے اس کی بات نہیں مانی، اور اندازے سے دوکانیں تعمیر کرا دیں، جب بغل والے کوشک وشبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یا تو میری زمین کم ہو سکتی ہے یا مسجد کی زمین کم ہو سکتی ہے، بعد میں تنازع زیادہ ہو جائیگا، اس سے بہتر ہے کہ ابھی زمین کو سرکاری محکمہ کے تحت ناپ کرا کر معاملہ کو حل کر لیا جائے، اب بغل والے نے لیکھ پال اور قانون گو کو بلوا کر اپنی اور مسجد کی وقف شدہ زمین کی سرکاری پیمائش کروائی، جس میں واضح ہو گیا کہ بغل والے کی ۱۲/۱۲ ڈسمل زمین مسجد کی وقف کی زمین میں شامل ہو کر مسجد کی دوکانیں تعمیر ہوئی ہیں، اب حافظ ریاض خان سے بغل والا یعنی مالک زمین نے اپنی ۱۲/۱۲ ڈسمل زمین کا مطالبہ کرتا ہے یا اس زمین کا معاوضہ مانگتا ہے، تو حافظ ریاض خان زمین دینے سے انکار کرتے ہیں، اور معاوضہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، کیا اب اس امام یعنی حافظ ریاض احمد کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ اور دوکانوں کے کرایہ سے امام، مؤذن اور خادین کی تنخواہ لینا دینا جائز ہے

کہ نہیں؟ حافظ ریاض احمد خان اگر زمین واپس نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں ان کا کیا مواخذہ ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل اور مدلل جواب مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: افتخار احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامہ میں ذکر کردہ صورت حال اگر واقعی

اور درست ہے تو متولی مسجد حافظ ریاض احمد خان صاحب کو چاہئے کہ اپنے اطمینان کے لئے قابل اعتماد اور بھروسہ مند پیمائش کاروں سے اپنے طور پر زمینوں کی دوبارہ پیمائش کرائیں اگر بغل والوں کے ذریعہ کرائی گئی پیمائش صحیح نکلتی ہے تو ان کی بارہ ڈسمل زمین جسے مسجد کی زمین میں شامل کر کے اس پر دوکانیں تعمیر کی گئی ہیں، وہ انہیں کی ملکیت ہیں، اور ان کو یہ حق حاصل ہے، کہ متولی اور ذمہ داران مسجد سے اپنی زمین کی قیمت کا مطالبہ کریں، اگر وہ قیمت نہ دے سکیں، تو عمارت کی قیمت مسجد کو دیکر کے پوری عمارت جو ان کی زمین پر تعمیر ہے مع زمین اپنے قبضہ میں لے لیں یہ درمیانی اور صلح کی صورت ہے، ورنہ شرعی طور پر انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی زمین پر تعمیر شدہ عمارت کو مسمار کر کے اس کا ملبہ مسجد والوں کے حوالہ کر کے اپنی زمین اپنی ملکیت میں لے لیں، نیز اہل محلہ اور جامع مسجد کی کمیٹی اور ذمہ داران کے ذمہ لازم ہے، کہ ایسے ضدی اور خائن متولی کو برطرف کر دیں جس کی وجہ سے مسجد کی طرف سے دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ عمل میں آیا ہے، اس جواب کے بعد امام اور مؤذن کی تنخواہ پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام اور مؤذن کی تنخواہ متولی اور کمیٹی پر لازم ہے وہ کسی سے بھی لاکر پیش کر دیں، ان کی تنخواہ ان کے لئے حلال ہے، لیکن اراکین کمیٹی اور متولی مسجد پر بہر صورت یہ بات لازم ہے، کہ وہ شرعاً جواز کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کی تنخواہوں کی فراہمی کریں۔

قال رسول الله ﷺ: من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه

یوم القيمة سبع أرضین الخ . (مسلم شریف، کتاب المساقاة والمزارعة، باب تحریم الظلم، وغصب الأرض وغيرها، النسخة الهندية ۳۲/۲، بیت الافکار رقم: ۱۶۱۰، مسند احمد ۴۳۲/۲، رقم: ۹۵۷۹، مشکوٰۃ/۲۵۵)

قوله تعالى: 'وَالصَّالِحِ خَيْرٌ' لفظ عام يقتضى أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . (فتح القدير للشوكاني ۵۲۱/۱)
لا يجوز التصرف فى مال غيره بغير إذنه ولا ولايته . (الاشباه كتاب الغصب كراچى ۹۸/۲)

ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها . (هدايه مع الفتح، كتاب الغصب، فصل فيما يتغير بعمل الغاصب كوئته ۲۶۹/۸، زكريا ۳۴۸/۹)

وينزع وجوباً لو غير مأمون أو ظهروه فسق كشرب خمر ونحوه - قال - الشامى: قال فى البحر: واستفيد منه أن للقاضى عزل المتولى الخائن . (شامى، كتاب الوقف، مطلب: يأتى بتولية الخائن، كراچى ۳۸۰/۴، زكريا ۵۷۸/۶)

غالب مال المهدي إن حلالاً لا بأس بقبول هديته وأكل ماله . (بزازيه، كتاب الكراهية، الفصل الرابع فى الهدية والميراث، جديد زكريا ۲۰۳/۳، و على هامش الهندية زكريا ۳۶۰/۴) فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ ربيع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتوى نمبر: ۳۸/۹۹۴۷)

غاصب سے مسجد کیلئے زمین خریدنا

سوال: [۸۱۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک زمین ہے جس کا مالک زید ہے، خالد کے پاس کافی دنوں سے کرایہ پر تھی، زید اور خالد کے درمیان کافی مقدمہ چلا عدالت نے خالد کو زمین کا مالک قرار دیا جبکہ اہل محلہ و قرب و جوار کے لوگ یہ کہتے ہیں، کہ زمین زید کی ہے لیکن مقدمہ کے ذریعہ خالد مالک بن گیا تو آپ تحریر کریں کہ اگر اس زمین کو خالد سے مسجد تعمیر کرنے کیلئے خریدا جائے تو اس زمین پر مسجد کا تعمیر کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جبکہ خالد حقیقہً اس زمین کا مالک نہیں ہے، بلکہ زید ہے خالد تو جھوٹے مقدمہ کے ذریعہ مالک بنا ہے؟

المستفتی: محمد تسلیم راہینی، بازار کلاں، قصبہ منڈوار، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر وہ واقعی زید کی ہے اور جھوٹے مقدمہ کے ذریعہ سے خالد نے حاصل کیا ہے، تو زید کی اجازت کے بغیر اس زمین میں مسجد بنانا ممنوع ہوگا، کیونکہ غصب کی زمین ہے خالد کیلئے اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، قبيل باب من غصب جارية فباعها الخ ، دارالفكر بيروت ۸/ ۵۰۶ ، رقم: ۱۱۷۴۰ ، دارقطنی ، کتاب البيوع ، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۲۲ ، رقم: ۲۸۶۱)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي الخ . (قواعد الفقه ، اشرفی دیوبند/ ۱۱۰) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۲۹/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ شوال ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۰۱۰۳۳)

۱۹/ الفصل التاسع عشر: مسجد میں چندہ کا بیان موجود مسجد کو چندہ نہ دیکر دوسری مسجد کو دینے کا حکم

سوال: [۸۱۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں مسجد میں اتنا روپیہ دوں گا، اگر اس آدمی نے مذکورہ مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں اس روپیہ کو دیدیا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: سعید الرحمن، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگرچہ دوسری مسجد میں دینا بھی جائز ہے البتہ پہلی مسجد جس کیلئے وعدہ کر رکھا تھا اس کو دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۵۱۴، جدید میرٹھ ۲۲/۲۸۵، ۲۸۶، جدید ڈابھیل ۱۵/۳۱۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (المائدہ: ۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶/۲۱۷۰)

ذمہ داران مسجد کی بدعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس لیکر دوسری مسجد میں دینا

سوال: [۸۱۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں ایک قدیم مسجد کی تعمیر جدید کیلئے چندہ ہوا لیکن تعمیر کے وقت ایک محلہ کے لوگوں کا امام صاحب کے متعلق اختلاف ہوا چونکہ مسجد کی جگہ میں اپنے ذاتی مکان کا دروازہ نکال لیا ہے، لہذا وہ امامت کے قابل نہیں، دوسرے محلہ والوں نے امام صاحب سے دروازہ

نکلنے کو منع کیا لیکن امام صاحب نہیں مانے اس پر محلّہ والوں نے کہا ہمارا چندہ ہمیں واپس کر دو ہم اپنی مسجد علیحدہ بنائیں گے، امام صاحب نے واپس کر دیا، اور دوسرے فریق نے دوسری مسجد بنائی، دریافت طلب امر یہ ہے کہ جدید مسجد کی تعمیر میں جو واپس کیا ہوا چندہ لگا ہے وہ صحیح و درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو واپسی کی کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: عبدالسلام، موضع ملک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے ذمہ دار کی بدعنوانی کی وجہ سے چندہ واپس لیکر دوسری مسجد میں لگانا چندہ دہندگان کیلئے جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۵۹۵)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ محرم ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۳۲۳۱)

مسجد میں دی ہوئی رقم واپس لینا

سوال: [۸۱۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے عمر کو کچھ روپے دئے اور عمر مسجد کا متولی ہے، زید نے جو روپے دئے تھے عمر کو تو وہ روپے مسجد میں صرف کرنے کیلئے دئے تھے، زید نے وقت میں کوئی قید نہیں لگائی تھی، عمر نے زید کے روپیوں کو زید کے حکم کے مطابق خرچ کر دیا صرف کرنے کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اب زید کہہ رہا ہے کہ میرے روپے واپس کر دو تو اب زید کو ثواب ملے گا یا نہیں؟

المستفتی: انیس الرحمن، کٹھاری،

مستعلم، مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد میں دیا ہوا روپیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ (مستفاد:

کفایۃ المفتی ۷/۲۳۵، جدید مطول ۹/۳۵۹)

اور واپسی کا مطالبہ ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى،

الآية: (سورہ بقرہ: ۳)

أى لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافع الذى

ينفق ماله رياء الناس الخ. (تفسیر مدارک ۱/۱۹۴، تفسیر خازن قدیم ۱/۱۹۴،

معارف القرآن ۳۰/۳۱، ۳/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۳۲۴)

چندہ دیتے وقت پچاس کانوٹ دیکر چالیس روپیہ واپس لینا

سوال: [۸۱۳۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد

میں چندہ دیتے ہوئے کسی نے پچاس کانوٹ دیا، اور اسکو صرف دس روپے دینا تھا، اس لئے

چالیس روپیہ واپس لینا ہے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بیع تو نہیں؟

المستفتی: مولانا ظہیر احمد مفتی جامع العلوم، کانپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رائج شدہ نوٹ اگرچہ ثمن حقیقی نہیں ہے، لیکن وہ

ثمن عرفی ہے، اور اس کے لین دین کا مدار بھی عرف عام ہی پر ہوگا، اور عرف میں دس

روپے کی غرض سے پچاس کانوٹ دیکر چالیس واپس لینے کو دس ہی دینا سمجھا جاتا ہے، نہ کہ

پچاس دیکر چالیس لینا اسلئے یہ نہ مبادلۃ المال بالمال ہے اور نہ ہی عقد صرف ہے، بلکہ تبرع

مخض ہے، جو بلاشبہ جائز ہے۔

والعرف فی الشرع له اعتبار: لذا علیہ الحکم قد یدار. (شامی، کتاب

النکاح، باب المہر مطلب فی السفر بالزوجة زکریا ۴/۲۹۵، کراچی ۳/۱۴۷، مطلب فی

الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد وقبله زكراً ۷/۲۸۷، کراچی ۵/۸۸)

واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقال تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة الخ.

(عقود رسم المفتی قدیم / ۹۵، الاشباہ والنظائر قدیم / ۱۵۰)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص . (قواعد الفقه، اشرفی / ۷۴، رقم: ۱۰۰)

فقط ولله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۳/۷۳)

مسجد کی صفائی اور تعاون کا عہد کر کے مکر نے کا حکم

سوال: [۸۱۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) کچھ اہل محلہ نے مجھ کو مسجد کا متولی مقرر کر دیا اور کچھ لوگ ممبر بنے مسجد کی قلیل آمدنی ہونے کی وجہ سے ممبروں نے آپس میں ہی ۲۰ روپیہ فی ماہ مسجد کیساتھ تعاون کیلئے مجھ سے کہا، اور عہد کیا کہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون اور مسجد کی صفائی وغیرہ میں ساتھ رہیں گے، کیونکہ مسجد میں کوئی مؤذن مستقل اور صفائی کیلئے نہیں ہے۔

(۲) ممبروں نے چند ماہ ساتھ دیا وہ بھی چند نے اور جو رقم ہر ماہ دینے کی بات کہی تھی، وہ بھی ختم کر دی صرف ایک ممبر برابر رقم مسجد کو دے رہا ہے، اور ایک ممبر کبھی کبھی صفائی کر دیتا ہے، کچھ ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو زبردستی ممبر بنا دیا گیا ہے، لہذا سب کام متولی ہی کو کرنا پڑ رہا ہے، اہل محلہ بھی کسی طرح کا تعاون نہیں کرتے، خاص کر جمعہ کو پوری مسجد کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اور متولی کو ہی یہ کام کیلئے انجام دینا پڑتا ہے، کوشش کر کے اسکول کے لڑکے اسکول کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں، جو صفائی کر دیتے ہیں۔

لہذا آپ بتلائیں جن ممبروں نے ۲۰ روپیہ تعاون دینے کیلئے مسجد کو کہا تھا،

اور انھوں نے چند ماہ دیا اسکے بعد بند کر دیا ہر ماہ ان کو یاد بھی دلادیا گیا، کیا ان کے اوپر مسجد کا یہ روپیہ باقی ہے، اور ان کو یہ بقایا روپیہ دینا فرض ہے، یا نہیں ان کے اوپر مسجد کا قرض رہا یا نہیں اور ممبروں نے متولی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اسکے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔

(۳) اس طرح مسجد کے نمازیوں کیلئے استنجاء خانہ جو پہلے سے بنا ہوا تھا، وہ راستے میں تھا، اور آنے جانے پر بدبو آتی تھی، استنجاء خانہ دوسری جگہ کر دیا گیا ہے، اس کے خرچ کیلئے اعلان کیا گیا ایک صاحب نے کہا کہ چھت پر جو خرچ آئیگا وہ میں ادا کرونگا، استنجاء خانہ تیار ہونے پر خرچ کا بل انکو دیا تو انھوں نے کہا میں ایک دو روز میں آپ کو دیدونگا، بعد میں انھوں نے دینے سے انکار کر دیا، انکار کے بعد ان صاحب سے پھر کہا بھی نہیں جبکہ یہ صاحب ایک مذہبی ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں؟

المستفتی: اقبال احمد، متولی مسجد پیر شاہ والی،
محله: بند و تچیاں، دھامپور، ضلع: بجنور، (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مسجد کی صفائی ستھرائی ثواب کا کام ہے، تمام

ہی ذمہ داروں پر اسکا انتظام لازم ہے۔

عن عائشةؓ قالت: أمر رسول اللہ ﷺ ببناء المساجد في الدور وأن

تنظف وتطيب. (سنن أبي داؤد، باب اتحاد المساجد في الدور، النسخة الهندية

۶۶/۱، دار السلام رقم: ۴۵۵)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللہ ﷺ: من أخرج أذى من

المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. (ابن ماجه، باب تطهير المساجد وتطهيرها،

النسخة الهندية ۵۵، دار السلام رقم/۷۵۷)

(۲) بیس روپیہ ماہانہ طے شدہ کی ادائیگی از روئے شرع ممبران پر لازم اور واجب

نہیں ہے، البتہ عہد و پیمان کی وجہ سے اخلاقاً و استحساناً ممبران کو ادا کر دینی چاہئے، کیونکہ وعدہ

کی خلاف ورزی کرنا شرعاً مذموم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. (المائدہ: ۱)

(۳) اور جس شخص نے پیشاب خانہ کیلئے رقم دینے کا وعدہ کیا اور اسکے مطابق کام

کرا دیا گیا تو اب اس رقم کی ادائیگی اس شخص کے ذمہ لازم ہے۔ (مستفاد: محمودیہ ۱۲/۲۷۲،

ڈابھیل ۱۵/۳۱۲، میرٹھ ۲۲/۲۸۳، رجمیہ قدیم ۶/۱۲۳، جدید ۹/۱۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۲۷ھ

۱۴۲۲/۱۲۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۷۰۹)

ضرورت مسجد کیلئے لئے گئے قرض کا ذمہ دار کون؟

سوال: [۸۱۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

ایک مسجد ہے اس مسجد کی ماہوار آمدنی بذریعہ کرایہ (یعنی مسجد کی کچھ دوکانیں

ہیں) ۸۵۰ روپے ہے، اس مسجد کے متولی نے لوگوں کو حساب دیتے ہوئے بتلایا کہ

اس وقت مسجد کے کاموں میں جو روپے خرچ ہوئے ہیں وہ قرض لے کر خرچ کئے گئے

ہیں، اور قرض ۲۵۰۰ روپے ہو گئے ہیں، نیز مسجد کی جائیداد یعنی دوکان کے کرایہ

داران پر تقریباً اتنا ہی (یعنی ۲۵۰۰ روپے) باقی ہیں، جو کرایہ داروں نے اب تک ادا

نہیں کئے ہیں، مذکورہ بالا صورتوں میں مقروض مسجد کہلائے گی یا مقتدی یعنی جب تک

متولی مسجد کو قرض سے بری نہ کرے اس وقت تک مذکورہ بالا قرضوں کے اندر مقروض مسجد

کہلائے گی یا مقتدی مسجد، مدلل و مفصل شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: بہادر عالم قریشی، محلہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جبکہ ۸۵۰ روپے ماہوار مسجد کی آمدنی

ہے اور بوقت ضرورت شدیدہ کمیٹی کی اجازت سے یا کمیٹی نہ ہونے کی صورت میں

دیانتدار متولی نے قرض لے کر مسجد کی ضروریات میں صرف کیا ہے، تو وہ قرض مسجد ہی کے ذمہ لازم ہوگا، اور مسجد کی آمدنی میں سے ادا کیا جائیگا، اور شرعاً مسجد ہی مقروض کہلائے گی نہ کہ مقتدیان مسجد۔

لايجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف
كتعمير الخ وفي الشامية هو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بدُّ يجوز
بأمر القاضي إن لم يكن بعيداً عنه الخ. (الوقف، مطلب في الاستدانة على
الوقف، زكريا ۶/۶۵۷، كراچی ۴/۴۳۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴۴/۱۹۳)

ويجوز للمتولى إذا احتاج إلى العماره أن يستدين على الوقف
ويصرف ذلك فيها والأولى أن يكون بإذن الحاكم الخ. (البحر الرائق، كوئٹہ
۲۱۱/۵، زكريا ۵/۳۵۳)

والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح
الوقف فإن له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. (البحر الرائق، كوئٹہ ۳۱۱/۵،
زكريا ۵/۳۵۲، منحة الخالق، كوئٹہ ۲۱۱/۵، زكريا ۵/۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ صفر المظفر ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۹/۲۴)

جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں چندہ کرنے کا حکم

سوال: [۸۱۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
میرے یہاں جمعہ کی نماز میں سلام کے بعد دعاء کر کے مسجد کے اخراجات کیلئے کچھ لوگ اٹھ کر
پیسہ وصول کرتے ہیں، اور امام صاحب کچھ باتوں کا اعلان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
اوردعاء کرنے میں تاخیر ہوتی ہے؟

المستفتی: محمودالحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اجتماعی دعاء ضروری نہیں ضرور تمندتہا مانگ کر جاسکتے ہیں، مسجد میں اس طرح چندہ کرنا اگر مصلیٰ کے سامنے گذرنا نہ ہو اور شق صفوف نہ ہو اور نمازی کیلئے ایذاء کا باعث نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ/ ۷۲۸، کفایت المفتی/ ۱۲۵، جدید مطول/ ۵/ ۲۷۱، فتاویٰ محمودیہ قدیم/ ۲۸۲، جدید ڈائجیل/ ۸/ ۲۹۰)

ویکھرہ إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في

المختار الخ. (شامی، الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها قبیل مطلب فی انشاء الشعر زکریا ۲/ ۴۳۳، کراچی ۱/ ۶۵۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/ ۱۸۶، مصری قدیم ۲/ ۵۲۸، بوزیہ زکریا جدید ۱/ ۵۱، وعلی هامش الہندیة زکریا قدیم ۴/ ۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/ ۱۱۷۷)

مسجد کیلئے چندہ کی گئی رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنانا

سوال: [۸۱۴۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کیلئے جو چندہ گاؤں سے کیا جاتا ہے، یا باہر سے لایا جاتا ہے، کبھی مسجد کی نئی تعمیر ہوتی ہے، اس کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، کبھی پرانی مسجد کی ضروریات کیلئے چندہ کیا جاتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے، کہ اس چندہ کی رقم سے مسجد کے بیت الخلاء پیشاب خانے غسل خانے وضو خانے حوض وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ نہ چندہ لینے والا اسکی صراحت کرتا ہے، نہ چندہ دینے والا مخصوص کر کے دیتا ہے، کہ یہ رقم فلاں حصہ پر ہی لگنی چاہئے، اس عمومی چندہ سے مسجد کی ہر قسم کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔

المستفتی: ابرار احمد قاسمی، محسن پور، نگینہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کیلئے چندہ کی گئی رقم سے بیت الخلاء، غسل خانہ اور حوض وغیرہ بنانا درست ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں مسجد کی مصالح میں سے ہیں، لہذا مسجد کی رقمات کا ان چیزوں کی تعمیر میں استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔

ويبدء من غلته بعمارتہ ثم ماہو أقرب بعمارتہ (درمختار) وفي الشامية: أي من غلته بعمارتہ شرط الواقف أو لاثم ماہو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معيناً فإن كان الوقف معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء. (فتاویٰ شامی، الوقف، مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارتہ زکریا ۶/۵۵۹، ۵۶۰، کراچی ۴/۳۶۶، ۳۶۷، وهكذا في الموسوعة الفقهية الكويتية ۴۴/۱۸۸، البحر الرائق، زکریا ۵/۳۴۸، کوئٹہ ۵/۲۰۸، مجمع الأنهر دارالکتب العلمية بیروت ۲/۵۸۴، مصری قدیم ۱/۷۴۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۷۱/۱۳۳۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ ذیقعدہ ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۳۰۷۹)

مُحْصِلِينَ مَسْجِدًا كَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعِينًا فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ مَعِينًا عَلَى شَيْءٍ يَصْرَفُ إِلَيْهِ بَعْدَ عِمَارَةِ الْبِنَاءِ.

سوال: [۸۱۴۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مُحْصِلِينَ

مسجد کیلئے چندے کی رقم میں سے نصف حصہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے چندہ کے نصف حصہ کو چندہ لانے والوں کو دیا جائے اور اس کو چندہ کی اجرت قرار دیا جائے تو اس طرح کمیشن پر چندہ جائز نہیں، بلکہ چندہ کیلئے تنخواہ دار ملازم رکھ لیا جائے تو جائز ہے، ہاں البتہ تنخواہ دار ملازم کو صرف حسن کارکردگی کی بناء پر تنخواہ کے ساتھ ساتھ کچھ انعام دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

و شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين الخ. (درمختار كتاب الإجارة،

زکریا ۷/۹، کراچی ۵/۶)

ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة الخ. (هدایہ،

كتاب الإجارة، اشرفی دیوبند ۳/۲۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۲/۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۳۸/۳۷)

مسجد کی ضرورت پوری کرنے کیلئے محلہ والوں سے رمضان میں چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مسجد میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، مثلاً مسجد کے باہری حصہ میں بارش اور دھوپ سے بچنے کیلئے ٹینٹ لگایا جاتا ہے، اور لائن کا معاملہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پورا مہینہ جزیر استعمال ہوتا ہے، جس میں تقریباً ۸۰، ۹۰ ریٹریل سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مزید وضو خانہ بیت الخلاء صفائی کرنیوالے کی مزدوری اسکے علاوہ امام و مؤذن اور مسجد سے منسلک جو مکتب ہے اسکے مدرس کی کبھی تنخواہ اور کبھی ڈبل تنخواہ اس کا آمد کے اوپر دار و مدار ہے دی جاتی ہے، اور مسجد کے فنڈ میں اتنی رقم نہیں ہے، کہ اس سے ساری ضروریات پوری کی جاسکیں جس کی وجہ سے مجبوراً ہم تمام ممبران کمیٹی اپنے محلہ میں مسجد کے اخراجات کو سامنے رکھ کر چندہ

وصول کرتے ہیں، تاکہ مسجد کے تمام اخراجات کو بآسانی پورا کر سکیں، پھر ہم لوگ اس مذکورہ رقم کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ٹینٹ اور صفائی کی مزدوری اور ڈیزل کی رقم ادا کرتے ہیں، پھر جب رقم بچ جاتی ہے تو اس رقم سے امام و مؤذن و مکتب کے مدرس کو آمد کے اوپر ڈبل تنخواہ یا صرف تنخواہ دیتے ہیں، اور اگر کبھی ڈبل تنخواہ سے بھی زائد بچ جاتی ہے، تو امام و مؤذن اور مکتب کے مدرس کے درمیان مقام کے اعتبار سے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی امام صاحب کو زیادہ پھر مؤذن صاحب کو پھر مکتب کے مدرس میں تقسیم کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ:

(۱) ہم لوگوں کا اس طرح محلہ میں مسجد کی اخراجات کیلئے چندہ وصول کرنا اور محلہ والوں کا چندہ دینا کیسا ہے؟

(۲) کیا یہ وصول شدہ رقم تراویح کی اجرت میں داخل ہے یا نہیں؟

(۳) وصول شدہ رقم میں سے امام و مؤذن و مکتب کے مدرس وغیرہم کو دینا جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ میں جوپس منظر پیش کیا گیا ہے، اس کے تحت میں محلہ والوں سے مسجد کی ضروریات کیلئے چندہ کرنا اور اس چندہ کے پیسہ کو جس ترتیب سے خرچ کرنے کا سوال نامہ میں ذکر کیا گیا ہے، وہ شرعاً جائز اور درست ہے، اسمیں کوئی حرج نہیں ہے، اور سوال نامہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ تراویح پڑھانے والا امام ہمیشہ کا مستقل امام ہے، اور مستقل امام کی صورت میں ختم قرآن کی اجرت نہیں ہے، اسی طرح وصول شدہ رقم سے جزیر کا تیل اور مکتب کے مدرسین وغیرہ کی تنخواہ وغیرہ ادا کرنا سبب جائز ہے۔

ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقہ

ویفتی الیوم بصحتها لتعليم القرآن والفقہ والإمامة والأذان . (درمختار مع

الشامی، کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب فی الاستحجار علی الطاعات زکریا

۷۶/۶، کراچی ۵۵/۶، امداد الفتاویٰ ۷۰۴/۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ شوال ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۶۶۶/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۱۰/۱۴۳۵ھ

مسجد میں گولک کے ذریعہ سے جمع شدہ رقم مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۴۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اس کی کچھ جگہ بچی ہوئی ہے، تو اس میں مدرسہ کے نام پر تعمیر ہوئی ہے، بھلے سے اس میں ابھی مدرسہ نہیں لگ رہا ہے، ساتھ ہی پوری زمین کی باؤنڈری بھی ہوئی ہے، تعمیرات میں بیت الخلاء، استنجاء خانہ و وضو خانہ امام کا کمرہ کچن اور ایک دو کمرے اس نیت سے بھی بنائے گئے ہیں کہ اگر موقع لگا اور ضرورت پڑی تو اس کو کرایہ پر دے کر اس کی آمدنی مسجد کے مصرف میں استعمال کی جائیگی، مسجد اور مدرسہ کا نظام ایک ہی ہے، ایک ہی انتظامیہ کے تحت سب چل رہے ہیں، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مسجد میں جمعہ کے دن گلک چلائی جاتی ہے، اس سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں پیسے ڈالنے والوں کی نیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کہ کس نے کس نیت سے ڈالا ہے تو اس رقم کو مسجد کے علاوہ مدرسہ کی مذکورہ تعمیرات میں نیز مسجد کے بیت الخلاء و وضو خانہ کی تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نفی کی صورت میں جو رقم استعمال ہو چکی ہے، اس کا کیا ہوگا، نیز استعمال کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اور کہاں کہاں خرچ کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: منیر احمد، بیت العزیز سہاگ پور، شہڈول، ایم پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مساجد میں گولک کے اندر جو چندہ جمع ہوتا ہے، وہ

زکاۃ یا صدقات واجبہ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صدقہٴ نافلہ یا امداد و تعاون کی نیت سے دیا جاتا ہے، بریں بنا اس گولک میں جمع شدہ رقم مسئلہ صورت میں مسجد اور مدرسہ کی تمام ضروریات میں بلا کسی تفصیل کے خرچ کی جاسکتی ہے، اسلئے کہ حسب تحریر سوال چندہ دہندگان کو معلوم

ہے کہ مسجد و مدرسہ کی انتظامیہ کمیٹی ایک ہی ہے۔

اتحد الوقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب
وقف أحدهما جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما حينئذ
كشيئي واحد. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل أنقاض لمسجد ونحوہ، زکریا ۶/۵۵۱،
کراچی ۴/۳۶۰، مجمع الانهر، دار لکتب العلمیہ بیروت ۲/۵۹۶، مصری قدیم ۱/۷۴۹)
مسجد له مستغلات و أوقاف أراد المتولى أن يشتري من غلة
الوقف للمسجد دهنًا أو حصيراً - إلى - كان له أن يشتري للمسجد
ما شاء. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به زکریا قدیم ۲/۴۶۱،
جدید ۲/۴۱۳، المحيط البرہانی، المجلس العملى ۹/۱۳۶، رقم: ۱۳۸۱، الفتاویٰ
التاتار خانیۃ زکریا ۸/۱۷۵، رقم: ۱۱۵۵۴)

رجل أعطى درهما فى عمارة المسجد أو نفقة المسجد
أو مصالح المسجد صح، لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكاً
بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح
فيتم بالقبض كذا فى الوقاعات الحسامية. (ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۴۶۰،
جدید ۲/۴۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ شعبان ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰/۱۱۲۵)

مسجد بنانے کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، اور گاؤں کافی بڑا ہے، تقریباً ایک ڈیڑھ ہزار افراد
رہتے ہیں، اس میں ایک اور مسجد کی ضرورت ہے، میں اپنی جگہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں،
لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ خود اپنی ذاتی رقم سے مسجد تعمیر کر سکیں، تو چندہ کر سکتے ہیں، یا نہیں؟

جواب تحریر فرمادیں کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد شبیر الحق، پورنیہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب مسجد کی سخت ضرورت ہے تو اس کیلئے چندہ کرنا جائز اور درست ہے، لیکن کسی پر جبر واکراہ نہ کیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۶/۴۹۳، جدید ریڈیو انجیل ۱۵/۱۴۸)

رجل أعطى درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح. (ہندیہ، الباب الحادی عشر فی المسجد وما يتعلق به، زکریا قدیم ۲/۴۶۰، جدید ۲/۴۱۲)

رجل بنى مسجدا لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البوارى والحصير والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً لذلك فإن لم يكن فالرأى في ذلك إليه. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۱۱۰، جدید ۱/۱۶۹)

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبرى للبيهقي، قبيل باب من غصب جارية..... دارالفکر بیروت ۸/۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷ھ/۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

(الف فتاویٰ نمبر: ۲۸/۸۲۷۷)

مسجد کی ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک مسجد کا تعمیر نو کیلئے چندہ مانگ سے مسجد کے دروازے پر کتنے دن تک کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی منزل تیار ہے، دوسری منزل کیلئے چندہ کر رہے ہیں، ایک شخص روزانہ تقریباً چار سال سے دو روپے کی وصولیابی ہر دوکاندار سے کرتا ہے، کیا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا جا سکتا ہے، اس

صورت میں مسجد کی اہانت تو نہیں ہے، لوگ ان دونوں کے اس فعل کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کسی کی ایک نہیں سنتا اس طریقہ کار کو روکنے کی کیا صورت ہے؟

المستفتی: محمد راجب حسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: خاص کر ہندوستانی مساجد وغیرہ کی تعمیر و صرف کامداعوام اور اہل خیر حضرات کے چندہ پر منحصر ہے، اور حدیث شریف میں بھی مساجد کی تعمیر کرانے والے کی بڑی فضیلت وارد ہے اسلئے مساجد میں چندہ وغیرہ کے ذریعہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا باعث سعادت اور توفیق خداوندی ہے، اور اس سے گریز کرنا اور گراں سمجھنا محرومی ہے، البتہ خوش دلی کے ساتھ بقدر ضرورت چندہ کرنا چاہئے، جبر و اکراہ کے ساتھ چندہ کرنا ممنوع اور ناجائز ہے، جو اپنی خوشی سے دے، اس سے لیا جائے، اور جو نہ دے اس پر جبر کرنا گناہ ہے اور ایسے مال کا مسجد میں لگانا بھی ناجائز ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بحسب ضرورت خوش دلی سے چندہ لیا جائے، اور جب مسجد کی تعمیر کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر تعمیر کے نام پر چندہ کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اس نام سے چندہ بند کر دینا لازم ہوگا، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اگر مذکورہ شخص وصول کرنے سے باز نہیں آتا ہے، تو اس سے رسیدیں ضبط کر لی جائیں اور لوگ بغیر رسید کے چندہ نہ دیں۔

عن محمد بن لبيد، أن عثمان بن عفان، أرا دبناء المسجد.....
فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة
مثله. (صحيح مسلم، باب فضل بناء المسجد والحث عليها، النسخة الهندية ۱/۲۰۱،

بيت الافكار رقم: ۵۳۳، مسند الدارمي دارالمغنى ۲/۸۷۵، رقم: ۱۴۳۲)

لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا

يقبله. (شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل

المساجد زكريا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸) فقط والله سبحانہ وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۴۱۹/۳۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/۶/۱۴۲۵ھ

کمیشن پر مسجد کا چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) اگر کوئی شخص مسجد شریف کا چندہ کرے تو کیا وہ کمیشن لے سکتا ہے؟ اگر اسی شہر میں سے چندہ کرے جس شہر میں مسجد شریف ہے تو کتنا حصہ لے سکتا ہے؟

(۲) اگر کوئی شخص دوسرے شہر سے مسجد شریف کا چندہ کر کے لائے تو کتنا کمیشن لے سکتا ہے، مسجد کے چندہ سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں عین کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد خورشید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو شخص باقاعدہ تنخواہ دار ملازم نہیں ہے، اس کا محض کمیشن پر چندہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو جائز نہیں ہے، اور اگر باقاعدہ تنخواہ دار ملازم ہے، اور چندہ کر کے لاتا ہے، پھر تنخواہ کے علاوہ کچھ رقم بطور انعام دی جاتی ہے تو یہ جائز اور درست ہے، لیکن یہ انعام نصف چندہ سے کم رہنا لازم ہے۔ (مستفاد: ایضاح النوار/۲/۵۵)

ویصح حتی تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة الخ. (ہدایہ، کتاب

الإجازات اشرفی ۲۹۳/۳)

و شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين. (شامی، زکریا ۷/۹، کراچی

۵/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ر شوال المکرم ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۴۸/۳۱)

جوٹنکی مسجد میں لگادی گئی اس کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جوٹنکی مسجد میں لگادی گئی ہے، اسکی مزدوری و قیمت ادا کردی گئی ہے، اب ان رسیدوں کو دکھا کر چندہ کیا جا رہا ہے، یہ چندہ مسجد میں خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یعنی استعمال میں آسکتا ہے، یا نہیں؟ جواب سے سرفراز فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: ریاست علی، محلہ کھوکران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رسید کے اندر جس کام کی تفصیل ہے اس رسید سے اس کے علاوہ دوسری غرض سے چندہ کرنا دھوکہ ہے، اسلئے جائز نہیں۔

عن أبي هريرة رض أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم، باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ۷۰/۱، بيت الافكار رقم: ۱۰۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ شعبان ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۸۹۶۲۷)

ایک باغ کی جگہ دوسرے باغ کی قیمت مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۸۱۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے زمانہ قدیم میں اپنی مملوکہ آراضی میں سے ایک حصہ اپنے قبرستان کیلئے مخصوص کیا اور اسمیں آم کا باغ لگایا، باغ کی آمد برابر مسجد میں صرف ہوئی رہی زید انتقال کر گیا اور ورثاء نے جہاں پر زید کی دیگر ملکیت کو تقسیم کیا وہاں پر قبرستان کیلئے مخصوص کردہ آراضی بھی تقسیم کی گئی

اور باغ کاٹ دیا گیا بعدہ ورثاء نے باتفاق رائے اس آراضی میں دوسرا باغ لگایا اور اس زمین کو مسجد و قبرستان کیلئے مخصوص کر دیا لیکن سرکاری کاغذات میں وہ زمین بنام مسجد درج ہے، اور گاؤں کا کوئی دوسرا قبرستان بھی نہیں تھا، علاوہ اس زمین کے جس کو لوگوں نے خاص اپنی ملکیت سے متعین کیا تھا، اب چونکہ گرام سبھا کی جانب سے بھی قبرستان متعین ہو گیا ہے، جو اس پہلے قبرستان کے متصل ہے، تو کیا گرام سبھا کی جانب سے تجویز کردہ قبرستان کے بعد اس پہلے قبرستان میں مردوں کو دفن کیا جاسکتا ہے؟ نیز ماء مستعمل اور کوڑا کرکٹ وغیرہ اس باغ میں ڈالنا جبکہ کافی بدبو محسوس ہوتی ہے، کیسا ہے؟

المستفتی: کیل احمد قاسمی، مدرس مدرسہ اسلامیہ،
قصبہ، پنالہ، ضلع: رڑکی، ہری دوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید نے اپنی مملوکہ زمین سے جس جگہ کو خاص کر لیا ہے، اس جگہ کی آمدنی مسجد میں لگانا جائز ہے، کیونکہ درخت اسی کی ملکیت میں ہیں، اسے جہاں چاہے استعمال کرے اس کو اس بات کا اختیار ہے۔

مقبرۃ علیہا أشجار عظيمة فهذا علی وجہین إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرۃ أو نبت بعد اتخاذ الأرض مقبرۃ ففي الوجه الأول المسئلة علی قسمین إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالک أو كانت مواتا لا مالک لها واتخذها أهل القرية مقبرۃ ففي القسم الأول الأشجار بأصلها علی ملک رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء . (فتاویٰ عالمگیری، الوقف، الباب الثانی عشر، زکریا قدیم ۲/۴۷۳، ۴۷۴، جدید ۲/۴۱۷، ۴۱۸)

جب گرام سماج نے میت دفن کرنے کیلئے دوسری جگہ متعین کر دی ہے، تو اب وہ زمین جو مسجد کے نام درج ہے، اس زمین میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں، اور وہ مسجد کی ملکیت ہے، اس کی آمدنی مسجد کو ملتی رہے گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱/۱۲۸، ڈبھیل ۱۵/۳۷۳)

أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض موقوفة بضمن ما أنفق فيه . (شامی ، الصلاة ، باب صلاة الجنزة ، زکریا ۳/ ۱۴۵ ، کراچی ۲/ ۲۳۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۰/۱/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴/۵۹۸۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۱/۱۸ھ

مسجد کیلئے کئے گئے چندہ سے مسجد کا موٹر پائپ وغیرہ خریدنا

سوال: [۸۱۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں مسجد میں مختلف طریقوں پر لوگ مسجد کی امداد کرتے ہیں، لوگوں سے یعنی محلہ والوں سے سالانہ چندہ بھی لیا جاتا ہے، اور بیاہ شادیوں میں بھی لوگ مسجد کی امداد کرتے ہیں، اور بھی مختلف طرح سے لوگ روزانہ چندہ دیتے رہتے ہیں، علیحدہ سے کسی خاص کام کیلئے جب ہی چندہ کیا جاتا ہے جب مسجد میں کوئی تعمیری کام کرایا جاتا ہے، اور اس مختلف طرح کے چندہ سے ہی مسجد کے تمام مصارف پورے ہوتے ہیں، مثلاً امام کی تنخواہ چٹائی وغیرہ اور پانی کے نل کی مرمت وغیرہ کا خرچہ اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس بچی ہوئی آمدنی میں سے پانی کی ٹینکی اور پائپ موٹر وغیرہ جسکی مسجد میں شدید ضرورت ہے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وقف کے مال سے مسجد میں نل وغیرہ نہیں لگایا جاسکتا ہے، اور نہ ہی مسجد کی پتائی قلعی چونہ میں اسکو صرف کیا جاسکتا ہے؟ اور نہ گرم پانی میں اسے صرف کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: محمد ایوب، امام مسجد صغیر والی، فضل گڈھ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مابقیہ رقم ضرورت مسجد مثلاً پائپ، موٹر، پانی، گرم

پانی کرنے وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

ولو أن قوماً بنى مسجداً وفضل من خشبهم شيئاً قالوا يصرف
الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصير هذا إذ سلموه إلى المتولى
ليبنى به المسجد ، وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ماشاً ووا الخ .
(البحر الرائق، الوقف، فصل في أحكام المسجد، زكريا ۵/۴۲، كوئٹہ ۵/۲۵۰، ہندیہ

زكريا قديم ۲/۴۶۴، جديد ۲/۴۱۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۵/۲۷ھ

۱۴۱۵/۵/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۱۲۰)

مسجد کے برآمدہ کیلئے دی گئی رقم دیگر ضروریات میں صرف کرنا

سوال: [۱۸۱۵۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد ہاشم
خاں مرحوم پاکستانی نے بحیات خود ایک فوقانی مسجد کے برآمدہ کیلئے کچھ روپیہ محبوب خاں
مرحوم کو بر موقع چندہ عنایت فرمایا تھا، محبوب خاں کے وارثوں کے کہنے کے مطابق مگر محبوب
خاں نے کسی وجہ کے باعث وہ روپیہ مسجد کے متولی کو نہیں دیا تھا، اسی اثناء میں محبوب خاں اس
دنیا سے رحلت فرما گئے، اور محمد ہاشم خاں بھی محبوب خاں کے چند ہفتہ بعد انتقال کر گئے،
محبوب خاں کے وارثوں نے اس پیسہ کی اینٹ سر یا سمنٹ لاکر مسجد کے مقام پر رکھ دیا ہے،
مسجد کے متولی کا کہنا ہے کہ برآمدہ کے بالمقابل مسجد کے حجرے کی چھت اور مسجد کے مکتب کا
لینٹر پڑنا نہایت ضروری ہے، ورنہ مسجد کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے؟

محبوب خاں کے وارثین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی فوقانی
چھت بننی چاہئے، دونوں میں آپسی اختلافات بھی ہیں، کیا متولی اس سرے وغیرہ سے حجرے کی
چھت بنا سکتے ہیں؟ جواب سے سرفراز فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: جنفی مصلیان، مسجد پیتا پاڈل، چاند پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: برآمدہ مسجد کے نام جو رقم ہاشم خاں نے دی ہے، وہ رقم خاص طور پر مسجد یا مسجد کے برآمدہ پر خرچ کرنا لازم ہوگا، خارج مسجد حجرے کی چھت بنانا اس رقم سے چندہ دہندہ کی غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵)

نیز اگر حجرہ کی چھت کی زیادہ ضرورت ہو تو اس کیلئے الگ سے رقم فراہم کیجا سکتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۲۴۰/۲۶)

تعمیری چندہ سے مؤذن و خادم مسجد کو تنخواہ دینا

سوال: [۸۱۵۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا مسجد کی تعمیر کی رقم سے مؤذن و خادم مسجد کو بطور تنخواہ دی جا سکتی ہے؟

المستفتی: حضرت مولانا نصیر احمد صاحب،
ناظم: کتب خانہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: رقم جمع کر نیوالوں کی غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، ہاں البتہ رقم دہندہ کی اجازت سے جائز ہو سکتا ہے۔

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ صفر ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۵/۲۴)

دیگر اوقاف کی دوکانوں کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۱۵۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شہر آگرہ میں اسلامیہ لوکل ایجنسی کے نام سے ایک سوسائٹی ہے، جو وقف بورڈ آف یو پی کا ادارہ ہے جس کی ملکیت میں جہاں بہت ساری دوکانیں اور مکانات ہیں، جن کی آمدنی سوسائٹی کے پاس آتی ہے، مزید عطیات بھی آتے ہیں، اب اس کمیٹی کے تحت شہر آگرہ کی متعدد مساجد ہیں جن کی نگرانی کمیٹی کرتی ہے جیسے کہ آئمہ اور مؤذنین کی تنخواہ خاک روپ کی تنخواہ مزید مسجد کی مرمت اور تزئین انہیں کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، تو کیا مذکورہ بالا آمدنی ان مساجد کی تزئین و مرمت میں خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: آفاق احمد قریشی،
سکرٹری، اسلامیہ لوکل ایجنسی، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوسائٹی کے ماتحت وقف کی دوکانوں کی آمدنی مساجد کے آئمہ و مؤذنین خاک روپ کی تنخواہ اور مسجد کی مرمت و تزئین میں صرف کی جاسکتی ہے، اس لئے کہ مسجد بھی وقف ہے، بلکہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا وقف ہے، اور زکاة کے علاوہ جو عطیات آتے ہیں، ان کو بھی مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا جائز ہے۔

أن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القاری ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد دار احیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹ ، زکریا ۳/ ۳۵۴ ، تحت رقم الحدیث : ۴۲۸ ، فتح الملہم ، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/ ۱۱۸)

یصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر إليه تحته فی الشامیة: یصرف وقفها لأقرب مجانس لها . (شامی ، والقف ، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره زکریا ۶/ ۵۴۹ ، کراچی ۴/ ۳۵۹ ،

الموسوعة الفقهية الكويتية ۴ / ۶۱ (۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۴/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۴۸۹/۴۰)

فصل کے موقع پر مسجد کیلئے دئے گئے غلہ کی رقم مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۱۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

(۱) ہمارے گاؤں میں فصل کے موقع پر لوگ مسجد کیلئے غلہ دیتے ہیں، بعض دسویں حصہ کے اعتبار سے اور بعض اسکی رعایت کئے بغیر بعد میں اس کو نیلام کر کے مسجد کے کسی بھی مصرف میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس طرح جمع شدہ غلہ کی رقم کو مسجد کے مصارف تعمیرات وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہے، اور مسجد کی آمدنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔

(۲) فصل کے موقع پر جو غلہ مسجد میں جمع ہوا ہے، اس پر اگر عشر کا اطلاق ہوگا تو اسکو کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ کیا امام کو بھی دے سکتے ہیں؟ واضح طور پر مفصل و مدلل جواب سے مطلع فرمائیں؟ عین نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد اشفاق، مکن پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مساجد و مدارس میں جو غلہ آتا ہے، وہ امداد ہی کا ہوتا ہے، اسلئے اس کی رقم سے تنخواہ دینا یا تعمیر میں لگانا سبب جائز ہے، اور اس میں شخصی ملکیت بھی متصور نہیں ہے۔

و التملیک فی غیر الملک لا یتصور . (بدائع الصنائع، کتاب الزکاة، فصل

فی الشرائط التي ترجع إلى المال زکریا ۲/۸۸، کراچی ۹/۲، حاشیة چلبی امدادیہ ملتان

۲۵۲/۱، زکریا ۲/۱۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳/۲۳۶، ۴۴/۱۷۳)

(۲) اتر پردیش کی کوئی زمین عشری نہیں ہے، اسلئے یہاں کی زمین پر عشر واجب نہیں

ہے، لہذا یہاں کی پیداوار سے جو کچھ مساجد و مدارس کو دیا جاتا ہے، وہ بہر حال امداد و عطیہ ہے چاہے، اس کا نام عشر رکھے یا امداد یا عطیہ، لہذا اس کو تنخواہوں میں خرچ کرنا بلا تردد جائز ہے۔
(مستفاد: ایضاح النوادر ۱۷/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۱۲/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰۵/۳۲)

مسجد اور مدرسہ کیلئے الگ الگ چندہ کرنا

سوال: [۸۱۵۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، لیکن مسجد کے نیچے تہ خانہ کی شکل کا ایک ہال رہے گا، اور اوپر مسجد تعمیر ہوگی اور ابھی سے منتظمین کا ارادہ ہے کہ اس ہال میں مدرسہ یا مکتب رہے گا، اور اوپر مسجد رہے گی، تو دریافت یہ امر ہے کہ کیا اس تہ خانہ کی تعمیر کیلئے الگ سے چندہ کرنا پڑے گا، یا جو چندہ مسجد کیلئے ہوا ہے وہ بنیاد سے لیکر اوپر تک لگے گا، شرعی حکم تحریر فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد عمران، سینٹاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسجد بنانے سے قبل نیچے مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے تو وہ حصہ مسجد سے خارج ہوگا، اور اس کا حکم مسجد سے بالکل الگ ہوگا، اسلئے کہ اس کا خرچ بھی مدرسہ ہی کے نام سے وصول کرنا ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۶/۸۱، جدید زکریا ۹/۸۷)

أما إذا اختلفت الواقف أو اتحدت الواقف واختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجداً، وعين لكل وقف، وفضل من غلة أحدهما، لا يبدل شرط الواقف، وكذا إذا اختلفت الواقف لالجهة، يتبع شرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى وقد علم منه أنه

لايجوز لمتولى الشيخونية بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر .
(البحر الرائق، كتاب الوقف زكريا ۵/۳۶۲، كوئنه ۵/۲۱۶، ۲۱۷، وهكذا في
الدرمع الرد، مطلب في نقل القاضي المسجد نحوه، زكريا ۶/۵۵۱، كراچی
۴/۳۶۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ اشوال ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۶۵۴)

شادی میں مسجد و مدرسہ کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۵۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شادی
کے دن مدرسہ اور مسجد کیلئے چندہ لیا جاتا ہے، وہ جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: شمس الحق، جھارکھنڈی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شادی کے دن لڑکے یا لڑکی والوں کی طرف سے بخوشی
اگر مدرسہ یا مسجد میں چندہ دیا جائے تو لینا درست ہے، زبردستی دباؤ کے ساتھ مشروع نہیں؟
عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل مال
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الغصب ، قبيل باب
من غصب جارية ثم باعها..... دارالفکر ۸/۵۰۶ ، رقم: ۱۱۷۴۰)
لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي . (قواعد الفقه ،
اشرفي / ۱۱۰ ، رقم: ۲۶۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲/۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۳۰۴۷)

مسجد اور مدرسہ کا مشترکہ چندہ

سوال: [۸۱۵۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چند حضرات نے ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنانے کا پروگرام بنایا اس کیلئے زمین خریدی گئی قیمت کی ادائیگی کیلئے چندہ کیا گیا کچھ چندہ بنام مدرسہ اور کچھ چندہ بنام مسجد اور اکٹھا کر نیکے بعد زمین والوں کو دیدیا گیا، ادا کردہ رقم میں تقریباً نصف رقم وہ ہے جو مسجد کے نام سے جمع کی گئی ہے، اس کے حساب سے مسجد کو تقریباً آدھی ہی زمین ملنی چاہئے لیکن ہمارا ارادہ مسجد کو ابتداء ہی سے ایک ثلث یا اس سے بھی کم دیئے جانے کا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اپنے ارادہ کے مطابق مسجد و مدرسہ بنانے کی صورت میں منجانب مدرسہ مسجد کو زمین کے تناسب سے رقم واپس کرنی پڑے گی یا نہیں؟

المستفتی: سیف اللہ نگلیاں عامل، ضلع: راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جتنی رقم مسجد کے نام سے جمع ہوئی ہے، وہ سب مسجد ہی کے مد میں خرچ کرنا لازم ہے، لہذا مذکورہ سوال میں آدھی زمین مسجد کی ہوگی یا ایک ثلث زمین مسجد کو دیکر بقیہ کی قیمت مسجد کو دیدی جائے، جو مسجد کے صرفہ میں خرچ کی جائے ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۵۹۶، فتاویٰ محمودیہ ۶/۲۱۰، ڈی اے جیل ۱۵/۱۵۰)

علیٰ انہم صرحو بان مراعاة غرض الواقفین واجبة الخ.

(شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة، کراچی ۴/۴۴۵، زکریا

۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ رجب المرجب ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۸۶/۲۶)

مسجد و مدرسہ کے چندے اور اپنے پیسوں سے مکان تعمیر کرنا

سوال: [۸۱۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بستی کی خستہ حالت کو دیکھ کر مسجد و مکتب کے لئے مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے چندہ وصول کیا پھر اللہ ایک جگہ خریدی ساتھ ہی اپنی ذاتی رقم بھی صرف کی اور مذکورہ جگہ کی قیمت نصف چندہ شدہ پیسے سے ادا کی اور نصف اپنی ذاتی رقم سے ادا کی پھر نصف خرچ سے مذکورہ جگہ کے اوپر چھ کمرے بنائے، لیکن مذکورہ شخص نے نصف جگہ مع کمرے کے مسجد کے نام چڑھاتے ہوئے اپنے نام پر رجسٹری کرائی، اور ایک مدت تک ان چھ کمروں کا نصف کرایہ مسجد کے حوالے کرتا رہا، اتفاقاً مذکورہ آدمی کے ساتھ جماعت المسلمین کا کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جھگڑے کے دوران مذکورہ شخص اس کمرے کے اوپر احسان جتلا بیٹھتا ہے، جس کے سبب جماعت المسلمین کا مذکورہ شخص سے کہنا ہے کہ آپ نصف جگہ کے ساتھ تین کمرے مسجد کے نام پر وقف کر کے رجسٹرڈ کرادیں اس لئے کہ آپ نے چندہ کے پیسے سے یہ نصف جگہ اور نصف کمرے تیار کئے ہیں، اور چندہ وہ بھی مسجد کے نام پر کیا ہے، لیکن مذکورہ شخص مسجد کے نام پر یا جماعت المسلمین ٹریسٹ کے نام پر رجسٹری یا وقف کرنے کیلئے تیار نہیں ہے، جس کے سبب جماعت المسلمین مذکورہ شخص کو جماعت سے خارج کر دیتی ہے، اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ کے احسان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہذا اب جماعت المسلمین نے ان تینوں کمروں کا کرایہ لینا چھوڑ دیا اس لئے مذکورہ شخص نے اپنے مکان میں مکتب کھول کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا انتظام کیا، لیکن تعلیم دینے والے معلم کا ماہانہ معاوضہ ان تینوں کمروں کے کرایہ مسجد کے نام پر نہ دیتے ہوئے مذکورہ معلم کو دیا جاتا ہے، اب اس صورت حال میں مذکورہ شخص اور مذکورہ معلم کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے، نیز مذکورہ شخص جب مرض الموت میں پہنچتا ہے، وہ اپنے دو بیٹوں کو یہ وصیت کرتا ہے کہ دیکھو میرے بعد اگر تم جماعت کے

ساتھ پڑھاؤ تو بھی یہ جائیداد مسجد کے نام یا جماعت المسلمین کے ٹریسٹ کے نام پر وقف کر کے حوالہ نہ کرنا اور رجسٹرڈ نہ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ اس پیسہ میں خیانت بھی نہ کرنا جو میں نے شکل دی ہے، اس پر خرچ کرتے چلے جانا یہ کہہ کر وہ دنیا سے چل بستا ہے، اب ان دونوں بیٹوں سے سب جماعت المسلمین کا کہنا ہے، کہ آپ کے والد نے مسجد کے نام پر چندہ جمع کیا تھا، اور اس سے مسجد کے لئے جو جائیداد بنائی تھی، اس کو مسجد کے نام پر وقف کر کے رجسٹری کر دو اس لئے کہ مرحوم نے کہا تھا، کہ ہم نے افریقہ سے مسجد کے نام پر اتنے پیسے جمع کئے ہیں، اور اس سے مسجد کے نام پر اتنے پیسے جمع کئے ہیں، اور یہ جو جائیداد بنا رہا ہوں وہ اللہ ہے، لہذا جب انھوں نے اپنی زبان سے جماعت کے سامنے سب باتوں کا اقرار کیا تو شرعاً اس جائیداد کو مسجد کے نام کرنا ضروری ہے، لیکن یہ دونوں بیٹے یہ کہہ کر عذر کر دیتے ہیں، کہ مرحوم کی وصیت ہے کہ وقف نہیں کرنا، لہذا برائے مہربانی ہر ایک کے لئے یعنی معلم اور ان دونوں بیٹوں کے لئے شرع کا کیا حکم ہے؟ ہمیں جلد از جلد تحریر فرمائیں تاکہ ہم خانہ جنگی سے بچ سکیں، اور شرع کے اوپر عمل کرنا سہل ہو جائے، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی؟

المستفتی: احقر عبد العظیم صدیقی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ میں درج شدہ حالات کے پیش نظر جس شخص نے بستی کی خستہ حالت کی بنا پر مسجد و مکتب کے نام سے چندہ کر کے زمین خریدی ہے، اگر وہ زمین خریدتے وقت اور اپنی طرف سے ذاتی طور پر نصف رقم دیکر کمرہ بنواتے وقت اس بات پر گواہ یا اعلان نہیں کیا تھا، کہ نصف کمرے میری ذاتی ملکیت ہوں گے، تو تمام کمرے شرعاً مکتب و مسجد کے لئے وقف ہو چکے ہیں، شخص مذکور کی کوئی ملکیت اس میں نہیں ہوگی، البتہ اگر نصف کمرے اپنی ذاتی ملکیت ہونے کا اعلان یا گواہ بنائے تھے، تو مذکورہ کمروں میں نصف کا حق اس کو حاصل ہوگا، لیکن سوالنامہ میں یہ بھی ہے کہ شخص مذکور نے بوقت انتقال اس بات کی

وصیت کی ہے کہ اس میں خیانت نہ کرنا تو اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مذکورہ چندہ و کمرے سب مکتب قائم کرنے کیلئے فراہم کئے تھے، نہ کہ مسجد کے لئے تو اگر واقعہ ایسا ہے تو چاروں کمرے مکتب کے لئے ہو جائیں گے، اور اگر نصف مکتب کیلئے اور نصف مسجد کیلئے بنائے گئے تھے، تو نصف مسجد کے نام اور نصف مکتب کے نام کر دینا واجب ہوگا، ورنہ چندہ دہندگان کی غرض کی مخالفت لازم آئیگی، اور چندہ دہندگان کی غرض کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔

بنی المتولی من مال الوقف فی عرصۃ الوقف أو من مال نفسه
للووقف أو لم یذکر شیئا کان وقفاً بخلاف الأجنبی وإن شہد أنه بناہ لنفسه
کان ملکاً له . (فتاویٰ بزازیہ، الوقف، الفصل الرابع فی المسجد، وما یصل بہ زکریا
جدید ۳/۱۴۴، وعلی ہامش الہندیہ ۶/۲۷۰)

فإن کان البانی المتولی علیہ فإن کان بمال الوقف فهو وقف سواء
بناہ للوقف، أو لنفسه أو أطلق وإن من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلا إذا
کان هو الواقف وأطلق فهو له كما فی الذخیرة وإن بناہ من ماله لنفسه
وأشہد أنه له فهو له الخ. (شامی، مطلب فی حکم بناء المتولی وغیره فی أرض الوقف
زکریا ۶/۶۷۹ کراچی ۴/۴۵۵، الموسوعة الکفقیہیة الكويتیة ۴/۱۸۵)

المتولی لو أنفق علی الوقف من ماله وشرط الرجوع له الرجوع الخ.
(عالمگیری، الباب الخامس فی ولاية الوقف زکریا قدیم ۲/۴۱۶، جدید ۲/۳۵۴)

المتولی إذا أنفق من مال نفسه فیرجع فی مال الوقف له ذلك فإن
شرط الرجوع یرجع وإلا فلا. (البحر الرائق، کوئٹہ ۲/۲۱۲، زکریا ۵/۸۴۴)
صح أيضاً وقف کل منقول قصداً فیہ تعامل للناس وفی الشامیة:
ولما جرى التعامل فی زماننا فی البلاد الرومیة وغیرها فی وقف الدراهم
والدنانیر دخلت تحت قول محمد المفتی به الخ. (شامی، مطلب فی وقف
الدراهم والدنانیر زکریا ۶/۵۵۵، کراچی ۴/۳۶۳)

إن مراعاة غرض واقفین واجبة الخ. (شامی، مطلب مراعاة غرض الواقفین

واجبہ کراچی ۴/۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۹۸/۲۴)

قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۱۵۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں کچھ پیڑخودرو ہیں، اور ایک باغ گاؤں والوں نے قبرستان میں لگایا ہے آم کا، عرصہ دراز سے گاؤں والے قبرستان سے لکڑی کاٹ کر مسجد میں پانی گرم کرنے کے کام میں لاتے ہیں، اور جو باغ ہے اسکی آمدنی بھی مسجد میں لگاتے ہیں، زید کہتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے شرعی فیصلہ سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: شوکت حسین، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان کی آمدنی اسی قبرستان میں لگانا ضروری ہے، کسی اور جگہ صرف کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر قبرستان کو باکل ضرورت نہیں ہے، مثلاً چہاردیواری بنانا وغیرہ تو قبرستان کے ذمہ داروں کے مشورہ سے آمدنی کو مسجد یا مدرسہ میں صرف کرنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۰۶، ڈبھیل ۱۵/۳۷۱، کفایت المفتی ۷/۱۲۱، جدید مطول ۱۰/۲۳۳، احسن الفتاویٰ ۶/۴۱۸)

علیٰ انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبہ. (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبہ کراچی ۴/۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵/۴/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۲۹۸/۲۴)

قبرستان کے درخت یا ان کی آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کے درختوں کو کاٹ کر اسی درخت کو یا اس کی قیمت کو مسجد کے کاموں میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی کیا صورت ہے، اسی طرح اگر اسی پیسہ سے مسجد کیلئے زمین خرید کر مسجد کے نام پر وقف کر دی تو جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اسرائیل، مدنا پوری، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اسی مقبرہ میں صرف کرنے کی کوئی صورت ہے تو اس میں صرف کریں، ورنہ اس سے قریب قبرستان میں صرف کریں۔

كما استفادہ من الشامی، لایجوز صرف وقف مسجد خرب الیٰ حوض وعكسه وفي شرح الملتقى یصرف وقفها لأقرب مجانس لها الخ. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ذمہ داروں کے مشورہ سے مساجد کے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔

سئل نجم الدین فی مقبرة فیها أشجار هل یجوز صرفها الیٰ عمارة المسجد قال نعم إن لم تكن وقفا علی وجه آخر، قیل له فإن تداعت حیطان المقبرة الیٰ الخراب یصرف الیها أو الیٰ المسجد قال الیٰ ماہی وقف علیہ إن عرف وإن لم یکن للمسجد متولی ولا للمقبرة فلیس للعامة التصرف فیها بدون إذن القاضی . (ہندیہ الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات والمقابر

..... زکریا قدیم ۴۷۶/۲، جدید ۴۱۸/۲، المحیط البرہانی، المجلس العلمی ۱۴۹/۹، رقم: ۱۱۴۳۴، الفتاویٰ التاتار خانیہ، زکریا ۱۹۴/۸، رقم: ۱۱۶۱۷، الموسوعة الفقہیة

الکویتیة ۳۴۹/۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ذیقعدہ ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۰/۲۳)

قربانی کی کھالوں کی رقم کو تملیک کے بعد مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۱۶۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قربانی کی کھالوں کی رقم تملیک کر کے کچھ لوگ مسجد کی تعمیر میں لگاتے ہیں، اور اس کو جائز بتاتے ہیں، تو کیا اس طرح تملیک درست ہے؟ اور تملیک کے بعد حاصل ہونے والی رقم تعمیر مسجد میں لگ سکتی ہے، کیا تملیک بلا ضرورت کے ہو سکتی ہے؟ عموماً مساجد کی تعمیر میں زمین پر زور دیا جاتا ہے، تو کیا زمین میں یہ رقم لگائی جاسکتی ہے، قبرستان وغیرہ کی زمین کیلئے تملیک سے حاصل شدہ رقم لگ سکتی ہے، دلائل شرعیہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی

المستفتی: (حضرت مولانا محمد سالم

القاسمی، مدرس جامعہ قاسمیہ مدرسہ

شاہی، مراد آباد، پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ مذکورہ میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

(۱) نفسِ حیلہ تملیک کب جائز ہے، اور کس قسم کی ضرورت کی وجہ سے جائز ہو سکتا ہے۔

(۲) حیلہ تملیک کر چکنے کے بعد جہاں چاہے وہاں خرچ کا جائز ہونا یہ دونوں

چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہئے، اور دونوں پر حکم بھی الگ الگ

لگے گا، امر اول کا حکم یہ ہے کہ ایسی شدید ضرورت پیش آجائے کہ اگر حیلہ تملیک کر کے رقم

حاصل نہ کی جائے تو حرام اور معصیت میں مبتلا ہونے کا سخت خطرہ ہے، یا دینی ضرورت

پوری نہ ہونے کی وجہ سے زبردست دینی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو حیلہ جوئی نفسہ

نا جائز ہے حرام اور معصیت سے بچنے کیلئے اور دینی نقصان سے بچنے کیلئے عارضی طور پر

جائز ہو جاتا ہے، اور اس طرح حیلہ سے گناہ بھی نہ ہوگا، اور اگر زبردست دینی نقصان

یا حرام و معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی امداد سے ضرورت

پوری ہو جاتی ہے، تو حیلہ تملیک ہرگز جائز نہیں ہے، اسلئے کہ صدقہ واجبہ اور رقم چرم قربانی وغیرہ فقراء ہی کا حق ہے، بغیر ضرورت شدیدہ اس کو تلف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور سوالنامہ کی درج شدہ شکل میں تعمیر مساجد اور قبرستان کے اخراجات میں ایسی شدید ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی امداد سے آسانی یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نیز تزئین مساجد تو کسی بھی درجہ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، اس لئے حیلہ تملیک کر کے خرچ کرنے والے سب لوگ سخت ترین گناہ کے مرتکب ہوں گے۔

والاحتیال للہروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع فی الآثام
لأبأس به بل هو مندوب إلیه وأما الاحتیال لإبطال حق المسلم فإثم
وعدوان (قولہ) لیس من أخلاق المؤمنین الفرار من أحكام اللہ بالھیل
الموصلۃ إلی إبطال الحق الخ. (عمدۃ القاری، کتاب الحیل، باب شرك
الحیل، داراحیاء التراث العربی ۲/۱۰۸، ۱۰۹، زکریا ۹/۲۳۹، تحت رقم
الحديث: ۶۹۵۳، الفتاویٰ التاتار خانیة زکریا ۱۰/۳۱۱، رقم: ۱۴۸۴، ۴۸۴۶،
ہندیہ زکریا قدیم ۶/۳۹۰، جدید ۶/۳۹۳)

امر ثانی کا حکم یہ ہے کہ اگر حیلہ تملیک ہو چکا ہے، تو اب وہ رقم صدقہ کے دائرہ سے باہر ہو چکی ہے، اسلئے تعمیر مساجد وغیرہ مذکورہ امور میں خرچ کی جائے تو صحیح بھی ہو جائیگی، لیکن بے موقع حیلہ تملیک کرنے کا گناہ بھی الگ سے ہوگا، تو معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں حیلہ تملیک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور حیلہ شدہ رقم کو امور مذکورہ میں خرچ کرنا بھی صحیح ہو جاتا ہے، اب حیلہ کرنے والے خود خیر منائیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳ھ/۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۹۸۸/۲۸)

بلا حلالہ مطلقہ ثلاثہ کو رکھنے والے سے مسجد میں چندہ لینا

سوال: [۸۱۶۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقصود نامی ایک شخص نے اپنی بیوی فاطمہ کو مقبرہ اول درگاہ نئی آبادی میں تین مرتبہ ایک مجلس میں طلاق دیدی ہے، اور اسکا فتویٰ مدرسہ شاہی سے فتاویٰ عالمگیری ۳۵۶/۱ کے حوالہ سے ۱۹/۹/۸ کو آیا اور مدرسہ جامعہ نعیمیہ سے مذکورہ بالا تحریر ۱۹/۹/۸۸ کو درمختار کے حوالہ سے فتویٰ مل گیا کہ طلاق واقع ہوگئی بغیر مطالبہ مہر و خرچہ کا اہل محلہ اور دوسرے محلہ کے اشخاص اور لڑکی نے کہا کہ ۱۰/۱۰/۸۸ کو آئینہ عالم میں بھی نکل گیا کہ مقصود حسین نے مذکورہ بیوی کو طلاق دیکر گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، اور عدت کرنے لگی مقصود حسین نے عدالت کو اپنی پریشانی دکھا کر فاطمہ کو پولیس کے ذریعہ عدالت میں پیش کر کے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آیا اور بیوی فاطمہ بھی مقصود کے ساتھ چلی آئی، اب اہل محلہ سخت پریشان ہیں، کہ اس حالت میں مقصود سے کیا واسطہ رکھیں اور اس کا پیسہ مسجد میں بطور چندہ لیں یا نہ لیں اس گناہ سے اہل محلہ کس طرح سبکدوش ہو سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سب مسلمانوں کو آگاہ کیجئے، عین مہربانی ہوگی؟

المستفتی: اہل محلہ مقبرہ اول درگاہ نئی آبادی، عبدالوحید، بقلم

خود عاشق حسین، گھوڑے والے، عبدالغفار، عبداللطیف، عبد

الرشید، عبدالوحید، محمد عرفان محمد یامین، محبوب حسن، شاہد حسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مطلقہ ثلاثہ کو بلا حلالہ کے اپنے پاس رکھنا حرام اور

زنا کاری ہے اور گناہ کبیرہ و عذاب الہی کا سخت خطرہ ہے، علاقہ اور برادری والوں پر لازم ہے کہ اسے سمجھا کر علیحدہ کر دیں اور اگر باز نہ آئے تو باز آنے تک برادری و علاقہ کے لوگ اس سے بائیکاٹ کر لیں، نکاح، شادی، کھانا پینا لین دین مسجد میں چندہ وغیرہ سب معاملات میں مقاطعہ کر لیں ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔

بقوله تعالى: وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ . (هود: ۱۳) (۱)
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . (المائدہ: ۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۴۲۴)

ہر فرد سے بلا امتیاز غریب و امیر جبراً تین کلواناج وصول کرنے کا حکم

سوال: [۸۱۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ کی جتنی بھی مساجد ہیں سب میں فی یونٹ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کے ۲۲ بچے ہوں تو اس کو ۳ کلونی یونٹ کے حساب سے ۶ کلو ہر فصل پر اناج دینا ہوتا ہے، اگر کسی کے ۱۰ بچے ہوں تو ۳۰ کلواناج دینا ہوتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب اور اگر کوئی نہ دے بوجہ غربت یا تنگدستی تو اس سے جبر و اکراہ کیا جاتا ہے، بصورت دیگر قبرستان میں دفن کرنے نہ دینا اسی طریقہ سے پنچایت فنڈ سے برتن نہ دینا وغیرہ قانون لاگو کر دیا جاتا ہے، اس لئے آپ سے درخواست ہے، کہ براہ کرم مسئلہ کا مفصل باحوالہ جواب عنایت فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا؟

المستفتی: محمد نوشاد، تارا پور، بڑھاپور، بجنور، پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں جو قانون بنایا گیا ہے، کہ گھر کے ہر ممبر کے لحاظ سے ۳ کلونی ممبر کے حساب سے اناج وصول کیا جائے گا، تو یہ اس وقت درست ہے، جبکہ تنگدست اور غریب کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے، غریب آدمی پر جبر و اکراہ کے ساتھ اناج وصول کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، سرمایہ داروں پر لازم ہے، کہ غریبوں کو اس سے مستثنیٰ کر کے خودیہ بوجھ اٹھائیں۔

عن أنس بن مالك ^{رض} أن رسول الله ^{صلی اللہ علیہ وسلم} قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. (دارقطنى، دارالكتب العلمية ٢٢/٣، رقم: ٢٨٦٢)

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. (دارقطنى، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢/٣/رقم: ٢٨٦٣ شعب الإيمان، باب فى قبض اليد عن الأموال المحرمه، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٣٨٧، رقم: ٥٤٩٢)

عن عمرو و بن يثربى قال: شهدت رسول الله ^{صلی اللہ علیہ وسلم} فى حجة الوداع بسمى فسمعته يقول: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيئاً إلا ما طابت به نفسه. (دارقطنى، البيوع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢/٣، رقم: ٢٨٦٠) فقط واللہ سبحانہ وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

١٤٣٦/٥/٣ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

٣ جمادى الاولى ١٤٣٦ھ

(الف فتوى نمبر: ١٢٠١٩/٣١)

۲۰ / الفصل العشرون: مسجد میں صدقات کا حکم صدقات واجبہ کی رقم سے مسجد کا غسل خانہ وغیرہ تعمیر کرنا

سوال: [۸۱۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں موضع حسام پور ضلع مراد آباد میں ایک جدید مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس میں پیسہ کی قلت کی وجہ سے غسل خانہ، پائخانہ، پیشاب گھر اور وضو خانہ کی نالی کچھ پیسہ زکوٰۃ و فطرہ کا رکھا ہوا تھا، اس سے بنا دیا اب اس مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: حافظ محمد یامین، حسام پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد یا کسی بھی طرح کی تعمیر میں زکوٰۃ یا صدقات واجبہ کی رقم کا صرف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اسلئے جن لوگوں نے غسل خانہ، پیشاب خانہ وضو خانہ وغیرہ کی تعمیر میں زکوٰۃ صدقہ فطر کی رقم خرچ کی ہے، وہ شرعاً حائل ہیں، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مسجد کے فنڈ یا اہل محلہ سے وصول کر کے زکوٰۃ و فطرہ کی خرچ شدہ رقم کو واپس کریں۔

لايجوز أن يبنى بالزكاة المسجد اه . (عالمگیری، الزكاة، الباب السابع

فی المصارف، زکریا قدیم ۱/۱۸۸، جدید ۱/۲۵۰)

قال رحمه الله وبناء مسجد أي لايجوز أن يبنى بالزكاة

المسجد؛ لأن التملك فيها شرط ولم يوجد . (تبيين الحقائق، مكتبه

امدادیہ ملتان ۱/۳۰۰، زکریا ۲/۱۲۰)

ويشترط أن يكون الصرف تملكياً لاإباحة كماמר لايجوز صرف إلى

بناء نحو مسجد . (شامی، الزكاة، باب المصارف، زکریا ۳/۲۹۱، کراچی

۳/۴/۲ (فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ ر شوال ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۲۴/۳۵)

روزہ کے فدیہ کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۱۶۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے مسجد بن رہی ہے، روزوں کا پیسہ مسجد میں لگا دوں، یا مدرسہ میں کھانے کیلئے دیدوں؟

المستفتی: سیدہ بیگم، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: روزے کا فدیہ غریب مسکین، لوگوں کو دینا لازم ہے، مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں دینا بھی جائز نہیں ہے، البتہ مدرسہ کے غریب طلباء کو دینا جائز ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدِيَةً (أَيِ اعْطَاءِهَا) طَعَامٌ مَسْكِينٍ . (سورہ بقرہ

آیت: ۱۸۳، روح المعانی زکریا ۲/۸۷)

ومصرف الزكوة هو فقير وتحتة في الشامية: وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيره ذلك من الصدقات الواجبة . (شامی، کتاب الزکاة، باب المصرف زکریا ۳/۲۸۳، کراچی

۳۳۹/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۵۵۳/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۴/۸ھ

قربانی کی کھال کی قیمت مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۶۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانان عالم جن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ان کی چرم کا صحیح مصرف کیا ہے؟ آیا مسجد کی تعمیر میں اس چرم کو فروخت کر کے اس کا روپیہ لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں؟

المستفتی: انتظار حسین، کھسیا کنڈہ، راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چرم قربانی کو بیچ کر رقم مسجد میں لگائی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لئے کہ جب قربانی کی کھال بیچ دی گئی تو اب اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، مساجد وغیرہ میں صرف کرنا ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۹/۳۱۷، جدید زکریا ۱۰/۴۱، فتاویٰ محمودیہ جدید ۱۷/۳۶۰، ڈابھیل ۱۷/۳۶۰، امداد الفتاویٰ زکریا ۳/۵۶۶، کفایت المفتی ۸/۲۴۷، جدید زکریا مطول ۱۲/۱۵۲، عزیز الفتاویٰ ۱۳/۷۱)

ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بشمنه لأن القرية انتقلت إلى بدله . (هدایہ ، کتاب الأضحیة اشرفی ۴/ ۴۵۰)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۲/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۹ صفر ۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۴۳۸/۳۸)

زکوٰۃ، تیجہ، چالیسویں کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۶۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زکوٰۃ کی

رقم تیجہ چالیسویں کی رقم مسجد میں لگ سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: جسیر احمد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زکوٰۃ کی رقم مسجد میں لگانا جائز نہیں:

ویشتر ط أن يكون الصرف تملكاً لا إباحة لا يصرف إلى بناء نحو

مسجد الخ. (درمختار، كتاب الزكاة، باب المصروف، زكريا ۳/۲۹۱، كراچی ۳/۴۴۴، وهكذافی التبيين زكريا ۲/۱۲۰، امدادیہ ملتان ۱/۳۰۰، ہندیہ زکریا قدیم ۱/۱۸۸، جدید ۱/۲۵۰)

اور تیجہ چالیسواں شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، لہذا نہ تیجہ وغیرہ کی اجازت ہے اور نہ ہی اسکی رقم مسجد میں دینے کی اجازت ہے، یہ اہل ہنود کی رسم ہے، جو مسلمانوں میں بھی داخل ہوگئی ہے۔

ویکمره اتخاذ الطعام فی اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع الخ.

(شامی، الصلاة، باب صلوة الجنازة، مطلب فی کراهة الضیافة من الميت، زکریا ۳/۴۸۱، کراچی ۲/۲۴۰، مرقاة، باب المعجزات، الفصل الثالث امدادیہ ملتان ۱/۲۲۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۶/۴۵)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۱۹/۱۱/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۱۹/۱۱/۱۳ھ

(الف توئی نمبر: ۵۹۱۹۳۳)

راستہ میں نل لگانے کیلئے دیئے گئے چندہ کو مسجد میں لگانا

سوال: [۸۱۶۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص

نے چندہ برائے نل علی طریق کیا اور اس میں مسلم غیر مسلم سب کا چندہ شامل تھا، چند دنوں تک نل رہا اس کے بعد فروخت کر دیا گیا تو اس روپیہ کا کیا کیا جائے، کیا مسجد میں لگا سکتے ہیں یا

نہیں؟ مفصل جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد ابراہیم، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو چندہ عام لوگوں سے ان کے فائدہ کے پیش نظر نل لگانے کیلئے کیا گیا تھا، اب اس نل کے خراب ہو جانے کے بعد نل کو بیچ کر اس رقم سے دوسرا نل لگوادیا جائے، ہاں اگر دوسرا نل لگوانے کی کوئی شکل نہ بن سکے اور اہل چندہ موجود نہیں ہیں، تو مسجد میں لگا سکتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں برضاء اہل چندہ مسجد میں لگا سکتے ہیں۔

والثانی أن لا یشرطه سواء شرط عدمه أو سکت لکن صار بحیث لا ینتفع به بالکلیۃ بأن لا یحصل منه شئی أصلاً أو لا یفی بمؤنته فهو ایضاً جائز علی الأصح الخ . (شامی، الوقف، مطلب فی استبدال الوقف وشروطه زکریا ۶/۵۸۳، ۵۸۴، کراچی ۴/۳۸۴، الموسوعة الفقهیة الكويتیة ۴/۱۹۶، الفقه الإسلامی

وأدلته هدی انٹرنیشنل دیوبند ۸/۲۱۹، دارالفکر ۱۰/۷۶۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۸/رجب ۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۷/۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵۲۳۳۱)

جبراً چندہ وصول کرنا

سوال: [۸۱۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بستی کے سردار نے دینی معاملات میں چندہ فکس کر رکھا ہے، کہ اتنا چندہ دینا ہی پڑے گا، اور زبردستی چندہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عید قربان کے موقع پر بستی کے سردار اور ممبران نے اپنی طبیعت سے چرم قربانی کی رقم فکس کر دی ہے، کہ ہر قربانی کرنیوالے کو اتنی رقم دینی ہوگی، اور نہیں دینے پر بستی کی طرف سے زبردستی ایکشن بھی ہوگا، اب دریافت طلب

امر یہ ہے کہ ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اور ایسا کرنے والوں پر حکم شرع کیا عائد ہوتا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حصول ثواب کی غرض سے چندہ دینا باعث اجر و ثواب ہے، اور کسی سے زبردستی چندہ وصول کرنا یا بقرعید کے موقع پر قربانی کرنیوالے کے ذمہ کوئی متعینہ رقم لازم کرنا یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے، جو کہ شرعاً کسی طرح جائز نہیں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: **الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** - (سورة البقرة: ۲۷۴)

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله ﷺ **أَلَا لَا تَظْلَمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ**. (مشکوٰۃ شریف/ ۲۵۵، شعب الإيمان للبيهقي، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۴۸۷، رقم: ۵۴۹۲، السنن الكبرى للبيهقي الغصب، قبيل باب من غصب جارية دارالفکر ۸/ ۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۵۶۵/۳۹)

تعویذ کی اجرت مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۸۱۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں بذات خود چراغی پر روحانی علاج کرتا ہوں اور مریضوں سے ہدیہ بطور کچھ لے لیتا ہوں، اور اس روپیہ کو میں مسجد یا مدرسہ میں امداد بطور دینا چاہتا ہوں، کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز اور اس روپیہ کو میں مسجد یا مدرسہ میں بطور امداد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تشریحی بخش جواب

سے نوازیں ممنون ہوں گا؟

المستفتی: محمد ہارون ولد امیر حسن
پیلہ جاگیر، قصبہ نور پور، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ میں جو چراغی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے چراغ کے ذریعہ تعویذ گندہ کرنا مراد ہے؟ اگر یہی مراد ہے تو اس طرح چراغ اور اس کی روشنی کے ذریعہ تعویذ گندہ کا علاج کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جائز طریقہ سے جو تعویذ گندہ کا علاج کیا جاتا ہے، اس کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے۔

والرقی المجہولۃ والتی بغیر العربیۃ وما لا یعرف معناها فہذہ مذمومۃ لاحتمال أن معناها کفر أو قریب منه أو مکروہۃ وأما الرقی بآیات القرآن وبالأذکار المعروفۃ فلانہی فیہ . (شرح النووی علی مسلم ، النسخۃ الہندیۃ ۲/۲۱۹)

إنما تکرہ العوذۃ إذا کانت بغیر لسان العرب ولا یدری ماہو ولعلہ یدخلہ سحر أو کفر أو غیر ذلک ، وأما ماکان من القرآن أو شیئی من الدعوات فلا بأس بہ . (شامی، کتاب الحظر والإباحۃ زکریا ۵۲۳/۹، کراچی ۳۶۳/۶)

إن اللہ تعالیٰ لا یقبل إلا الطیب فیکرہ تلویث بیته بما لا یقبلہ . (شامی، الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکرہ فیہا قبیل مطلب فی أفضل المساجد زکریا ۴۳۱/۲، کراچی ۶۵۸/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۴/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ رجب الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۶۰/۳۹)

۲۱ / الفصل الحادی والعشرون: مسجد میں تعلیم

حدود مسجد میں بچوں کو تعلیم دینے کی شرعی حیثیت

سوال: [۸۱۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی حدود کے اندر مکاتب کی شکل میں چھوٹے بچے اور بچیوں کو تعلیم دینا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمد مشرد، الہ آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے اندر مکتب قائم کر کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی قرآن کریم اور دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور استاذ کی تنخواہ مسجد کے ذمہ دار یا مکتب کے ذمہ دار ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان بچوں سے فرداً فرداً فیس نہیں لی جاتی تو مسجد کے اندر اس طرح کے مکتب قائم کر کے تعلیم کا سلسلہ قائم کرنا بلاشبہ جائز و درست ہے، ہاں البتہ بچوں سے فرداً فرداً فیس لیکر کے مسجد میں تعلیم دینے کو بعض فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اور یہاں ایسا نہیں ہے، اس میں فقہاء کی دونوں طرح کی عبارتوں کی تطبیق ہوگئی اور دیگر کتب فقہ میں جو دونوں طرح کی عبارتیں ہیں، اس کا بھی وہی مطلب ہے جو لکھا گیا ہے۔

فلا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد مابني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقرآءة القرآن - حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه. (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد وما يكره فيها، زكريا ۶۰/۲، كوئنه ۳۴/۲)

وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به. (شامی، کتاب

الخطر والإباحة، باب الاستبراء وغيره زكريا ۶۱۳/۹، كراچی ۴۲۸/۶، الموسوعة

الفقیہة الكويتية ۲۰۰۶/۳۷، خلاصة الفتاوى اشرفیه ۲۹۹/۱

جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره
إلا لضرورة. (شامی، زکریا ۹/۶۱۳، کراچی ۶/۴۲۸)

معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا
التعليم إن بأجر كره إلا لضرورة. (بزازیه، الفصل السادس والعشرون في حكم

المسجد جدید ۱/۵۵، وعلى هامش الهندية ۴/۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹ ذیقعدہ ۱۴۳۵ھ

۱۱/۱۹/۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۲۹/۴۱)

مسجد میں بچوں کو تعلیم دینا

سوال: [۸۱۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں
میں ایک مسجد ہے اور اس میں امام صاحب گاؤں کے بچوں کو کلام پاک کی تعلیم دیتے ہیں، یہ
درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد انصار، موضع سہالی بلاری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا درست
ہے، جبکہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہو البتہ مسجد کا احترام ملحوظ رہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ
۳۰۰/۱۰، جدید ڈائجیل ۱۴/۶۰۶)

أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم
الصبيان بضرورة الحرأ وغيره لا يكره. (عالمگیری، الصلوة، فصل كره غلق باب

المسجد زکریا قدیم ۱/۱۱۰، جدید ۱/۱۶۹)

لیکن بچے اتنے چھوٹے ہوں جو پاکی کی تمیز نہ کر سکتے ہوں اور پاخانہ پیشاب کرنے

کا خطرہ ہو تو ایسے بچوں کو مسجد میں بٹھا کر تعلیم نہیں دینی چاہئے کہ کہیں مسجد ملوث نہ ہو جائے۔
 عن واثلة بن الاسقع ، أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: جنبوا
 مساجدکم صبیانکم و مجانینکم ، و شراء کم ، و بیعکم ، و خصوصاتکم
 الحدیث: (سنن ابن ماجہ ، باب ما یکرہ فی المساجد ، النسخة الهندیة / ۴ ، ۵ ، دار السلام
 رقم: ۷۵۰ ، المعجم الکبیر للطبرانی ، دار احیاء التراث العربی ۱۳۲/۸ ، رقم: ۷۶۰۱ ،
 ۱۷۳/۲۰ ، رقم: ۳۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۳۲۰/۵/۲۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ / جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۴۲ / ۶۱۷۱)

چھوٹے بچوں کو مسجد میں تعلیم دینا

سوال: [۸۱۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید جو کہ ایک مدرسہ میں تنخواہ دار معلم ہے وہ اپنے بچوں کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے، کل بچے بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں، جن میں نابالغ چھوٹے بچے بھی ہیں، جو پاپی ناپاکی کو نہیں جانتے اور مدرسہ میں ان استاذ کی متعلقہ درسگاہ بھی ہے، اراکین مدرسہ کے کہنے پر اور اصرار پر بھی وہ اپنی درسگاہ میں نہیں پڑھاتے ایسی صورت حال میں مفصل و مدلل جواب مطلوب ہے، صورت مسئلہ میں مسجد میں بیٹھنا کیسا ہے، دوسرے ان استاذ کا یہ فعل کیسا ہے؟
 المستفتی: احمد حسین، رکن مدرسہ عربیہ جامع العلوم شہرائنگر، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب چھوٹے بچوں کے پڑھنے کیلئے باقاعدہ درسگاہ موجود ہے، اور ذمہ داران مدرسہ بھی درسگاہ ہی میں پڑھانے کا حکم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بلا ضرورت اور مجبوری ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں پڑھانا اور شور و تماشا کا سبب بننا احترام مسجد کے خلاف امور کا مرتکب ہونا ہے جو ناجائز اور ممنوع ہے۔

عن وائلة بن الاسقع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ، مجانينكم ، وشراءكم ، وبيعكم ، وخصوصاً ماتكم الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب ما يكره في المساجد ، النسخة الهندية / ٤ ، دار السلام رقم: ٧٥٠ ، المعجم الكبير للطبراني ، دار احياء التراث العربي ١٣٢/٨ ، رقم: ٧٦٠١ ، ١٧٣/٢٠ ، رقم: ٣٦٩) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ رجب ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۷۲۳۸)

مسجد میں مکتب قائم کرنا

سوال: [۸۱۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دیہات کی اکثر مسجدوں میں صحیح وقت پر اذان اور جماعت سے نماز پابندی سے نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ دیہات کے آدمی اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو کیا ایسی مسجدوں کے اندر مکتب قائم کرنا کہ بچوں کی تعلیم بھی ہو اور وقت پر اذان و نماز بھی ہو تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیں۔

المستفتی: اسرار الحق، کشن گنج، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں نماز باجماعت پابندی کے ساتھ قائم کی جائے، اس مقصد سے مسجد میں مکتب قائم کرنا جائز ہے، بشرطیکہ مسجد میں ایسے نا سمجھ بچوں کو نہ لایا جائے، جن کے مسجد میں پیشاب پانچا نہ کر دینے کا خطرہ ہو اور مسجد کے آداب و احترام کا پورا اہتمام رکھا جائے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۲۵۶)

عن وائلة بن الاسقع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم ، وبيعكم ، وخصوصاً ماتكم الحديث: (سنن ابن ماجه ، باب ما يكره في المساجد ، النسخة

الہندیہ/۵۴، دارالسلام رقم: ۷۵۰)

قوله لا لدرس و ذکر لأنه ما بنی لذلك وإن جاز فیہ الخ . (شامی،
الصلوة ، باب ما یفسد الصلاة ، وما یکره فیها ، مطلب فیمین سبقت یدہ الیٰ مباح زکریا
۴۳۷/۲، کراچی ۱/۶۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۵/۱۴۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۳۰۸/۳۸)

بچوں کو مسجد میں تنخواہ لیکر پڑھانا

سوال: [۸۱۷۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بچوں کو
مکتب میں قرآن وغیرہ پڑھانے کیلئے مسجد سے الگ کوئی مستقل جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت
میں تنخواہ لیکر مسجد میں بچوں کو مکتب قائم کر کے پڑھانا درست ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمد برہان، مہاراشٹری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تنخواہ دار شخص کیلئے مسجد میں بچوں کو مکتب
قائم کر کے پڑھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے جبکہ ان بچوں سے الگ سے کوئی
فیس نہ لیتا ہو اس سلسلہ میں فقہاء کے دو طرح کے جزئیات دیکھنے میں آئیں گے، بعض
وہ جزئیات ہیں، جن میں بظاہر ممانعت نظر آئیگی، ان جزئیات کا مطلب یہ ہے کہ
اسلامی دور حکومت میں مفتی، قاضی اور مدرس کو سرکاری بیت المال سے وظیفے کے طور
پر تنخواہیں ملتی تھیں، پھر ایسے مدرسین مسجد میں بیٹھ کر ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، جن لڑکوں
کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، انہیں سے فیس بھی لیا کرتے تھے، اس طرح مسجد
میں پیکھ کر ٹیوشن پڑھانا اور انہیں بچوں سے الگ سے فیس لینا آج بھی مکروہ اور ممنوع
ہے، اور دوسری قسم کی جزئیات صاف الفاظ کے ساتھ بلا کراہت جواز کے حق میں
ہیں، ان کا مطلب یہی ہے، کہ تنخواہ دار مدرس ان لڑکوں سے کسی قسم کی فیس نہ لیتا ہو،

یہی مطلب ہے حضرات فقہاء کے دونوں قسم کے جزئیات کا لہذا مساجد یا مدارس کے تنخواہ دار ملازم کیلئے مسجد میں مکتب پڑھانا بلا کراہت جائز اور درست ہے، جبکہ ان بچوں سے الگ سے کوئی فیس وغیرہ نہ لیتا ہو۔

ویکسرہ أن یخیط فی المسجد لأنه أعد للعبادة دون الإکتساب وکذا
الوراق والفقیة إذا کتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبیان بأجرة . (قاضیخان،
کتاب الطهارة، فصل فی المسجد زکریا جدید ۴۳/۱، وعلی هامش الہندیة ۶۵/۱)

وتعلیم الصبیان فیہ بلا أجر وبالأجر یجوز . (بزازیہ، کتاب
الکراهیة، الفصل الاول نوع فی المسجد زکریا جدید ۲۰۱/۳، وعلی هامش
الہندیہ ۳۵۷/۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۳/۱۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۴۹/۳۷)

مسجد میں اجرت لے کر بچوں کو قرآن پڑھانا

سوال: [۸۱۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے اندر تعلیم قرآن کا سلسلہ چند ماہ سے چل رہا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) اس کا قیام مسجد کے اندر کیا گیا ہے، باہر کسی اور جگہ بالکل کوئی نظام نہیں ہے۔
(۲) اس کو فروغ دینے اور سنبھالنے کیلئے محلہ والوں نے ایک مستند و مشاق قاری
و عالم دین کو بٹھا رکھا ہے۔

(۳) پڑھنے والے طلبہ پر ماہانہ فیس مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ طلبہ بخوشی ادا کرتے
ہیں، اور یہی درحقیقت معلم صاحب کی تنخواہ کا واحد ذریعہ ہے، چندہ وغیرہ کا کوئی سلسلہ
نہیں رکھا گیا ہے، اب ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کہ کیا یہ نظام شرعی نقطہ نظر
سے صحیح ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسجد کے اندر فیس لیکر تعلیم دینا جائز

نہیں ہے، لہذا آپ فیصلہ فرما دیں نیز یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اس عمل میں دخل اندازی کر کے، نظام کو بند کرانا چاہتا ہے، بلاوجہ طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو شرعاً اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: احقر محمد عرفان قاسمی،
واہل محلہ ضیاء خیل، ضلع: شاہجہانپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس مسئلہ کے بارے میں کتب فقہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت درس و تدریس کا کام کرنا مکروہ ہے اور ضرورت کی وجہ سے مسجد کے اندر درس دینے کی گنجائش ہے، فقہاء نے شدت گرمی کی علت جگہ جگہ لکھی ہے کہ گرمی سے بچنے کیلئے ضرورہ مسجد میں درس دینا بلا کراہت جائز ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ اگر دینی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم کیلئے کوئی جگہ ہی نہ ہو تو مجبوراً مسجد میں تعلیم دینا بھی اہم ترین ایک ضرورت ہے، اور فتاویٰ بزازیہ میں ایک جگہ اجرت اور فیس لے کر کے درس دینے کو مکروہ لکھا ہے، اب دونوں قسم کی عبارات کے درمیان تطبیق اور موافقت کی بہتر شکل یہی معلوم ہوتی ہے، کہ جس طرح بغیر اجرت کے حسبہ اللہ مسجد کے اندر درس دینا بلا کراہت جائز ہے، اسی طرح تنخواہ دار معلم جو براہ راست بچوں سے فیس نہیں لیتے ان کے لئے بھی بچوں کو مسجد میں درس دینا بلا کراہت جائز ہے، اور بچوں سے فیس لے کر ٹیوشن پڑھانا مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، لہذا مذکورہ مسئلہ میں مناسب شکل یہ ہے کہ جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، دوسرے آدمی ان بچوں سے فیس وصول کر لیں پھر بچوں کو پڑھانے والے معلم کو ہر مہینہ تنخواہ کے طور پر دیا جائے تو کراہت بھی ختم ہو جائیگی، ایسی صورت میں فقہاء کی دونوں قسم کی عبارتوں کے درمیان کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے، اب فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیے۔

وتعلیم الصبیان فیہ بلا أجر و بالأجر یجوز . (بزازیہ، کتاب الکراہیۃ،

الفصل الأول نوع فى المسجد زكريا جديد ٣/٢٠١، وعلى هامش الهندية ٦/٣٥٧) معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعليم إن بأجر كرهه إلا للضرورة وإن حسبه لا . (بزازيه، زكريا جديد ١/٥٥، وعلى هامش الهندية ٤/٨٢)

أما الكاتب ومعلم الصبيان فإن كان بأجر يكرهه وإن كان حسبه فقيل لا يكرهه والوجه ما قاله ابن الهمام أنه يكرهه التعليم إن لم يكن ضرورة؛ لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا يخلو عما يكرهه فى المسجد . (حلبى كبير، اشرفيه /٦١١، ٦١٢)

ويكرهه أن يخيط فى المسجد لأنه أعد للعبادة دون الا كتساب كذا الوراق والفقيه إذا كتب بأجرة وأما المعلم إذا علم الصبيان بأجرة وإن فعلوا بغير أجرة فلا بأس به . (خانية، كتاب الطهارة فصل فى المسجد زكريا جديد ١/٤٣، وعلى هامش الهندية ١/٦٥، ٦٦)

معلم جلس فى المسجد أو وراق كتب فى المسجد، فإن كان المعلم يعلم بالأجر والوراق يكتب لغيره، يكرهه لهما إلا أن يقع لهما الضرورة . (تاتار خانية، زكريا ١٨/٦٦، رقم: ٢٨٤٧)

أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لا يكرهه وفى نسخة الإمام جعل مسألة المعلم كمسئلة الكاتب . (هندية، الصلاة، فصل كره غلق باب المسجد زكريا قديم ١/١١٠، جديد ١/١٦٩)

ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبه لا بأس به . (اعلاء السنن ٥/١٣٣، دارالكتب العلمية بيروت ٥/١٧٩، الموسوعة الفقهية ٦/٢٠٦، فتح القدير كوئته ١/٣٦٩، زكريا ١/٤٣٥، دارالفكر ١/٤٢٢، خلاصة الفتاوى اشرفيه ١/٢٢٩، حلبى كبير، مسهيل اكيڈمى لاهور/٦١٢، حاشية ابن ماجه

۵۴/ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/رجب المرجب ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۹۷/۴۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۷/۱۴۳۵ھ

منجانب مسجد یا مدرسہ تنخواہ یافتہ معلم کیلئے بلا فیس مسجد میں تعلیم دینا

سوال: [۸۱۷۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارا ادارہ دینیات جو کہ ممبئی سینٹر پر واقع ہے اس کی ماتحتی میں بفضلہ تعالیٰ تقریباً بیس ہزار مکاتب چل رہے ہیں، جو کہ امدادی وغیر امدادی مکاتب کا مجموعہ ہیں، ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے، کہ ہم ان مکاتب کو خود کفیل بنائیں کہ جس مقام پر جو مکتب واقع ہے ان کے ذمہ داران خود تعاون کر کے یا بچوں سے فیس وصول کر کے مکاتب چلائیں، جس سے اساتذہ کی تنخواہ اور دیگر ضروریات میں خرچ کیا جاوے؟

آپ سے سوال یہ عرض کرنا ہے، کہ اکثر مکاتب مساجد میں چلتے ہیں، کیونکہ مکاتب اور مساجد میں ایک جوڑ ہے اب سوال یہ ہے کہ مساجد میں مکاتب کی تعلیم ہو رہی ہے، اور مکاتب چلانے کیلئے اساتذہ کی تنخواہ کیلئے رقم کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو مساجد میں پڑھنے والے طلبہ سے فیس وصول کر کے پوری کر سکتے ہیں، یا نہیں؟ اگر نہیں تو معقول اور مناسب طریقہ تجویز فرمائیں، تاکہ حدود شرع میں رہ کر یہ کار خیر انجام دیا جاسکے؟

المستفتی: ادارہ دینیات، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں منجانب مسجد یا منجانب مدرسہ یا منجانب انجمن یا کسی اور جانب سے تنخواہ یافتہ معلم کیلئے طلبہ سے فیس لئے بغیر تعلیم دینا بلا کراہت جائز ہے، لیکن جن طلبہ کو پڑھایا جا رہا ہے، انہی سے فیس لے کر مسجد میں درس دینا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اسلئے طلبہ سے فیس لیکر مساجد میں مکاتب چلانے سے گریز کرنا چاہئے۔

ولو جلس المعلم في المسجد..... فان كان المعلم يعلم للحسبة
 فلا بأس به ، وإن كان بالأجرة يكره . (هندیہ ، کتاب الکراهیۃ ، الباب الخامس فی
 آداب المسجد..... زکریا قدیم ۳۳۱/۵ ، جدیدہ ۳۷۱/۳)
 معلم الصبیان القرآن کالکاتب ، وإن کان لأجر یکره الخ . (فتح القدیر
 زکریا ۴۳۵/۱ ، کوئٹہ ۳۶۹/۱ ، دارالفکر ۴۲۲/۱)

یکرہ الصناعۃ فیہ عن خیاطۃ و کتابۃ بأجر و تعلیم صبیان بأجر
 لا بغيره . (الاشباہ والنظائر کراچی ۴/۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۸ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۲۳۳۹)

باجرت معلم کا مسجد میں درس دینا

سوال: [۸۱۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تنخواہ
 دار مدرس کو مسجد کے اندر پڑھانا از روئے شرع کیسا ہے؟
 المستفتی: عارف حسین ، اصالت پورہ ، مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد میں دینی تعلیم کا درس دینا مثلاً قرآن
 حدیث فقہ تفسیر کا درس دینا بلا تردد اور بلا کراہت جائز ہے اور جن فقہی جزئیات میں عدم
 جواز یا کراہت کی بات لکھی ہوئی ہے، ان جزئیات کا مدار اس بات پر ہے کہ مسجد کے
 اندر طلبہ سے فیس لے کر ٹیوشن کے طور پر پڑھانا جائز نہیں ہے، اور جن طلبہ کو پڑھایا جا رہا
 ہے ان سے کچھ لئے بغیر درس دیا جائے، تو اس کے جواز میں کوئی تردد نہیں ہے،
 دارالعلوم دیوبند کا آغاز چھتہ مسجد کی تعلیم سے ہوا ہے، اور مرکز نظام الدین بنگلہ والی
 مسجد میں تعلیمی سلسلہ کے ذریعہ سے مدرسہ کاشف العلوم مرکز نظام الدین قائم ہوا ہے،

اس کے بعد وہاں سے تبلیغی دعوت کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں تاریخی مدارس کی ابتداء مساجد ہی سے ہونا ثابت ہے اور ان مدارس میں طلبہ سے فیس لے کر نہیں پڑھایا جاتا۔

وتعلیم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز . (بزازیہ ، کتاب الکراہیۃ،

الفصل الاول نوع فی المسجد، زکریا جدید ۳/۲۰۱، وعلی ہامش الہندیۃ ۶/۳۵۷)

يجوز الدرس فی المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود، والبوارى

المسبلة لأجل المسجد . (البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۰، زکریا ۵/۴۱۹، ہندیہ

زکریا جدید ۵/۳۷۰، قدیم ۵/۳۲۰)

لأن المساجد مابنى إلا لها (للعبادة) من صلوة واعتكاف وذكر

شرعى وتعليم علم، وتعلمه وقراءة القرآن . (البحر الرائق، کوئٹہ ۲/۳۴، زکریا

دیوبند ۲/۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۴۳۲ھ

۱۴/زیقعدہ ۱۳۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۲۹)

مسجد میں اجرت لیکر تعلیم دینا

سوال: [۸۱۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدرسہ

جامع الہدیٰ میں ایک بڑی مسجد ہے جس کی ایک منزل مکمل ہو چکی ہے، اور دوسری منزل کی

تعمیر جاری ہے، مہتمم مدرسہ کا آئندہ وقت میں مسجد کی دونوں منزلوں یا دوسری منزل میں حفظ

قرآن اور عربی تعلیم شروع کرنے کا ارادہ ہے، یہ بھی واضح رہے کہ مدرسہ کی عمارت وسیع ہے

اور حفظ قرآن اور عربی درجات اس میں جاری ہیں، صاحب احسن الفتاویٰ نے لکھا ہے، کہ

تنخواہ دار مدرس کا مسجد میں پڑھانا جائز نہیں ہے، کیا اس مسئلہ کا مدار تنخواہ دار ہونے پر ہے،

اگر ایسا ہے تو اس زمانہ میں غیر تنخواہ دار مدرس کا ملنا ایک مشکل مسئلہ ہے، فتاویٰ رحیمیہ میں

چھوٹے بچوں کیلئے ناجائز اور بڑے بچوں کیلئے بدرجہ مجبوری کچھ مخصوص وقت کیلئے جائز ہے، اسی طرح فتاویٰ دارالعلوم میں جائز لکھا ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مسجد کی پہلی منزل یا دوسری یا تیسری یا دوچھتی میں حفظ قرآن یا عربی درجات لگا سکتے ہیں نیز جواب میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کیا اس مسئلہ میں تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کا کوئی فرق ہے، اسی طرح چھوٹے یا بڑے بچوں کا اور حفظ اور عربی تعلیم کا کوئی فرق ہے؟

المستفتی: مفتی اشرف، جامع الہدیٰ، کھاری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اندر اجرت لیکر دینی کتابوں کی تعلیم و تدریس کا فقہاء کی بعض عبارات سے مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ویکرہ أن یخیط فی المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاکتساب
وکذا الوراق والفقہ إذ اکتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان
بأجرة . (قاضیخان ، کتاب الطہارۃ ، فصل فی المسجد ، زکریا جدید ۴۳/۱ ،
وعلی ہامش الہندیۃ ۶۵/۱)

اور بعض عبارات سے اجرت کیساتھ تعلیم و تدریس بلا کراہت جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔
وتعلیم الصبيان فیہ بلا أجرۃ وبالأجر یجوز . (بزازیہ ، الکراہیۃ ، الفصل

الأول نوع فی المسجد ، زکریا جدید ۳/۲۰۱ ، علی ہامش الہندیۃ ۶/۳۵۷)

اب فقہاء کی ان متعارض عبارتوں کے درمیان تطبیق اور موافقت کی صورت یہ ہے کہ جن عبارتوں میں کراہت یا عدم جواز لکھا گیا ہے، یہ اس زمانہ کی بات ہے، جس میں مفتی، قاضی، فقیہ، مدرس وغیرہ کو منجانب حکومت تنخواہ دی جاتی تھی، اور پھر الگ سے اجرت لیکر ٹیوشن پڑھانا مکروہ ہے، اور یہ حکم آج بھی ہے، اور جن عبارتوں سے جواز کا ثبوت ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ دار مدرس جس مدرسہ کا مدرس ہے اسی مدرسہ کے طلباء کو مسجد کے اندر درس دیدے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اسلئے کہ اس مدرس کو منجانب

مدرسہ تنخواہ ملتی ہے اور جن طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی طرف سے الگ سے کوئی اجرت نہیں ملتی ہے، اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کو مسجد کے اندر درس دینا بلا کر اہت و بلا تر د جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/شوال ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۷/۷۷۷۷)

مسجد میں اجرت لیکر پڑھانا

سوال: [۸۱۷۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں تدریسی خدمت انجام دینا کیسا ہے؟ اور اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟
المستفتی: ساجدانور، سینٹا مڑھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے اندر تنخواہ دار ملازم کیلئے ہوشیار بچوں کو دینی تعلیم کا درس دینا بلا کر اہت جائز ہے، جیسا کہ فتاویٰ بزازیہ کی عبارت سے واضح ہوتا ہے، ملاحظہ ہو۔

وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز . (فتاویٰ بزازیہ، کتاب الکراہیۃ،

الفصل الاول نوع فی المسجد، زکریا جدید ۲۰۱/۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۳۵۷/۶)
اور فقہ کے بعض دوسرے جزئیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہ اجرت لیکر مسجد میں درس دینا ممنوع اور مکروہ ہے، ان عبارات اور جزئیات کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ٹیوشن پڑھایا جائے، کہ جن طلباء کو پڑھایا جائے ان طلباء سے فیس لی جائے، اور حکومت اسلامی کے شروع دور میں منجانب حکومت مدرس قاضی مفتی کیلئے تنخواہیں مقرر تھیں، اور تنخواہ ہونے کے ساتھ الگ سے اجرت لیکر مسجد میں درس دینے کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا گیا تھا، لہذا اگر منجانب حکومت تنخواہ پانے والا مدرس یا منجانب مدرسہ تنخواہ پانے والا مدرس مسجد میں درس دیتا ہے، اور طلباء سے الگ سے فیس اور اجرت نہیں لیتا ہے، بلکہ منجانب حکومت

پامناجب مدرسہ جو تنخواہ ملتی ہے، اسی پر اکتفاء کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں پیٹھکھری دینی تعلیم دلانا بلا کراہت جائز اور درست ہے، فقہ کی دونوں قسموں کی عبارتوں کا مطلب یہی ہے، اس سے دونوں کے درمیان مطابقت اور موافقت ہو جاتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۰۳۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲۲

تنخواہ دار مدرس کا مسجد میں تعلیم دینا

سوال: [۸۱۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا تنخواہ دار مدرس مسجد میں تعلیم و تدریس کا کام انجام دے سکتا ہے، اگر دے سکتا ہے، تو اس عبارت کا کیا مطلب ہوگا، جس میں بعض فقہاء کرام نے مساجد میں تعلیم بالا جر کو ناجائز لکھا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: بندہ محمد شفیق قاسمی، خادم التدریس:

مدرسہ بیت العلوم، ہرائے میر، اعظم گڑھ، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس بارے میں فقہاء کی دو قسم کی عبارتیں موجود ہیں، (۱) وہ عبارات جن میں اس بات کی وضاحت ہے، کہ اجرت لیکر مسجد میں درس دینا جائز نہیں ہے، اور بلا اجرت کے درس دینا جائز ہے، نیز اس کی بھی فقہاء نے وضاحت کی ہے، کہ اتنے چھوٹے بچوں کی تعلیم مسجد میں نہیں ہونی چاہئے، جن سے پانخانہ و پیشاب کا خطرہ ہے، اسی طرح مجنون پاگل کو مسجد میں داخل کرنے سے گریز کرنے کی وضاحت کی ہے تاکہ مسجد کا احترام باقی رہے، اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم احترام مسجد کینکھلا نہیں ہے، جیسا کہ بحر کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

و كذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن

يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام
المسجد كوثه ۵/ ۲۰۰، زكريا ۵/ ۴۱۹)

(۲) دوسری قسم کی عبارات وہ ہیں، جن میں مطلقاً اس بات کی صراحت موجود ہے،
کہ اجرت اور بلا اجرت دونوں صورتوں میں مسجد میں درس دینا جائز ہے، بشرطیکہ احترام مسجد
کا خیال رکھا جائے، جیسا کہ حسب ذیل عبارات سے واضح ہے۔

لايجعل شيئاً من الطريق مسجداً ولا شيئاً من المسجد طريقاً
للعامة وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز . (بزازیہ علی ہامش
الہندیہ ۶/ ۳۵۷، جدید ۳/ ۲۰۱)

اب دونوں قسم کی عبارتوں کے درمیان تطبیق اور موافقت کی شکل یہی ہے کہ حضرات
فقہاء کے زمانہ میں قاضی مفتی اور مدرس کے وظائف منجانب حکومت مقرر ہوا کرتے تھے،
پھر مسجد کے اندر بچوں سے الگ اجرت لیکر ٹیوشن کے طور پر جو لوگ درس دیا کرتے تھے، تو
ان کے لئے یہ مسئلہ لکھ دیا کہ انہی بچوں سے اجرت لے کر ٹیوشن کے طور پر پڑھانا ممنوع
ہے، آج بھی یہی حکم ہے، کہ کوئی عالم با تنخواہ ہو یا بے تنخواہ مسجد میں بیٹھ کر ٹیوشن پڑھائے گا
تو اسکی اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ فقہاء کی ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے، جن میں اجرت
لیکر مسجد میں تعلیم دینے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی عالم کسی مدرسہ کا با تنخواہ مدرس ہے، اور
اس مدرسہ کے طلبہ کو مسجد میں درس دیتا ہے، اور منجانب مدرسہ جو تنخواہ ملتی ہے، اسکے علاوہ
طلبہ سے الگ سے پڑھانے کی اجرت نہیں لیتا ہے، تو بلاشبہ جائز و درست ہے، اسی وجہ سے
فقہاء نے ساتھ میں اس طرح کی عبارات بھی وضاحت کیسا تھ لکھی ہیں، کہ اگر بغیر اجرت
مسجد میں پڑھاتا ہے تو جائز ہے یعنی ان بچوں سے کوئی اجرت نہیں لی جاتی ہے، جن کو مسجد
میں پڑھایا جاتا ہے، اور صدیوں سے اکابر و مشائخ نے مسجد میں جو درس دیا ہے، یا مسجد سے
جو درس حاصل کیا ہے وہ اسی طریقہ سے تھا اور آج بھی بہت سے بڑے بڑے مدارس میں

یہی سلسلہ جاری ہے، کہ مدارس کے باخواہ مدرسین مسجد کے اندر منجانب مدرسہ درس دیا کرتے ہیں، مگر بچوں سے کچھ نہیں لیتے، تو حاصل یہ نکلا کہ مسجد میں اجرت لیکر یٹوشن پڑھانا جائز نہیں ہے، اور بچوں سے اجرت لئے بغیر تنخواہ داریا بے تنخواہ علماء کیلئے احترام مسجد کا خیال رکھتے ہوئے، درس دینا بلا تردد جائز ہے، جیسا کہ بزازیہ کی عبارت اوپر گذر چکی ہے، اور ذیل کی اس طرح کی عبارات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔

فلایجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤمناً من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد مابني' إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها زكريا ۶۰/۲، كوئٹہ ۳۴/۲)

يجوز المدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود والبوارى المسبلة لأجل المسجد. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئٹہ ۲۵۰/۵، زكريا ۴۱۹/۵، هندیہ زكريا قديم ۳۲۰/۵، جديد ۳۷۰/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 ائق محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۹/۵/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۹۶۰۶۳۸)

مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینے کا حکم

سوال: [۸۱۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ ناچیز ایک فتویٰ کا طالب ہے، جو مندرجہ ذیل عبارتوں میں درج ہے، ایک مسجد ہے جس میں اہل محلہ کے بچے بحیثیت مدرسہ وقت مقررہ کے مطابق حصول علم دین کیلئے بھی آتے ہیں، جن کو مسجد ہذا کے امام صاحب تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی فیس مسجد کے متولی صاحب کے پاس جمع ہوتی ہے، اور اہل محلہ کے چند افراد ایسے بھی ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو خصوصی تعلیم کے

لئے اور اسکولی بچے وقت پر مدرسہ نہ پہنچ پانے کی بناء پر بغیر وقت مدرسہ دریں مسجد روانہ کرتے ہیں، اور امام صاحب مسجد ہذا میں بٹھا کر تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگائے ہوئے وقت کا اجر (فیس) بھی لیتے ہیں، تو کیا امام صاحب کیلئے یہ جائز ہے کہ مسجد میں بیٹھا کر درس دینے کے بعد اپنے بتائے ہوئے وقت کا اجر (فیس) لیں؟

المستفتی: شمس الحق، انصاری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اندر اجرت لیکر تعلیم و تدریس کے جواز و عدم جواز سے متعلق دونوں قول فقہاء سے منقول ہیں، مگر راجح قول یہی ہے کہ بلا کراہت جائز ہے، جبکہ بچوں کے مسجد میں پیشاب و پاخانہ کا خطرہ نہ ہو۔

وتعلیم الصبیان فیہ بلا أجر وبالأجر یجوز. (بزازیہ، کتاب

الکراہیۃ، الفصل الاول نوع فی المسجد، زکریا جدید ۳/۲۰۱، وعلی ہمامش
الہندیۃ ۶/۳۵۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۵/۱۴۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۰۶۵۷۵)

معلم مدرسہ کا مسجد میں درس و تدریس کا حکم

سوال: [۸۱۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ایک معلم جو مدرسہ میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہا ہے، اور مدرسہ میں درس گاہ بھی موجود ہے، جس میں درس کا کام انجام نہیں دیتا، بلکہ روزانہ مسجد میں پڑھاتا ہے اور یہی مشغلہ ہے جبکہ تنخواہ مدرسہ سے لیتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ معلم مسجد میں درس دے سکتا ہے، یا نہیں، از روئے شرع تشفی بخش جواب مطلوب ہے؟

(۲) دوسرا مسئلہ غور طلب یہ ہے کہ اگر مدرسہ کی کمیٹی اس معلم کو مسجد میں پڑھانے کی

اجازت دیتی ہے، تو کیا وہ پڑھا سکتا ہے، یا نہیں؟ اگر اجازت نہ دی گئی تو ایسی صورت میں کیا جواز ہوگا، قرآن وحدیث کے زیر اثر جواب دیں؟

المستفتی: احمد علی، آسامی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) مسجد کے اندراجرت لیکر دینی کتابوں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں فقہاء کی بعض عبارات سے مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ویکبرہ أن یخیط فی المسجد لأنه أعد للعبادة دون الاکتساب ، وکذا الوراق ، والفقیه إذا کتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبیان بأجرة . (قاضیخان، کتاب الطہارۃ ، فصل فی المسجد ، زکریا جدید ۱/۴۳ ، وعلی ہامش الہندیۃ ۱/۶۵)

اور بعض عبارات سے اجرت کے ساتھ تعلیم و تدریس کا بلا کراہت جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

وتعلیم الصبیان فیہ بلا أجر وبالاجر یجوز . (فتاویٰ بزازیہ ، کتاب الکراہیۃ ، الفصل الاول نوع فی المسجد ، زکریا جدید ۳/۲۰۱ ، وعلی ہامش الہندیۃ ۶/۳۵۷)

اب فقہاء کی ان متعارض عبارتوں کے درمیان تطبیق اور موافقت کی صورت یہ ہے کہ جن عبارتوں میں کراہت یا عدم جواز لکھا گیا ہے، یہ اس زمانہ کی بات ہے، جس میں مفتی، قاضی، فقیہ، مدرس وغیرہ کو منجانب حکومت تنخواہ دی جاتی تھی، اور پھر الگ سے اجرت لے کر مسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے یعنی مسجد کے اندر تنخواہ دار ملازم کے لیے الگ سے اجرت لے کر ٹیوشن پڑھانا مکروہ تھا، اور یہ حکم آج بھی ہے، اور جن عبارتوں سے جواز کا ثبوت ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ دار مدرس جس مدرسہ کا مدرس ہے اسی مدرسہ کے طلباء کو مسجد کے اندر درس دیدے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اسلئے کہ اس مدرس کو منجانب مدرسہ تنخواہ ملتی ہے اور جن طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی طرف سے الگ سے کوئی اجرت نہیں ملتی ہے، اسلئے مدارس کے مدرسین کیلئے مدارس کے طلباء کو مسجد کے اندر درس دینا بلا کراہت و بلا تردد

جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۰ھ/۷/۲۳

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۷۵/۳۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰ھ/۷/۲۴

۲۲/ الفصل الثانی والعشرون: مسجد کے مانک سے اعلان

مسجد کے مانک سے اعلانات کرنا

سوال: [۸۱۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں مسجد میں عام چندہ سے تقریباً بیس سال پہلے لاؤڈ اسپیکر (مانک) جو کہ مسجد سے متصل جامع مسجد کے حجرہ میں رکھا ہوا ہے، اس میں اذان کے علاوہ ہر قسم کے اعلانات ہوتے ہیں، مثلاً خرید و فروخت کی چیز کے گم ہو جانے ہر قسم کے میلے نماز جنازہ، تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں میلاد کا مسجد یا مدرسہ کیلئے کوئی شخص چندہ دے اسکا اور اسی طرح چوٹی سہراختنہ وغیرہ کا اور جو بھی آمدنی اعلان کے ذریعہ ہوتی ہے، وہ مسجد میں لگتی ہے، یہ تمام اعلانات مسجد کے مانک سے کیسے ہیں؟

المستفتی: محمد البصار، امام جامع مسجد، حسن پور، جے پی نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کے مانک سے مسجد کے اندر جملہ اعلانات

جائز نہیں، ہاں البتہ مانک مسجد سے باہر ہو تو اجرت لیکر اسکی گنجائش ہے۔

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن

المسجد فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك . (ہندیہ، الوقف،

الباب الحادى عشر فى المسجد، الفصل الثانى فى الوقف على المسجد الخ، زکریا قدیم

۶۳/۲، جدید ۱۳/۴، المحيط البرہانی، المجلس العلمی بیروت ۱۳۷/۹، رقم:

۱۱۳۸۱، تاتار خانیہ، زکریا ۱۷۵/۸، رقم: ۱۱۵۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ صفر ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۷۱۳۵)

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنا

سوال: [۸۱۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، اور اس میں اذان لاؤڈ اسپیکر سے ہوتی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر حجرہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور حجرہ مسجد سے ملا ہوا ہے، البتہ حجرہ خارج مسجد ہے، تو کیا اسمیں کوئی دنیاوی اعلان کر سکتے ہیں، مثلاً راشن کارڈ والا اعلان لگوائے، کہ تیل چینی لے لو یا جو دوائی بچوں کو پولیو والی سرکار کی طرف سے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اعلان لگواتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کر نیوالا گاؤں کے اندر جاتا ہے جیسے ریڈی اور کپڑا جوتے وغیرہ اور اس اعلان کی اجرت مسجد کو دیتا ہے، تو کیا اس طرح اعلان حجرہ میں کر سکتے ہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح اجرت اور کرایہ دیکر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر

سے اعلان کرنا جائز ہے، بلا اجرت جائز نہیں ہے۔

ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معيناً، فإن كان الوقف معيناً على شيءي يصرّف إليه بعد عمارة البناء.

(شامی، کتاب الوقف، مطلب یبدأ بعد العمارة بما هو اقرب إليها کراچی ۴/۳۶۷، زکریا

۵۶۰/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۱۰/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شوال ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۳۰/۳۴)

مسجد کے مانک سے مختلف اعلان کرنا

سوال: [۸۱۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے عام طور پر اس طرح اعلانات کئے جاتے ہیں، (۱) جیسے ایک ضروری اعلان سن لیجئے ط بعد نماز..... فلاں شخص کے مکان پر ایک زنانہ اجتماع ہے، سبھی مستورات سے گزارش ہے کہ..... وغیرہ؟

(۲) ایک ضروری اعلان سن لیجئے فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، مرحوم کی نماز جنازہ مسجد..... میں بعد نماز..... ہوگی، اور تدفین عید گاہ کے قبرستان میں ہوگی؟

(۳) ایک ضروری اعلان سن لیجئے فلاں شخص کا جنازہ ان کے گھر پر آ گیا ہے، جن صاحب کو صورت دیکھنی ہو وہ آ کر دیکھ لیں؟

(۴) گمشدہ بچے یا کسی چیز کی گمشدگی کا اعلان..... وغیرہ؟

کیا ایسے اعلانات کیلئے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: طاہر نواز ولد سبط حسن،
محلہ: اصالت پورہ، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کا مانک مسجد کی ضروریات کے علاوہ دیگر کاموں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سوالنامہ میں جن امور کے اعلان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہیں، کہ مسجد کی طرف سے اعلانات کی فیس متعین کر دی جائے، اور فیس ادا کر کے اعلان کرنے کی گنجائش ہے، البتہ سوالنامہ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ذکر کی گئیں ہیں، جن کا اعلان نامناسب ہے مثلاً میت کی صورت دیکھنے کا اعلان۔ (مستفاد: محمودیہ جدید ڈبھیل ۳۸/۱۵، فتاویٰ رحیمیہ جدید، زکریا ۱۱۲/۹)

ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن

معیناً، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء . (شامی، کتاب الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب إليها کراچی ۴/۳۶۷، زکریا ۶/۵۶۰) وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى امام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك . (تاتار خانیه زکریا ۸/۱۷۵، رقم: ۱۱۵۵۴، المحيط البرهانی، المجلس العلمی بیروت ۹/۱۳۷، رقم: ۱۱۳۸۱)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۲۹/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۳/۱۴۳۱ھ

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مختلف قسم کے اعلان کا حکم

سوال: [۸۱۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) عام طور پر مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے بلا تکلف ہر قسم کے اعلانات کئے جاتے ہیں، خصوصاً دیہات اور قصبات کی مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے تو بہت ہی معمولی معمولی چیزوں کے اعلانات بڑے ہی مضحکہ خیز انداز میں کئے جاتے ہیں، اس قسم کے اعلانات مساجد اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کرنا از روئے شرع کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟

(۲) مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا یا کسی دینی کام کیلئے چندہ کا اعلان کرنا اسی طرح مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کو اس کام کیلئے استعمال کرنا، مساجد میں یا مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے گمشدہ چیزوں کے اعلانات کرنا اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ وقت کا اعلان کرنا یا تلاوت نعت وغیرہ پڑھنا یا ان کی کیسٹ چلانا درست ہے، یا نہیں؟

المستفتی: عبدالستار، ٹانڈہ رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگر لاؤڈ اسپیکر مسجد کے چندہ اور اسکی آمدنی سے خرید کر لگایا گیا ہے، تو اس کو اذان و نماز کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر اعلانات کی اجرت مسجد کو ملتی ہو، تو اجرت دیکر اعلان کی گنجائش ہے۔ (مستفاد، فتاویٰ رجیمیہ قدیم ۹/۲۴۸، جدیدزکریا ۹/۱۴۳، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۱۶۰، جدید ڈائجیل ۱۵/۳۷)

المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه .

(تقریرات رافعی مع الشامی، کراچی ۴/۸۰، زکریا ۶/۸۰)

اور اس میں یہ بھی شرط ہے، کہ لاؤڈ اسپیکر مسجد کی حدود سے باہر کمرہ وغیرہ میں رکھا ہوا ہو، اور اگر اندرون مسجد ہو تو اجرت لیکر بھی اعلان کی گنجائش نہیں ہے۔ (مسائل امامت ۵/۳۷)

فإن المساجد لم تبس لهذا دليل على كراهة كل فعل لم تبس

المساجد له فيه . (اعلاء السنن، دارالکتب العلمیة بیروت ۵/۱۷۵)

لم تبس (المساجد) لهذا أى لنشر الضالة ونحوه بل لذكر الله تعالى

وتلاوة القرآن والوعظ . (مرقاة باب المساجد، امدادیہ ملتان ۲/۱۹۹)

(۲) عام حالات میں اپنی ذات کیلئے یا کسی دینی کام کیلئے مسجد میں سوال کرنا ممنوع ہے، اور اس کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجد میں شور وغل ہوگا، نمازیوں کو خلل اور مسجد کی بے حرمتی ہوگی، البتہ اگر کسی خاص حالت میں امداد اور تعاون کی ضرورت پیش آئے، اور مسجد میں شور شرابے کا اندیشہ نہ ہو نیز نمازیوں کو بھی کوئی خلل واقع نہ ہو تو اسکی گنجائش ہے۔

والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا

يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافاً بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال

والإعطاء . (شامی، باب الجهة مطلب فی الصدقة علی السؤال المسجد کراچی

۲/۱۶۴، زکریا ۳/۴۲)

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے صرف سحری کے وقت کا اعلان کرنا جائز ہے، اسکے علاوہ

گمشدہ چیزوں کا اعلان، نعت خوانی تلاوت یا اسکی کیسٹ وغیرہ لگانا سب مکروہ ہے۔
وتصان عن البيع والشراء وانشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان
الضالة. (حلبی، فصل فی أحكام المسجد اشرفیہ دیوبند/۶۱۰)

لا یقرأ جهوراً عند المشتغلین بالاعمال. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ،
الباب الرابع زکریا قدیم ۳۱۶/۵، جدیدہ ۳۶۵/۵، معارف القرآن ۱۶۴/۴)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۶/۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۲۱/۳۳)

مسجد کے مانگ سے بالعوض اعلان کرنا

سوال: [۸۱۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے مانگ سے دنیاوی اعلان ہوتا ہے، مثلاً سبزی کپڑا گنا و دیگر چیزوں کی فروختگی کا تو کیا اس طرح اعلان جائز ہے، اور اس اعلان کے عوض جو پیسے ملتے ہیں، ان کو مسجد کی تعمیر و دیگر اخراجات میں لگانا کیسا ہے؟ اور اگر مانگ مسجد میں نہیں بلکہ دوسری جگہ پر ہے، مثلاً مانگ مسجد کے کمرہ میں ہے، اور اس کا ہارن مسجد کی چہاردیواری کے اندر یا اس کے باہر ہے، تو کیا اس طرح سے جو اعلان کیا جاتا ہے، کیسا ہے، اور اس اعلان کا پیسہ مسجد کے اخراجات میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمد یاسین، چمپارنی،
گرام مغلوپور، راجو پور، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے مانگ سے دنیاوی اعلانات نہیں کرنے

چاہئیں اسلئے کہ مائیک مسجد میں اذان وغیرہ دینی کام کیلئے لگایا جاتا ہے، اعلانات کیلئے نہیں۔
 شرط الواقف کنص الشارع الخ. (درمختار مع الشامی، کتاب الوقف،
 مطلب فی قولهم شرط الواقف کنص الشارع، کراچی ۴/۴۳۳، زکریا ۶/۶۴۹)
 اور مائیک سے اعلان کے عوض اگر پیسے مل چکے ہیں تو مسجد کی تعمیر و دیگر اخراجات میں
 لگانا درست ہے، آئندہ احترام کیا جائے۔

الفساد من العقود ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه وحکم
 الأول وهو الفساد وجوب أجر المثل بالاستعمال. (درمختار مع الشامی، کتاب
 الإجارة، باب الإجارة الفاسدة کراچی ۶/۴۵۵، زکریا ۹/۶۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۳/۴/۱۳۲۰ھ
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۳/۴/۱۳۲۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۶۱۱۱)

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے اجرت لینا

سوال: [۸۱۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
 کے لاؤڈ اسپیکر سے یہ اعلان کرنا کہ فلاں جگہ قرآن خوانی ہے سبھی لوگ پہنچیں یا یہ کہ فلاں
 وقت جنازہ کی نماز ہوگی یا یہ کہ فلاں چیز کھو گئی ہے، جسے ملے فلاں جگہ پہنچا دے یا دیگر
 اعلانات کرنا اور اس اعلان کے روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
 المستفتی: مشکور احمد، سہارا والا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لاؤڈ اسپیکر مسجد کے جماعت خانہ سے الگ اور
 اس کی حدود سے باہر ہے، تو اجرت لیکر اعلان کرنا اور اس رقم کو مسجد کی ضروریات میں خرچ
 کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ذمہ داران مسجد کی اجازت اور مسجد کا مفاد پیش نظر نہ ہو۔ (مستفاد:

امداد الفتاویٰ ۲/۷۲۶)

المسجد المحتاج إلي النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق

عليه . (تقريرات رافعي مع الشامى، كتاب الوقف، كراچى ۸۰/۴، زكريا ۸۰/۶)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۱۲/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۸۳/۳۱)

مسجد سے الگ مانگ سے اعلان کرانے کا کرایہ لینا

سوال: [۸۱۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ہمارے علاقہ بالخصوص دیہات میں مساجد کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے درجہ میں ہیں، جس کی وجہ سے مؤذن کا انتظام تک نہیں ہو پاتا ائمہ کی تنخواہیں قلیل در قلیل ہونے کے باوجود بمشکل پوری ہو پاتی ہیں، لیکن عام طور پر مساجد میں مانگ رکھنے کا دستور ہو گیا ہے، اور چھوٹی بڑی سب مساجد میں اذانیں مانگ سے ہوتی ہیں، شرعاً معلوم یہ کرنا ہے، کہ مانگ مسجد کی حد سے باہر کمرہ میں اور ہارن بھی حدود مسجد مینارہ وغیرہ سے بالکل الگ کمرہ کے اوپر بلند جگہ بنا کر اس پر رکھ دیئے جائیں اور جو شخص اعلان کرانے اس سے اعلان کا معاوضہ لے لیا جائے مثلاً ایک اعلان پر پانچ روپیہ تو کیا مسجد کی آمدنی کی یہ شکل روا ہے، مسجد کی ضرورت وغیرہ کو سامنے رکھ کر مفصل و مدلل جواب باصواب سے نوازیں؟ عنایت و مہربانی ہوگی؟

المستفتی: حافظ محمد عبد الحمید صاحب،

قریبی ڈھکہ، حسن پور، جے پی نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مانگ جماعت خانہ سے باہر ہے، اور

اس کے ہارن بھی مسجد سے باہر ہیں، تو مسجد کے ایسے مانک سے کرایہ دیکر اعلان کرنا جائز اور درست ہے، اور اس کرایہ کی آمدنی مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۸/۲۱۰، جدید ڈائجیل ۱۵/۳۸، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۹۹، جدیدزکریا/۱۳۴)

المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه . (التقديرات الرافي مع الشامى، كتاب الوقف، كراچى ۴/ ۸۰، زکریا ۶/ ۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ صفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۴۹۸/۳۶)

مسجد کے مانک سے نماز جنازہ اور جلسہ کا اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں مانک لگا ہوا ہے، گاؤں یا موضع کے کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس مانک سے اعلان کر دیا جاتا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے، کہ اس طرح مسجد کا مانک استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، عام ضرورت ہے لوگوں کیلئے یا کسی کی تقریر ہونی ہو تو اسی سے اعلان کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ اعلان کرنا جائز ہے؟

المستفتی: سمیح اللہ، مدرس مکتب ہلدھر منو، ضلع گونڈہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقف نے لاؤڈ اسپیکر اس نیت سے دیا ہے کہ اس پر نماز جنازہ اور جلسہ وغیرہ کا بھی اعلان کر دیا جائے تو جائز ہے، اور اگر واقف نے صرف مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تو اس پر دوسری چیزوں کا اعلان بلا اجرت کے جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۷/۲۲۱، ۱۷/۲۲۶، جدید ڈائجیل ۱۵/۳۱، ۳۵، آپکے

مسائل اور انکا حل قدیم ۲/۱۴۴، جدید ذکر یا ۳/۲۶۱)

متولی الوقف إذا أسکن رجلاً بغير أجره ذكر الهلال رحمة الله تعالى
لاشيئى على الساكن وعامة المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أن
عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف
وعليه الفتوى . (هنديه ، كتاب الوقف ، الباب الخامس فى ولاية الوقف الخ- (زكريا
قديم ۲/ ۴۲۰، جديد ۲/ ۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۱۲/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۵۲۹)

مسجد کے مانگ سے موت یا کسی بچہ کے کھوجانے کا اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص
نے یہ بتلایا ہے کہ مسجدوں میں جو سحری کے وقت ٹائم کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے، اور
کسی کی موت کا اعلان یا کسی کا بچہ کھوجانے پر اسکا اعلان سب حرام ہے، اسپیکر مسجد کا ہوتا ہے،
اس کو ان باتوں کیلئے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مندرجہ بالا باتیں جائز ہیں یا ناجائز
جواب سے مطلع فرمائیں؟ مہربانی ہوگی؟

المستفتی: عبدالغفار محلہ کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اسپیکر سے سحری کا اعلان بقدر

ضرورت کیا جاسکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد ہی سے سحری کا اعلان
اذان کی شکل میں ہوتا تھا:

عن عبد الله بن مسعود رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن

أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادى أو يؤذن ليرجع غائبكم أو لينتبه نائمكم، الحديث: (طحاوی، کتاب الصلوة، باب التأذین للفجر الخ، النسخة الهندية ۱/۸۳، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۱۸۰، رقم: ۸۳۲)

اور کسی کی موت کا اعلان یا گم شدہ کا اعلان کر ایہ دیکر کیا جاسکتا ہے، بغیر اجرت ادا کئے اعلان نہیں۔

المسجد المحتاج إلى النفقة تؤجر قطعه منه بقدر ما ينفق عليه. (تقریرات رافعی علی الشامی، کتاب الوقف، کراچی ۴/۸۰، زکریا ۶/۸۰)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۱۰/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۱۹/۱۰/۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۹۲/۳۳)

جمعہ، عید الفطر وغیرہ کے موقع پر مسجد میں چندہ کرنا اور نام کا اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جمعہ، عید الفطر وعید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر بچے اور بڑے مسجد میں چندہ دیتے ہیں بچے بھی اپنے اپنے نام کا اعلان کراتے ہیں شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ نہیں؟

المستفتی: عبدالوحید، مؤذن، مسجد بخاران، ساہن پور، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسلمانوں میں کار خیر میں خرچ کی ترغیب کیلئے اعلان کی گنجائش ہے جب کہ اس اعلان کی وجہ سے نمازیوں کو خلل نہ ہوتا ہو اور مسجد کا مفاد بھی مقصود ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۹/۲۳۸)

الشامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة قال في
 الخانية: معزيا إلى أبي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن
 كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوثه ۵/۲۱۵، زكريا
 ۳۶۰/۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۲۸/۳/۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۲۴۰)

مسجد کے مانگ سے سحری کا اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک
 شخص رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کے اندر مسجد ہی کے مانگ سے گاؤں کے لوگوں
 کو سحری کھانے کیلئے بیدار کرتا ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی اس سے راضی ہیں، تو بتلایئے کہ
 اس شخص کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے؟

المستفتی: محمد معین الدین، مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر گاؤں والوں ہی نے ملکر مسجد میں مانگ
 لگایا ہے اور وہ سب اس بات پر راضی ہیں، تو مذکورہ شخص کا سحری میں بیدار کرنا درست ہے اور
 اگر کسی خاص شخص نے مانگ مسجد کیلئے وقف کیا ہے، تو پھر اس سے اجازت حاصل کئے بغیر
 سحری میں مسجد کے مانگ سے لوگوں کو بیدار کرنا جائز نہ ہوگا۔

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، کتاب الوقف،

مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵)

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن

المسجد فليس له ذلك إلا أن كان الواقف شرط ذلك في الوقف .

(ہندیہ، کتاب الوقف، الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی، زکریا قدیم

۶۳/۲، ۴، جدید ۱۳/۲، المحیط البرہانی، المجلس العلمی بیروت ۱۳۷/۹، رقم:

۱۱۳۸۱، تاتارخانیہ زکریا ۱۷۵/۸، رقم: ۱۱۵۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵/ذیقعدہ ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۱۱/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۵۲/۳۵)

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد میں چندہ کرنا

سوال: [۸۱۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آجکل

دیہات کے اندر مساجد میں تہوار کے موقع پر مثلاً عید الفطر و عید الاضحیٰ وغیرہ پر مساجد کے اندر

مسجد ہی کے لاؤڈ اسپیکر سے مسجد ہی کے لئے چندہ کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نیز گم شدہ چیز کا

مسجد کے اندر پانچ روپیہ وغیرہ دیکر اعلان کرانا کیسا ہے؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: محمد قاسم، بجنوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید الفطر و عید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر مساجد کے

اندر مساجد ہی کے لاؤڈ اسپیکر سے مساجد کیلئے جو چندہ کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ (مستفاد: امداد

الفتاویٰ کراچی ۲/۲۸)

لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام مسجد کے باہر کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات مسجد میں شور

و شغب تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۸۲/۱، جدید ڈابھیل ۱۵/۳۷۷)

رہا مسجد کے اندر گم شدہ اشیاء کا اعلان کرنا تو اگر لاؤڈ اسپیکر کا ہارن مسجد کے مینار

پر ہے تو یہ اعلان کرنا مسجد ہی میں اعلان کرنے کے حکم میں ہوگا، جو شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے،

لہذا اس سے رکنا واجب ہے۔

عن أبی عبد اللہ مولیٰ شداد بن الہاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللہ ﷺ: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، النسخة الهندية ۱/۲۱۰، بيت الافكار رقم: ۵۶۸)

فان المساجد لم تبن لهذا دليل على كراهة كل فعل لم تبن المساجد له فيه. (اعلاء السنن، ابواب احكام المساجد، باب كراهية ادخال الصبيان والمجانين في المسجد، كراچی ۵/۱۲۹، دارالكتب العلمية بيروت ۵/۱۷۵)

تجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة (إلى قوله) وعن حديث الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشيدان الضالة والمرور فيها لغير ضرورة ورفع الصوت والخصومة الخ. (حلی کبیر فصل فی احکام المسجد، رحیمہ دیوبند / ۵۶۶، اشرفیہ دیوبند / ۶۱۰، صغیری، مکتبہ محتبائی دہلی / ۳۰۱، شامی، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا کراچی / ۶۶۰، زکریا ۲/۳۳، ۴۳۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۲۹/۲۵)

مسجد کے مانگ سے مدرسہ کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۱۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے مانگ سے جسکا ساؤنڈ بھی بینارہ پر رکھا ہے، مدرسہ کیلئے چندہ مانگنا اور چندہ دینے والے صاحب کا نام لے کر اعلان کرنا کہ فلاں صاحب نے اتنے روپے دیئے ہیں، اللہ انکے مال میں برکت دے اور اسی میں مانگ کو کئی کئی گھنٹہ مشغول رکھنا کیسا ہے؟ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مفصل و مدلل تحریر فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: عبدالغفار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مانگ کے استعمال کا کرایہ مسجد کو دیا جاتا ہے، تو کمیٹی کے مشورہ سے اور اجازت سے اسکی گنجائش ہے اور بلا کرایہ مسجد کے مانگ کا استعمال امور مسجد کے علاوہ کیلئے جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۳۶/۱۵، جدید ڈیڑھ اہل ۶۵۳/۱۴)

البتہ اسی مسجد کی ضرورت کیلئے بلا کرایہ استعمال ہو سکتا ہے؟

المسجد المحتاج إلى النفقة توجر قطعه منه بقدر ماينفق عليه . (تقریرات
 رفعی علی الشامی، کتاب الوقف، کراچی ۸۰/۴، زکریا ۸۰/۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۳ ذی الحجہ ۱۴۱۵ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۲۵۵)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۲/۱۴/۱۵ھ

مسجد کے مانگ پر مسجد سے غیر متعلق اعلان کرنا

سوال: [۸۱۹۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صورت
 مسئلہ یہ ہے کہ جولاءِ وڈ اسپیکر مسجد میں اذان کیلئے لگایا گیا ہے، اسی مانگ سے مسجد سے غیر
 متعلق اعلان بھی کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کو کوئی چیز فروخت کرنی ہے، یا کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی
 ہے، اس کا اعلان کرنا اور اس پر اجرت لینا مسجد کی آمد کیلئے اسی طرح نعت وغیرہ پڑھنا
 درست ہے یا نہیں؟ مفصل جواب سے نوازیں؟

المستفتی: حاجی محمد اطہر، کتب فروش،
 مین بازار، افضل گڈھ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر گلا وڈ اسپیکر اور اس کا ہارن دونوں حدود مسجد
 سے باہر ہیں، اور مسجد سے غیر متعلق اعلانات سے مسجد کی آمدنی ہوتی ہے، تو گنجائش ہے، نیز
 نعت وغیرہ بھی مسجد سے غیر متعلق امور میں ہے اس کی اجرت مسجد کو ملنی چاہئے، جیسا کہ

شامی کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعه منه بقدر ما ينفق عليه الخ. (شامی، کتاب الوقف، قبیل مطلب فیما لو خرب المسجد، کراچی ۳۵۸/۴، زکریا ۵۴۸/۶، تقریرات رافعی علی الشامی، کراچی ۸۰/۴، زکریا ۸۰/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ رمضان ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۶۳۹/۳۱)

مسجد کے مائٹک سے دنیاوی چیزوں کا اعلان

سوال: [۸۱۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے خرید و فروخت کا سامان یا گمشدہ چیزیں اور دیگر دنیاوی چیزوں کا اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل و مفصل جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد زاہد حسین، گونڈوی،
مدرسہ تعلیم القرآن، موضع چوڑ پوری،
پوسٹ: بلد پور، ضلع بلند شہر، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر اسپیکر مسجد کے منار وغیرہ پر ہے، تو وہ اندرون مسجد میں اعلان کرنے کے حکم میں ہوگا، یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اس سے روکنا واجب ہے۔

وتجب صيانة المسجد عن إدخال الرائحة الكريهة (إلى قوله) وعن حديث الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشيدان الضالة. (صغیری، مکتبہ محتبائی دہلی ۳۰۱/۱، حلبی کبیر، فصل فی احکام المساجد

رحیمیہ دیوبند/۵۶۶، اشرفیہ دیوبند/۶۱۰)

اور اگر حدود مسجد سے باہر ہے، تو بھی ناجائز ہے اسلئے کہ سامان مسجد کا دوسری اغراض میں استعمال جائز نہیں ہے۔

إن مراعاة غرض الواقفین واجبة الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفین واجبة، زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵)

شرط الواقف کنص الشارع الخ. (الاشباه والنظائر قدیم / ۱۷۰، شامی، مطلب فی تولہم شرط الواقف کنص الشارع کراچی ۴/۳۳، زکریا ۶/۶۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ذیقعدہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۹۸۷)

مسجد کے مانگ سے بیع و شرا اور کمشدگی کے اعلان کا حکم

سوال: [۸۱۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا مانگ جو کہ اذان پڑھنے کے لئے ہوتا ہے، اس کے ذریعہ بیع و شرا کمشدگی کی تلاش اور میت اور اس کی نماز جنازہ وغیرہ کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ یہ بات بھی واضح رہے کہ مسجد کی کمیٹی نے فی اعلان کچھ فیس مثلاً دس روپے وغیرہ مقرر کی ہے، جو اعلان کرانے والے سے لی جاتی ہے، تو اس سلسلہ میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا بذریعہ فیس اعلان کرنے کا شرعاً جواز معلوم ہوتا ہے، بینوا تو جروا۔

المستفتی: محمد سلمان قاسمی،

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مصالح مسجد کے پیش نظر کرایہ لیکر مسجد کے مانگ سے اعلان کرنا ناجائز ہے، اس لئے کہ مسجد کے منافع بھی مصالح مسجد میں شامل ہیں، البتہ مانگ اور اس کے پیکر کو مسجد شرعی کی حدود سے باہر رکھنا ضروری ہے۔

الثامنہ فی وقف المسجد ایجوز أن ینبی من غلثہ منارۃ قال فی

الخانية : معزيا إلى ابي بكر البلخي إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به . (البحر الرائق، كتاب الوقف ، زكريا ۵/ ۳۶۰، كوئٹہ ۵/ ۲۱۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ محرم الحرام

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۶۴/۴۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۱/۹ھ

گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا

سوال: [۱۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے اندر یا خارج مسجد کوئی چیز گم ہو جائے، تو اس کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ اندرون مسجد خارج مسجد کے حکم سے جدا گانہ ہے؟

المستفتی: محمد حامد، کرلا، بمبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو چیز اندرون مسجد گم ہو جائے تو اس کا اعلان اس شرط کیساتھ جائز ہے، کہ شور و شغب نہ ہو اور نمازیوں کو خلل نہ ہو، اور اگر بیرون مسجد گم ہوگئی ہے، تو حدود مسجد سے باہر دروازہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا جائز ہے، اندرون مسجد ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/ ۲۵۳، جدید ڈائجسٹ ۱۵/ ۲۱۱)

وأما إنشاد الضالة فله صورتان إحداهما إن ضل شيئاً في خارج المسجد وينشده في المسجد لاجتماع الناس فهو أقبح وأشنع وأما لو ضل في المسجد فيجوز الإنشاد بلا شغب الخ . (العرف الشدى على هامش الترمذی ، ابواب الصلوة ، باب كراهية البيع والشراء انشاد الضالة في المسجد ۱/ ۸۰)

قال الشيخ وأما إنشاد الضالة فله صورتان : إحداهما : وهي أقبح وأشنع بأن يضل شيئاً خارج المسجد ثم ينشده في المسجد

لأجل اجتماع الناس، والثانية: أن يضل في المسجد نفسه فينشده فيه وهذا يجوز إذا كان من غير لغط وشغب. (معارف السنن، اشرفیہ دیوبند ۳/۳۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۵/۶/۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۰۴۹/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۶/۴ھ

مسجد کے اندر گم شدہ بچے اور چیز کا اعلان کرنا

سوال: [۸۲۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گم شدہ

بچے اور چیز کا مسجد سے اعلان کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالمعید قاسمی، آزادنگر، ہلدوانی، مینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اندر اعلان ممنوع ہے، البتہ حدود مسجد

سے باہر آ کر اعلان کرنا گنجائش ہے۔

عن أبی ہریرۃ أن رسول اللہ ﷺ قال: إذا رأیتم من ینشد فیہ ضالۃ

فقولوا: لا ردھا اللہ علیک. (سنن الترمذی، ابواب البیوع، باب النهی عن البیع فی

المسجد، النسخة الهندیة ۱/۶، ۲۴، دار السلام رقم: ۱۳۲۱، صحیح مسلم، کتاب المساجد،

باب النهی عن نشد الضالۃ فی المسجد، النسخة الهندیة ۱/۲۱۰، بیت الافکار رقم: ۵۶۸)

إذا رأیتم من ینشد ضالۃ فی المسجد فقولوا لا ردھا اللہ علیک.

(شامی، کتاب الصلوٰۃ باب ما یفسد الصلوٰۃ الخ، مطلب فی انشاد الشعر، کراچی

۱/۶۶۰، زکریا ۲/۴۳۳)

تجب تصان عن إدخال الرائحة الكريهة - إلى - وعن حديث

الدنيا والبيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود ونشدان الصالة. (کبیری فصل فی احکام المساجد، رحیمیہ دیوبند/ ۵۶۶، اشر فیہ دیوبند/ ۶۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۰۷۹/۲۸)

مسجد کے مانگ سے مختلف امور کا اعلان کرنا

سوال: [۸۲۰۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) مساجد کے مانگ سے اہل بستی اپنے کاروباری سلسلے کیلئے اعلان کراتے ہیں، مثلاً نور محمد صاحب کے یہاں ۴ روپیہ کیلو گڑ بک رہا ہے، فرید احمد صاحب کے ہوٹل پر دو چار روپیہ کیلو ملیگا وغیرہ وغیرہ دوسرا اعلان اس طرح کا ہوتا ہے، کہ تسلیم احمد کی بکری جس کا رنگ کالا ہے، گم ہو گئی ہے، جن صاحب کو ملے وہ انکے مکان پر پہنچا دے، حدیہ ہیکہ مساجد کے مانگ سے غیر مسلم حضرات بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، مذکورہ اعلان پر امام مسجد یا متولی صاحبان ۲، ۵ روپیہ فی اعلان اجرت لیتے ہیں، جس کو مسجد کے صرفہ میں لاتے ہیں، یہ اعلان برائے افادہ عام کیسا ہے؟ نیز اس پر اجرت لینا کیسا ہے؟

(۲) مسجد کے متولی یا امام اکثر مذہبی تقریبات کے موقع پر مسجد کے مانگ پر یہ اعلان کرتے ہیں، کہ محلہ والے اپنے اپنے بچوں کو پیسہ لیکر بھیجیں، جو بچہ پیسہ لاتا ہے، اس کا مع اسکے ورثاء کے دعائیہ الفاظ سے تعارف کراتے ہیں، اس شکل سے بچوں کے ورثاء کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خوب پیسے بھیجتے ہیں، مذکورہ بالا طریقہ سے چندہ کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: مختار احمد، مدرسہ درویشاں

سلیم پور، سہس پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگر مائک اور اس کا ہارن دونوں حدود مسجد سے باہر ہیں، اور مسجد کی آمدنی کی غرض سے کرایہ لیکر اعلان کیا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ (امداد الفتاویٰ ۲/۲۸۷)

اور اگر حدود مسجد کے اندر مائک یا ہارن ہے اور ہر طرح کا اعلان اس میں کیا جاتا ہے، تو جائز نہیں ہے۔

عن أبي هريرة رض أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ، الحديث : (سنن الترمذی ، ابواب البيوع ، باب النهی عن البيع في المسجد ، النسخة الهندية ۱/۲۴۶ ، دار السلام رقم : ۱۳۲۱ ، صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب النهی عن نشد الضالة في المسجد ، النسخة الهندية ۱/۲۱۰ ، بيت الأفكار رقم : ۵۶۸ ، مشكوة ۱/۷۰)

(۲) اگر مذہبی تقریب ہے اور چندہ مسجد ہی کیلئے ہو اور اوقات نماز کے علاوہ میں ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ (امداد الفتاویٰ ۳/۲۸۷، و ۱۰/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ رجب ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۸۸۱/۲۶)

مسجد کے مائک سے مرغی، بکری کا اعلان کرنا

سوال: [۸۲۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں ہے گاؤں کے رہنے والے اکثر مسلمان ہیں، کچھ ہندو لوگ بھی رہتے ہیں، گاؤں کے آخر میں ایک ندی ہے، ندی کے پاس گاؤں والوں کے اکثر لوگوں کی زمین جائیداد ہے، ہندو لوگوں کی بھی زمین ہے، اور گاؤں کے رہنے والوں میں سے بعض کی زمین وہاں نہیں ہے زمین میں ریشم کے توت کا پتہ دھان آم اناج وغیرہ ہوتا ہے، بعض

وقت چور زمین جا کر چوری کرتا ہے، بد معاشوں نے ریشم کا پتہ وغیرہ فصلوں میں بیل بکری کو چرا دیا ہے، اس لئے گاؤں والوں نے زمین کی پیداوار کی حفاظت کیلئے ایک فصل حفاظت کمیٹی تیار کی ہے، اور پیداوار کی حفاظت کرنے کیلئے پولیس کیمپ بھی بٹھایا ہے، اور پولیس کا خرچہ وغیرہ خود گاؤں والے دیتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی چوری ہو جاتی ہے، فصل حفاظت کمیٹی کبھی کبھی میٹنگ بلا کر مشورہ کرتی ہے، کہ فصل کس طرح محفوظ رکھی جائے، اور پولیس والوں کے خرچہ اور چندہ کے بارے میں بھی مشورہ ہوتا ہے، اور میٹنگ اور مشورہ گاہ میں ممبر لوگوں کو بلانے کیلئے اعلان کی ضرورت پڑتی ہے، ہندو ممبر بھی کمیٹی کے اندر ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کے ممبر لوگوں کو میٹنگ و مشورہ میں بلانے کیلئے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر مسجد کے مانک اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں، اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد مسجد کے مصلیوں کے سامنے اعلان کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح آجکل سرکاری ڈاکٹر آتے ہیں، دوائی اور بچوں کو پولیوڈوز دینے کیلئے تو اس کا بھی اعلان مسجد کے اندر کھڑے ہو کر مسجد کے مانک کے ذریعہ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی گاؤں والوں کا بکرا مرغی وغیرہ گم ہو جاتا ہے، تو اس کا اعلان مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سے ہوتا ہے، حالانکہ مانک کا لاؤڈ اسپیکر مشین وغیرہ مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی اگر اعلان کرنا پڑتا ہے، تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں مذکورہ تمام اعلانات مسجد کے مانک کے ذریعہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے، یا نہیں، برائے کرم جواب مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: محمد حسین، بھاگلپور، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حدود مسجد کے اندر مرغی بکری کا اعلان اسی طرح گاؤں پنچایت کے لوگوں کا اعلان ممنوع ہے ہاں البتہ اگر مانک حدود مسجد سے باہر اذان خانہ یا کمرہ میں ہو اور اس کا ہارن بیناروں پر ہوا و کمرہ یا اذان خانہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا

جاتا ہے، اور مسجد کو اس اعلان کا معاوضہ دیا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ معاوضہ کی صورت مسجد کی مصلحت ہے، مگر وہ بھی اندر نہیں۔

عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي يقول: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من سمع رجلا يئشذ ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن نشذ الضالة في المسجد، النسخة الهندية ۱/۲۱۰، بيت الافكار رقم: ۵۶۸، سنن الترمذی، ابواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، النسخة الهندية ۱/۲۴۶، دارالسلام رقم: ۱۳۲۱)

نهی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة. (شرح کبیری، فصل فی احکام المسجد، اشرفیہ دیوبند/۶۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ شوال ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۴۷۲/۳۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۱۰/۱۴۱۸ھ

مسجد میں سائل کا سوال کرنا اور سفیر کا چندہ کرنا

سوال: [۸۲۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

(۱) مسجد میں سائل کو سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) مسجد میں سفیر مدرسہ کو چندہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالعزیز، برتن فروش، شاہی بازار، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) مسجد میں اگر نمازیوں کو کوئی خلل نہ ہو تو

سائل کا سوال اور مدارس کے سفراء کا چندہ کی بات کرنے کو ضرورت کے تحت حضرت تھانوی

قدس سرہ نے امداد الفتاویٰ ۲/۲۹۷، میں جائز قرار دیا ہے۔

ویکرہ التخطی لسؤال بكل حال قال فی النهر : والمختار أن
السائل إن كان لا یمر بین یدئ المصلی ولا یتخطی الرقاب ولا یسأل
إلحافا بل لأمر لا بد منه ، فلا بأس بالسؤال والإعطاء . (شامی، کتاب الصلوة ،
باب الجمعہ مطلب فی الصدقة علی سؤال المسجد ، کراچی ۱۶۴/۲، زکریا ۴۲/۳ ،
فتاویٰ بزازیہ ، باب صلوة الجمعة ، نوع ، جدید زکریا ۵۱/۱ ، وعلی ہامش الہندیہ ، زکریا
۷۶/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۸۶۳۱)

مسجد کا مانگ ذاتی کاموں کیلئے استعمال کرنا

سوال: [۸۲۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد
کے مانگ سے اپنے ذاتی کاموں کیلئے اعلان کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: اہلیان، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے مانگ سے اپنے ذاتی کاموں کے لئے
اعلان کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فقہاء و محدثین کی ان عبارتوں سے واضح ہوتا ہے۔

عن أبی عبد اللہ مولیٰ شداد بن الہاد أنه سمع أباه ریرہ ینقول: قال
رسول اللہ ﷺ: من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردھا اللہ
علیک فإن المساجد لم تبین لهذا. (صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب
النہی عن نشد الضالۃ فی المسجد، النسخة الہندیہ ۱/۲۱۰، بیت الافکار رقم: ۵۶۸،

سنن الترمذی، ابواب البیوع، باب النهی عن البیع فی المسجد، النسخة الهندیة
۱/۲۴۶، دارالسلام رقم: ۱۳۲۱)

ولا ینشدھا فی المسجد لأن المسجد لم ین لهذا. (اوجز دارالقلم
بیروت ۱۳/۲۹۸)

وأما إنشاد الضالة فله صورتان إحداهما إن ضل شیئی فی خارج
المسجد وینشده فی المسجد لاجتماع الناس فهو أقبح وأشنع وأما لو ضل
فی المسجد فیجوز الإنشاد بلا شعب. (العرف الشذی علی هامش الترمذی،
ابواب الصلوة، باب کراهیة البیع والشراء وإنشاد الضالة فی المسجد ۱/۸۰، معارف السنن،
اشرفیہ دیوبند ۳/۳۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲۲۲/۹/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۳۷۶/۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲۲۲/۹/۱۸ھ

۲۳/ الفصل الثالث والعشرون: غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا

غیر مسلم ملازم سے مسجد کے کاموں میں تعاون لینا

سوال: [۸۲۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز کیلئے کسی غیر مسلم ملازم سے تعاون مثلاً صفائی کرانا چٹائی بچھوانا اور اسی طرح لوٹے بھروانے کا کام لے سکتے ہیں، یا نہیں؟

المستفتی: محمد شفیع، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم میں پاکی ناپاکی کا اعتبار نہیں ہوتا اسلئے غیر مسلم مسجد کی صفائی اور چٹائی بچھوانے کیلئے نہ رکھا جائے، اور قرآن کریم میں مسجد حرام میں داخل ہونے کو منع کیا گیا ہے، اگرچہ ایک قول میں دوسری مساجد اس میں داخل نہیں ہیں، مگر احتیاط یہی ہے کہ غیر مسلم کو کسی بھی مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . (البقرہ: ۲۸)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۱۰/۲۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ شوال ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۰۵/۳۳)

کافر کا مسجد میں داخل ہو کر گھومنا

سوال: [۸۲۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا کافر

مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، ٹہل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے؟ مسجد و محراب تک جا سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد حذیف، محلہ بیٹھ اتوار، سرانے ترین، سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد میں بے ضرورت داخل ہو کر کے گھومنا اور ٹہلنا مسلمان کیلئے بھی ممنوع ہے، اسلئے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے ہاں البتہ کسی بھی ضرورت کیلئے داخل ہونا جائز اور درست ہے، اور کافر بھی مسجد میں کسی ضرورت کیلئے داخل ہو سکتا ہے، اور چل سکتا ہے، مثلاً کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو اور غیر مسلم کو اس سے کوئی ضرورت ہے یا اس معتکف کو کسی غیر مسلم سے ضرورت ہے، تو اس طرح کی ضرورت کیلئے کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست ہے، جب مسجد میں داخل ہوگا، تو اس میں چلے گا بھی اور چلنے میں محراب تک اور کسی بھی کونے تک پہنچ سکتا ہے، اور حدیث شریف میں کافر کا مسجد میں داخل ہونے کا ذکر موجود ہے۔

عن الحسن أن وفد ثقیف أتوا رسول الله ﷺ ، فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين ، إلى ركوعهم وسجودهم ، فقیل : يا رسول الله ! أتزلهم المسجد وهم مشرکون ؟ فقال : إن الأرض لاتنجس ، إنما ينجس ابن آدم . (المراسیل لأبی داؤد / ۶ ، رقم : ۱۷ ، مصنف عبد الرزاق ، المجلس العلمي / ۱ / ۴۱۴ ، رقم : ۱۶۲۲ ، المصنف لابن أبي شیبة ، مؤسسہ علوم القرآن جدید / ۶ / ۶۵ ، رقم : ۸۸۶۷)

عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقیف لما قد موا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم انزلهم المسجد لیکون أرق لقلوبهم ، الحدیث : (سنن ابی داؤد ، الخراج ، باب ماجاء فی خبر الطائف ، النسخة الهندیة / ۲ / ۴۲۸ ، دار السلام رقم : ۳۰۲۶ ، صحیح ابن خزیمہ ، المکتب الإسلامی / ۱ / ۶۵۰ ، رقم : ۱۳۲۸ ، المعجم الكبير للطبرانی ، دارالاحیاء التراث العربی / ۹ / ۵۴ ، رقم : ۸۳۷۲ ، مسند أحمد بن حنبل / ۴ / ۲۱۸ ، رقم : ۱۸۰۷۴)

ولا بأس أن يدخل الکافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت

المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات .

(البحر الرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد، زكريا ۵/۴۲۰، كوئٹہ ۵/۲۵۱)

وجاز دخول الذمی مسجداً مطلقاً قال الشامی: ولو جنباً كما في

الاشباه . (درمختار مع شامی، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره زكريا

۵۵۵/۹، كراچی ۶/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۱۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۳۱/۴۰)

غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا

سوال: [۸۲۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) کیا

شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ الیکشن کے امیدوار غیر مسلم حضرات مع اپنے

ہمراہیوں کے مسجدوں میں داخل ہوں، اسی طرح کیا غیر مسلم حضرات مسجدوں میں نکاح کی

محفلوں میں شرکت کرنے اور دولہا دولہن کو مبارک بادی پیش کرنے کیلئے حاضری دے سکتے

ہیں، نیز یہ بات بھی میں گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ یقینی بات ہے کہ اس طرح مسجدوں

میں آنے والے یہ غیر مسلم لوگ ظاہری و باطنی نجاستوں میں ملوث رہتے ہیں، مثلاً آنے

والوں میں اکثر و بیشتر پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا اہتمام نہیں کرتے۔

(۲) یہ بھی احتمال ہے کہ ان میں سے بعض جنبی ہوں؟

(۳) یہ بھی احتمال ہے کہ ان میں سے بعض کے کپڑے بھی ناپاک ہوں؟

(۴) ہندوستان کے اکثر علاقوں میں چونکہ شراب پینے پر پابندی نہیں ہے، لہذا آنے

والوں میں پیشتر لوگ شراب، وائنس، برانڈی و ہسکی وغیرہ پی کر آگئے ہوں؟

الغرض یہ ہندو لوگ ہر طرح کی گندگی و نجاست میں گھرے رہتے ہیں، بالعموم ان

ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ان

سوالات کے جوابات تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد اشرف علی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب تک غیر مسلم کے بدن کا نجاست حقیقیہ کے ساتھ ملوث ہونا ظاہر ثابت نہ ہو تو غیر مسلم کا مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست ہے، حضور ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں غیر مسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ہم ظاہری نجاست کے مکلف ہیں، ان کے اندورنی حالات کے مکلف نہیں ہیں، لہذا کسی مسلمان کی مسجد کے اندر نکاح کی مجلس میں کوئی غیر مسلم داخل ہو جاتا ہے، تو اسے مسجد میں داخل ہونے سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ سوالنامہ میں شراب پیکر داخل ہونے کا بھی ذکر ہے، تو شراب کی بو ہر شخص کو معلوم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں داخل ہونے سے روک لیا جائے۔

عن الحسن أن وفد ثقیف أتوا رسول الله ﷺ فضربت لهم قبة في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلوة المسلمين إلى ركوعهم وسجودهم ، فقيل : يا رسول الله ! أتزلهم المسجد وهم مشركون ؟ فقال : إن الأرض لاتنجس ، إنما ينجس ابن آدم . (مراسيل ابو داؤد/ ٦، رقم: ١٧)

وعن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان ، كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر ، غير أن ذلك لا يصلح له في المسجد الحرام ، لما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ، الآية . (مراسيل ابو داؤد/ ٦، رقم: ١٨)

أقول : دلت هذه الأحاديث على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجد وهي ليست من النجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية ، بل هي من نجاسات الآثام والأوزار ، و نجاسة الآثام هي المرادة في قوله

تعالیٰ: ”إنما المشركون نجس“ فلا تعارض بين الآية والأحاديث حتى يمكن القول بكونها منسوخة بالآية لاسيما إذا كانت رواية الحسن مشيرة إلى ان قصة وفد ثقيف متأخرة من نزول الآية. (اعلاء السنن كراچی

۱۷/۴۵۳، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۷/۴۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

۲۳/۴/۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۳۳۵/۳۷)

مسجد میں نکاح کی منعقد مجلس میں غیر مسلم کی شرکت

سوال: [۸۲۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم لوگ اپنے گھر کی لڑکیوں کا نکاح حکم شرعی کے مطابق مسجد میں منعقد کرتے ہیں، چونکہ ہمارے کاروباری تعلقات کچھ غیر مسلموں سے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعوت پر وہ لوگ بھی مجلس نکاح میں شرکت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مواقع پر ان غیر مسلموں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جاسکتی ہے، اگر اجازت ہے تو کن شرائط کیساتھ اور اگر اجازت نہیں تو کس وجہ سے؟

المستفتی: محمد سلیم، محمد یعقوب،

روشن بدھواروڈ، مالیر گاؤں، ناسک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم نکاح میں شرکت کیلئے مسجد میں جاسکتا ہے، بشرطیکہ بدن ظاہری نجاست سے پاک ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نجاست ان کی اعتقاد دی ہے۔

و جاز دخول الذمی مسجداً ولو جنباً كما في الاشباه (إلى قوله) قال

فی الهدایة : ولنا ماروی أنه علیه الصلوة والسلام أنزل وقد ثقیف فی مسجده وهم کفار ولأن الخبث فی اعتقادهم فلا یؤدی إلی تلویث المسجد . (شامی مع الدرالمختار، کتاب الحظر والإباحة ، باب الاستبراء وغیره ، زکریا ۹/۵۵۵، کراچی ۶/۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۳ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۶۴۱۴/۳۳)



۲۴ / الفصل الرابع والعشرون : مسجد میں حرام مال لگانا مسجد میں مال حرام لگانا

سوال: [۸۲۰۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں میں شیعہ تو نہیں ہیں، سب سنی ہیں، لیکن ایک زمانہ سے شیعوں جیسا عمل چلا آ رہا ہے، کہ محرم بھی بنتا ہے، اور کربلا کی ایک زمین ہے جو تقریباً پندرہ بیس بیگہ ہے اسکی آمدنی غریب مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے یا نہیں؟

المستفتی: علیم الدین، سردن نگر، چسپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کربلا کے نام سے زمین کا متعین کرنا شرعی طور پر ناجائز اور ممنوع ہے اور اس سے شرعی وقف نہیں ہوتا ہے، اور اس کو عبادت کا کام سمجھنا بھی گناہ ہے، جب علاقہ کے لوگوں نے اس نام سے یہ زمین متعین کی تھی، اس وقت ان لوگوں کو مسائل شرعیہ سے واقفیت نہیں تھی، کہ کربلا کے نام سے بھی شریعت میں کوئی زمین وقف ہو سکتی ہے، یا نہیں؟ حالانکہ یہ وقف شرعی طور پر درست نہیں ہوا تھا، اب علاقہ کے ذمہ دار لوگوں کو مشورہ کر کے اس زمین کے بارے میں یہ طے کر لینا چاہئے، کہ ضرورت مند مساجد و مدارس کیلئے اس زمین کو وقف کر دیں، اور کربلا کے نام باقی نہ رکھیں پھر اس کی آمدنی ان مساجد اور مدارس میں خرچ کی جائے۔

ومن شرائط الوقف أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أو الذمی علی البیعة والکنیسة أو علی فقراء أهل الحرب . (عالمگیری، کتاب الوقف، الباب الأول فی تعریفہ زکریا قدیم ۲/۳۵۳، جدید ۲/۳۴۷، الدر مع الرد، کراچی ۴/۳۴۲، زکریا ۶/۵۲۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۸/۱۵۹، الفقه الإسلامی وأدلته، ہدی انٹرنیشنل دیوبند ۸/۱۹۳، دار الفکر ۱۰/۶۶۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۶۸۷-۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۶/۱۴۲۳ھ

مدرسہ و مسجد میں حرام مال لگانا

سوال: [۸۲۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دینی مدارس کے چلانے کیلئے صدقات و زکوٰۃ و امدادی رقم لینی چاہئے، کسی عالم دین، فاضل دیوبند و فاضل مظاہر علوم کے لئے دینی مدرسہ چلانے کیلئے شراب کی دوکان والے سے چندہ لینا اسی طرح مکملہ چلانے والے سے اسکے گھر پر جا کر مدرسہ کیلئے چندہ طلب کرنا یا زکوٰۃ طلب کرنا اور لینا کیسا ہے؟ اور جبکہ ان علماء کو معلوم ہے کہ یہ شراب اور مکملہ کا دہندہ کرتے ہیں، اسکے باوجود انکے پاس چندہ کو چاتے ہیں، شراب کا دہندہ حرام، مکملہ لگانا حرام مکملہ کا دہندہ حرام تو پھر کیا مدرسہ کیلئے ایسی رقم کا لینا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نقل کیا جائے، اور اگر ناجائز ہے، تو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نقل کیا جائے، اور پھر ایسے علماء کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جو چیزیں نص قطعی سے حرام ثابت ہیں، وہ اپنے لئے جائز قرار دیتے ہیں، کیا ان علماء کے پیچھے نماز کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمیں امید ہے کہ تشفی بخش جواب مرحمت فرمائیں گے؟

المستفتی: محمد خواجہ، نیوجنٹا، ضلع لاکھنؤ، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مدرسہ اور مسجد کیلئے مال حرام اور شراب وغیرہ کا پیسہ ناجائز اور ممنوع ہے، اگر معلوم ہوتے ہوئے شراب کا پیسہ لیکر مدرسہ میں لگایا جائے، تو لگانے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۷۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْحَيِّثُ مِنْهُ تَنَفِقُونَ. (البقرہ: ۲۶۷)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه: أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، النسخة الهندية ۱/۳۲۶، بيت الافكار، رقم: ۱۰۱۵)

لو أنفق في ذلك ما لا خبيثا، أو ما لا سببه الخبيث والطيب فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (الدرمغ الرد، كتاب الصلاة، قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ۲/۴۳۱، كراچی ۱/۶۵۸)

اور قطعی حرام چیز کو کوئی عالم اپنے لئے جائز قرار دے یہ ناقابل تصور بات ہے، جس عالم کے متعلق لکھا گیا ہے، جب تک ان سے براہ راست معلومات نہ ہو حکم لگانا ہمارے لئے روا نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رذیقہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۹۹/۲۸)

نا جائز آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۱۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص جو اسٹاک کام کرتا تھا، اور اب کچھ عرصہ سے اس نے جو اسٹاک کام چھوڑ دیا ہے، اور اس پیسے سے دیگر کاروبار شروع کر دیا ہے، تو اب یہ اس پیسے کی آمدنی میں سے مسجد میں کچھ کام کرانا چاہتا ہے، لہذا یہ پیسے مسجد میں لگائے جاسکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: جمشید، محلہ پیرغیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نا جائز آمدنی خواہ جو اور سٹاک کے ذریعہ حاصل کی ہو خواہ اور کسی ذریعہ سے مسجد اور دوسرے کاروبار میں لگانا درست نہیں ہے، لہذا سوالنامہ میں ذکر کردہ آمدنی چونکہ جو اور سٹاک کے ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے جو شرعاً نا جائز ہے اس لئے اس

آمدنی سے مسجد کی تعمیر کرنا درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۴۶۹، ڈبھیل ۱۱۶/۱۵)

أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيننا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام . (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغیره، زکریا ۵۵۳/۹، کراچی ۳۸۵/۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/رجب ۱۴۲۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۴۸۸/۳۷)

مال حرام مسجد اور انکے متعلقات میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مذکورہ گاؤں چاکھل میں مسلمان چار برادری کے بستے ہیں۔

(۱) قریشی (قضائی) انکا کاروبار بکری ذبح کر کے بیچنا، بھیڑ بکری پالنا، خریدنا، بیچنا اور ہر گھر سے ایک دو فرد کا سعودی عرب وغیرہ میں ملازمت کرنا۔

(۲) منیہار، انکا کاروبار چوڑی بنانا بیچنا، دوسری تجارت وغیرہ کرنا۔

(۳) قاضی (فقیر) انکا بھی کاروبار ملازمت بمبئی وغیرہ میں ہے اور مزدوری کرتے ہیں۔

(۴) چوہدار (قلال) ان کا اکثر کاروبار شراب کا ہے، یا شراب کے ٹھیکوں پر ملازمت کرنا اور دیگر کام کاج جیسے مذکورہ برادری کے ہیں، انکے برائے نام ہیں، یہ چاروں برادری والے مل کر مسجد مدرسہ کے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں، اور بھی مسجد مدرسہ کے کاموں میں برابر کا حصہ لیتے ہیں، اور جس طرح تینوں برادری والے مسجد مدرسہ کے ملازم کو کھانا کھلاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کھانا وغیرہ کھلاتے پلاتے ہیں، غرض ہر موقع پر مالی امداد کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ مسجد مدرسہ میں انکا مالی تعاون یا امام و مدرس کی تنخواہ یا کھانا وغیرہ کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ پوری مسلم آبادی سماجی اعتبار سے ایک

ہے، اور ہر ایک کا پورا پورا حق ہے، اگر یہ اتفاق و اتحاد مسجد و مدرسہ کیلئے نہ رکھیں تو غیروں کو ایمان پر حملہ کرنا آسان ہوگا، اور مسجد و مدرسہ کا کام چلنا دشوار ہوگا، کیونکہ جہالت میں سبھی یکساں ہیں، جیسا کہ میں نے سوال نمبر ایک میں روشنی ڈالی ہے، نیز امام و مدرس کا متولی کے گھر ٹیوشن پڑھا کر پیسے یا کپڑے وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سبھی سوالوں کے جوابات مدلل تحریر فرمائیں، عین نازش ہوگی؟

المستفتی: مصلیان مسجد مقام
جاکھل، جھن تھنوں، راجستھان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جن لوگوں کی آمدنی خالص حرام کی ہے انکے روپے پیسے سے حتی الامکان بچا جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی حلال کاروبار بھی وہ لوگ کرتے ہیں، یا حلال مال سے مالی تعاون کرتے ہیں، تو گنجائش ہے، ورنہ قلال برادری سے مال لینا جائز نہیں ہوگا۔

إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل. (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر فی الہدایا والضيافات، زکریا جدید ۵/۳۹۶، قدیم ۵/۳۴۲)

غالب مال المہدی إن حال لا بأس بقبول ہدیتہ..... مالم يتعين أنه من حرام وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها. (بزازیہ، کتاب الکراہیۃ، الفصل الرابع،

زکریا جدید ۳/۲۰۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۶/۳۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶ شعبان ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۸/۸ھ

(الف توئی نمبر: ۳۳/۶۳۰۰)

مسجد میں لگے ہوئے مالِ حرام کے مکافات کی شکل

سوال: [۸۲۱۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص تعلیم یافتہ یعنی حفظ قرأت کا جاننے والا جو کہ امامت بھی کرتا ہے، اور امامت کرتے کرتے ایک عرصہ گزر چکا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پندرہ سال امامت کی ہے، اتنے عرصہ اب تک زکوٰۃ فطرہ چرم قربانی کا پیسہ مسجد میں لگایا اور لگوایا یہ فعل امام صاحب کا ہمہ وقت رہا، عوام الناس اس بارے میں بالکل لاعلم تھے، کہ پیسہ کس مد کا لگ رہا ہے، دیکھ بھال کرنے پر اس بات کا علم ہوا کہ مسجد میں پیسہ غلط لگا ہے، اس بارے میں غور و فکر ہے کہ مسجد کو مدرسہ کے قرض سے کس طرح بری کیا جائے، کیا صورت اختیار کرنی چاہئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

المستفتی: محمد یسین انصاری،
قصبہ سر بن نگر، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی آمدنی میں سے اتنی رقم مدرسہ کو ادا کر دی جائے، جتنی رقم چرم قربانی کی مسجد میں لگائی گئی ہے، تو شرعاً مسجد مذکورہ قرضہ سے بری ہو جائیگی۔
(مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۶۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۸۰، امداد الفتاویٰ کراچی ۲/۶۵۳)

رجل غضب ساجۃً وأدخلها فی بنائہ فإنہ یتملک الساجۃ
وعلیہ قیمتہا فإن قیمتہ الساجۃ والبناء سواء فإن اصطلاحاً علی شیئی
جاز الخ. (فتاویٰ قاضیخان، کتاب الغضب، فصل فیما یصیر بہ المرء غاصباً
وضامناً، زکریا جدید ۳/۱۶۵، وعلی ہامش الہندیہ ۳/۲۴۲، ہندیہ، زکریا قدیم
۵/۱۲۴، جدید ۵/۱۴۶، المیسوط للسرخسی، دارالکتب العلمیہ
بیروت ۲۳/۵۴، مجمع الضمانات ۱/۱۳۵، الاشباہ والنظائر قدیم ۴/۱۴۴، جدید

زکریا ۱/۲۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ صفر ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۱/۲۴)

مخنت کا مکان مسجد کے نام وقف کرنا

سوال: [۸۲۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مخنت حاجی زاہد حسین نام کے اپنے مکان کو جو کہ پختہ بنا ہوا ہے، مسجد کے نام کر دینا چاہتے ہیں، کیا وہ مکان جو ناپنے گانے کی کمائی سے تیار ہوا ہے مسجد کے نام کروانے سے کوئی قباحت تو نہیں ہے، اس مکان کے مسجد کے نام ہو جانے سے محلہ کا جو گندہ ماحول ہے مخنثات کی جو ٹولیاں یہاں پھرتی رہتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور آوارگی و بے شرمی کا جو بازار گرم ہے، وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائیگا، اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ اس مکان کو مسجد کے نام کرایا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: مسعود احمد، وعبد الراضی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مکان خالص حرام کمائی (یعنی گانے بجانے وغیرہ) سے تعمیر کیا گیا ہے، تو اس کو مسجد کے نام وقف کرنا کبھی جائز نہیں۔ (امداد المفتیین ۸۰۴/۱)
أما المغنی والنائحہ والقوال إذا أخذ المال هل یباح له، إن من غیر شرط یباح لأنه أعطاه المال من طوع من غیر عقد وإن من عقد لا یباح له لأنه أجز علی المعصیة. (البحر الرائق، کتاب الکراهیة، فصل فی البیع زکریا ۸/۳۶۵، کوئٹہ ۸/۱۹۹، الدر مع الرد، کراچی ۶/۴۲۴، زکریا ۹/۶۰۸)

البتہ مسجد کے نام معمولی قیمت مثلاً ہزار دو ہزار ہی روپیہ پر خرید لیا جائے، اس کے بعد

مسجد کے نام وقف کر دیا جائے، تو یہ وقف خریدار کی طرف سے صحیح ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ مکان مسجد کیلئے جائز ہو جائیگا۔

وفی فتاویٰ اہل سمرقند رجل دخل علی السلطان فقدم إلیه بشیئہ
مأکول فان اشتراه بالثمن حل له أکله هکذا ذکر . (ہندیہ ، کتاب الکراهیة ،
الثانی عشر فی الهدایا والزیافات زکریا قدیم ۲/۵ ، ۳۴ ، جدید ۶/۵ ، ۳۹ ، الفتاویٰ التاتار
خانیة زکریا ۱۸/۱۷۵ ، رقم: ۲۸۴۰۸ ، المحيط البرہانی ، المجلس العلمی ۷۳/۸ ، رقم:
۹۶۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۰ھ/۳/۹

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۰۶۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰ھ/۳/۹

ہجرے کا مسجد کیلئے زمین وقف کرنا

سوال: [۸۲۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہجرے نے جس کی آمدنی حرام کی ہے اپنی ایک زمین ۷۰ اکر مسجد کیلئے بطور وصیت اس طرح وقف کی اور رجسٹری بھی کرا دی کہ جب تک میں حیات ہوں میرا ہی قبضہ ہے، اور میں ہی اسکا مالک ہوں، اور میرے مرنے کے بعد مسجد کیلئے ہے، کیا ایسی صورت میں اگر اس زمین کی پوری قیمت بلانیت ثواب محتاج اور نادر مسلمانوں کو دیدی جائے اس کے بعد اس زمین کی آمدنی کو مسجد کی ضروریات میں صرف کیا جائے، تو یہ از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ واقف کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے؟

المستفتی: نور العارفین، رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہجرے کی حرام آمدنی سے خریدی ہوئی زمین مسجد میں وقف کرنا جائز نہیں ہے، اور ذمہ داران مسجد کا اس زمین کو مسجد کیلئے قبول کرنا بھی

جائز نہیں ہے، اور اگر ہجرے نے اس طرح وقف و وصیت کر دی ہے اور اس کے بعد وہ مر گیا ہے تو ذمہ دارانِ مسجد پر لازم ہے کہ اس وقف کو مسجد کے نام سے قبول نہ کریں، بلکہ اس کے وارثین کو واپس کر دیں اور اگر ممکن ہو تو جہاں جہاں سے ہجرے نے حرام پیسہ حاصل کیا تھا، وارثین اس کو واپس کر دیں اگر ممکن نہ ہو تو غریبوں میں بلانیتِ ثواب صدقہ کر دیں اور اگر کوئی وارث شرعی نہیں ہے تو اہل حل و عقد اور دینی ذمہ دار لوگ اس زمین یا پیسے کو مسلمان غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور سوالنامہ میں مسجد کیلئے جو حیلہ لکھا گیا ہے، وہ مسجد کے حق میں درست نہیں ہے۔

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكة ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء . (بذل المحمود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، دار البشائر الإسلامية ۱/۳۵۹، تحت رقم الحديث: ۵۹، مطبع سہارنپور قدیم ۱/۳۷، ہندیہ، زکریا حدید ۵/۴۰۴، قدیم ۵/۵۴۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳/۲۴۶، الدر مع الرد، زکریا ۹/۵۵۳، کراچی ۶/۳۸۵، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۶/۲۷، زکریا ۷/۶۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۷/۵/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۰۰۰)

ہجرے کی کمائی سے بنائی گئی مسجد کا حکم

سوال: [۸۲۱۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہجرے کی کمائی سے مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا کیسا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہجرے کی کمائی مطلقاً حرام نہیں ہے، لہذا ہجرے کی وہ کمائی جو جائز طریقہ پر مثلاً بھیک مانگ کر جمع کردہ رقم ہے تو وہ جائز ہے، اس کو مسجد یا

مدرسہ کی تعمیر میں لگانا درست ہے، اور جو رقم حرام طریقہ سے کمائی گئی ہو جیسے بدکاری، اور منکرات وغیرہ کے ارتکاب کے ذریعہ سے تو وہ حرام ہے اور حرام آمدنی کو مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں لگانا قطعاً جائز نہیں؟

کل مسجد بنی مباحةً أو ریاءً أو سمعةً أو لغرض سوی ابتغاء وجه
الله أو بمال غیر طیب فهو لاحق بمسجد الضرار . (تفسیر کشاف ۱/۵۶۳،
تفسیر مدارك ۷/۳۵۴)

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقبل الله صدقة من غلول
فإن الحدیث دال علی حرمة التصدق بمال الخبیث وقد نص الله فی
کتابه ، یأیها الذین آمنوا أنفقوا من طیب ما کسبتم ومما أخرجنا لکم
من الأرض ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون . (بذل المجهود، کتاب
الطهارة، باب فرض الوضوء، مکتبہ سہارن پور، قدیم ۱/۳۷، دارالبشائر
الاسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹)

إن الله لا یقبل إلا ما کان من کسب طیب فمفهومه أن مالیس بطیب
لا یقبل . (فتح الباری، کتاب الزکاة، باب لا تقبل صدقة من غلول، اشرفیہ
دیوبند ۳/۳۵۶، تحت رقم الحدیث: ۱۴۱۰، دارالفکر ۳/۲۷۹) فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۷۱۱۴)

زنانہ پن اختیار کرنے والے کے مکان کو مسجد میں استعمال کرنا

سوال: [۸۲۱۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)
ایک شخص جن کا نام عبد القیوم تھا، انھوں نے اپنی زندگی میں زنانہ پن اختیار کر لیا تھا، ۳۰ برس
۳۵ پینشن سال سے ہجڑوں کیساتھ گانا بجانا کرتے تھے، اس سے کمایا ہوا پیسہ تھا، جگہ خرید کر

مکان بنالیا قریب ایک سال پہلے وہ مکان مسجد کو دیا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے انہیں کا قبضہ رہا، یہ دینا انکا بذریعہ وصیت یا بذریعہ بیعانا ہے ابھی پانچ روز قبل انکا انتقال ہو گیا اپنے پیچھے دو حقیقی بھتیجے محمد فاروق، محمد محفوظ اور دو بھتیجیاں چھوڑیں دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی کمائی کا مال مسجد کے لئے قبول کرنا درست ہے یا نہیں؟ جبکہ مسجد کے اخراجات کیلئے مسجد کی چار دوکانیں اور جمعہ کے دن بذریعہ گولک بھی آمدنی ہوتی ہے، اور اس مال میں سے بھتیجے بھتیجیوں کی وراثت قائم ہوگی یا نہیں؟

(۲) ہمارے یہاں مفتی محمد آفتاب علی صاحب سے جب یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا کہ اس مکان کو فروخت کر کے حیلہ کر لو اور مسجد میں وہ پیسہ صرف کر دو وہیں ایک دوسرے مولانا نے جب مفتی صاحب سے کہا کہ ناجائز مال کو حیلہ کر کے مسجد میں نہیں لگایا جاسکتا ہے، جب تک کہ ضرورت شدیدہ نہ ہو کہ بغیر اسکے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جواب میں مفتی صاحب نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ کتب فقہ میں اسکی اجازت ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور یوں فرمایا کہ زکوٰۃ و صدقات اور بینک کا سود بھی حیلہ کر کے مسجد میں لگایا جاسکتا ہے، اس طرح حیلہ کرنا واقعی کتب فقہ میں موجود ہے، تو مع حوالہ کے جواب مرحمت فرمائیں، نیز اگر شرائط ہوں تو وہ بھی حوالہ سے تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد محفوظ خاں، محلہ پینڈھا توار،

سرائے برتن، معرفت جناب اطہر شاہ قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مکان مسجد میں دینے کی جو بات ہے اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر بذریعہ بیعانا ہبہ کر دیا ہے، تو ہبہ قبضہ سے قبل تام نہیں ہوگا، لہذا ایسی صورت میں پورا مکان بطور وراثت دونوں بھتیجیوں کو برابر برابر مل جائیگا، کیونکہ مسجد کو قبضہ نہیں دیا ہے۔

لايجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفى الملك . (هدایہ ، کتاب

الہبۃ، اشرفی ۳/۲۸۳)

عن النضر بن أنس قال نحلني أنس نصف داره قال: فقال أبو بردة: إن سرک يجوز لك فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال، أن ماقبض منه فهو جائز، ومالم يقبض فهو ميراث. (السنن الكبرى للبيهقي،

الهيات، باب ماجاء في هبة المشاع، دارالفكر ۹/۵۸، رقم: ۱۲۱۸۶)

اور اگر وصیت ہے تو صرف ایک تہائی میں نافذ ہو سکتی ہے، باقی دو تہائی دونوں بھتیجوں کو ملیں گے، اور بھتیجیاں وارث نہیں ہوتی ہیں۔

(۲) فتاویٰ دارالعلوم قدیم کی عبارت دیکھ لی گئی، حضرت مولانا مفتی آفتاب علی خاں کی بات کسی حد تک اس سے منطبق ہے، اگرچہ دوسرے عالم کی موافقت میں جزئیات موجود ہیں، ہماری رائے میں ایسی کمائی سے خریدنا ہوا مکان فروخت کر کے حیلہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو اس طرح کے حرام اور مشتبہ مال سے ہمیشہ پاک رکھنے کا حکم ہے، نیز یہاں پر مسجد کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ مال مشتبہ میں حیلہ کر کے مسجد میں لگایا جائے۔

لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره ثلويث بيته بما لا يقبله .

(شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد،

زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ۵/۱۹،

رقم: ۸۸۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ شعبان ۱۴۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳۱/۵۴۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰/۸/۱۴۱۸ھ

طوائف کی مسجد

سوال: [۸۲۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد واقع محلہ اہیران شہر گونڈہ جس کو طوائف مرحومہ ہیرانے اپنی آمدنی (بذریعہ طوائفانہ) پیشہ سے حاصل رقم سے ایک آراضی واسطے مسجد حاصل کی اپنی ہی آمدنی سے اس کی تعمیر کرائی تو کیا یہ مسجد مسجد کے آداب میں سے ہے، کیا اس مسجد میں نماز ہو جائیگی؟ کیا اس مسجد میں جماعت وغیرہ فرائض واجبات کا ثواب حاصل ہوگا، اگر اس مسجد کو منہدم کر کے پھر سے تعمیر کیا جائے، تو اس میں اعانت کی جاسکتی ہے؟

المستفتی: مسرور احمد خاں، گونڈہ، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں جبکہ طوائف ہیرانے اپنی حرام آمدنی سے حاصل شدہ رقم سے مسجد کیلئے زمین خرید کر اس میں مسجد تعمیر کرائی تھی، تو یہ جگہ مسجد کے لئے وقف ہوگئی، لیکن چونکہ اس کی زمین حرام مال سے خرید کر دی ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی حرام مال لگا ہوا ہے، اس لئے یہ مسجد وقف ہونے کے باوجود مسجد شرعی نہیں کہلائیگی، اور اس میں نماز پڑھنا اس وقت تک مکروہ رہے گا، جب تک اس مسجد کی قیمت حلال مال کے ذریعہ سے ادا نہ ہو جائے، لہذا اگر طوائف کے ورثاء ہوں تو اس کی زمین اور عمارت کی قیمت طوائف کے ورثاء کو دیدیں اور طوائف کے ورثاء نہ ہونے کی صورت میں مسجد کی طرف سے نیت کر کے نادار فقراء کو دیدیں تو اسکے بعد یہ مسجد شرعی بھی بن جائے گی، اور مسجد کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اسلئے کہ اب مسجد مع زمین کے طوائف کے پیسہ کی نہیں رہی ہے، بلکہ حلال اور پاک پیسہ کی بن گئی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ میں جو تصریح فرمائی ہے اس کا یہی خلاصہ اور حاصل ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ (امداد الفتاویٰ ۲/۶۶۷، احسن الفتاویٰ ۶/۴۳۲، کفایت المفتی جدید ۷/۷۲، جدید زکریا

مطول ۱۰/۲۸۰، باقیات فتاویٰ رشیدیہ / ۳۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ/۱۰/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۳۷۹/۲۰)

طوائف کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد کب شرعی مسجد بن سکتی ہے؟

سوال: [۸۲۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی مسجد طوائف کی کمائی سے بنائی گئی ہے، اس کے شرعی مسجد ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو مسجد طوائف کی کمائی سے بنائی گئی ہے، اس کو شرعی مسجد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اتنی رقم جو تعمیر مسجد میں صرف ہوئی ہے، اگر ممکن ہو تو مالک کو واپس کر دی جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اتنی رقم فقراء پر صدقہ کر دی جائے، تو یہ مسجد شرعی بن جائے گی۔ (مستفاد: کفایت المفتی جدید ۷/۷۳، قدیم ۷/۶۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۸۳)

لومات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئاً وهو الأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد. (البحر الرائق، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع كونه ۱/۸، ۲۰، زکریا ۹/۳۶۹)

والواجب في الكسب الخبيث تفرغ الذمة والتخلص منه برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء. (الموسوعة الفقهية ۳۴/۲۴۵)

إذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يرد المال إلى أربابه فان لم يعرفوا أربابه تصدقوا به. (ہندیہ، زکریا قدیم ۵/۳۴۹، جدید ۵/۴۰۴)

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرد إلى مالكة ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب

فرض الوضوء، مکتبہ سہارن پور قدیم ۳۷/۱، دارالبشائر الإسلامیہ ۳۵۹/۱، تحت رقم الحدیث: ۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۰/۱۱۴۷)

طوائف کی زمین عمومی چندہ سے خرید کر اس پر مسجد یا مدرسہ تعمیر کرنا

سوال: [۸۲۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طوائف کی زمین پر عوام الناس کی رقم سے خرید کر مدرسہ یا مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے یا نہیں؟
المستفتی: بشیر احمد قاسمی، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طوائف کی زمین اگر حلال کمائی یا حلال طریقہ سے حاصل شدہ ہے تو اسے مسجد یا مدرسہ کیلئے خریدنا جائز ہے، اور اگر حرام آمدنی یا فعل حرام کے عوض ملی ہوئی ہے، تو اسے خریدنا ہرگز جائز نہیں ہے، اسلئے کہ حرام چیز تبدیل ملک سے حلال نہیں ہوتی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۱۲/۱۵، ڈائجیل ۱۵/۱۲۱، امداد الفتاویٰ ۳/۴۳، ۴/۵۴۴)

الحرام ينتقل أي تنتقل حرمة وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك ويأتي تمامه قريباً (قولہ) ولا للمشتري فيكون بشراءه منه مسيئاً لأنه ملكه بكسب خبيث الخ. (شامی، کتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد زكريا ۷/۳۰۰، کراچی ۹۸/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲/۱۳۱۷ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۷۷)

مسجد میں حرام سامان یا اسکی قیمت دینا

سوال: [۸۲۲۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مسجد میں حرام روپیہ یا اس کا سامان دیتا ہے، اور مہتمم کو اس سے آگاہ بھی کر دیا مہتمم صاحب نے اس کو قبول کر لیا اور لوگوں نے اعتراض کیا اب اس مال یا روپیہ کو واپس کر دیا جائے یا نہیں؟ مفصل تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: حافظ رئیس احمد، شیرکوٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد یا تعمیر مسجد میں حرام مال یا حرام طریقہ سے خریدا ہوا سامان دینا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے دیدیا ہو تو اسکو واپس کر دیا جائے، اگر تعمیر کرا دی گئی ہے، تو اسکی قیمت واپس کر دینی چاہئے خواہ مہتمم صاحب لئے ہوں یا کوئی اور متولی صاحب لئے ہوں، بہر صورت حرام مال مسجد میں لینا جائز نہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۲۹۸، ڈبھیل ۱۵/۵۲، احسن الفتاویٰ ۶/۶۳۲)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (مسند احمد بن حنبل ۲/۳۲۸، رقم: ۸۳۳۰)

أما لو أنفق في ذلك أى المسجد مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره. (شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل في أفضل المساجد زكريا ۲/۴۳۱، كراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۷/۶/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۲/۴۹۲۸)

نا جائز آمدنی والے شخص کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز کا حکم

سوال: [۸۲۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے

گھر کے پاس نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جسمیں نماز شروع ہو گئی ہے، مسجد تعمیر کرانے والا فخریہ یہ کہتا ہے، کہ ہماری مسجد ہے یہ بات وہ اپنی تقریر میں ضرور کہتا ہے، مسجد تعمیر کرانے والا شخص ظاہراً مالدار ہے، مگر اس کی آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ نہیں، نہ وہ نوکری کرتا ہے، نہ کوئی تجارت اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا جس سے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس شخص کی باتوں سے یہ معلوم ہوا، ۲۷ لاکھ روپیہ مسجد میں صرف ہوگا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسہ کہاں سے موصول ہو رہا ہے، اس بات کو کبھی منظر عام پر نہیں رکھا کہ کہاں سے کتنا پیسہ موصول ہوا، وہ شخص مجھ سے رنجش بھی رکھتا ہے، وہ شخص دینی کم سیاسی زیادہ ہے اور گاؤں میں رہتا نہیں ہے، جبکہ گاؤں ہی کا رہنے والا ہے، کبھی کبھار گاؤں آتا ہے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ یا شادی بیاہ کے موقع پر اور نماز بھی پہنچا نہ نہیں پڑھتا ہے، چونکہ مسجد میرے گھر کے پاس ہے، لہذا اوپری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ میرا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالتفصیل جواب مطلوب ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مسلمان شخص مسجد تعمیر کر رہا ہے، تو ہم کو ”ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا“ (المعجم الكبير للطبراني، دار احیاء التراث العربی ۱۵۶/۲۳، رقم: ۲۳۹) کے تحت یہی خیال کرنا چاہئے، کہ جائز اور حلال پیسہ سے یہ شخص مسجد تعمیر کر رہا ہے، نیز ہم کو اس طرح کھود کرید کر کے تحقیق و تفتیش کا حق بھی حاصل نہیں ہے، لہذا اس مسجد میں آپکا اور دیگر لوگوں کا نماز پڑھنا بلا تردد جائز ہے۔

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُم بَعْضًا، الآية: (حجرات ۱۲)

رہا اس کا نماز نہ پڑھنا تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس پر ہوگا، نمازیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۸۰/۳۵)

ناچنے والی عورتوں کا روپیہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۲۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا ناچنے والی عورتوں کا روپیہ مسجد میں کسی بھی شکل میں لگانا جائز ہے یا نہیں، نیز اگر اس میں آدھے روپیہ حلال کمائی کے ہیں، تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد طیب، متعلم دورہ حدیث،

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، شہر مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد خدا کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے، اسکی تعمیر اور درنگی میں حلال اور پاکیزہ مال ہی استعمال کیا جائے، حرام کمائی مسجد میں استعمال کرنا ممنوع اور مکروہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال قبول فرماتے ہیں، لہذا حرام اور مشتبہ مال سے مسجد بنانے کی قطعاً اجازت نہیں، ہاں البتہ اگر وہ صرف حلال کمائی میں سے ہی دیتی ہے، حرام میں سے نہیں دیتی تو اس صورت میں مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے، اگر آدھا حلال اور آدھا حرام مخلوط پیسے دیتی ہے تو جائز نہیں۔ (مستفاد: رجمیہ ۶/۹۹، جدید زکریا ۹/۱۰۸، محمودیہ ۵/۸۸، ڈائجیل ۱۵/۸۴)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب..... النسخة الهندية ۱/۳۲۶، بيت الأفكار رقم: ۱۰۱۵)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامی، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد، زکریا

۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ رجب ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۶۰/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۷/۱۴۲۲ھ

سودی رقم مسجد میں صرف کرنے کا حکم

سوال: [۸۲۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک نادار محلہ ہے محلے والوں نے ایک مسجد بنالی ہے چھت ٹین کی ہے کم آباد محلہ ہے محلہ میں صاحب ثروت لوگ نہیں ہیں، بجلی کا کھمبا بھی دور وہاں سے بجلی لینے کیلئے چند کھمبوں کی ضرورت ہے، جس پر تقریباً بیس ہزار روپے خرچ ہوں گے، اور یہ بیس ہزار بمشکل ہیں ایسی شکل میں اگر مسجد کا بیت الخلاء و پیشاب گھر کھجے بیاج کے روپیوں سے تعمیر کرالیں تو کیا گنجائش ہے یا نہیں؟ (فتاویٰ رحیمیہ ۲/۱۹۲ میں) درست بتایا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، نیز مصرف بھی بتائیں، آپ کا انتظار ہے، فقہی جدید مسائل / ۳۹۸ میں ناجائز لکھا ہے؟

المستفتی: عظیم اللہ، بستوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بیان کاروپہ مسجد میں خرچ کرنا تقدس مسجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور مسجد کے بیت الخلاء، پیشاب گھر اور کھجے میں صرف کرنا بھی جائز نہیں ہے، بعض اہل فتویٰ نے گنجائش لکھی ہے، ان کی دلیل ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، دعویٰ اور دلیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔

عن ابی ہریرۃ رض قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ طیب لا یقبل إلا الطیب.

(سنن الدارمی، باب فی اکل الطیب، دارالمغنی للنشر التوزیع ۳/۱۷۸۶، رقم: ۲۷۵۹)

أما لو أنفق فی ذلک مالا خبیثاً ومالا سببه الخبیث والطیب فیکره،

لأن اللہ تعالیٰ لا یقبل إلا الطیب، فیکره تلویث بیته بما لا یقبلہ. (شامی،

کتاب الصلاة ، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها قبیل مطلب فی أفضل المساجد ، زکریا
۴۳۱/۲ ، کراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۲/۱۱/۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۷۳۸)

سودی قرض لیکر مساجد و مدارس تعمیر کرنا

سوال: [۸۲۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا
سودی قرض لیکر مساجد یا مذہبی یا اسلامی ادارے کی املاک تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفصل
و مدلل جواب جلد عنایت فرما کر مشکور ہوں؟

المستفتی: حبیب اللہ خان، مدرسہ مسیح العلو، بنگلور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیجا جائز اور حرام ہے، کرنے والے گناہ کبیرہ کے
مرتکب اور لعنت خداوندی کے مستحق ہوں گے۔

عن جابر قال: لعن رسول اللہ ﷺ، آکل الربوا، ومؤكله، وکاتبه،
وشاهديه، وقال: هم سواء. (صحيح مسلم، باب لعن آكل الربا، ومؤكله، والنسخة

الهندية ۲/۲۷، بیت الافکار رقم: ۱۵۹۸)

اس قسم کا معاملہ کرنے والے سب سخت گنہگار اور وعید کے مستحق ہوں گے، البتہ اس
طرح سے جو عمارت بن چکی ہے، وہ شرعاً مسجد وغیرہ کی ملکیت میں داخل ہو جائیگی، کیونکہ
اسمیں کوئی سود کا پیسہ لگایا نہیں گیا ہے! فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۱۲۲۵)

بینک سے قرض لیکر مسجد بنانا اور آراضی مساجد پر بینک کی تعمیر

سوال: [۸۲۲۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ڈاکٹر محمد ہاشم پڑاؤ والی محلہ مسجد کجھری سرانے کا متولی ہوں، میرے ایک عزیز دوست ابرار حسین صاحب عرف منے میاں چاہتے ہیں، کہ بینک سے قرض لے کر مسجد کو دوبارہ بنایا جائے، نیچے نئی دوکانیں اسکے اوپر بینک اور اسکے اوپر مسجد تعمیر کرائی جائے، کیا حدیث اور شریعت کی روشنی میں ایسا کرنا جائز ہے، یا ناجائز؟ جبکہ مسجد کی آمدنی ایک ماہ کی دوکانوں اور مکان سے مبلغ چار سو پندرہ روپیہ ہے، میں دل کا مریض ہوں، میں حساب و کتاب دینا چاہتا ہوں کیا میں ان حالات میں ابرار صاحب کو حساب و انتظام دے سکتا ہوں یا نہیں؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد ہاشم، نارٹھر یلوے
ہوسپٹل منزل، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بینک کا قرض سودی ہوتا ہے، اور اس کو مسجد میں

لگانا ناجائز اور ممنوع ہے۔

لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله الخ. (شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ۴۳۱/۲،

کراچی ۶۵۸/۱، کوئٹہ ۴۸۷/۱)

نیز دوکانیں اور بینک مسجد کی زمین پر تعمیر کرا کے اوپر مسجد بنائی جائے، یہ صورت ہرگز جائز نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا، تو عمارت توڑ کر زمین مسجد میں داخل کر لی جائے گی۔

لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع (إلى قوله) فيجب هدمه ولو

علی جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى الخ. (الدر مع الرد، الوقف مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره، زكريا ۶/۵۴۸، كراچی ۴/۳۵۸، كوئٹہ ۳/۴۰۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۳۳۰)

نیز موجودہ حالات میں ابرار صاحب کو متولی بنانا جائز نہیں ہوگا، کسی تبع شرع شریف کو بنایا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/ذی قعدہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۹/۲۴)

بینک میں مسجد کی جمع شدہ رقم پر ملے سود کو بیت الخلاء میں لگانا

سوال: [۸۲۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی کچھ رقم بینک میں تھی، اس رقم پر سودی رقم تقریباً پچاس ہزار ہو گئی ہے، آیا اس رقم کو مسجد کے بیت الخلاء یا مدرسہ کے بیت الخلاء میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد علیم الدین قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بینک میں مسجد کی جمع شدہ رقم پر جو سود ملا ہے، وہ حرام ہے، اسلئے اسکو مسجد یا مدرسہ کے بیت الخلاء میں نہیں صرف کر سکتے بلکہ بینک سے نکال کر فقراء کو دینا لازم ہے، اور جن علماء نے مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنے کی اجازت دی ہے، ان کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرہ: ۲۷۵)

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيته، النسخة

الہندیہ ۳۲۶/۱، بیت الافکار رقم: ۱۰۱۵)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله . (شامی، کتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد ، زكريا ۴۳۱/۲، كراچی ۱/۶۵۸)

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فأما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء . (بذل المجهود ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، سهارنپور قديم ۳۷/۱، دارالبشائر الإسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحديث : ۵۹، ہندیہ ، زكريا قديم ۵/۴۸، جدید ۵/۴۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳۲۳ھ ۳/۱۵
(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۳۳۶-۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۳ھ ۳/۱۵

بینک سے حاصل شدہ رقم مسجد کی تعمیر میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بینک کے اکاؤنٹ میں جو رقم ڈالتے ہیں، ایف ڈی کی صورت میں جو رقم جمع ہوتی ہے، اس پر جو انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، کیا اس کو مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟
المستفتی: اہلیہ محمد ناصر، محلہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبیاللہ التوفیق: بینک کے سود کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اور ایف ڈی میں جو رقم ملتی ہے، وہ سود ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔
(مستفاد: امداد المفتیین ۲/۹۹۷)

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرہ: ۲۷۵)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (مسند بزار، مكتبه العلوم و الحكم ۱۷/ ۱۴۴، رقم:
۹۷۴۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ شوال ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۳۳/۳۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۱۰/۱۴۲۰ھ

سودی رقم عید گاہ یا مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) جو شخص بیک سے سود پر لین دین کرتا ہے، کیا اس کا پیسہ عید گاہ یا مسجد میں لگایا جاسکتا ہے۔
(۲) عید گاہ یا مسجد کے کام میں چندہ دینا اولیٰ ہے یا دینی درس گاہ مدرسہ میں؟

المستفتی: اخلاق احمد، سلیم پور، گڑھی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سود کا پیسہ مسجد یا عید گاہ میں لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ فقراء کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا لازم ہے۔

فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء الخ. (بذل المجهود، كتاب

الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارن پور قدیم ۱/ ۳۷، دار البشائر الاسلامیہ ۱/ ۳۵۹،

تحت رقم الحديث: ۵۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۴/ ۳۴۶، الدر مع الرد، زكريا

۵۵۳/۹، كراچی ۶/ ۳۸۵، البحر الرائق، زكريا ۹/ ۳۶۹، كوئٹہ ۸/ ۲۰۱، تبیین الحقائق،

مکتبہ امدادیہ ملتان ۶/ ۲۷، زکریا ۷/ ۶۰)

عید گاہ یا مسجد کے کام میں چندہ دینا اور دینی درس گاہ مدرسہ میں چندہ دینا دونوں اعلیٰ

درجہ کا ثواب کا کام ہے، البتہ مدارس میں ثواب زیادہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۵/ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۰۵۴۳۲)

مسجد میں لگی ہوئی سودی رقم کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال: [۸۲۳۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک پرانی مسجد جس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، کچھ سود کا روپیہ اس میں لگا دیا گیا ہے، مثلاً ۶۰ ہزار روپیہ تھا، جسمیں سودی بھی تھا اس سے تعمیر کر دی گئی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے، کہ اسمیں سود کتنا تھا، اب مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سودی رقم مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، ایسی مسجد میں نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن جتنی رقم سود کی اسمیں خرچ کر دی ہے، اتنی ہی رقم کوئی شخص اپنی طرف سے مذکورہ سودی رقم کے عوض میں اگر شخصی سود ہے، تو اس کو واپس کر دے، اور اگر بیک کا سود ہے، تو غرباء کو بلانیت ثواب صدقہ کر دے تو پھر شرعی مسجد بن جائیگی اور نماز بلا کراہت ہو جائیگی۔
 (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۶۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۸۰)

من ملک أموالاً غیر طیبۃ أو غصب أموالاً و خلطها ملکها بالخلط

و یصیر ضامناً الخ. (شامی، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، زکریا ۳/۲۱۸، کراچی ۲/۲۹۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳/۲۴۹)

لا یباح الانتفاع به قبل أداء البدل فی الصحیح من المذہب. (شامی، مطلب فی التصدق من المال الحرام زکریا ۳/۲۲۰، کراچی ۲/۲۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۳/۱۲/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۷۶۸/۳۱)

سودی رقم سے تجارت کرنے والے شخص کی رقم مسجد میں لگانے اور ان کی دعوت کھانے کا حکم

سوال: [۸۲۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبضہ میں بکرا منڈی ہے، جہاں بیوپاری خرید و فروخت جانوروں کی کرتے رہتے ہیں، کچھ احباب سودی رقم لیکر کاروبار کرتے ہیں، ایسے حضرات کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگ سکتی ہے یا نہیں؟ اور ایسے لوگوں کے یہاں دعوت میں جانا شادی کی تقریبات میں شرکت کرنا اور کھانا وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ وضاحب کے ساتھ تشریح فرمائیں؟

المستفتی: عزیز احمد نعمانی، فاضل دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سودی رقم کے ذریعہ کاروبار کرنا شرعاً ناجائز ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مسجد میں لگانا درست نہ ہوگا، مسجد میں خالص حلال اور طیب روپیہ لگانا چاہئے، اور اگر ایسے شخص کی غالب آمدنی یہی ہے، تو اس کے یہاں کھانا پینا ہدیہ لینا، اور دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرہ: ۲۷۵)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامی، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد، زكريا ۴۳۱/۲، كراچی ۱/۶۵۸)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة، من الكسب الطيب

و تربيتها، النسخة الهندية ۱/۲۶، ۴، بيت الافكار رقم: ۱۰۱۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵/۸/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شعبان ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۴۸۲)

سودی رقم مسجد کے بیت الخلاء میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۳۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے استنجاء خانہ و غسل خانہ کی تعمیر میں بینک سے ملا ہوا بیاج اور سود استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، اس رقم سے بیت الخلاء وغیرہ بنوایا گیا ہے؟ اگر استعمال کرنا درست ہے تو مسجد کی چھت اور لٹرین ہاتھ روم کی چھت کو ملا دینا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: ولی الدین، شہدول، ایم پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سودی رقم کو مسجد کے بیت الخلاء استنجاء خانہ کی تعمیر میں استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے، اور سودی رقم کسی بھی عنوان سے مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو بلا نیت ثواب فقراء میں تقسیم کر دینی چاہئے، اور بعض علماء نے بیت الخلاء اور رفاہ عام میں خرچ کرنے کی گنجائش لکھی ہے، ان کے دلائل مسئلہ سے منطبق نہیں ہوتے۔

وأما إذا كان عند رجل مال خبيث فأما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكة، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، سهارنپور قدیم ۱/۳۷، دارالبشائر الإسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹، البحر الرائق، کوئٹہ ۱/۲۰۱، زکریا ۹/۳۶۹، الدر مع الرد، زکریا ۹/۵۵۳،

کراچی ۶/۳۸۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹/صفر ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۱۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۲/۱۰ھ

سود کے پیسہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا

سوال: [۸۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سود

کے پیسہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا یا اجتماع کے موقع پر بیت الخلاء بنانا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صدیق، عمری کلاں، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سود کے پیسہ سے بیت الخلاء بنانا جائز نہیں ہے،

چاہے مسجد و مدرسہ کا ہو یا ذاتی یا قومی بلکہ اگر حکومت سے سودی رقم ملی ہے، تو انکم ٹیکس سیل ٹیکس میں دینا جائز ہے اور اگر ٹیکس نہیں ہے، تو فقراء میں بلا نیت ثواب تقسیم کر دینا لازم ہے۔

لا یمکنہ أن یردہ إلى مالکہ و یرید أن یدفع مظلمة عن نفسه فلیس له

حيلة إلا أن یدفعه إلى الفقراء الخ. (بذل المجهود، کتاب الطهارة باب فرض

الوضوء سہارن پور قدیم ۱/۳۷، درالبشائر الإسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹،

ہندیہ، زکریا قدیم ۵/۵۹۹، جدیدہ ۴/۴۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۲/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲/۲۴۵)

غیر مسلم کی شراب و خنزیر اور سودی رقم کو مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۳۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی

از سر نو تعمیر کی گئی تھی، تعمیر کے بعد لیٹر چھت ڈالنے کے لئے رقم نہ ہونے کی بنا پر مسلم اور غیر مسلم دونوں فرقوں کے لوگوں سے چندہ لیا گیا جبکہ کچھ غیر مسلم ایسے بھی ہیں، جنہوں نے خوشی سے چندہ دیا ہے، اور کتنے غیر مسلموں کا کاروبار شراب وغیرہ کا بھی ہے، اور یہ رقم مسجد میں لگادی گئی ہے، آیا اب اسمیں نماز جائز ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلموں سے مسجد کی تعمیر وغیرہ کیلئے از خود چندہ وصول کرنا درست نہیں ہے، ہاں اگر وہ کار خیر سمجھ کر از خود مسجد کیلئے چندہ دیں تو وہ رقم مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے، اور غیر مسلم کی وہ آمدنی جو اس کے مذہب میں حلال ہے وہ جائز آمدنی شمار ہوتی ہے، لہذا اگر غیر مسلم شراب و خنزیر اور سود کے پیسے کو حلال سمجھتے ہیں، پھر وہ پیسہ کار خیر سمجھ کر دیتا ہے، تو اس کا لگانا جائز ہے، لیکن چوری ڈکیتی کے پیسہ کو غیر مسلم بھی حرام سمجھتے ہیں، اس لئے ان کی چوری ڈکیتی کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اور غیر مسلم کا پیسہ جس مسجد میں لگایا گیا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا بلا تردد جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۵۴)

لو وقف علیٰ مسجد بیت المقدس فانه صحيح لأنه قربة عندنا

وعندهم . (البحر الرائق، کتاب الوقف، کوئٹہ ۵/۱۹۰، زکریا ۵/۳۱۶)

لأنه مباح بدليل صحته من الكافر كالعتق والنكاح وتحتة في الشامية: بل التقرب به موقوف على نية القربة فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر. (درمختار مع الشامی، مطلب لو وقف علی الاغنياء و حدہم لم یجز زکریا ۶/۵۲۱، کراچی ۴/۲۳۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۳/۱۱۰، ۴۴/۱۲۹)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قربة عندنا وعندهم كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر. (البحر الرائق، زکریا

۳۱۶/۵، کوئٹہ ۱۸۹/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/۱۲/۱۳۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹/۱۰۵۲۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۱۱/۱۳۳۲ھ

مسجد میں چوری کی بجلی کا استعمال

سوال: [۸۲۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آجکل اکثر مقامات کی مساجد میں دیکھا گیا ہے، کہ وضو کے واسطے جو پانی گرم کیا جاتا ہے، ہیٹر اور گیزر سے گرم کیا جاتا ہے، اور بہت سے مقامات کے مسجد کے ذمہ دار حضرات میٹر بند کر دیتے ہیں، اور یا کسی طریقہ سے بجلی چوری کر کے پانی گرم کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسے پانی سے وضو کرنا شرعی طور پر کیا حکم رکھتا ہے، اور اس سے نماز میں کوئی خرابی آتی ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ مدلل جواب مرحمت فرمائیں گے؟

المستفتی: مولانا امام الدین، رام نگر، منی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد خالص عبادت کا مقام ہے، اسمیں چوری کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اب تک جو نماز اس پانی سے وضو کر کے ادا کی گئیں وہ نمازیں صحیح اور جائز ہو جائیں گی، اور جان بوجھ کر ایسے پانی کو وضو میں استعمال کرنا ناجائز اور ممنوع ہے، اور اب تک جو بجلی چوری سے استعمال کی گئی ہے، اس کا بل تمام نمازیوں پر ادا کرنا لازم ہوگا؟

عن أبی حرة الرقاشی عن عمه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا لاتظلموا، ألا لایحل مال امرئ إلا بطیب نفس منه. (مشکوٰۃ

شریف/ ۲۵۵، شعب الإیمان للبیہقی، باب فی قبض الید عن الأموال المحرمة، دارالکتب

العلمیة بیروت ۴/۳۸۷، رقم: ۵۴۹۲)

لایجوز لأحد أن یتصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه الخ لایجوز لأحد

أن يأخذ مال أحد الخ. (قواعد الفقه، اشرفی دیوبند/۱۱۰، رقم: ۲۶۹، ۲۷۰، شرح المحلّة رستم اتحادی/۱۱/۶۱، رقم المادة: ۹۶، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/۲۹۶، ۲۱/۱۱۲، ۲۸/۲۶۴، ۳۷/۳۵۴) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴ھ/۶/۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۴ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۹۳/۲۷)

چوری کے پیسے سے مسجد کا مانک خریدنا

سوال: [۸۲۳۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کسی غیر مسلم کی دوکان پر نوکری کرتا ہے، وہ مالک کی غیر موجودگی میں دوکان سے روپیہ چرا کر اپنے گاؤں کی مسجد کیلئے مانک ایملی فائر وغیرہ خریدتا ہے، تو بتلائیے کہ اس شخص کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے؟ اور اس مانک کے ذریعہ سے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اذان دیدی گئی تو اذان ہوگی یا نہیں؟ اذان دینے والا گنہگار تو نہ ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد ظفر عالم، سعید نگر، پورنیہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد اللہ کا مقدس گھر ہے، اور اللہ کے نزدیک

روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ یہی مسجد ہے۔

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها.

(مسلم شریف، باب أحب البلاد إلى الله مساجدها، النسخة الهندية ۱/۲۳۶، بیت الافکار

رقم: ۶۷۱، صحیح ابن خزیمہ، المکتب الإسلامی ۲/۲۶۹، رقم: ۱۲۹۳)

اس لئے مسجد میں بالکل حلال اور پاکیزہ مال استعمال کرنا چاہئے، مال حرام

اور مال مشتبہ سے بچنا چاہئے، لہذا مسجد میں مال حرام یا ایسا مال جس کے حصول کا سبب

حرام ہو خرچ کرنا جائز نہیں۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله . (شامی ، کتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها قبيل مطلب في أفضل المساجد ، زكريا ۴۳۱/۲ ، كراچی ۱/۶۵۸)

لہذا مسئلہ صورت میں اس شخص کا یہ فعل ناجائز اور حرام ہے ، اور جتنی اذائیں اس مانک سے دی گئیں ہیں ، کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائیں گی ، اور اگر بعد میں وہ مالک اجازت دیدے تو وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔

والأرض المغصوبة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس . (شامی ، الصلاة ، مطلب في الصلاة ، في الأرض المغصوبة زكريا ۴/۲ ، كراچی ۱/۳۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۱۲۲۲ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۷ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۱۴۳۵)

میٹر کے بغیر مسجد و مدرسہ میں لائٹ کا استعمال

سوال: [۸۲۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے محلہ کی مسجد میں شروع ہی سے لائٹ کا میٹر لگا ہوا نہیں ہے، ایسے میں تاروں سے کرنٹ لے رکھا ہے، جس سے مسجد میں لائٹس سنبھلے سمرسیول وغیرہ سب چیزیں چلتی ہیں، اور لائٹ محکمہ کی طرف سے اب تک نہ کوئی اعتراض ہوا نہ گرفت اور مسجد سے قریب ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی لائٹ جا رہی ہے، تو کیا اس طرح مسجد و مدرسہ میں بغیر میٹر لائٹ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شرعاً و قانوناً اور اس مسجد میں کیا ہمارا وضو درست ہوگا یا نہیں؟ مفصل بیان فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد فراست علی، سرائے ترین، عائشہ مسجد، سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سرکار کی طرف سے مسجد یا مدرسہ میں فری لائٹ دی گئی ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سرکار کی اجازت کے بغیر چوری کے تار ڈال کر مسجد کی مذکورہ ضرورتوں میں لائٹ کا استعمال ہو رہا ہے، پھر مسجد سے مدرسہ کی طرف بھی لائٹ منتقل کی جا رہی ہے، تو یہ سب ناجائز ہے اس کا گناہ مسجد کے ذمہ داران پر ہوگا، اور نمازیوں کے سر نہ ہوگا، نمازیوں کی نماز بلا کراہت درست ہو جائیگی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۴/۱۳۵، محمودیڈا بھیل ۱۵/۱۰۷)

إمرأة زوجها في أرض الجور، إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. (شامی، کتاب الیوع، باب البیع الفاسد، مطلب فیمن ورث مالا صراحاً، زکریا ۷/۳۰۲، کراچی ۹۹/۵، کراچی ۶/۳۸۶، زکریا ۹/۵۵۳، ۵۵۴)

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (شرح المحملة ۱/۶۱، رقم المادة: ۹۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۲۲/۱۴۳۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ ذیقعدہ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۷۳۹/۴۱)

مسجد کی تعمیر میں شیعہ سے بغیر حق کے روپے لینا

سوال: [۸۲۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضلع بجنور کے موضع شکر پور میں شیعہ حضرات نے اپنی ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس میں سنی حضرات نے کچھ حصہ نہیں لیا تھا، اور نہ کسی نے کوئی رقم دی تھی، لیکن دونوں فرقوں کے حضرات اتفاق رائے سے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اب کچھ سنی حضرات نے شیعوں کی اس بنائی ہوئی مسجد میں اس نیت سے کہ شیعوں کی مسجد میں ان کی دی ہوئی اذان سے ہماری نماز نہیں ہوتی

ہے، نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، اور فرقہ شیعہ کے لوگوں سے مسجد کی نصف قیمت جس کی رقم تقریباً پچیس ہزار روپے اور اس مسجد کا سامان نصف صف وغیرہ لینا چاہتے ہیں، اور شیعہ حضرات نصف قیمت پچیس ہزار روپے اور نصف سامان دینے پر رضامند ہیں، لیکن سنی حضرات میں سے کچھ حضرات نصف قیمت اور نصف سامان لینے پر رضامند نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں، کہ اس مسجد میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا ہے، اب تک ہم نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی، یہ ان لوگوں کا اخلاقی فعل تھا کہ انھوں نے ہم کو منع نہیں کیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا فرقہ شیعہ کے لوگوں سے ان کی مسجد کی نصف قیمت و نصف سامان لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا سنی حضرات اس رقم کو اور سامان کو اپنی مسجد میں یا اپنی تیسری مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد یاسین، شکر پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب شیعہ لوگوں کی مسجد میں سنیوں کا کوئی پیسہ لگا ہوا نہیں تو پھر مسجد کے تعمیری خرچہ میں سنیوں کو ادھی قیمت لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس نام سے شیعوں سے پیسہ لیکر سنیوں کی مسجد میں لگانے کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں، اگر سنیوں کو اپنی مسجد بنانی ہے، تو اپنے پیسے سے الگ سے بنائیں۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه. (السنن الكبيرى للبيهقى، الغصب، قبيل باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، دار الفکر ۵۰۶/۸، رقم: ۱۱۷۴۰)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه، اشرفى ديوبند/۱۱۰، رقم: ۲۶۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۱۲/۲، ۲۸، ۲۶۴/۳۷، ۳۵۴، مجلة الأحكام العدلية ۱/۲۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۳/۷/۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۷۸۳/۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۸/۲ھ

سٹہ کا پیسہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے سٹہ کا پیسہ مسجد کیلئے دیا تو کیا اس سے تعمیری ضرورتوں میں خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا کیا شکل اختیار کی جائے؟

المستفتی: عبدالرؤف، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سٹہ کا پیسہ مسجد کے کسی مصرف میں لگانا جائز نہیں

ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۶۳۷، جدید ڈبھیل ۱۶/۳۹۷)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ: أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل

إلا طيباً. (صحيح مسلم، باب قبول الصدقة، من الكسب الطيب وترتيبها، النسخو الهنديه

۳۲۶/۱، بيت الافكار رقم: ۱۰۱۵، مشکوٰۃ شريف ۱/۲۴۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ شعبان ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۸۳/۳۵)

تعزیر بالمال کی سزا میں لئے گئے پیسہ کو مسجد و مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۲۴۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو لڑکے

ایک لڑکی کو لیکر فرار ہو رہے تھے، کسی نے راستہ میں ان کو دیکھ لیا دیکھنے والے نے ان دونوں لڑکوں اور لڑکی کو پکڑ کر کے پردھان کے حوالہ کر دیا پردھان نے ان تینوں کو پولیس کے حوالہ

کر دیا، پھر لڑکے اور لڑکی والوں کے کہنے پر گاؤں کے بڑے ذمہ دار حضرات ان تینوں کو چھڑا کر لے آئے اس کے بعد انھوں نے پنچایت بلائی، پنچوں نے پہلے یہ شرط رکھ دی کہ ہم جو فیصلہ کریں گے اس کو ماننا لازم ہوگا، چنانچہ انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں لڑکے سزا کے طور پر پچیس پچیس ہزار روپے ہمارے حوالہ کریں ہم اس کو جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، چنانچہ دونوں لڑکوں نے بخوشی پچیس پچیس ہزار روپے ان کے حوالہ کر دیئے، اب سوال یہ ہے کہ ان پیسوں کو مسجد، مدرسہ یا عیدگاہ کی تعمیر و مرمت میں لگا سکتے ہیں، یا نہیں؟ یا اس کے علاوہ کوئی اور مد بھی ہے جس میں ان پیسوں کو خرچ کر سکیں؟

المستفتی: عبدالخالق، شریف نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مالی جرمانہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ناجائز ہے، لہذا پنچوں نے ان دونوں لڑکوں سے جو پچیس پچیس ہزار روپے سزا کے طور پر وصول کئے ہیں، اس کو واپس کرنا ضروری ہے، مسجد و مدرسہ عیدگاہ کی تعمیر و مرمت یا کسی اور مد میں اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

التعزیر بأخذ المال کان فی ابتداء الإسلام ثم نسخ والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال . (شامی، کتاب الحدود، باب التعزیر، مطلب فی التعزیر بأخذ المال، زکریا ۶/۱۰۶، کراچی ۴/۶۱، ۶۲)

و عند أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز ومعنى التعزير بأخذ المال على المتولى به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (هنديہ، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر زکریا جدید ۲/۱۸۱، قدیم ۲/۱۶۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۵۹۸/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵/۷/۱۴۲۹ھ

مالی جرمانہ کا پیسہ مساجد و مدارس میں لگانا

سوال: [۸۲۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی شخص کے یہاں چوری ہوئی اس نے ایک شخص کو چوری کا مجرم ٹھہرایا اب ایک ہفتہ کے اندر وہ سامان اہل معاملہ کے گھر سے دستیاب ہو گیا جب گاؤں والوں کے سامنے یہ فیصلہ آیا تو انھوں نے فریقین پر جرمانہ عائد کر دیا اب سوال یہ ہے کہ جو جرمانے کا پیسہ وصول کیا گیا ہے، یہ پیسہ مسجد کے اندر لگ سکتا ہے؟ اگر نہیں لگ سکتا ہے تو اس کا مصرف بتائیے؟

المستفتی: سراج الحق، سرجن نگری، ٹھا کر دارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعی طور پر مالی جرمانہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں سے مالی جرمانہ حاصل کیا گیا ہے، ان کے روپے انہیں واپس کر دینا واجب ہے، مساجد اور مدارس اور کارخیر میں لگانا جائز نہیں ہے۔

عن أبی حرة الرقاشی عن عمه ، أن رسول اللہ ﷺ قال : لا یحل مال

امریء مسلم ، إلا بطیب نفس منه . (شعب الإیمان ، باب فی قبض الید عن الأموال

المحرمة ، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/ ۳۸۷ ، رقم: ۵۴۹۲)

التعزیر بالمال کان فی ابتداء الإسلام ثم نسخ ، والحاصل أن

المذہب عدم التعزیر بأخذ المال . (البحر الرائق ، کتاب الحدود ، فصل فی التعزیر ،

زکریا ۵/ ۶۸ ، کوئٹہ ۵/ ۴۱ ، النہر الفائق ، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/ ۱۶۵ ، الموسوعة

الفقیہیة الکویتیة ۳۷/ ۳۵۴)

ما حرم أخذہ حرم إعطاء ہ الخ . (الإشباہ قدیم ۲۹/ ۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰۴۲۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۳/۱۴۱۳ھ

جرمانہ کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا

سوال: [۸۲۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شادی شدہ لڑکا دوسرے شخص کی بیوی سے زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو ایک مفتی صاحب کے فیصلہ کے مطابق دونوں کو ۱۰۰،۱۰۰ روٹے مارے گئے، پھر گاؤں کے لوگوں نے متفق ہو کر لڑکے سے تین ہزار اور عورت سے دو ہزار روپیہ جرمانہ کے طور پر لئے تھے، اسی روپیہ کے ذریعہ مسجد کا بیت الخلاء بنانا چاہتے ہیں، تو کوڑے لگانا اور جرمانہ لینا اور اسی پیسہ سے مسجد کا بیت الخلاء بنانا کیسا ہے؟

المستفتی: شاہجہاں شیخ، مرشد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اسلامی شریعت میں غیر شادی شدہ لوگوں کے زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حاکم اسلام کی نگرانی میں سوسو کوڑے لگانے کا حکم ہے، اور شادی شدہ کو حاکم اسلام کی نگرانی میں سنگسار کر کے ختم کر دینے کا حکم ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں حاکم اسلام نہیں ہے، اسلئے حاکم اسلام کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے حد لگانے کا حکم نہیں ہے، لیکن علاقہ اور برادری پنچایت کے ذریعہ سے جو بھی مناسب سزا دی جاسکے دی جائے، بشرطیکہ سزا دینے والوں پر کوئی رد عمل نہ ہو اور اس کے ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے، مگر مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، لہذا مذکورہ واقعہ میں مالی جرمانہ جو لیا گیا ہے، اس کو مسجد کے بیت الخلاء یا کسی اور جگہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جن سے مالی جرمانہ لیا گیا ہے، انہیں کو واپس کر دینا لازم ہے۔

عن أبی حرة الرقاشی عن عمه ، أن رسول اللہ ﷺ قال : لا یحل مال

امریء مسلم إلا بطیب نفس منه . (السنن الکبریٰ للبیہقی ، اللغصب قبیل باب من

غصب جاریہ فباعہا ثم جاءت الحاریة ، دارالفکر ۸/۵۰۶ ، رقم: ۱۷۴۰ (۱)

لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعی .

(عالمگیری، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، زکریا قدیم ۲/۱۶۷، جدید ۲/۱۸۱،

البحر الرائق، ۵/۴۱، زکریا ۵/۶۸، الدر مع الرد، زکریا ۶/۱۰۶، کراچی ۴/۶۱)

معنى التعزیر بأخذ المال على القول به إمساك شیء من ماله عند مدة

لینز جرم یعید الحاکم إليه . (شامی، مطلب فی التعزیر، بأخذ المال زکریا ۶/۱۰۶،

کراچی ۴/۶۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۴۱، زکریا ۵/۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۸۸/۳۷)

ہندوستان میں چوری وغیرہ کے جرم میں لیا ہوا روپیہ مساجد کی تعمیر وغیرہ میں لگانا کیسا ہے؟

سوال: [۸۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندوستان کے اندر کسی گاؤں میں آدمی نے چوری یا ڈکیتی کی یا زنا کیا گاؤں والوں نے اس سے کوئی سامان یا روپیہ وغیرہ جرمانہ کے طور پر لیا تو مسجد کی تعمیر میں یا مدرسہ کی تعمیر میں عوام کے فائدے کیلئے اس سامان یا روپیہ کو استعمال کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد کاظم، بانکوڑوی، مغربی بنگال،
دورہ حدیث، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: شریعت اسلامی میں مالی جرمانہ حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور حاصل شدہ مال اصلی مالک کو واپس کر دینا واجب ہے، اور اس حاصل شدہ

مال کو مسجد یا مدرسہ کے تصرف میں لانا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ زکریا ۱۳۴۴/۴، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳۴۵/۵، ڈبھیل ۱۳۴۹/۱۴)

عن ابی حرة الرقاشی عن عمه ، أن رسول الله ﷺ قال : لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه . (السنن الكبرى للبيهقي ، اللغصب قبیل باب من غصب جاریة فباعها ثم جاءت جاریة ، دارالفکر ۸/۵۰۶، رقم: ۱۱۷۴۰)

لا یجوز لاحد أن یأخذ مال أحد بلا سبب شرعی الخ وتحتہ عدم جواز التعزیر بالمال الخ . (قواعد الفقه ، اشرفی دیوبند / ۱۱۰، رقم: ۲۶۹، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۳۵۴، البحر الرائق، كوئنه ۵/۴۱، زکریا ۵/۶۸، شامی، زکریا ۶/۱۰۶، کراچی ۴/۶۱، ہندیہ زکریا قدیم ۲/۱۶۷، جدید ۲/۱۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۷۸۶۷)

شراب کی کمائی مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۸۲۴۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید شراب کا ٹھیکہ دار ہے، ہندوؤں کے بازار میں دوکان ہونے کی وجہ سے ان کے جاگرن میں پیسہ دیتا ہے، زید مسجد کے مصرف اور مدرسہ وغیرہ کے سلسلہ میں پیسے دینا چاہتا ہے، اس کا کہنا ہے، کہ مسجد میں جو روپے دوں گا، میری جائز کمائی کا ہوگا، اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کو شک ہوا اور ناراض بھی ہوئے، تو اس نے مسجد میں بیٹھ کر بتایا کہ میرا پیسہ دوسرے کاروبار کا ہے، جیسے اینٹوں کا بھٹہ جائیداد مکان دوکانوں اور بس وغیرہ کا کر ایہ اس گفتگو میں یہ حضرات شامل تھے، حاجی عبدالحی صاحب حافظ محمد ہاشم صاحب عبدالمجید صاحب، حاجی انوار حسین صاحب، سجاد حسین صاحب، اسٹینہ ولٹیرو وغیرہ کیا اس صورت میں زید کا پیسہ مسجد و مدرسہ اور دیگر کاموں میں خرچ کیا جاسکتا ہے، یا نہیں؟ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہو قرآن

وحدیث کی روشنی میں مرحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگی؟

المستفتی: حاجی عبداللہ صاحب،
محمد قاسم صاحب، اے ون ٹیلر،
فورہ چوک، چندوسی، ضلع، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مسلمانوں کے نزدیک اس بات کی صداقت ثابت ہو جائے، کہ مذکورہ شخص اپنی جائز کمائی سے ہی مسجد و مدرسہ میں دیتا ہے تو اس کی جائز آمدنی کا لگانا جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱۱۸/۴)
حرام و مشتبہ کمائی کا مدرسہ یا مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد، زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۵۴/۲۶)

خنزیر کے بالوں کے برش بنانے والوں کا چندہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۴۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) خنزیر کے بالوں کے برش بنانے والے حضرات سے مدرسہ میں چندہ لینا اور ان حضرات کی جرم مدرسہ میں لینا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) مساجد میں چندہ کی صندوقچی جمعہ کے روز رکھی جاتی ہے، اس میں خنزیر کے بالوں والے برش کے تاجر قمار باز دھوکہ دہی سے غلہ کے تاجر یعنی یہ تاجر کسانوں کو دھوکہ دیکر

زیادہ تول کر لاتے ہیں، ایسے لوگوں سے مدرسہ یا مسجد میں چندہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: مولانا سلامت اللہ، شیرکوٹ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: خنزیر کے بالوں کے برش کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر اس کے کاروبار کرنیوالے حضرات کا ذریعہ معاش صرف یہی ہے تو ایسے لوگوں سے مدرسہ کیلئے چندہ لینا جائز نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ اگر اور بھی حلال ذرائع معاش ہیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ جو رقم مدرسہ میں دے رہا ہے، وہ حرام ہے یا حلال تو ایسے لوگوں سے چندہ لینا جائز ہے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جو رقم مدرسہ کیلئے دے رہا ہے، وہ حرام ہے، تو جائز نہیں ہے۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره .

(شامی، الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد زكريا ۲/۴۳۱، كراچی ۱/۶۵۸، بزازیہ زكريا جديد ۳/۲۰۳، وعلی هامش الهندي ۶/۳۶۰) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۶/۶/۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۷ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۹۲۷)

خنزیر کے بالوں کا برش بنانے والوں کی رقم مسجد یا مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۲۴۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ برش والوں کی رقم مسجد و مدرسہ میں لگ سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ایسے مدارس کو ہم بھی زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، جن کے متعلق ہمیں علم ہے کہ وہ خنزیر کے بالوں کے برش بنانے والوں سے بھی اس طرح کی رقم لیتے ہیں، اس صورت میں حلال و حرام کی آمیزش کا ہونا از روئے شرع کیسا ہے؟ کیا ہمارے لئے ان کا مالی تعاون کرنا جائز ہے؟

المستفتی: احسان علی صدیقی، اصفہر
 منزل، قصبہ شیرکوٹ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: برش والوں کی حلال رقم جائز اور خالص حرام یا اکثر حرام ناجائز ہے وہ لوگ مدرسہ یا مسجد میں ایسی رقم نہ دیں، اور ارباب مدرسہ و مسجد بھی ایسی رقم سے احتراز فرمائیں، جب تک صراحت سے نہ کہہ دیں کہ یہ حلال پیسہ ہے۔

وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها إلا إذا قال أنه حلال الخ. (مجمع

الانهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب مصرى قديم ۵۲۹/۲، دارالكتب العلمية بيروت ۱۸۶/۱، ۱۸۷، ہندیہ زکریا قديم ۳۴۲/۵، جدید ۳۹۶/۵، بزازیہ زکریا جدید ۲۰۳/۳، وعلی ہامش الہندیۃ ۳۶۰/۶)

اگر اہل مدرسہ مال زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کریں یا ضرورت شدیدہ کی بناء پر حیلہ تملیک کر کے ضرورت مدرسہ میں خرچ کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، برش والوں سے چندہ لینے کی وجہ سے اسکی زکوٰۃ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۹/۲۴)

دوسرے کی غصب کردہ زمین کی اجرت مسجد میں دینا

سوال: [۸۲۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کسی کی زمین قبضہ کر کے کہتا ہے، کہ یہ مسجد کی زمین ہے اس میں دوکان بنا کر اس کا کرایہ مسجد کو بھی نہیں دے رہا ہے، مسجد کی زمین ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کیا ذمہ داران مسجد کو اس کا کرایہ لینا درست ہے، نیز مدعی کا اپنی زمین ہونے کا ثبوت بھی ہے، کئی دفعہ مقدمہ بھی جیت گیا ہے، لیکن پھر بھی مذکورہ شخص اپنی غلطی سے ظلم سے مسجد کی زمین بتلا رہا ہے، اور کرایہ مسجد کو بھی نہیں دے رہا ہے، کیا ذمہ داران مسجد کو کرایہ لینا جائز ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے، کہ یہ مسجد کی زمین نہیں ہے، اس صورت میں کون کون لوگ گنہگار ہوں گے اس

سلسلہ میں مظلوم مکمل وضاحت چاہ رہا ہے؟

المستفتی: محمد عارف، امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے نام سے کسی دوسرے کی زمین کو قبضہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے ایسی زمین کی آمدنی نہ قبضہ کرنے والے کیلئے حلال ہے، اور نہ ہی مسجد کیلئے، شرعی طور پر لازم ہے کہ جس کی زمین ہے، اسے واپس کر دے۔

عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين . (صحيح مسلم، باب تحريم الظلم وغصب الأرض غيرها ، النسخة الهندية ۳۲/۲ ، بيت الافكار رقم: ۱۶۱۰)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعى . (قواعد الفقه ، اشرفيه / ۱۱۰ ، رقم: ۲۷۰ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۱/۱۱۲ ، ۲۸/۲۶۴ ، ۳۷/۳۵۴ ، الدر مع الرد ، زكريا ۶/۱۰۶ ، كراچی ۴/۶۱ ، البحر الرائق ، كوثه ۵/۴۱ ، زكريا ۵/۶۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۸/۲۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ شعبان ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۸۰۹)

مغصوبہ زمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال: [۸۲۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گرام کو دی دو انہ میں جامع مسجد محلہ بازار میں ہے، اسکے سابقہ دروازہ کی دیوار سے آگے گرام سماج کی جگہ ہے اس میں ہفت روزہ بازار لگتا ہے، یہ جگہ بازار کے تمام

ہندو مسلم کی ملکیت ہے، اس میں جو بازار کا ٹھیکہ لئے ہوئے ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو دوکان والے اس جگہ پر بیٹھے چلے آئے ہیں، اب وہ یہاں بیٹھیں گے، اس میں دوکانداروں کو بہت تکلیف ہے بیٹھنے کی جگہ مسجد میں ملانی گئی ہے، جس میں دوصفوں کی جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے کچھ پبلک کو اعتراض ہے، جھگڑا فساد کی وجہ سے کوئی کچھ اس میں لب کشائی نہیں کر سکتا ہے، اپنے سر جھگڑا کون مول لے اسی حالت میں اس بڑھی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مع حوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں؟ عین کرم و نوازش ہوگی؟

المستفتی: اکرم حسین انصاری، محمد عباس، انیس احمد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حب دوصفوں کی مقدار مسجد میں غیر کی ملکیت داخل ہوگئی، تو اتنے حصہ کی قیمت بانیان مسجد گرام سماج کے ذمہ دار کو دیدیں، تو وہ حصہ بھی مسجد شرعی میں داخل ہو جائے گا، اور اس میں مسجد کا ثواب حاصل ہوگا اور بلا کراہت نماز ادا ہو جائیگی، مسجد میں شامل ہو جانے کے بعد اب اسے مسجد سے خارج کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ قیمت ادا کرنا لازم ہوگا، اور قیمت ادا کرنے سے پہلے پہلے نماز وہاں پر مکروہ ہوگی۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۴۶۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۲۵۷)

ومنها لو غصب أرضاً فبني فيها أو غرس فإن كانت قيمة الأرض أكثر فلعها وردت إلا ضمن له قيمتها الخ. (الاشباه والنظائر، قديم ۱/۴۴، و هكذا في فتاوى قاضيخان زكريا جديد ۳/۱۶۵، وعلى هاش الهنديه ۳/۴۲ هندية زكريا قديم ۵/۲۴، جديد ۵/۱۴۶، المبسوط السرخسي، دار الكتب العلمية بيروت ۲۳/۵۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ صفر ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۳/۲۳)

مساجد کو ڈسکاؤنٹ دینے والی کمپنیوں سے سامان خریدنا

سوال: [۸۲۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی سامان اسپیکر وغیرہ مسجد کیلئے خریدا ہو جا کمپنی سے اور اس نے دس فیصد چھوٹ دی یعنی منجانب کمپنی مسجد اور عبادت گاہوں کو دس فیصد کی رعایت چھوٹ ملتی ہے، اب مفہوم طلب امر یہ ہے کہ وہ رعایت چھوٹ جو کمپنی کی طرف سے عبادت گاہوں کو دی جاتی ہے، مسجد کیلئے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عظمت حسین، مانپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کمپنی اپنی چیز کی خود مالک ہے، اور مالک کو یہ حق حاصل ہے، کہ اپنی ملکیت کی چیز جس کو جتنے میں چاہے دیدے اسلئے مذکورہ رعایت مسجد و عبادت گاہ کیلئے بلا قباحت جائز اور درست ہے۔

المالک هو المتصرف فی الأعیان المملوكة كيف شاء من الملك

الخ. (بیضاوی، ۷/۱، مکتبہ رشید) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸/۲۹۱۱)

واپس نہ لینے کی نیت سے دیئے گئے قرض کو مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۵۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکرنے زید سے قرض کے طور پر کچھ رقم لی، زید نے بکر کو رقم دیتے وقت یہ نیت کر لی، کہ مجھے یہ رقم واپس نہیں لینے، اور بکر سے کہہ بھی دیا کہ آپ مجھے یہ واپس نہ کریں، لیکن بکر کی نیت شروع ہی سے یہ ہیکہ مجھے یہ رقم واپس کرنی ہے، لہذا ایک موقع پر بکر نے کہا بھی کہ آپ کی رقم کا بندوبست ہو چکا ہے، زید نے کہا کہ آپ واپس نہ کریں بلکہ اپنا کام چلائیں، بکر نے کہا نہیں، بلکہ مجھے واپس ہی کرنی ہے، زید نے خیال کیا کہ چونکہ میری نیت واپس لینے کی نہیں تھی، اور

یہ واپس ہی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کسی مسجد کی تعمیر میں صرف کر دوں، لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ یہ رقم تعمیر مسجد میں صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو دوسرا مصرف کیا ہے؟
المستفتی: جلیس احمد، ٹانڈہ بادی، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بکر مستحق زکوٰۃ ہے اور زید نے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی ہے اور عرض عطیہ دینا ہے تو بکر اس کا مالک بن چکا ہے، اس میں اب زید کا تصرف جائز نہیں ہوگا، ہاں اگر بکر سے کہہ دے کہ تم ہی اپنی خوشی سے وہ رقم مسجد کو دیدو تو درست ہے، اور اگر بکر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اور زید نے زکوٰۃ کی نیت بھی نہیں کی ہے، تو واپسی درست ہے، اور زید اسکو واپس لیکر چاہے اپنے اوپر خرچ کرے یا مسجد کے لئے دیدے تو دونوں جائز ہے، البتہ مسجد میں دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔

المالک هو المتصرف فی الأعیان المملوكة کیف شاء من الملک

الخ. (بیضاوی شریف، مکتبہ رشید ۷/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شعبان ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۸۰۵/۲۸)

جوا اور شراب کی آمدنی سے تعمیر کیا گیا مکان مسجد کیلئے خریدنا

سوال: [۸۲۵۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مکان مسجد کے پڑوس میں ہے جس کو خریدنا ہے، مسجد کیلئے لیکن اس میں بات یہ ہے، کہ مسجد کے پڑوس کی ملکیت صحیح آمدنی سے خریدی ہوئی نہیں ہے، حرام آمدنی جوا اور شراب کے کاموں سے مکان بنایا گیا ہے، لہذا سوال یہ ہے کہ ایسا مکان مسجد کو وسیع کرنے کیلئے خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ کہ ایسا مکان مسجد کی آمدنی کیلئے خرید کر کرایہ پردے سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں نہ لیں صرف آمدنی کیلئے خرید سکتے ہیں، نیز ایسا مکان مسجد کے جماعت خانہ میں استعمال نہ ہو بلکہ صرف

و سو خانہ یا یہ کہ جماعت کو کھانا کھلانے کیلئے خرید لیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟

المستفتی: محمد الیاس، احمد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب اہل مسجد کو واضح طور پر معلوم ہے کہ پڑوس کا مذکورہ مکان جو اور شراب کی آمدنی سے تعمیر کیا گیا ہے، تو مسجد کے لئے ایسا مکان خریدنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا مکان خرید کر کے آمدنی کا ذریعہ بنانا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، لہذا مسجد کے لئے اس مکان کو خریدنے سے گریز کیا جائے۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. (مسلم شريف، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، النسخة الهندية ۱/۳۲۶، بيت الافكار رقم: ۱۰۱۵، ترمذی شریف ۲/۱۲۸، رقم: ۲۹۸۹، الترغيب والترهيب للياضی / ۱۹۱، رقم: ۷۸۳)

وفي حديث طويل قال رسول الله ﷺ لا يكتسب عبد مال حرام فيتصدق فينفق فيسارک له فيه ولا يتصدق له فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار الخ. (شعب الإيمان، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۳۹۵، ۳۹۶، رقم: ۲۵۲۴، مسند احمد بن حنبل ۱/۳۸۷، رقم: ۳۶۷۲، مسند بزار، مکتبه العلوم والحکم ۵/۳۹۲، مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۰/۲۹۲، ۵۳/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ / ۶/۲۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ جمادی الثانی ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۱۵۷)

سینما ہال کے جنریٹر کی بجلی مسجد میں استعمال کرنا

سوال: [۸۲۵۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسلمان نے جزیٹر خریدنا سینما ہال چلانے کیلئے اس نے بغیر کسی اجرت کے بخششی اس جزیٹر میں سے مسجد کو بجلی دیدی تو اس کا استعمال کرنا مسجد میں کیسا ہے؟

المستفتی: محمد صدیق، عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو جزیٹر سینما ہال چلانے کیلئے خریدا گیا ہو اور سینما ہال میں اس کا استعمال بھی ہونے لگا ہو اس جزیٹر سے کسی مسجد میں بجلی دینا (بخششی اور بلا کسی اجرت کے ہوتب بھی) جائز نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۱۹۳، جدید ڈابھیل ۱۵/۱۱۶، احسن الفتاویٰ ۶/۴۳۲، کفایت المفتی ۷/۶۸، جدید مطول)

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله . (شامی، کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في أفضل المساجد، زكريا ۲/۴۳۱، كراچی ۱/۶۵۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ربيع الثاني ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۷۶۶/۳۳)

جہیز میں روپیہ لے کر مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو لڑکا شادی کرنے کیلئے لڑکی والے سے نقد روپیہ لیتا ہے، پھر اس روپیہ میں سے مسجد کو دیتا ہے، تو یہ روپیہ مسجد میں لگانا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد اسماعیل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: شادی کے اندر لڑکی کے لئے مہر کے نام سے

لڑکے یا لڑکے کے ذمہ داروں سے مال وصول کرنا جائز ہے، لیکن لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کے ذمہ داروں سے کسی قسم کے مال کا مطالبہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، لہذا جو مال لڑکا یا لڑکے والے لڑکی یا لڑکی والے سے دباؤ کیساتھ یا صراحت کے ساتھ مطالبہ سے وصول کرتے ہیں، وہ رشوت ہے۔ (مستفاد: مجموعۃ الفتاویٰ ۱۹۱/۲)

ولا إزام علی المتبرع لعدم أهلیة اللزوم. (ہدایہ، کتاب الہبۃ، اشرفی ۲۸۳/۳)
اور رشوت کا پیسہ مسجد مدارس یا کسی بھی کار خیر میں دینا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۶۷۲/۲، قدیم زکریا)

لو أنفق فی ذلک مالا خبیثاً ومالاً سببه الخبیث والطیب فیکره لأن الله تعالی لا یقبل إلا الطیب. (شامی، الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها قبیل مطلب فی أفضل المساجد زکریا ۴۳۱/۲، کراچی ۱/۶۵۸)
اس رشوت اور مال حرام کو اصل مالک کو واپس کر دینا واجب ہے، لہذا لڑکی والے سے لیا ہوا پیسہ لڑکی والے ہی کو واپس کر دینا واجب ہے۔

وإن أخذہ من غیر عقد لم یملکہ ویجب علیہ أن یردہ علی مالکہ إن وجد المالک. (بذل المجهود، کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوع مکتبہ سہارن پور ۱/۳۷، دار البشائر الإسلامیہ ۱/۳۵۹، تحت رقم الحدیث: ۵۹، ہندیہ زکریا قدیم ۵/۴۹۰، جدید ۴/۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۳ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۲/۳۶)

شادی کے موقع پر مسجد میں دیئے گئے کولر گھڑی وغیرہ کا حکم

سوال: [۸۲۵۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج کل کارواج بن گیا ہے، کہ شادی بارات میں پنکھا، کولر گھڑی وغیرہ مسجد کو ضرور دیتے ہیں، رواج کے طور پر قطع نظر اس سے کہ مصلیٰ ہی کے سر پر لگے یا مسجد یا مسجد میں کہیں اور تو ایسے نیکھے اتنے

ہو گئے کہ مسجد میں اندر باہر سب جگہ سینچے اور کولر لگ گئے اب مسجد میں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آرہے ہیں، تو یہ پنکھا امام صاحب کے کمرہ میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ امام صاحب کا کمرہ مسجد کی حدود کے اندر ہے اس کے بارے میں ازراہ کرم مطلع فرمادیں، عین کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد انعام احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ کے یہاں کے عرف و رواج کے مطابق مسجد میں دینے والے کا مقصد مسجد کی ملکیت میں دینا ہے، اور مسجد میں ہی استعمال کی قید نہیں ہے، تو یہ مسجد کی آمدنی کے حکم میں ہوگا، اور مسجد کی کمیٹی کے مشورہ سے امام و مؤذن کے کمرہ میں لگوانا اور فروخت کر کے اسکی رقم کو مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا سب جائز ہوگا۔

الثابت بالعرف كالثابت بالنص الخ المعروف كالمشروط .

(رسم المفتی ۱/۹۴)

اور اگر ایسا عرف نہیں ہے، اور دینے والے صرف مسجد ہی میں چلانے کیلئے دیتے ہیں، تو دینے والے کی اجازت سے امام و مؤذن کے کمرہ میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔

إن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ . (شامی، الوقف، مطلب و اعاءة غرض

الواقفين واجبة كراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ محرم الحرام ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۱/۲

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۱۵/۲۷)

عید میلاد النبی کے جلوس سے مسجد کی تعمیر کیلئے چندہ کرنا

سوال: [۸۲۵۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کا ایک ہجوم نکلتا ہے، جس کو جلوس کہتے ہیں، اس جلوس کا سارا انتظام مسلمان کرتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھی اس میں شریک رہتے ہیں،

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ہماری مسجد کے لوگ اس جلوں میں مسجد کی تعمیر کیلئے چندہ کرتے ہیں، کیا اس طرح مجمع عام میں چندہ کرنا اور مسجد کے مصرف میں لگانا درست ہے، جبکہ معلوم نہیں ہوتا کہ لوگوں کی کمائی حلال ہے یا حرام؟

المستفتی: ناصر عبدالقدیر شیخ، کاشی واڑی،
بھوانی پیٹھ، دس نمبر کالونی، پورنہ ۲۲

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مجمع عام میں مسجد کیلئے چندہ وصول کرنا اور اسے مسجد میں صرف کرنا جائز ہے، اور کسی مسلمان سے مسجد کے واسطے تعاون حاصل کرنے میں شرعی اعتبار سے مسجد والے اس بات کے مکلف نہیں ہیں، کہ چندہ دینے والے کے بارے میں تفتیش کریں کہ حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا بلکہ ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن لازم ہے، کہ مسجد میں چندہ حلال مال ہی سے دے رہا ہوگا۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه . (مسند احمد بن حنبل ۲/۳۹۹، رقم:

۹۱۷۳، المعجم الاوسط، دارالفکر ۴/۸۸، رقم: ۵۳۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۰۰/۳۸)

مسجد کا بیت الخلاء دکھلا کر سرکار سے وصول کی گئی رقم کا حکم

سوال: [۸۲۵۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے علاقہ میں سرکاری اسکیم کے تحت اگر کوئی شخص بیت الخلاء بنواتا ہے، تو وہ شخص گرام پنچایت یا سرکاری دفتر میں درخواست پیش کر دے تو اس کو حکومت کی جانب سے ایک معقول رقم ملتی ہے،

مسجد یا مدرسہ کا بیت الخلاء دکھلا کر امام و مدرس صاحب نے اپنے نام کی درخواست داخل کر کے پیسہ وصول کر لیا ہے، مولانا اور امام صاحب کا کہنا ہے، کہ اس ملنے والی رقم کا حقدار میں ہوں چونکہ حکومت سے ملنے والی رقم میرے نام پر ہے، کیونکہ اگر میں اپنے نام پر دوبارہ گھر کا سنڈ اس بنا کر رقم حاصل کرنا چاہوں، تو نہیں مل سکتی، لہذا اس رقم کا حقدار میں ہوں، مسجد یا مدرسہ کو صدقہ و تعاون نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مذکورہ رقم کا حقدار کون ہے؟ امام و مدرس یا مسجد و مدرسہ؟

المستفتی: محمد ایوب صاحب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے مذکورہ رقم سرکاری اسکیم کے تحت بیت الخلاء بنانے والے کو ملتی ہے، اور مسجد یا مدرسہ کا بیت الخلاء چونکہ اسی مسجد و مدرسہ کیلئے خاص ہے، وہ کسی امام یا مدرس کا ذاتی نہیں ہے اس لئے اس بنیاد پر ملنے والی رقم مسجد یا مدرسہ ہی کی ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ ۹/۲۸۵، جدید زکریا ۹/۶۸)

إنہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵)

شرط الواقف کنص الشارع، فی وجوب العمل بہ وفي المفہوم والدلالة. (قواعد الفقہ، اشرفی/۸۵، رقم: ۱۵۲)

ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للإستغلال فلا يصرف أحدهما، للآخر وهي واقعة الفتوى. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل أنقاض المسجد ونحوه زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۹۹/۳۴)

منکوحۃ الغیر سے نکاح کرنے والے کا پیسہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) کیا اس شخص کے اور اس کے ماں باپ وغیرہ کے پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں، کیا اس شخص کو اور اس کے بھائی، باپ وغیرہ کو مسجد میں آنے سے روکا جانا چاہئے؟

(۲) کیا اگر وہ شخص جماعت میں شامل ہو جائے تو نمازیوں کی نماز میں فرق تو نہیں آئیگا، آپ ان سوالوں کے جواب شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیجئے گا، اور عام فہم زبان میں سمجھا دیجئے گا، تاکہ ہر ایک آدمی بخوبی سمجھ سکے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) اگر حلال کمائی کا پیسہ ہے تو مسجد میں لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴/۲۰۱)

توبہ و استغفار کر کے باز آنے تک برادری پنچایت سے علیحدہ کر دیں؟ لیکن مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے۔

(۲) اس کے شامل ہونے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔

وإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق . (مرقاة المفاتيح ، الأدب باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاع الفصل الأول ، مكتبة امداديه ملتان ۹/۲۶۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۰۸ھ صفر

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳/۴۹۴)

۲۵/ الفصل الخامس والعشرون: غیر مسلم کے پیسے مسجد میں لگانے کے احکام

غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۵۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شدید گرمی کی وجہ سے گاؤں کی مسجد میں پتکھے کو لرو وغیرہ چلانے کے لئے جزیٹر چلتا تھا، تو گاؤں کے ایک غیر مسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر لو کہ اگر میرے روپیوں سے خرید کر تیل چلایا جاسکتا ہو تو میں ہی تیل کے پیسے دیدوں، ان میں دو تین عالم لوگ بھی تھے، لوگوں نے ان سے مشورہ کیا تو انھوں نے کہا کہ چلایا جاسکتا ہے، جب اس غیر مسلم نے پیسے دیدئے اور تیل جل گیا تو کچھ مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ غیر مسلم کے پیسے مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے، کہ اس طرح لگانا جائز ہے، یعنی مسلمانوں میں دو گروہ ہو گئے اور یہ اختلاف اب تک جاری ہے، اور پورے گاؤں کے مسلمانوں کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس غیر مسلم شخص کا پیسہ حلال کمائی کا ہے، لہذا گزارش ہے کہ جو اب تحریر فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمد عمر، بڈھن پورہ، تحصیل: بسواں، ضلع: سیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم شخص کا رخیہ سمجھ کر مسجد میں روپیہ دے اور آئندہ مندر وغیرہ کی تعمیر کے موقع پر مسلمانوں کو روپیہ دینے پر مجبور نہ کرے، تو بلا تردید جائز ہے، اور جو مسلمان غیر مسلم کے پیسے لگانے کو ممنوع سمجھتے ہیں وہ مسئلہ سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اس لئے ان لوگوں کو بتادیا جائے، کہ غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے، اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، لہذا جزیٹر کے تیل کے لئے غیر مسلم شخص جو پیسہ دے

رہا ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ثواب میں کوئی کمی آئے گی۔

شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم کالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس . (شامی، کتاب الوقف، مطلب قد یشیت الوقف بالضرورة زکریا ۶/۵۲۴، کراچی ۳۴۱/۴)

وأما الإسلام فلیس من شرطه فصیح وقف الذمی بشرط کونه قربة عندنا وعندهم . (البحر الرائق، زکریا ۵/۳۱۶، کوئٹہ ۱۸۹/۵)

وللمسلمین أن یقبلوا من الکافر إذا لم یکن فی ذلک ضرر دینی ولا سیاسی . (تفسیر المرآعی ۴/۷۴، بحوالہ محمودیہ میرٹھ ۲۵/۴۸۷)

وإن قال الذمی: جعلت غلة هذه الصدقة فی سراج بیت المقدس ودهنه فهو جائز . (تاتار خانیہ ۸/۲۰۱، برقم: ۱۱۶۳۶) فقط وللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۳۲/۵/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۴۱۶/۳۹)

تعمیر مساجد میں ہندو حکومت یا اشخاص کی رقم لگانا

سوال: [۸۲۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)

مسجد کی تعمیر کے لئے ہندو حکومت اور ہندو لوگوں سے چندہ لینا درست ہے یا نہیں؟

(۲) نیپال سرکار گرامین پنچایت کے ذریعہ اب حلقہ کی ترقی کیلئے سال میں دو تین دفعہ کچھ نقد رقم دیتی ہے، فی الحال بھینسو نیپال کی پنچایت میں سرکار کی طرف سے نقد رقم آئی تھی، یہاں کے کچھ دنیا دار مسلمانوں نے ہندو مکھیا سے ساٹھ گانٹھ کر کے ۵۵ ہزار روپے مسجد کی ڈھلائی کیلئے پاس کرائے اور ان لوگوں نے اس کی ٹھیکیداری لے لی اور مسجد کی ڈھلائی بھی کرا دی، مگر چھٹر سمنٹ، چھری وغیرہ کی جو مقدار مسجد کی ڈھلائی میں لگی ان ٹھیکیداروں نے دوکانداروں سے سب سامان میں مقدار بڑھا

کرواؤ چر بنوایا اور فاضل سامان کا بھی روپیہ پنچایت سے مسجد کے نام پر لے کر اور لکھیا سے پاس کر کر لکھیا اور ان ٹھیکیداروں نے آپس میں بانٹ لیا لوگوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مسجد کے نام پر پنچایت سے روپے لیکر کیوں ناجائز فائدہ اٹھایا، جبکہ آپ لوگ مسلمان ہیں، تو ان مسلمان ٹھیکیداروں نے جواب دیا کہ اس دور میں سب کچھ جائز ہے خاص طور سے نیپال جیسے غریب دیش میں، پوچھنا یہ ہے کہ ایسے اشخاص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، دینی اور شرعی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور مسجد کے نام پر غلط واؤ چر کے ذریعہ روپے پنچایت سے لیکر آپس میں بانٹ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟

(۳) آج سے تقریباً چالیس سال قبل ایک جگہ مسجد کی تعمیر ہوئی اس کی چھت کی ڈھلائی کڑی اور شہتیر پر ہوئی، اب از سر نو چھت کی ڈھلائی چھتر بالو سمنٹ اور چھتری سے کرائی گئی ہے، چھت کی شہتیریں اور کڑیاں نکال دی گئی تھیں، مرحوم کے لڑکے یہ شہتیریں اور کڑیاں اٹھا کر لے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے والد مرحوم نے یہ دیں تھیں، اب مسجد میں یہ لکڑیاں نہیں لگیں گی اسلئے ہماری ہوئیں، اور ان لڑکوں نے ان لکڑیوں کو فروخت کر کے روپیہ اپنے پاس رکھ لئے ہیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ لکڑیاں کس کی ملکیت ہوں گی، مرحوم کے لڑکوں کا لکڑیاں فروخت کر کے روپے اپنے پاس رکھ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اب لکڑیوں کو فروخت کر دینے کے بعد روپیوں کا حقدار کس کو قرار دیا جائے گا، نیز مرحوم کے لڑکوں کا یہ عمل بھی جائز ہوگا یا ناجائز؟ ایسی مسجد میں نماز پڑھنی کیسی ہے جس کی پوری تعمیر میں آدھی رقم حرام کی لگی ہو جس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے؟ شریعت کی روشنی میں مفصل و مدلل بیان فرمائیں؟

المستفتی: راج محمد انصاری، موضع دہی،

پوسٹ: سکھا بازار، مغربی چمپارن، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) مسجد کی تعمیر کیلئے ہندو حکومت اور ہندو لوگوں کا چندہ

لینا شرعاً درست ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے وہ مسجد کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔
 وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قربة
 عندنا وعندهم كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو على فقراء أهل
 الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر.
 (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوئٹہ ۱۸۹/۵، زکریا ۳۱۶/۵)

لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا
 وعندهم . (البحر الرائق، كوئٹہ ۱۹۰/۵، زکریا ۳۱۶/۵)

(۲) سوالنامہ میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ واقعہ کے مطابق ہے تو مذکورہ لوگوں کا
 مذکورہ عمل دھوکہ دہی ہے، جو شرعاً ناجائز ہے، اور مسجد کی تعمیر سے بچا ہوا پیسہ ٹھیکیداروں کا
 آپس میں بانٹ لینا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ مسجد ہی کا حق ہے، لہذا اس کو مسجد کے فنڈ میں جمع
 کرنا لازم ہے، اس کو کھانے والے خائن ہیں اس کو مسجد کے فنڈ میں جمع کر کے اپنی اس غلط
 حرکت سے توبہ لازم ہے۔

ولو أن قوماً بنوا مسجداً وفضل من خشبهم شيئى قالوا: يصرف
 الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصر هذا إذا سلموه إلى المتولى
 لبينى به . (البحر الرائق، كوئٹہ ۲۵۰/۵، زکریا ۴۲۰/۵)

(۳) شہتیر مسجد کی ملکیت ہے، مرحوم کی اولاد اور وارثوں کو لے کر جانے کا حق نہیں
 ہے، اگر وہ شہتیر بیچ دی گئی ہیں، تو ان پیسوں کا مسجد کے فنڈ میں جمع کر دینا لازم ہے، ورنہ اللہ
 کے یہاں سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ/۲۸)

وصرف الحاكم أو المتولى نقضه أى المنقوض من خشب وحجر و
 أجر وغيرها أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه
 ليحتاج إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج . (شامى، الوقف،
 مطلب فى الوقف، إذا حارب ولم يكن عمارته، كراچی ۳۷۷/۴، زکریا ۵۷۳/۶)

(۴) مسجد کی تعمیر میں حرام مال کیسے لگا ہے، اس کو صاف طور پر وضاحت کے ساتھ اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ پیسہ کیسے حرام ہے، اس وضاحت سے پہلے حکم شرعی بیان کرنا مناسب نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۳۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۶/۱۴۲۸ھ

غیر مسلم کا پیسہ مسجد یا مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۲۶۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو غیر مسلم بہت ثواب اور قربت سمجھ کر مسجد یا مدرسہ میں پیسہ دے تو اس پیسہ کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا کیسا ہے؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد عمر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بہت ثواب دینے والے غیر مسلم کا پیسہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں لگانا بلا کراہت جائز ہے، تاہم یہ خیال رکھا جائے، کہ بعد میں مسلمانوں پر احسان نہ جتلائے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ بعد میں مسلمانوں سے اپنے مذہبی امور میں چندہ کیلئے پیش کش کریگا، تو نہ لیا جائے۔ (مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ/۵۳۸، احسن الفتاویٰ ۶/۴۳۹، محمودیہ ڈائجیل ۱۵/۱۳۶، میرٹھ ۲۲/۱۱۵)

فإن كان الموصیٰ به شيئاً هو قرابة عندنا وعندهم بأن أوصىٰ بثلث ماله أن يتصدق به علىٰ فقراء المسلمين - أو بعمارة المسجد الأقصیٰ ونحو ذلك جاز فی قولهم جميعاً. (بدائع، کتاب الوصایا، فصل فی شرائط رکن الوصیة، زکریا ۶/۴۳۹)

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قرابة

عندنا وعندہم . (البحر الرائق ، کتاب الوقف ، زکریا ۵/۳۱۶ ، کراچی
۱۸۹/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر خاص: ۱۱۳۹۵/۴۰)

مساجد کی تعمیر میں غیر مسلموں کا روپیہ لگانا

سوال: [۸۲۶۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)
مساجد کی تعمیر جدید یا مرمت میں اہل ہندو غیر مسلم اقوام کا روپیہ لگانا شرعاً کیسا ہے؟ نیز اگر
جائز ہے تو کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے یا نہیں؟
(۲) نیز یہود و نصاریٰ و شیعہ اگر مسجد تعمیر کرادیں یا مسجد کی مرمت کرادیں یا چندہ
وغیرہ میں شریک ہوں تو شرعاً کیا حیثیت ہے، درست ہے یا نہیں؟ بحوالہ جواب تحریر فرمائیں
عین نوازش ہوگی؟

المستفتی: مرزا عمر بیگ، کوہ نور کالونی،
قصبہ: اورنگ آباد، صوبہ مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) غیر مسلم ہندو اور یہود و نصاریٰ اگر عبادت
اور کار خیر سمجھ کر مسجد کیلئے روپیہ پیشہ دیدیں اور بظاہر ان کی کوئی ایسی غرض اس سے نہیں ہے،
کہ جس سے بعد میں مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں پر پیشہ خرچ کرنے پر مجبور کیا جاسکے تو ان
کا پیشہ لیکر مسجد میں لگانا شرعاً جائز ہے اور شیعہ عالی کو باجماع کافر قرار دیا گیا ہے، اور کافر اور
شیعہ کا روپیہ بھی مساجد میں لگانا جائز ہے، جبکہ وہ کار خیر سمجھ کر خوشی دیتا ہو۔ (فتاویٰ رشیدیہ
قدیم/۵۳۷، جدید زکریا/۵۱۷)

شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندہم کالوقف علی

الفقراء أو علی مسجد القدس . (شامی، کتاب الوقف، مطلب قد ثبت الوقف بالضرورة، کراچی ۱/۴، زکریا ۶/۵۲۴، البحرالرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، تاتارخانیہ زکریا ۸/۲۰۱، رقم: ۱۱۶۳۶)

وللمسلمین أن یقبلوا من الکافر..... إذا لم یکن فی ذلک ضرر دینی ولا سیاسی . (تفسیر المراغی ۴/۷۴، بحوالہ محمودیہ میرٹھ ۲۵/۴۸۷) اور بعض لوگوں نے شیعہ اور قادیانی کو مرتد قرار دیکر ان کے پیسہ کو مسجد میں لگانے کی ممانعت کی ہے، اسلئے کہ مرتد کا وقف امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک موقوف رہتا ہے، یہاں تک کہ اسلام پر دوبارہ لوٹ کر آجائے۔

لووقف فی حال ردته فهو موقوف عند الإمام الخ. (شامی، کتاب الوقف، قبیل فصل یراعی شرط الواقف فی اجارته، زکریا ۶/۶۰۴، کراچی ۴/۴۰۰) اور حکم ارتداد میں تردد ہے اسلئے کہ اس زمانہ کے شیعہ اور قادیانی کا کفر اپنے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگ از خود اسلام سے منحرف نہیں ہوئے بلکہ آباء کے کفریہ عقیدہ پر قائم ہیں، اور اپنا ایک خاص مذہب مستقل سمجھتے ہیں، اسلئے ان پر کفر کا حکم لاگو ہوگا، اور ارتداد کا حکم قابل تردد ہے، اور کافر کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے، جیسا کہ مذکورہ دلائل اور عبارات فقہاء سے واضح ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۳/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۷۲۲۷)

غیر مسلم کا چندہ مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی تعمیر کیلئے روڈ پر بیئر لگا دیا ہے چندہ کیلئے اب اگر کوئی غیر مسلم روپیہ ڈال دے چندہ میں اور ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیا غیر مسلم کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، اس روپیہ کو تعمیر مسجد میں

یا امام کے حجرہ میں یا دیوار وغیرہ مسجد کے کنارہ میں غیر مسلم کے روپیہ سے کروا سکتے ہیں، یا نہیں؟ حجرہ مسجد سے خارج ہونے کی صورت میں کیا مسئلہ ہے، اور مسجد سے متصل ہو تو اس کی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: معلوم اور غیر معلوم دونوں طرح کے غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانا شرعاً جائز اور درست ہے، بشرطیکہ غیر مسلم اس احسان کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی مذہبی تقریب میں شرکت پر مجبور نہ کریں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۲۶۳)

کما فی البدائع : أو بعمارة المسجد الأقصى ونحو ذلك جاز فی قولهم جميعاً لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة الخ. (بدائع ، کتاب الوصایا، فصل فی شرائط رکن الوصیة کراچی ۷/۳۴۱، ذکر ۶/۴۳۹)

اور غیر مسلموں کو اپنے کار خیر کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔

عن أنس بن مالک رض قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به الله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. (صحيح مسلم ، کتاب صفة المنافقين وأحكامهم ، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة الخ ، النسخة الهندية ۲/۳۷۴ ، بيت الافكار رقم

۲۸۰۸/ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۷۲۲۷۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۷/۱ھ

ہندوؤں کا پیسہ مسجد میں لگانا

سوال: [۸۲۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ہندوؤں کا پیسہ مسجد میں یا عید گاہ میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ہلدور کی جامع مسجد میں ایک ہندو نے اپنے جزیٹر کا کنکشن دے رکھا ہے، اس کی روشنی میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور ہندو کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: محمد اسماعیل، ہلدور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ہندو ثواب یا عبادت سمجھ کر اپنا پیسہ مسجد یا عید گاہ میں دینا چاہیں، اور کوئی دوسرا مانع مثلاً شرکت کا دعویٰ کر نیکا یا مسلمانوں پر احسان جتانے کا یا کسی بھی قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا روپیہ مسجد اور عید گاہ میں لگانا اور ان کے جزیٹر کی روشنی میں مغرب کی نماز ادا کرنا شرعاً جائز اور درست ہے، اور نماز میں اس سے کوئی خرابی نہیں آتی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۴۷۰، ۱۰/۱۸۸، جدید ڈائجیل ۱۵/۱۴۲، ۱۳۸)

ولو أوصى (ذمی) بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو
یبنیٰ به مسجداً للمسلمین إن كان ذلك لقوم بأعیانهم صحت الوصیة
وتعتبر تملیکاً لهم وکانوا بالخیار إن شاء وحبوا به وبنوا المسجد
وإن شاء و لا . (عالمگیری، کتاب الوصایا، الباب الثامن قبیل مسائل شتی، زکریا
قدیم ۶/۱۳۲، جدید ۶/۱۵۲)

وإن قال الذمی: جعلت غلة هذه الصدقة فی سراج بیت المقدس
ودهنه فهو جائز . (تاتار خانیة، زکریا ۸/۲۰۱، رقم: ۱۱۶۳۶، بدائع الصنائع،
۶/۴۳۹)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۳/۷/۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۷۷۲/۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۷/۲۳ھ

غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانے کا حکم

سوال: [۸۲۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں غیر مسلم کا چندہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ کے یہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس کو مفتی شبیر احمد صاحب مدظلہ نے شائع فرمایا ہے، اس میں امداد الفتاویٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کا چندہ لگانا بلا کراہت جائز ہے۔ (ایضاح المسائل/۱۳۶) اس پر کچھ لوگوں نے شور مچا رکھا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے وضاحت مطلوب ہے؟

المستفتی: غلام قادر، مہتمم جامعہ ضیاء العلوم
جامعۃ الطبیات، پونچھ جموں و کشمیر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم کا چندہ ایسی صورت میں مسجد میں لگانا بلا کراہت اور بلا تردد جائز اور درست ہے، جبکہ اس کو عبادت اور کار خیر سمجھ کر دیتے ہوں، اور اس میں یہ خطرہ بھی نہ ہو کہ کل کو مسلمانوں پر احسان جتلائیں یا اپنے دھرم کے امور میں چندہ دینے پر مسلمانوں کو مجبور کریں، اور ایضاح المسائل میں امداد الفتاویٰ کے حوالہ سے جو مسئلہ لکھا ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور شرعی مسئلہ پر کسی کو بلا تحقیق شور مچانے کا حق نہیں ہے، اور حضرات فقہاء نے کتب فقہ میں جو مسائل لکھے ہیں، وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں۔

أن شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم كالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب من ثبت الوقف بالضرورة، کراچی ۴/۳۴۱، زکریا ۶/۵۲۴)

وأما الإسلام فلیس من شرطه فصیح وقف الذمی بشرط کونه قربة عندنا وعندهم. (البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، ہندیہ، زکریا قدیم

(۳۵۲/۲، جدید ۳۴۷/۲)

حدیث پاک میں کثیر تعداد کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تعمیر کردہ کعبہ کو اسی حالت میں باقی رکھا اس کو توڑ کر دوبارہ تعمیر نہیں فرمایا۔ (ابو داؤد، کتاب المناسک، باب الصلوة من الکعبہ، النسخة الهندية ۱/۲۷۷، بخاری شریف، کتاب المناسک، باب فضل مکة و بنیانها ۱/۲۱۵)

اور اس طرح کی کئی حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت سید الکونین علیہ السلام نے کافر بادشاہوں کا تحفہ اور ہدیہ قبول فرمایا:

عن علی عن النبی ﷺ أن كسرى أهدى له فقبل وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم . (ترمذی، ابواب السیر، باب ماجاء فی قبول هدايا المشركين، النسخة الهندية، ۱/۲۸۶، دارالسلام، رقم:.....)

عن بريدة قال أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة فأما البغلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت ابراهيم . الحديث: (المعجم الاوسط، دارالفکر ۲/۳۶۳، رقم: ۳۵۴۹)

اسی طرح شاہ مقوقش نے اسکندریہ سے آپ ﷺ کیلئے ہدیہ روانہ کیا آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔ (المعجم الاوسط، دارالفکر ۵/۲۷۳، رقم: ۷۳۰۵)

اسی طرح روم کے شاہ نے آپ ﷺ کیلئے ہدیہ بھیجا اور آپ ﷺ نے قبول فرمایا: (المعجم الاوسط، دارالفکر ۲/۳۶، رقم: ۲۴۱۶)

اور غیر مسلم جو کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، اس کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم

بحسنات ما عمل به الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له
حسنة يجزى بها، الحديث: (مسلم شريف، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم،
باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، النسخة الهندية ۳۷۴/۲ بيت الأفكار
رقم: ۳۸۰۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۷۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۱/۱۳ھ

غیر مسلم کی رقوم مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۶۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) اگر
کوئی غیر مسلم بغیر سوال کئے ہوئے کچھ رقم تعمیر مسجد کیلئے دے تو کیا اس رقم کو لینا چاہئے یا نہیں؟
(۲) اگر لے لیں تو پھر اس کو کس مصرف میں لایا جائے، مسجد میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
المستفتی: محمد صدیق، دہلی گیٹ، محلہ بٹوال، امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) غیر مسلم اگر ثواب کی نیت سے تعمیر مسجد
میں چندہ دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ مسلمانوں پر
احسان نہ جتلائے یا اسکی خاطر مسلمانوں کو ان کے دھرم کے امور میں خرچ کرنا نہ
پڑے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۶۳)

وفى البحر وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذى بشرط
كونه قربة عندنا وعنهم . (البحر الرائق، كوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، ہندیہ
زکریا قدیم ۲/۳۵۲، جدید ۲/۳۴۷، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۶۸۵)

(۲) دینے والے نے جس مصرف کیلئے دیا ہے، اسی مصرف میں خرچ کرنا لازم ہے۔

شرط الواقف كنص الشارع . (شامی، کتاب الوقف، مطلب فی قولہم

شرط الواقف کنص الشارع، کراچی ۴/۴۳۳، زکریا ۶/۷۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ محرم ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۶۰/۳۳)

مدارس و مساجد میں غیر مسلم کی رقم صرف کرنا

سوال: [۸۲۶۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مدارس و مساجد میں غیر مسلموں کی رقم چلتی ہے یا نہیں؟ اور اگر چلتی ہے تو کس قسم کی رقم؟ ایک حاجی صاحب خانہ کعبہ سے لوٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں، کہ ہم نے مولانا کی صاحب سے مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ قطعاً نہیں چلتی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد مدرسہ میں کافر کا چندہ لینے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ وہ اپنے اعتقاد میں قربت و ثواب سمجھتا ہو۔ (مستفاد: امداد المفتیین ۱/۵۹۸، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۲۸۷، ۲/۴۷۶، جدید ڈابھیل ۱۵/۱۳۶، ۱۳۸)

وفی الشامیة: حتی یصح من الکافر (إلی قوله) بخلاف الوقف فإنه لا بد فیہ من أن یكون فی صورة القربة . (ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الوقف، مطلب لو وقف علی الاغنیاء، کراچی ۴/۳۳۹، زکریا ۶/۳۲۱، محمودیہ قدیم ۱۰/۱۸۸، جدید ڈابھیل ۱۵/۱۳۸)

لو وقف علی مسجد بیت المقدس فإنه صحیح لأنه قربة عندنا وعندهم . (البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶)

اگر واقعی کسی صاحب نے اس کو ناجائز کہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، نیز وہ خفی مسلک کے مفتی بھی نہیں ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۴۷۶/۳۳)

ہیجڑوں یا کافروں کا روپیہ مسجد یا عید گاہ میں لگانا

سوال: [۸۲۶۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

(۱) ہیجڑوں کا دیا ہوا روپیہ کیا مسجد میں لگا سکتے ہیں اور ہندو کا روپیہ مسجد کی تعمیر وغیرہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

(۲) ہیجڑوں کا روپیہ کیا مسجد کے حجرے کی تعمیر میں جبکہ حجرہ مسجد سے باہر بنا ہوا ہے،

لگا سکتے ہیں، یا نہیں؟ اور ہندو کا روپیہ بھی اس حجرہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

(۳) تملیک کر کے روپیہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

(۴) فطرہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں یا حجرہ میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

(۵) ہیجڑوں کا روپیہ کیا عید گاہ کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر غلیل احمد، بلند شہر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱-۲) ہیجڑے کا دیا ہوا روپیہ مسجد یا مسجد کے حجرہ

میں لگانا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور خدا پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔

أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره

لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. (شامی، الصلوٰۃ، باب ما يفسد الصلوٰۃ الخ، قبیل

مطلب فی افضل المساجد، کراچی ۱/۶۵۸، زکریا ۲/۴۳۱)

البتہ ہندو کا چندہ مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے، جبکہ وہ بنیت ثواب دیتا ہو۔

(مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم/۵۵۳، جدید زکریا/۵۱۸، امداد الفتاویٰ/۲/۶۷۲)

نیز مسجد کے حجرہ وغیرہ میں بھی ہندو کا روپیہ خرچ کرنا جائز ہے۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قربة

عندنا وعندهم. (البحر الرائق، كتاب الوقف، كونه ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، ہندیہ،

زکریا قدیم ۳۵۲/۲، جدید ۳۴۷/۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۶۸ (۵)
 (۳) زکوٰۃ و صدقات کا روپیہ مسجد اور اس کے کمروں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے،
 ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

لا یصرف الیٰ بناء نحو مسجد . (درمختار ۲/۳۴۴، زکریا ۳/۲۹۱)
 (۴) زکوٰۃ و صدقات کی رقم کو تملیک کرا کے مسجد اور اس کے حجروں کی تعمیر میں
 صرف کرنا جائز ہے۔

و حيلة التكفين بها التصدق علی فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما
 وكذا فی تعمیر المسجد . (درمختار مع الشامی، کراچی ۲/۲۷۱، زکریا ۳/۱۹۱)
 (۵) ہجڑوں کا روپیہ تعمیر عید گاہ میں لگانا جائز نہیں۔

أما لو أنفق فی ذلك مالاً خبيثاً فيكره . (شامی، کراچی
 ۱/۶۵۸، زکریا ۲/۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۵ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۵۷۷۷)
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۵/۱۲/۱۴۱۲ھ

ہندوؤں کا مساجد و مدارس میں چندہ دینا

سوال: [۸۲۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 سرکاری فیکٹری میں ہندو و مسلمان دونوں کام کرتے ہیں، اور آپس میں خوب میل ملاپ بھی
 رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، ہندو کا درگا پوجا یا اور کوئی پوجا ہوتی
 ہے، تو مسلمان سے بھی چندہ لیتے ہیں، اور مسلمان بھی مسجد و مدرسہ کے لئے چندہ لیتے ہیں، تو
 کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد صلاح الدین، نوٹہ، سہرسا، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ہندو مساجد و مدارس میں ثواب اور نیک کام سمجھ کر امداد دیتا ہے، اور کبھی اسکا احسان جتانے کا احتمال بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے مذہبی پروگرام میں شرکت پر مجبور کرنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو چندہ لے سکتے ہیں۔
(فتاویٰ محمودیہ ۱/۴۷۰، امداد الفتاویٰ ۲/۶۹۱)

أن شرط وقف الذمی أن یکون قرۃ عندنا وعندہم کالوقف علی الفقراء أو علی مسجد القدس الخ. (شامی، کتاب الوقف، مطلب قد یثبت الوقف بالضرورة، مطبوعہ کوئٹہ ۳/۳۹۴، کراچی ۴/۳۴۱، زکریا ۶/۵۲۴)

وأما الإسلام فلیس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط کونه قرۃ عندنا وعندہم الخ. (البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، منحة الخالق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۳۵۲، جدید ۲/۳۴۷، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۶۸۵)

لیکن سوالنامہ میں درج شدہ صورت میں مسلمان بھی غیر مسلموں کے مذہبی پروگرام میں شرکت کیا کرتے ہیں، اسلئے صورت مذکورہ میں ہندوؤں کا چندہ لیکر مساجد و مدارس میں لگانا جائز نہیں ہوگا، نیز مسلمانوں پر لازم ہے کہ نہ اس طرح میل ملاپ رکھیں اور نہ ان کے پروگرام میں شرکت کریں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۸۸)

وللمسلمین أن یقبلوا من الکافر إذا لم یکن فی ذلک ضرر دینی ولا سیاسی. (تفسیر المراغی ۴/۷۴، بحوالہ محمودیہ میرٹھ ۲۵/۴۸۷)
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴۰/۷۴)

اہل ہنود کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۲۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) اگر اہل ہنود کچھ رقم اپنی خوشی سے مسجد کی تعمیر میں دینا چاہیں، تو کیا وہ رقم لے سکتے ہیں، اور تعمیر مسجد یا دیگر مسجد کے مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں۔

(۲) کسی کافر کی دی ہوئی رقم براہ راست مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، یا کوئی اور شکل ہے؟

المستفتی: غیاث الدین قاسمی، قصبہ
اوجھاری، حسن پور، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) اگر اہل ہنود تعمیر مسجد کو کار خیر سمجھ کر رقم دیتے ہیں، اور اس میں ایسا کوئی مقصد یا اندیشہ نہیں ہے، کہ کل کو ہندوؤں کیلئے مسلمانوں سے رقم حاصل کریں تو اہل ہنود کی رقم براہ راست مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۲۶۳، ۲/۶۶۷)

أن شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا وعندهم کالوقف علی الفقراء
أو علی مسجد القدس الخ تحت قول صاحب الدر وأن یکون قربة فی ذاته .
(شامی، کتاب الوقف، مطلب قد بیثت الوقف بالضرورة، کراچی ۴/۳۴۱، زکریا ۶/۵۲۴)

وَأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قربة عندنا
وعندهم . (البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۱۸۹، زکریا ۵/۳۱۶، ہندیہ، زکریا قدیم ۲/۳۵۲،
جدید ۲/۳۴۷، مجمع الأنهر، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۲/۵۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

المحررم ۱۴۱۱ھ

۱۴۱۱/۱/۱

(الف فتویٰ نمبر: ۲۰۷۲۲۶)

غیر مسلم کی رقم سے مسجد کا تعمیری کام کرانا

سوال: [۸۲۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی تعمیر میں کسی غیر مسلم کے روپیہ لگائے جاسکتے ہیں؟ اور تعمیری کام کرایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں مدلل بیان فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ کل کو مسلمانوں سے اپنی مذہبی چیزوں پر تعاون کا مطالبہ نہ کرے گا، اور وہ ایک کار خیر سمجھ کر مسجد کو چندہ دیتا ہو، تو ایسی صورت میں غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگانا درست ہے۔

وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمی بشرط كونه قربة عندنا وعندهم..... لو وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم . (البحر الرائق، كتاب الوقف، كوئٹہ ۵/۱۸۹، ۱۱۹۰، زکریا ۵/۳۱۶)

لمافی البحر وغيره أن شرط وقف الذمی ان يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس . (شامی، الوقف، مطلب قدی یشتب الوقف بالضرورة، کراچی ۴/۳۴۱، زکریا ۶/۵۳۴)

وأما الإسلام فليس بشرط..... وشرط صحة وقفه أن يكون قربة عندنا وعندهم..... بخلاف ما إذا وقف على مسجد بيت المقدس فإنه صحيح لأنه قربة عندنا وعندهم . (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۶۸۵)

ولأن درء المفساد أولى من جلب المصالح . (الأشباه والنظائر، زکریا ۲۶۴) فقط والله سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۸۴)

۲۶/ الفصل السادس والعشرون: مسجد میں وعظ و تقریر وغیرہ مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کیلئے مسجد میں جلسہ کرنا

سوال: [۸۲۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، کئی شہروں میں مسلمانوں کا انتہائی سفاکانہ قتل عام ہوا، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی درجہ میں جاری ہے مسلمان کی عبادت گاہ بابرہ مسجد (اجودھیا) میں بتوں کی پوچا پاٹ کی جا رہی ہے، مختلف مقامات پر تقریری اور تحریری طریقوں سے اسلامی شریعت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایسی حالت میں زید اسکے رفقاء اور معززین شہر کا مسجد میں جمع ہو کر مسلم پرسنل لاء اور اسکی اہمیت اور اسکے تحفظ کے سلسلے میں عوام کو آگاہ کرنا بابرہ مسجد کی زیادتی نیز مختلف شہروں میں مسلمانوں کے بے رحمانہ قتل عام کے سلسلے میں بنائے ہوئے اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینا اور حکومت وقت سے پُر امن اجتماع کرنا کیسے عمل ہے، جبکہ اس سے زیادہ مناسب مقام کوئی اور نہ ہو کیونکہ عام مقامات پر ہر قسم کے اجتماع کی حکومت وقت نے پابندی لگا دی ہو یہ ملحوظ رہے کہ زید دیندار مسلمان اور ایم ایل اے ہے۔

المستفتی: مرضی علی خان، محلہ شترخانہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسلمان کی جان مال عزت و آبرو عبادت گاہوں اور مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کی غرض سے اجتماعی جلسہ مساجد میں کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ اس میں کوئی بات آداب مسجد کے خلاف نہ ہو، مثلاً نعرہ لگانا، آواز بلند کرنا، شور وغل کرنا وغیرہ۔

المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة (إلى قوله) ورفع الصوت والخصومة الخ. (غنية المستملى، فصل في احكام

المسجد، رحیمیہ دیوبند/۵۶۶، اشرفیہ دیوبند/۶۱۰، صغیری مطبع مجتہائی
دہلی/۳۰۱، شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ کراچی ۱/۶۶۰، زکریا
۲/۴۳۳، ۴۳۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/رمزی الحجۃ ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۰/۲۱۰)

مسجد کے مانگ سے بچوں کی اجتماعی دعا اور نعت خوانی کا حکم

سوال: [۸۲۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے مانگ سے بچوں کی اجتماعی دعا مثلاً ”حمد و ثناء ہو تیری کون و مکاں والے“ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ بچے مسجد میں پڑھتے ہیں، نیز اکثر و بیشتر بعد المغرب نعت خوانی ہوتی ہے، تو کیا یہ مسجد کے مانگ سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں؟
المستفتی: ثار احمد، راپور سادات، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے مانگ کو بلا اجرت استعمال کرنا مسجد کی حق تلفی ہے، بلا کرایہ اور بلا اجرت مسجد کے مانگ کا استعمال محض نعت خوانی کیلئے جائز نہیں ہے، البتہ اجرت و کرایہ کیساتھ مسجد کے مفاد کے پیش نظر گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۰۸/۱۵، جدید ڈائجیل ۳۵/۱۵)

الثامنة في وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة؟ قال في
الخانية معزياً إلى أبي بكر البلخي: إن كان ذلك من مصلحة
المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به. (البحر الرائق، كتاب الوقف
کوئٹہ ۲۱۵/۵، زکریا ۳۶۰/۵)

لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه. (تقريرات
رافعي مع الشامی، کراچی ۴/۸۰، زکریا ۶/۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۴۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲/۴/۱۴۱۶ھ

مسجد کے مانگ میں نعت وغیرہ پڑھنا

سوال: [۸۲۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجدوں میں جو مانگ ہوتا ہے، وقف کی چیز ہوتی ہے، سحری کے وقت بنیت ایقاظ صائمین تلاوت قرآن و نعت خوانی لوگ ایک دو گھنٹہ تک کرتے رہتے ہیں، کیا مسجد کی اشیاء کو اس قدر بے دریغ خرچ کرنا لوگوں کے فائدے کیلئے جائز ہے؟ نیز کیا علاوہ ازیں ابن نجیم مصریٰ کی الاشباہ الخ میں بیان کردہ قاعدہ ”الأمور بمقاصدھا“ کے تحت ذکر کردہ جزئیہ کے زمرہ میں یہ تلاوت قرآن کریم نہیں آئے گا، جبکہ اس وقت کی تلاوت صرف لوگوں کے بیدار کرنے کیلئے ہوتی ہے، بندہ نے عبارت شامیہ، اردو فتاویٰ اور الاشباہ الخ کو مد نظر رکھ کر عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، عالیجناب کی رائے و فتویٰ اس بارے میں کیا ہے، نیز اسکے لئے دارالعلوم بھی استفتاء بھیجا گیا ہے، نیز لوگ کافی پریشان ہیں اس لئے جلد از جلد بھیجنے کی زحمت گوارا فرمائیں؟ کرم ہوگا؟

المستفتی: عبدالغفار، پیر ولیاوی

ڈاک، مقام مرولیا، مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رمضان المبارک کی راتوں میں مانگ وغیرہ کے ذریعہ سے وقفہ لیکر دو تین بار سحری کا اعلان کرنا جس سے لوگوں کو وقت کا علم ہو جائے جائز ہے، لیکن مسلسل تلاوت اور نعت خوانی چار وجہوں سے ناجائز ہے۔

(۱) مسجد کے مانگ کو بلا ضرورت استعمال کرنا۔

(۲) مانگ لگا کر راتوں کو مسلسل نعت خوانی اور شور و شغب کرنا اہل ہنود و اخیار کا شعار ہے، جو مندروں میں ہوا کرتا ہے۔

(۳) ہر سننے والا تلاوت قرآن کی سماعت کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے، جس سے قرآن کی سخت ترین بے ادبی ہوتی ہے۔

(۴) سونے اور عبادت کرنے والوں کو خلل ہوتا ہے، جو ممنوع ہے۔

لأن تعظیم القرآن والفقہ واجب الخ. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الکراہیۃ،

الباب الرابع ذکر یا قدیم ۳۱۶/۵، جدیدہ ۳۶۵/۵)

ولا یقرأ جہراً عند المشتغلین بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لا یقرأ

فی الأسواق. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع ذکر یا قدیم ۳۱۶/۵،

جدیدہ ۳۶۵/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ شوال المکرم ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۹۲۲۶)

کیا عورتوں کا اجتماع مسجد میں کر سکتے ہیں؟

سوال: [۸۲۷۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا

عورتوں کا اجتماع مسجد میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ، مہراج گنجی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے اندر عورتوں کا اجتماع کرنا خطرہ اور فتنہ سے

خالی نہیں ہے، اسلئے کہ مسجد عام مردوں کی جگہ ہے، اس میں مردوں کی آمد و رفت کی پابندی

نہیں لگائی جاسکتی ہے، اس وجہ سے عورتوں کا اجتماع کرنا احتیاط کے خلاف ہے، ہاں البتہ اگر

ایسے وقت میں ایک آدھ گھنٹہ کیلئے اجتماع کر لیا جائے جس میں نہ شروع میں نماز کا وقت ہو

اور نہ آخر میں نماز کا وقت ہو، بلکہ دونوں جانب وقت نماز سے ایک آدھ گھنٹہ کا فاصلہ ہے، مثلاً صبح ۹ بجے سے گیارہ بجے تک کے درمیان اجتماع سے فراغت ہو جاتی ہے، اور اس درمیان میں وہاں پر مردوں کی آمد و رفت پر سخت پابندی لگادی جائے، تو اتفاقی طور پر سال میں ایک آدھ مرتبہ اس طرح کا اجتماع مسجد میں کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ عام عورتیں پاکی کی حالت میں ہوں، اور فتنہ کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔

لابأس بالجلوس فی المسجد لولو عطا إذا أراد به وجه الله تعالى .

(عالمگیری، کتاب الکراهیة، قبیل الباب الخامس فی آداب المسجد الخ، زکریا قدیم

۳۱۹/۵، جدید ۳۶۸/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶ھ/۷/۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴/رجب ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۹۱۲/۳۸)

مسجد میں نعت شریف پڑھنا

سوال: [۸۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نعت شریف حضور ﷺ کی شان میں پڑھتا ہو تو پڑھنا مسجد میں کیسا ہے؟ آپ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عرفان، گرام باقی پور،

تخصیل: بلاری، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اچھی نعت مسجد میں اس قدر پڑھنا جائز و درست

ہے کہ اسکی وجہ سے نمازی اور دوسرے اذکار میں مشغول لوگوں کو خلل نہ ہو، حضور ﷺ نے مسجد

میں برے اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور اچھی نعت کی اجازت دی ہے۔

أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار فى المسجد وأن تباع فيه السلع (إلى قوله) أنه صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبراً ينشد عليه الشعر بحمل الأول على ما كانت قریش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر، أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاعلاً به (إلى قوله) فما غلب عليه كرهه وما لا فلا الخ. (شامى، باب ما يفسد الصلوة، وما يكره فيها، مطلب فى انشاد الشعر، كراچى ١/٦٦٠، زكريا ٤٣٤/٢) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمى عفا اللہ عنہ

١٢/رمضان ١٤٠٩ھ

(الف فتوى نمبر: ١٢٠٢/٢٥)

۲۷/ الفصل السابع والعشرون: مسجد میں مستحب اور مکروہ کاموں کا بیان

مینار اور کمان بنانے کا حکم

سوال: [۸۲۷۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنے محلّہ کی مسجد بنوارہا ہوں حسب ذیل سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات شرعی اصول کی روشنی میں ارسال فرما کر میری ذہنی الجھن کو دور کریں تو نوازش ہوگی۔

(۱) مینار اور کمان کی مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۲) کیا مسجد کی تعمیر کیلئے جو چندہ لوگوں نے دیا ہے، مینار اور کمان کی تعمیر پر خرچ

کر سکتے ہیں؟

(۳) اگر کوئی اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرنا چاہے تو کتنی رقم میناروں اور کمانوں کی تعمیر پر خرچ

کر سکتا ہے؟

(۴) مینار کی اونچائی اور خوبصورتی پر کتنا خرچ کیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ خرچ اسراف اور

بذار میں شامل ہوگا؟

المستفتی: حمید اللہ، نور منزل، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے مینار عام طور پر خارج مسجد ہوتے ہیں،

اور مسجد کے نام سے جو لوگ پیسہ دیتے ہیں، وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمارے پیسہ کے ذریعہ مسجد بنے گی جس میں ہمیشہ لوگ نماز پڑھیں گے، جس سے ہمارے لئے صدقہ جاریہ

ہوتا رہے گا، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ذمہ داران مسجد تعمیر مسجد کے نام سے جو چندہ کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ حدود مسجد ہی میں لگائیں؟ اور مینار کیلئے الگ سے چندہ کریں، اور

مینار اس لئے بنائے جاتے ہیں، تاکہ مسجد کی شناخت رہے تاکہ اجنبی مسافروں کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ مسجد ہے اور اس کی کوئی مقدار بھی شریعت میں متعین نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی

جیب خاص سے مینار بنانا چاہے، تو اس کو اختیار ہے جس شان کا چاہے مینار بنا لے شرعاً اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، البتہ بعض فقہاء نے اتنی گنجائش لکھی ہے، کہ اگر مینار پر چڑھ کر اذان دی جاتی ہے، اور اس سے نمازیوں کو اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، تو مسجد کے پیسے سے اس کے بنانے کی گنجائش ہے ورنہ نہیں، اور اس زمانہ میں مینار کے اوپر مانک کے لاؤڈ اسپیکر کا ہارن رکھا جاتا ہے، وہیں سے آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، اس لئے مسجد کے پیسے سے ان کو بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بماله الحلال

لا من مال الوقف فإنه حرام . (در مختار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كراچی ۶۵۸/۱، زکریا ۲/۴۳۰-۴۳۱)

الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامی، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبيع وفاء کراچی ۲/۲۶۹، زکریا ۳/۱۸۹)

ويجوز أن يبنى منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها ليكون أسمع للجيران وإن كانوا يسمعون الأذان بدون المنارة فلا . (هنديہ، الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد، الفصل الثانى فى الوقف على المسجد، زکریا قدیم ۲/۴۶۲، جدید ۲/۴۱۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۱۵، زکریا ۵/۳۶۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۲/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۳۵۷-۳۹)

مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر لگانا

سوال: [۸۲۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

آجکل مساجد میں سنگ مرمر اور دیگر نفیس اور قیمتی پتھر استعمال کئے جاتے ہیں، تو کیا یہ پتھر لگوانا تعمیر میں شمار ہوگا یا تزئین میں اس کا کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی مسجد جدید کو مد نظر رکھ کر جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: مفتی عتیق الرحمن، مدرسہ اسلامیہ، ناگپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مساجد میں عمدہ اور نفیس پتھر لگانے کیلئے کوئی صاحب حیثیت شخص پیسہ دیتا ہے، تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دارالعلوم کی مسجد میں عمدہ ترین جو پتھر لگایا جا رہا ہے، وہ چندہ دہندگان کی مرضی سے لگایا جا رہا ہے، اور اس وقت تو تمام چندہ دہندگان کو اس کا علم ہے کہ مسجد کے نام سے اب جو چندہ کیا جا رہا ہے، وہ صرف پتھر لگانے کیلئے کیا جا رہا ہے، اس لئے اس طرح چندہ دہندگان کی مرضی سے مسجد کی تزئین جائز ہے۔

أنهم صرحوأبان مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامی ، کتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة ، کراچی ۴/۴۴۵، ذکر یا ۶/۶۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۶۴۰۲۰)

صنوف میں رنگوں سے مصلیٰ نماشکل بنانا

سوال: [۸۲۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے مسجد کا فرش کرایا تو فرش میں ہم نے امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ پر رنگ بھرا دیا مسجد کے اندر بھی اور باہر صحن میں بھی فرش پر رنگ سے مصلیٰ بنوا دیا اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ہے، اور اس طرح مصلیٰ بنے رہنے سے بے ادبی ہوتی ہے، جبکہ ہمارا کہنا ہے کہ ہم نے صحنیں سیدھی کر نیکی وجہ سے یہ کام کیا ہے، اور اس طرح بنے رہنے سے کوئی

نقصان نہیں ہے، آپ شریعت کا حکم تحریر فرمائیں کیا اس کو بنا رہنے دیں یا ختم کرادیں؟
جواب سے نوازیں کرم ہوگا؟

المستفتی: سعید احمد، دھینگر پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے فرش پر جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر مصلے کی شکل میں رنگ بھر دینا جس سے مصلے کا نشان نمایاں ہو جائے، بلا کراہت جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہے اور مصلیوں کا اس کے اوپر سے ہو کر چلنا بھی بے ادبی نہیں ہے، اسی طرح جس مسجد میں پوری مسجد مشرق سے مغرب تک مصلے بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل/۱۳۳، فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۲۷، جدید ذکر یا ۶/۳۱)

ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة. (درمختار كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها كراچی ۱/۶۵۸، زکریا ۲/۴۳۰، ۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۱/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۵/۷۷)

پھول والے ٹائلس کو تصویر تصور کرنے کا حکم

سوال: [۸۷۷۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد جس کی تعمیر جدید کی گئی ہے، اس میں حسب دستور محراب میں خوشنماں ٹائلوں کو استعمال کیا گیا ہے، جن پر پھول بنے ہوئے ہیں، اور دور سے دیکھنے والا ان کو پھول ہی تصور کرتا ہے، لیکن بعض حضرات یہ شبہ پیش کر رہے ہیں، کہ اگر یہ ٹائل ایک دوسرے سے جدا

کر کے دیکھے جائیں تو وہ پھول ہی ہیں، لیکن جب حسب قاعدہ ان چار ٹائلوں کو ملایا جائے، تو اگر چہ وہ پھر بھی پھول ہی محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان پر قریب سے اور غور کے ساتھ مع تصور نظر ڈالی جائے، تو وہ معبود ان باطلہ میں سے کسی کی تصویر بھی محسوس ہونے لگتی ہے، اس صورت حال میں کیا ان ٹائلوں کو مسجد میں باقی رکھا جائے، یا ناکالنا ضروری ہے؟

المستفتی: افتخار عالم، سہسپور، محلہ نئی بستی، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ ٹائلوں کو دیکھ لیا گیا ہے، ان میں ایسے پھول ہیں جن پر نظر پڑتے ہی تصویر یا مورتی جیسی محسوس نہیں ہوتے بلکہ بہت غور سے نظر جمانے کے بعد اس کا تصور ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں پر تصویر کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آئیگی، اسلئے ان ٹائلوں کو نکالنا لازم نہیں ہے۔

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد الخ. (هدايہ، الصلوٰۃ باب ما يفسد الصلوٰۃ، فصل فی المكروهات، اشرفی دیوبند ۱/۴۲)

أو كانت الصورة صغيرة جدا بحيث لا تبدو أي لا تظهر للناظر إذا كان قائما وهي على الأرض أي لا تتبين تفاصيل أعضائها فلا يكره. (حلبی

كبير، فصل فی كراهية الصلوٰۃ، اشرفیہ دیوبند/۳۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۰ صفر ۱۴۲۰ھ

۲۰/۱۲/۲۰۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۰/۶۰۳۷)

مسجد کی دیواروں پر منقش ٹائل لگانا

سوال: [۸۲۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سونا ڈانگا کی مسجد کی اندرونی دیوار میں چاروں طرف فرش سے ۲ فٹ اونچائی تک منقش شدہ ٹائل

یعنی پتھر لگا ہوا ہے، اور مشرقی جانب اور جنوبی جانب حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے روضہ مبارک کی عمارت کی تصویر ہے اور قبلہ کی جانب کعبۃ اللہ اور مسجد نبویؐ کی تصویر شدہ پتھر ہے، جسمیں اللہ، محمد، یاعلیٰ یا فاطمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو ایسی صورت میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد شفیع، متولی مسجد سونا ڈانگا، بردوان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی دیواروں پر خصوصاً قبلہ کی دیوار پر نقش و نگار کرنا نیز دیواروں کے کسی حصہ پر آیات و احادیث یا ان کا ترجمہ لکھنا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مکروہ ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۳/۱۲۰، جدید زکریا مطول ۱۰/۳۸۵)

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مزار کو روضہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ روضہ مبارک کا لفظ صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کیلئے بولا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اطہر کے علاوہ باقی دوسرے کسی بھی بزرگ کے مزار کو روضہ مبارک کہنا سردار دو عالم ﷺ کی شان میں گستاخی ہے، اسلئے روضہ مبارک کا لفظ نہ بولا جائے۔

ویکرہ التکلف بد قائق النقوش ونحوها خصوصاً فی جدار القبلة
وفی الشامیة: کرہ بعض مشایخنا النقش علی المحراب وحائط القبلة لأنه
یشغل قلب المصلی . (درمختار مع الشامی، باب ما یفسد الصلوٰة وما یکرہ فیها
مطلب کلمة لا بأس دلیل علی المستحب غیرہ، زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸، نووی
شرح مسلم، کتاب المساجد، باب کراهیة الصلوٰة، فی ثوب له اعلام ۱/۲۰۸، الفقه
علی المذاهب الأربعة، دارالفکر بیروت ۱/۲۸۷)

ولیس بمستحسن كتابة القرآن علی المحاریب والجدران لما یخاف
من سقوط الكتابة وأن توطأ . (عالمگیری، الباب السابع فیما یفسد الصلوٰة، الفصل
الثانی فیما یکرہ فی الصلوٰة، وما لا یکرہ، زکریا قدیم ۱/۱۰۹، جدید ۱/۶۸)

مسجد کی عمارت مضبوط اور نفیس ہو مگر اس کے ساتھ سادگی کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے، پھول بیل بوٹے گل کاری نقش و نگار کی بھرمار دیوار میں کرنا ممنوع ہے، مسجد کی سادگی کے بارے میں حدیث ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشديد المساجد قال ابن عباس لتزخر فيها كما زخرفت اليهود والنصارى. (سنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب فى بناء المساجد، النسخة الهندية ۱/۶۵، دارالسلام رقم/۴۴۸، مشکوٰۃ شریف ۱/۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رجب ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۸۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹/۷/۱۴۱۶ھ

مسجد کی مختلف جگہوں پر پھول رکھنا یا اسکے درخت لگانا

سوال: [۸۲۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) مسجد کے اندر ممبر پر برائے زینت گل دان مع پھولوں کے رکھنا کیسا ہے؟ اسکی تفصیل اس طرح ہے کہ اس شہر کی ایک مسجد میں گذشتہ دو ماہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ممبر پر ایک بڑا گل دان مع پھولوں کے محض زینت کی غرض سے رکھا ہے، جمعہ کے دن نماز جمعہ کا خطبہ پڑھنے کیلئے جب امام صاحب ممبر پر تشریف لیجاتے ہیں، تو وہ گل دان ممبر سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور پھر بعد نماز جمعہ گل دان دوبارہ ممبر پر رکھ دیا جاتا ہے؟

(۲) مسجد کے باہر میدان میں باغیچہ بنانا کیسا ہے؟ باغیچہ بنانے کیلئے عوام سے مسجد کی تعمیر کے نام پر وصول کیا گیا روپیہ پیسہ صرف کرنا کیسا ہے؟ جبکہ مسجد کے باہر کا میدان واضح طور پر مسجد کے اختیار میں نہیں ہے، مسجد کے باہر کے میدان کو تفریح گاہ بنانا کیسا ہے؟

(۳) مسجد کے صحن میں داخلی دروازہ کے اندر پھولوں کی کنڈیاں جن میں کھاڈالی

جاتی ہے، وہ رکھنا کیسا ہے؟

(۴) مسجد کے باہر کے میدان میں جہاں جنازہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں گھاس اگانے کیلئے کھاد وغیرہ ڈال کر گھاس اگائی گئی ہے، گھاس کو زندہ رکھنے کیلئے پانی ڈالا جاتا ہے، اس گیلی (تر) گھاس پر جنازہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۵) مسجد کے بیرونی حصوں میں مثلاً مسجد کے میناروں پر گنبد پر اور مسجد کے سامنے باہر میدان میں روزانہ بے تحاشا روشنی کرنا کیسا ہے؟

(۶) ایک شخص سرکاری ادارہ لائف انشورنس کارپوریشن (Laif Inshorainsh cor Poershan) میں ملازم ہے، کیا ایسا شخص کسی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی تعلیمی دینی ادارہ کے کسی معزز عہدہ پر فائز ہو سکتا ہے، کیا ایسا شخص امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے؟

(۷) عوام سے مسجد کی تعمیر کے نام پر وصول کیا گیا چندہ کسی دوسرے کام پر صرف کرنا کیسا ہے؟ جبکہ مسجد کا بہت سا تعمیری کام باقی ہے، ان باقی کاموں میں مسجد کے پانچ عدد دروازوں کا کام اور صحن میں فرش لگانا ہے؟

المستفتی: احمد فیروز، اقبال معرفت سٹمس،
 ناولٹر پرانی عارف ہوٹل کے پیچھے محمد علی روڈ،
 مومن پورہ، ناگپور، صوبہ: مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) ممبر پرزینت کیلئے پھولوں کا گلدان وغیرہ رکھنا مکروہ ہے، اسلئے کہ نماز میں خیال دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور خشوع باقی نہیں رہتا، حالانکہ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۷۲/۲، جدید زکریا ۷۹/۹، کفایت المفتی قدیم ۲۳۱/۹، جدید زکریا مطول ۳۸۵/۱۰)

ویکرہ التکلف بد قائق النقوش ونحوها خصوصاً فی جدار القبلة
 (وفی الشامیة) كأخشاب ثمینة وبیاض بنحو سیداج قوله وظاهره الخ أي
 ظاهر التعلیل بأنه یلہی . (درمختار مع الشامی، الصلوۃ، باب ما یفسد الصلوۃ، مطلب

کلمہ لا بأس دلیل علیٰ المستحب غیرہ زکریا ۲/۴۳۱، کراچی ۱/۶۵۸)

(۲) جو چندہ مسجد کی تعمیر کے نام سے وصول کیا گیا ہو، اس کو تعمیر کے کام میں ہی لگایا جائے، اس سے مسجد کے باہری صحن میں پھلوری لگانا جائز نہیں، اگر پھلوری وغیرہ لگائے گا تو اس کا ضمان لازم ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۲۶۳، جدید ڈائجیل ۲۳/۲۱۴)

وإذا كان على عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير ولا يصرف منه للزينة والشرفات ويضمن إن فعل . (فتح القدير ، كتاب الوقف ،

الفصل الاول في المتولى ، دارالفكر بيروت ۱/۶۲۴، زکریا ۶/۲۲۳، کوئٹہ ۵/۴۵۰)

(۳) دیسی کھانا پاک ہوتی ہے، اس کو حدود مسجد میں رکھنا جائز نہیں ہے، نیز مسجد کے پیسے سے صحن مسجد میں پھولوں کی کٹڑیاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رجیمیہ قدیم ۲/۱۵۹، جدید زکریا ۹/۱۳۴)

أما المتولى يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن . (عالمگیری، الباب السابع ، فی ما یفسد

الصلوة ، الفصل الثانی زکریا قدیم ۱/۱۰۹، جدید ۱/۱۶۸)

(۴) جب تک دیسی کھاد کے اثرات باقی رہیں گے، اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، یا وہ گھاس اتنی لمبی یا گھنی ہو جائے کہ وہ کھاد گھاس کے اندر چھپ جائے، تو اس پر نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ قدم کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۳/۴۴۰)

ثم الشرط (إلى قوله) ومكانه أى موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى . (درمختار مع الشامی، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة کراچی ۱/۴۰۲، زکریا ۲/۷۳ تا ۷۵)

(۵) مسجد کے میناروں و گنبدوں پر ضرورت سے زائد روشنی کرنا جائز نہیں ہے، اس میں فضول خرچی ہے، قرآن پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ . (بنی اسرائیل: ۲۶)
 بے جا خرچ نہ کرو بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں،
 دوسری جگہ ارشاد ہے: ”إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ“ اللہ تعالیٰ ضرورت سے زائد خرچ
 کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا ان شنیع افعال سے بچنا ضروری ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ
 قدیم ۲/۱۶۰، جدید زکریا ۹/۷۰، فتاویٰ رشیدیہ قدیم/۵۲۷، جدید زکریا/۵۱۹)

(۶) ایسے شخص کو مسجد و مدرسہ کا ذمہ دار نہیں بنانا چاہئے اور نہ ہی ایسے شخص کو امام بنانا
 چاہئے، بلکہ کسی متبع شریعت کو امام بنایا جائے، البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو اسکو مسجد کا ذمہ دار بنایا
 جاسکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۲۸۳، جدید ڈابھیل ۱۴/۳۳۷، فتاویٰ دارالعلوم ۳/۱۳۴)
 (۷) وصول شدہ کو مسجد کے تعمیری کام میں ہی خرچ کرنا واجب ہے، ورنہ متولی اس
 کا ضامن ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۲/۲۶۳، جدید ڈابھیل ۲۳/۲۱۴)

وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ الزَّيْتُ وَالْحَصِيرُ وَلَا
 يَصْرِفُ مِنْهُ لِلزَّيْنَةِ وَالشَّرَفَاتِ وَيُضْمَنُ إِنْ فَعَلَ . (فتح القدير، دارالفکر بیروت
 ۶/۲۴۱، کوئٹہ ۵/۴۵۰، زکریا ۶/۲۲۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۶/۲۶ھ

۱۴۱۶/۶/۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۵۳۵)

مسجد کی زمین میں پھولوں کے درخت لگانا اور گملے رکھنا کیسا ہے؟

سوال: [۸۲۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی مسجد
 میں کسی صاحب نے گملے کے اندر آم کا یا انار کا یا کھجور کا یا اس کے علاوہ کوئی ایسا درخت لگایا
 جو مسجد کیلئے موضوع نہیں ہے، تو کیا اس کو فروخت کر کے یا اسکے بدلے میں کوئی اور درخت
 پھول وغیرہ لگا دے جو مسجد کیلئے موضوع ہو تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی

میں جواب دیکر شکر یہ کا موقع دیں؟

المستفتی: محمد زید الدین، امام مسجد محلہ ٹھٹھیرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد میں ایسا درخت لگانا جس سے سایہ یا زمین خام ہو تو خشکی اور صلابت وغیرہ منافع مسجد مقصود ہو تو جائز ہے، اور گملے میں لگائے ہوئے درخت اور پھول اور زینت کے درختوں میں مسجد کا کوئی نفع ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لئے نہ پھول کا درخت لگانا درست ہے اور نہ ہی گملے رکھنا۔

وإن غرس فی المسجد فإن قصد الظل لا یکره وإن قصد منفعة
آخری یکره . (الاشباه قدیم ۵۶/)

غرس الأشجار فی المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد
بأن كان المسجد ذانزٍ والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا
يجوز الخ . (شامی، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی الغرس فی المسجد زکریا ۴۳۵/۲،
کراچی ۶۶۱/۱، کوئٹہ ۴۸۹/۱)

ویکره غرس الأشجار فی المسجد ، لأنه يشبه البيعة، إلا أن يكون به
نفع للمسجد كأن يكون ذانزٍ أو اسطوانية لا تستقر فيغرس ليجذب عروق
الأشجار ذلك النز ، فحينئذ يجوز ، وإلا فلا . (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلوٰۃ وما
یکره فيها فصل: کره استقبال القبلة زکریا ۶۲/۲، کوئٹہ ۳۵/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ رجب الثانی ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۴۲۲۵)

حدود مسجد سے باہر پھولوں کے پیڑ پودے لگانا

سوال: [۸۲۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی زمین میں خوشبودار پھولوں کے پیڑ پودے لگانا جن پودوں کی وجہ سے نمازیوں کو نماز میں کوئی خلل

واقع نہیں ہوتا جو مسجد کی دیواروں سے لگے ہیں، پودے گملوں میں مسجد کے زینہ جنگلے پر لگا رکھے ہیں، ان پیڑ پودوں کو لگانا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حدود مسجد سے باہر مسجد کی ملکیت کی زمین میں خوشبودار پھولوں کے پیڑ لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ حدود مسجد میں ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۴۷۰، جدید ڈائجیل ۱۵/۲۲۶)

ولو غرس فی المسجد یكون للمسجد ، لأنه لا یغرس لنفسه فی المسجد. (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الوقف باب الرجل یجعل دارہ مسجداً، جدید زکریا ۳/۲۱۷، وعلی ہامش الہندیۃ، زکریا ۳/۳۱۰، ہندیہ، الباب الثانی عشر فی الرباطات والخانات والمقابر الخ، زکریا قدیم ۲/۴۷۴، جدید ۲/۴۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۱۰/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۷/۱۰/۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۳۹۹۹)

پرچار والے کیلنڈر مساجد میں آویزاں کرنا

سوال: [۸۲۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آجکل جو کمپنی اور فیکٹری والے اور بڑی دوکانوں والے اور بڑے ڈاکٹر حضرات اپنی کمپنی فیکٹری دوکانوں کے پرچار کیلئے بھی اور کسی درجہ میں لوگوں کو تارتخ وغیرہ بھی معلوم ہو جائے، سالانہ کیلنڈر مساجد میں آویزاں کرتے ہیں کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے، جبکہ ان کیلنڈروں میں تصاویر نہیں ہوتی ہیں، اگر درست نہیں ہے تو کیا مساجد سے ان کیلنڈروں کو ہٹانا درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی، سیڈھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حدیث میں مسجد کے اندر دنیوی اعلانات کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور موجودہ دور میں اعلان و تشہیر کا ایک ذریعہ تجارتی کینڈر بھی ہیں، بریں بنا ایسے کینڈروں کا مساجد میں آویزاں کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

أبو هريرة يقول قال رسول الله ﷺ من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبين لهذا . (مسلم شريف ، كتاب المساجد ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ، النسخة الهندية ۱/ ۲۱۰ ، بيت الأفكار رقم : ۵۶۸ ، سنن الترمذی ، ابواب البيوع ، باب النهي عن البيع في المسجد ، النسخة الهندية ۱/ ۲۴۶ ، دارالسلام ، رقم : ۱۳۲۱)

تجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة - إلى - وعن حديث الدنيا وعن البيع والشراء وإنشاد الأشعار وإقامة الحدود وإنشاد الضالة الخ . (كبيرى ، فصل فى احكام المسجد ، رحيميه ديوبند/ ۵۶۶ ، اشرفيه ديوبند/ ۶۱۰ ، مرقاة شرح مشکوٰة ، باب المساجد ومواضع الصلوة ، امداديه ملتان ۲/ ۱۹۹ ، اشرفي ديوبند ۱/ ۴۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۵۵۰/۴۰)

مسجد میں غیر جاندار کی تصویر لگانا

سوال: [۸۲۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بنام سندری جو کہ بغیر جاندار ہے، اس کی تصویر مسجد میں خوبصورتی کیلئے لگانا جائز ہے یا نہیں؟ مع حوالہ مدلل جواب تحریر فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غیر جاندار کی تصویر بنانا اور رکھنا علی

الاطلاق جائز ہے۔

الحنفية قالوا لتصوير غير الحيوان عن شجرة ونحوه جائز الخ. (الفقہ علی مذاہب الاربعہ، کتاب الحظر والإباحة، أحكام التصوير، دارالفکر بیروت ۱/۲/۴) لیکن زیادہ خوبصورتی اور زینت کیلئے مسجد میں لگانا مکروہ ہے، جس سے نمازی کا ذہن منتشر ہو سکتا ہے۔

الأولى أن تكون حيطان المسجد أبيض غير منقوش ولا مكتوب عليها ويكره ان تكون منقوشا بصور أو كتابة الخ. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فی أحكام المسجد، كوئٹہ ۱/۵، ۳۵۱/۵، زکریا ۲۰/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ ذیقعدہ ۱۴۰۷ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۶۲۳)

مسجد میں میوزک والی گھڑیاں لگانا

سوال: [۸۲۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں ایسی گھڑیاں لگانا جس میں سنگیت بولتا ہے، تو اسے مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: نوشاد علی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میوزک اور باجے کی آواز شریعت میں پسند نہیں ہے، پھر یہ آواز مسجد کے اندر اور زیادہ بری ہے، اسلئے ایسی گھڑی مسجد میں نہ لگائی جائے، ہاں البتہ سادی آواز کے ساتھ ٹائم بتلانے والی گھڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
استماع صوت الملاہی کضرب قصب ونحوہ حرام لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق الخ.

(درمختار، کتاب الحظر والإباحة، کراچی ۶/۳۴۹، زکریا ۹/۵۰۴، تاتار خانایہ زکریا ۱۸۹/۱، رقم: ۲۸۴۶۶، الفتاویٰ البرازیہ، کتاب الکراهیہ، الفصل الثالث فیما یتعلق بالمناهی جدید زکریا ۳/۲۰۲، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۶/۳۵۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۴/۲۲۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۲/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۰۹۳۳)

سنگیت اور میوزک والی گھڑی مساجد میں لگانا

سوال: [۸۲۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکبر پور کی جامع مسجد میں ایک گھنٹہ ہے، جو سنگیت پہلے بجاتا ہے، اس کے بعد گھنٹہ بجاتا ہے، تو کیا ایسا گھنٹہ مساجد میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ اور یہ گھنٹہ مسجد میں اسلئے لگایا گیا تھا، کہ مسجد کے جو مؤذن ہیں وہ نابینا ہیں اس سے ٹائم کا پتہ چلتا رہتا ہے، جواب سے آگاہ فرمائیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سنگیت اور میوزک والی گھڑی جس میں باقاعدہ ساز ہوتا ہے، اس کا مسجد میں لگانا درست نہیں ہے، اور نابینا مؤذن کو وقت معلوم کرنے کیلئے بغیر سنگیت کے صرف گھنٹہ والی گھڑی کافی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۶/۱۳۱، جدید زکریا ۹/۱۲۶، امداد الفتاویٰ ۲/۷۱۸)

استماع صوت الملاہی کضرب قصب ونحوہ حرام لقولہ علیہ السلام استماع الملاہی معصیۃ الخ. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، کراچی ۶/۳۴۹، زکریا ۹/۵۰۴، تاتار خانایہ، زکریا ۱۸۹/۱، رقم: ۲۸۴۶۶، الفتاویٰ البرازیہ، کتاب الکراهیہ، الفصل الثالث فیما یتعلق بالمناهی، جدید زکریا ۳/۲۰۲، وعلی ہامش الہندیہ، زکریا ۶/۳۵۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۴/۲۲۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۶۸۲۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹/ ۵/ ۱۴۲۱ھ

مسجد میں ٹوپیاں رکھنا اور ان میں مصلیوں کا نماز پڑھنا

سوال: [۸۲۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ:

ہمارے یہاں مساجد میں تاڑ کے پتے کی یا پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں، مصلی حضرات خالی سر آتے ہیں، اور ان ٹوپوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، پھر اتار کر چل دیتے ہیں۔

(۱) کیا اس طرح ٹوپوں کو مسجد میں رکھنا صحیح ہے، ان ٹوپوں کو پہن کر نماز میں کوئی

کراہت تو نہیں آئے گی، کہ ایسی ٹوپ کسی اچھی مجلس میں پہننے کو لوگ گوارا نہیں کر سکتے؟

(۲) اگر ان ٹوپوں کے بجائے اچھی خوبصورت ٹوپ مسجد میں رکھی جائیں تو کیا یہ صحیح

ہوگا؟ مفصل جواب سے نوازیں؟ کرم ہوگا؟

المستفتی: ماہتاب عالم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تاڑ کے پتے کی ٹوپیاں یا چٹائی اور پلاسٹک کی

ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسلئے کہ مسجد کے اندر نماز کیلئے ایسے لباس میں حاضر

ہونا مکروہ ہے جس کو پہن کر معزز مجلسوں اور تقریبوں میں شریک ہونا پسند نہ کیا جاتا ہو اور

یہ ٹوپ ایسی ہے جس کو پہن کر شادی بیاہ کے پروگراموں یا دیگر معزز مجلسوں میں اور

تقریبات میں شرکت پسند نہیں کریں گے، اس لئے ایسی ٹوپ پہننا مکروہ ہے، اگر کپڑے

کی اچھی ٹوپیاں رکھ دی جائیں اور ان کو پہن کر لوگ نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(مستفاد: ایضاح المسائل/ ۱۳۳، ۱۳۴)

و کمرہ صلاتہ فی ثياب بذلة یلبسہا فی بیتہ (در مختار) قال

الشامی تحته: ولا يذهب به إلى الأكابر، والظاهر أن الكراهة تنزيهية.
(شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، مطلب فی الکراہیۃ، النسخۃ الہندیۃ،
کراچی ۱/۶۳۸، زکریا ۲/۴۰۷)

وتكره الصلاة في ثياب البذلة كذا في معراج الدراية . (هنديہ، الباب
السابع فيما يفسد الصلوٰۃ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلوٰۃ وما لا يكره، زکریا قديم
۱/۱۰۷، جديد ۱/۱۶۵، مجمع الأنهر قديم ۱/۱۲۴، جديد، دارالکتب العلمیۃ
بیروت ۱/۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۳۷۹)

مسجد میں صفوں کے آگے چیلوں کو ٹین کے ڈبے میں رکھنا

سوال: [۸۲۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر مسجد
میں پہلی صف کے آگے جوتے چپل رکھنے کیلئے ٹین کے ڈبے وغیرہ بنوادئے جائیں، جس
میں نمازی اپنے چپل بغرض حفاظت رکھ لیں، تو کیا نماز میں کوئی قباحت یا کراہت آئے گی،
شاہی مسجد میں بھی اس طرح جوتے چپل رکھنے کا نظم ہے، شرعی حکم سے مطلع فرمائیں؟
المستفتی: لیاقت حسین، امام شاہی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسا جوتا چپل جس میں نجاست لگی ہوئی نہ ہو مسجد
میں رکھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ایسے جوتے چپل کو مسجد میں ٹین کے ڈبے میں رکھنا
جائز ہے، چاہے ٹین کے ڈبے مسجد کی دیوار قبلی سے متصل رکھے ہوں یا دائیں بائیں یا نیچے کی
جانب ہوں، ہر طرح سے جائز ہے پس نمازیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اگر اس کے

جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو مسجد میں داخل نہ کریں۔

وینبغی لداخله تعاهد نعله وخفه (درمختار) لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بهنا ينبغي عدمه . (شامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما يفسد الصلوٰۃ، وما يكره فيها كراچی ۱/۶۵۷، زکریا ۲/۲۹، البحر الرائق، فصل فی كره استقبال القبلة، زکریا ۲/۶۱، كوئٹہ ۲/۳۴، كفايت المفتى قديم ۳/۱۵۰، جديد زکریا مطول

۱۰/۳۶۲، امداد الاحكام ۲/۵۷، مسائل مساجد / ۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۰/۶/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۷۵۹/۳۸)

مسجد و قبرستان سے کتنی دوری پر بیت الخلاء تعمیر کریں؟

سوال: [۸۲۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد و قبرستان سے کتنی دوری پر بیت الخلاء بنانا جائز ہے؟

المستفتی: عبدالصمد، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اتنی دوری پر بیت الخلاء بنانا جائز ہے جہاں سے مسجد اور قبرستان میں بدبو نہ آتی ہو، اور آجکل جلوش وغیرہ کے بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں، جب پانی بہا دیا جائے تو ان سے قریب میں بھی بدبو نہیں آتی ہے، لہذا آپکا جلوش کا بیت الخلاء قریب میں بھی بنایا جاسکتا ہے، اور کچا بیت الخلاء اتنی دور بنانا چاہئے جہاں سے بدبو نہ آسکتی ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶/۱۹۶، جدید ڈبھیل ۱۴/۵۴۶)

یکرہ..... بول وغائط فی ماء ولو جاریا و بجنب مسجد

ومصلی عید. (تنویر الأبصار مع الدرالمختار، کتاب الطہارۃ، فصل فی الاستنجاء، کراچی ۱/۳۴۲، ۳۴۳، زکریا ۲/۵۵۵، ۵۵۶، البحر الرائق، باب الأنجاس، زکریا

(۲۴۳/۱، ۴۲۲/۱ کوئٹہ)

ویحرم فیہ السؤل ویکرہ الإعطاء وأكل نحو ثوم ویمنع منه
وتحتہ أی کبصل ونحوہ مما لہ رائحة كريهة قال الإمام العینی فی
شرحہ علی صحیح البخاری: قلت: علة النهی أذی الملائكة وأذی
المسلمین ویلحق بما نص علیہ فی الحدیث کل مالہ رائحة كريهة
مأ کولا أو غیرہ . (شامی، کتاب الصلوة مطلب فی الغرس فی المسجد، کراچی
۱/۶۶۱، زکریا ۲/۴۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۹/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۵۷۶/۳۱)

مساجد میں نعرہ بازی کرنا

سوال: [۸۲۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مساجد
کے اندر تقریروں کے موقع پر کیا نعرہ بازی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالباسط، مہاراشٹری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جلسہ اور تقریر وغیرہ کے موقع پر مسجد کے اندر نعرہ
بازی کرنا احترام مسجد کے خلاف ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔

والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى . (ہندیہ،

کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آدابہ المسجد زکریا قدیم ۱/۳۲۱، جدیدہ ۵/۳۷۲)

ویکرہ فی المسجد الإعطاء ورفع صوت بذكر . (شامی، الصلوة، باب

ما یفسد الصلوة، وما یکرہ فیہا، کراچی ۱/۶۶۰، زکریا ۲/۴۳۳)

هل یکرہ رفع الصوت بالذکر والدعاء قیل نعم وفی الشامیۃ:

وحمل ما فی فتاویٰ القاضی علی الجهر المفرط . (شامی، کتاب الحظر والإباحة

، فصل فی البیع، کراچی ۶/۳۹۸، زکریا ۹/۵۷۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۶/۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۶۲۰/۲۸)

ٹیکس سے بچنے کیلئے مسجد کی آمدنی اصل سے کم بتانا

سوال: [۸۲۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک جامع مسجد ہے مسجد کے نام سے تقریباً ۶۰/ریگہ زمین ہے، زمین کی آمدنی کو بجلی چٹائی لاؤڈ اسپیکر دیگر چیزوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ مسجد چند سال پہلے وقف بورڈ سرکار کے حوالہ کر دی گئی تھی سرکار پہلے زمین کا ٹیکس وغیرہ نہیں لیتی تھی، اب چند سال سے اس زمین کا خرچ اور ٹیکس وصول کرتی ہے، پوری زمین میں آج جتنی آمدنی ہوتی ہے اس کا ٹیکس جوڑ کر لیتی ہے، بجلی خرچ الگ لیتی ہے، کیا یہ صورت ہمارے لئے جائز ہے کہ ایک سال میں مثلاً ایک ہزار روپیہ کی آمدنی ہوئی، اور سرکار کو ہم حساب اس طرح دیں کہ اس سال ہماری آمدنی ۲۵۰/۳۰۰ ہوئی ہے، تو اس روپیہ کو بچا کر مسجد کی ضروریات میں خرچ کریں اگر یہ صورت جائز ہے تو تفصیلاً جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: عبدالرؤف، معلم دورہ حدیث شریف

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈھائی سو یا تین سو آمدنی ہوئی ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ تین سو سے زائد آمدنی نہیں ہوتی ہے، تو دفع ظلم کیلئے اس طرح تو یہ جائز ہے، بلکہ فقہاء جھوٹ کو بھی جائز کہتے ہیں۔

وقد اتفق الفقهاء علی أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقنتله أو يطلب ودیعة لإنسان لیاخذها غصبا ویسأل عن ذلك واجب علی من علم ذلك إخفاءه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز الخ. (شرح المسلم للنووی،

کتاب الفضائل ، باب من فضائل ابراہیم ۲/۲۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۹۵۷/۲۶)

نمازیوں کا دوسرے کی زمین سے مسجد میں آنا جانا

سوال: [۸۲۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد ہے اس کے دو دروازے ہیں، ایک مین دروازہ ہے، جو بازار کی طرف واقع ہے، ادھر سے مسجد میں آنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ کسی کو کوئی اعتراض ہے، اور جو دوسرا دروازہ ہے، وہ سائڈ سے تعمیر کے وقت کھولا گیا ہے، اس دروازہ سے مسجد میں آنے کیلئے ایک صاحب کی جگہ میں ہو کر گذرنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ جگہ فی الحال یوں ہی خالی پڑی ہے، وہاں سے گذرنے میں کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن صاحب جگہ کو ادھر سے آنے پر اور نکلنے کی صورت میں اعتراض ہے، جب مقتدی حضرات نماز کیلئے آتے ہیں، تو گالیاں دیتا ہے، اور لعن طعن کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ بازار میں ہو کر مسجد میں آؤ میری جگہ میں ہو کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مین گیٹ سے آنے کی صورت میں راستہ بہت طویل ہو جاتا ہے، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی طرح سے بھی لوگوں کے نکلنے پر راضی نہیں ہے، اور نمازی حضرات برابر نکل رہے ہیں، اور نماز ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان نمازی حضرات کی نمازوں میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، کراہیت یا عدم ثواب کس چیز کو ان کا فعل مستلزم ہے، وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: محمد صدیق، لاپور کلاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صاحب زمین کو اپنی زمین سے گذرنے سے منع کرنے کا حق ہے، اور اپنی زمین پر دروازہ کھولنے سے بھی منع کرنے کا حق ہے، اسلئے

نمازیوں کو مسجد کے اصل میں دروازہ سے آنا چاہئے، اور صاحب زمین کو گزرنے والوں کو منع کرنیکا تو حق ہے مگر گالیاں دینا جائز نہیں ہے، گالیاں دینا گناہ کبیرہ ہے، اور منع کرنے کے بعد اس کی زمین سے نمازیوں کا زبردستی آنا جانا جائز نہیں ہے، زبردستی آنے جانے کا گناہ ہوگا، مگر مسجد میں جو نماز پڑھی جائیگی وہ نماز بہر حال درست ہوگی۔

عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرفه هذا: لا ضرر ولا ضرار . (مسند الامام احمد بن حنبل ۳۲۷/۵، رقم: ۲۳۱۰۹)

عن عمر وبن يحيى المازني ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار . (مؤطا امام مالك، كتاب القضاء، القضاء ف الفرق / ۳۱۱)

أن لرب الارض المنع من الدخول في أرضه . (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۰۷/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۹۸۵/۳۸)

مسجد کے نیچے سے نجاست کا پائپ ڈالنا

سوال: [۸۲۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پہاڑی علاقہ میں ایک مسجد ہے، جس میں بیت الخلاء و غسل خانہ نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں مسافروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، مسجد کے حدود کے باہر کوئی مسجد کی زمین نہیں ہے، تاہم متولی صاحب نے مسجد کے باہر اپنی زمین میں بیت الخلاء وغیرہ بنوایا ہے، لیکن مسجد کے چاروں طرف متولی صاحب کا مکان ہے، اور زمین ہے، اور کہیں ایسا راستہ نہیں ہے، مجبوراً متولی صاحب نے چند معتبر علماء کے مشورہ سے وضو اور غسل کا پانی اور بیت الخلاء کا پانی مسجد کے نیچے و بیچ پورب سے پچھم فرش کو ایک فٹ کھود کر پلاسٹک کے مضبوط پائپ کے ذریعہ منبر و محراب کے درمیان سے مسجد سے تقریباً پندرہ فٹ دور سیور لائن میں ڈال دیا ہے، پانی کے اوپر فرش کی دو تہیں بنا دی گئی ہیں، جس سے مسجد میں کسی قسم کی نجاست و گندگی اور بدبو آنے کا

کوئی امکان نہیں ہے، اس بات کو لیکر چند لوگوں میں چیمگیوں ہوں ہیں، اس کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: احقر معین الدین ڈوئی والا، دہرادون، اترانچل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب مسجد پہلے سے مکمل ہے، تو آسمان سے تحت الثریٰ تک پوری فضا مسجد میں شامل ہے، لہذا مسجد کے نیچے کی طرف سے اور اوپر کی طرف سے نجاستوں کا پائپ ڈالنا جائز نہیں ہے، اگر پائپ نکالنے کیلئے کوئی راستہ نہیں ہے، تو متولی صاحب کے مکان یا دوکان کے نیچے سے پائپ ڈالا جائے، مسجد اور جماعت خانہ کے نیچے سے نجاست کا پائپ ڈالنا جائز نہیں ہے، اسلئے مسجد کے فرش کے نیچے سے جو پائپ ڈالا گیا ہے، اس کو وہاں سے ختم کر دینا ضروری ہے۔ (کفایت المفتی قدیم ۳۰/۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۷۷)

الظاهر عدم الجواز وما یأتی متنالا یفید الجواز لأن بیت الخلاء لیس

من مصالحہ۔ (تقریرات رافعی علی الشامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، زکریا ۲/۸۵، کراچی ۱/۸۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۳۷/۸۱۷)

حدود مسجد میں نالی بنانا

سوال: [۸۲۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قدیم مسجد تھی، تنگ ہونے کی بناء پر جب اسکی توسیع کی گئی، تو اس قدیم مسجد کو شہید کر کے توسیع شدہ مسجد کے صحن میں لے لیا گیا اب پہلی مسجد کے حدود میں جو اس وقت توسیع شدہ مسجد کا صحن بنا لیا گیا اس میں نالی بنانا چاہتے ہیں، تو کیا حدود مسجد میں نالی بنانا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالوحید، مدرسہ کاشف العلوم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ایک دفعہ مسجد بن جاتی ہے، تو قیامت تک کیلئے وہ مسجد ہی رہتی ہے، لہذا مذکورہ صورت میں قدیم کو حدود مسجد اور جماعت خانہ کے دائرہ میں رکھنا واجب ہے اس کی حدود میں کہیں بھی نالی یا وضو خانہ وغیرہ بنانا جائز نہیں ہوگا۔
(مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۵/۱۹۶، جدید ڈابھیل ۱۴/۵۳۷)

عن عائشةؓ أن رسول الله ﷺ أمر بالمسجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. (سنن ابن ماجه، ابواب المساجد، باب تطهير المساجد وتطيبيها، النسخة الهندية / ۵۵، دارالسلام رقم: ۷۵۸)

أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (درمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، كراچی ۴/۳۵۸، زكريا ۶/۵۴۸، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲/۲۹۶، النهر الفائق، دارالكتب العلمية بيروت ۳/۳۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۱۶/۸/۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۲/۵۵۵)

مسجد کی اراضی میں گاڑیاں کھڑی کرنا

سوال: [۸۲۹۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جامع مسجد پختہ سرائے جو تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے، حدود مسجد سے متصل ایک آراضی ہے جو مسجد کی ملکیت میں ہے، جمعرات کو اس مسجد میں اجتماع بھی ہوتا ہے، تو اجتماع میں شرکت کرنے والے حضرات اس آراضی میں جو مسجد کی ملکیت میں ہے، جس میں نماز نہیں ہوتی ہے، اپنی سائیکل اور اسکوٹر وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد عثمان، پختہ سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: متولی اور ذمہ داران مسجد کی اجازت سے مذکورہ آراضی میں نمازیوں کا اسکوٹر، سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کرنا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ یہ کام بھی مسجد کے مصالح میں سے ہے۔

قال تفعل ماتری من مصلحة المسجد الخ. (عالمگیری الباب الحادی عشر فی المسجد، الفصل الثانی فی الوقف علی المسجد، زکریا قدیم ۲/۶۱، جدید ۲/۴۱۳)

يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق الخ. (فتاویٰ ابن تیمیہ ۳۱/۲۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۰۴/۲۵)

حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاجاً مسجد کو مقفل کرنا

سوال: [۸۲۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا مسجد کے امام و مؤذن کیلئے یہ جائز ہے، کہ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنے کی غرض سے شہر کی جامع مسجد کو مقفل کر دے، اور عام مسلمانوں کو اسمیں جمعہ و جماعت کے قیام سے روک دے، کیا یہ فعل قرآن پاک کی آیت ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا“ کے تحت نہیں آتا ہے؟

المستفتی: طاہر حسین، محلہ گد پوڑہ، دیوبند، سہارنپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اسلامی شریعت میں مساجد کو آباد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو مؤمن ہونے کی علامت بتلائی گئی ہے، چنانچہ قرآنی فیصلہ ہے۔
”إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ“ الآیۃ اور آگے فرمایا گیا ہے، ”وَلَمْ

يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ“ (البراءة: ۱۸) یعنی مساجد کو آباد رکھنے میں مؤمن اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، لہذا کسی محض جائز مطالبہ کو حکومت سے منوانے کیلئے اپنی مساجد کو غیر آباد بنا کر نمازیوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے روک دینا کسی امام و متولی یا اور کسی کیلئے ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے مطالبہ اسکی وجہ سے پورا نہ ہو، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں آیت بالا کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ:

أن المقصود الأعظم من بناء المساجد إقامة الصلوات الخ. (۹/۱۶) اور ”إنما يعمر الخ“ میں تعمیر مساجد سے مراد پنجوقتہ نمازوں میں مساجد میں حاضری دینا ہے۔

المراد من عمارة المسجد الحضور فيه الخ. (تفسیر کبیر ۹/۱۶) اور یہ بات شریعت اسلامی کے مقتضی اور شعار کے مخالف ہے کہ مسلمان اپنی جانب سے مسجد کو مقفل کر کے اسے غیر آباد اور ویران بنانے میں بے ضرر ہیں، مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے والے کو شریعت اسلامی میں ظالم و جابر بتلایا گیا ہے، جو سوانامہ میں درج شدہ آیت کے تحت داخل ہے، اگرچہ آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے نشاندہی کی ہے، لیکن ضابطہ شرعی ہے کہ ”العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب“ لہذا حکم تمام مساجد کو عام ہے، اور مساجد کو ویران کرنے کی سعی کا مطلب نمازی و عبادت گزار کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔

السعي في تخريب المسجد قد يكون لو جهين أحدهما منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً، والثاني بالهدم والتخريب الخ. (تفسیر کبیر ۴/۱۱، سورہ بقرہ: آیت ۱۱۴) علامہ آلوسی روح المعانی میں رقم طراز ہیں: وسعی فی خرابها أي بتکریرھا بالتعصبات وغلبة الهوى ومنع أهلها بتهييج الفتن اللازمة لتجاذب قوى النفس ودواعى الشيطان والوهم الخ. (روح المعانی، البقرة تجب تفسیر الآية:

۱۱۴، زکریا دیوبند ۱/۵۷۴)

آج کل مسلمانوں کو ویسے ہی نماز روزہ اور مسجد سے لگاؤ کم ہے، اور بہت کم لوگ مساجد میں آکر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح مساجد کو مقفل کر دینے کے بعد کتنے لوگ نماز ہی غائب کر دیں گے، اور اس ملک میں ایسا اقدام کفار کی نظر میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی مساجد اور نماز جیسی عظیم الشان بنیادی عبادت کو بے وقعت بنا دینا زبردست ذریعہ ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ شوال ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۰/۲۹۰)

مسجد کی رقم سے خریدی گئی اینٹوں سے استنجاء کرنا

سوال: [۸۲۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کیلئے اینٹ خرید کر رکھی گئی اور اس سے لوگ استنجاء کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اینٹ مسجد کی رقم سے خریدی گئی ہے؟

المستفتی: احمد علی، آسامی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی اینٹوں کو استنجاء کے ڈھیلے بنانا جائز نہیں ہے، البتہ گری بڑی اینٹوں کے ٹکڑے جنکی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان سے ڈھیلا لینے کی گنجائش ہے، اس لئے کہ تعمیر مسجد کی اشیاء کو بالقصد ناپاک کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، پھر بھی اگر کسی نے ڈھیلا لے لیا پھر وہ خشک ہو چکا تو وہ خشک ہونے کے بعد پاک بھی ہو جائیگا، اسلئے کہ حدیث میں ہے کہ:

عن أبي قلابة قال: جفوف الأرض طهورها. (مصنف عبدالرزاق، قبیل

وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلوة على مكانها. (هدايہ، کتاب الطہارۃ، باب الأنجاس وتطہیرہا، اشرفی دیوبند ۷/۱/۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/رجب ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۲۷۵/۳۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۷/۲۴ھ

پرندوں کی بیٹ کی وجہ سے صحن مسجد کا درخت کا ٹٹنا

سوال: [۸۲۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے صحن میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اسپر پرندے بیٹھ کر مسجد کے فرش پر بیٹھ کرتے ہیں، بیٹ کی وجہ سے فرش پر گندگی ہوتی ہے، اور کوڑا بھی ہوتا ہے، گندگی اور کوڑے کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ اس درخت کو کٹوایا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کہ بزرگوں کی نشانی ہے، اس کو نہ کٹوایا جائے، شرعی حکم سے آگاہ کریں کہ گندگی دور کرنے کیلئے اسکو کٹوایا جائے یا بزرگوں کی نشانی کو باقی رکھا جائے، جواب سے نوازیں؟

المستفتی: عبدالقدیر محلہ اصلت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر پرندوں سے ماکول اللحم کبوتر گوریا وغیرہ پرندے مراد ہیں، تو ان کی بیٹ پلید نہیں ہے، مسجد ناپاک نہیں ہوگی۔

كما في الدر المختار مع الشامى، خراء كل طير (إلى قوله) فإن مأكولا

فطاهرٌ وفي الشامية كحمام وعصفور الخ. (شامی، کتاب الطہارۃ، باب الأنجاس،

مبحث فی بول الفارۃ وبعرھا الخ، کراچی ۱/۳۲۰، زکریا ۵۲۵، کوئٹہ ۱/۲۱۳)

وذرق مایئو کل لحمہ من الطیر طاہر عندنا مثل الحمام والعصافیر .

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۶۶، جدید ۱/۱۰۱)

اور اگر غیر ماکول اللحم پرندہ مثلاً کواچیل وغیرہ مراد ہیں، تو ان کی بیٹ شرعاً ناپاک ہے، درخت کو اس صورت میں کاٹ کر مسجد کو پاک و صاف رکھنا لازم ہے۔

كما في الدر المختار وإلا فمخفف وفي الشامية أي وإلا يكن مأكولاً كالصقر والبازي والحدأة فهو نجس مخفف عنده مغلظ عندهما الخ.
(شامی، کوئٹہ ۱/۲۱۳، کراچی ۱/۳۲۰، زکریا ۱/۵۲۵)

اگر دونوں قسم کے پرندے ہیں، تو بھی درخت کاٹ دیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ رمضان المبارک ۱۴۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳۲۳)

مسجد میں اگلدان رکھنا اور اس میں تھوکننا

سوال: [۸۳۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امام و مصلیوں کو منہ میں تمباکو رکھ کر مسجد میں بیٹھنا اور محراب کے اندر رکھے ہوئے ڈبہ میں تھوکننا کیسا ہے؟ جواب دیں؟

المستفتی: نعمانی نیوڈیلکس واچ، سروس کوئی روڈ، کٹنگل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شریعت ضرورت نہ ہو تو مسجد کے اندر اگلدان

رکھنا اور اس میں تھوکننا جائز نہیں ہے!

حرمة المسجد (إلى قوله) والثاني عشر أن لا يبرز فيه الخ.

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الکراہیة، الباب الخامس فی آداب المسجد زکریا

قدیم ۵/۳۲۱، جدید ۵/۳۷۲)

لأن تنزيه المسجد من القذر واجب. (حلبی کبیر، فصل فی أحكام

المسجد، اشرفیہ دیوبند/۶۱۲)

نیز اگر تمباکو کی بدبو پھرتا ہو تو اسکو منہ میں رکھ کر مسجد میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ رشیدیہ قدیم ۲/۱۴۲، جدید زکریا/۵۵۰)

قلت: في فهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالثمن،
فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادى في هديته إلحاقاً له بالثمن والبصل
بالأولى. (الدر مع الرد، كتاب الأشربة، كراچی ۶/۴۶۰، زکریا ۱۰/۴۴، حاشیة
الطحطاوی علی المراقی، دارالکتاب دیوبند/۶۶۵)

نیز تمباکو کو منہ میں لیکر تلاوت کرنا قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اسلئے مکروہ ہے۔
والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم
كتاب الله تعالى الخ. (شامی، قبیل کتاب العید، کراچی ۶/۴۶۱، زکریا ۱۰/۴۴)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۱۰/۲۴)

مسجد کے دیوار پر پوسٹر لگانا

سوال: [۸۳۰۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجدوں
کی دیوار پر تصویر والے پوسٹر وغیرہ چسپاں کرنا کیسا ہے؟ کوئی گناہ یا خلاف شرع غلط طریقہ
تو نہیں ہے؟ تسلی بخش جواب دیں کرم ہوگا؟

المستفتی: احقر محمد اسلم مسجد ملا قاسم، لال مسجد، روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجدوں کی دیواروں پر جاندار کی تصویروں والے

پوسٹر چسپاں کرنا جائز نہیں ہے، البتہ غیر ذی روح کی تصویر والے پوسٹر ہوں جیسا کہ لال قلعہ کی تصویر تاج محل کی تصویر کسی مشہور پیڑ کی تصویر وغیرہ تو ایسے پوسٹروں کو بھی مسجد کی کچھلی دیواروں یا دائیں بائیں دیواروں پر چسپاں کرنا چاہئے۔

وَأَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بَحْدَائِهِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ مَحَلَّ سَجُودِهِ تَمَثَّالٌ أَيْ مَرْسُومٌ فِي جِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَوْضُوعٌ أَوْ مَعْلُوقٌ . (شامی، زکریا ۲/۴۱۷، حلبی کبیر، فصل کراہیۃ الصلوٰۃ، اشرفیہ دیوبند/۳۵۹)

أَوْ لَغَيْرِ ذِي رُوحٍ لَا يَكْرَهُ لِأَنَّهَا لَا تَعْبُدُ . (درمختار مع الشامی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا، مطلب إذا تردد الحکم بین سنة وبدعة الخ۔ کراچی ۱/۶۴۹، زکریا ۲/۴۱۸)

وَأَمَّا صُورَةُ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ كِرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ إِلَيْهَا . (حلبی کبیر، فصل فی کراہیۃ الصلوٰۃ، اشرفیہ دیوبند/۳۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۹۲۰۵/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۳/۱۴۲۸ھ

مسجد کے دالان میں آئینہ نصب کرنا

سوال: [۸۳۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کے دالان میں دستون ہیں، اور دونوں ستونوں پر دو بڑے بڑے آئینہ نصب ہیں جن میں لوگ وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے دیکھتے ہیں، اور کبھی نماز کے اوقات کے علاوہ کچھ لوگ وضو کرنے کے چہرہ دانت بھی دیکھتے ہیں اور کنگھا بھی کرتے ہیں، تو مسجد میں اس طرح کا آئینہ لگانا کیسا ہے؟ اور لوگوں کا یہ فعل کیسا ہے؟

المستفتی: عبدالجبار، جامع مسجد، مین روڈ، ہندو پور، امت پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز کی روح خشوع و خضوع ہے، یہ روحانیت خدا کی طرف سے دلی توجہ ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے، لہذا مسجد کے ستون میں آئینہ نصب کرنا جبکہ وہ نمازی کے سامنے ہونماز میں خلل کا باعث ہوگا، لہذا اس سے احتراز لازم ہے، اور لوگوں کا چہرے اور دانت دیکھنے کا عمل درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۲۸۲، جدید ڈائجیل ۶/۶۷۷، رجیمیہ قدیم ۱۰/۲۳۲، جدیدزکریا ۹/۷۷)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے دروازہ پر خوبصورت پردہ دیکھ کر فرمایا کہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں میری توجہ کو مبذول کرانی ہیں۔
عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لاتزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
(صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب كراهية الصلوة فى التصاوير ۲/۸۸۱، رقم: ۵۷۲۵، ف: ۵۹۵۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۲۰/۵/۱۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۱۶۲۳۴)

مسجد کی تعمیر کے درمیان اس میں چپل پہن کر چلنا

سوال: [۸۳۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، تو تعمیر کی وجہ سے مسجد کے صحن میں سیمنٹ بجر فٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پیروں کے گندے ہونے کے اندریشہ کی وجہ سے مسجد کے صحن میں چپل پہن کر چل سکتے ہیں یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چپلوں پر ناپاکی نہ لگی ہو تو مسئلہ صورت میں چپل

پہن کر مسجد کے صحن میں چلنا جائز ہے، بشرطیکہ اس جگہ پر نماز نہ ہوتی ہو۔ (مستفاد: کفایت المفتی زکریا ۳/۲۱۲، جدید زکریا مطول ۱۰/۳۶۲، ۳۶۳)

عن عصمة قال نظر رسول الله ﷺ إلى رجل يمشي في نعليه بين المقابر فقال يا صاحب السبتيه اخلع نعليك . (مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۶۱)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. (سورہ طہ: آیت/۱۲)

قلت لكن إذا خشى تلويث فرش المسجد بها ، ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصافي زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا ولعل ذلك محمل مافي عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. (فتح الملهم ، باب جواز الصلوة في النعلين، اشرفيه ديوبند ۲/۱۴۷، شامی، باب ما يفسد الصلوة، مطلب في أحكام المسجد کراچی ۱/۶۵۷، زکریا ۲/۴۲۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۵۲۳۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۴۶۰/۴۰)

حدود مسجد میں مستزى و مزدور کا حقہ بیڑی پینا

سوال: [۸۳۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حدود

مسجد میں راج اور مزدور حقہ بیڑی پیتے ہیں، منع کرنے پر یہ جواب دیتے ہیں، کہ کام کر نیوالوں کیلئے حقہ بیڑی پینا درست ہے، کیونکہ بیڑی یا حقہ مسجد کے باہر پینے کیلئے جائیں گے تو کام میں حرج ہوگا، تو کیا ان راج اور مزدوروں کے لئے حدود مسجد میں حقہ بیڑی پینا درست اور جائز ہے یا خلاف شرع امر ہے؟ جواب دیں۔

المستفتی: عبدالواحد، مدرسہ کاشف العلوم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کی ترمیم کے وقت مزدوروں کا مسجد کے حدود میں بیڑی حقہ وغیرہ پینا ہرگز جائز نہیں ہے، جب تک حدود مسجد میں کام کیا جائے، اس وقت تک حقہ بیڑی بند کر دینا لازم ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۱/۲۶۹)

قلت: في فهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالثمن، وقد كرهه شيخنا العمادى في هديته إلحاقاً له بالثمن والبصل بالاولى. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الأشربة، كراچى ۶/۴۶۰، زكريا ۱۰/۴۴،

حاشية الطحطاوى على المراقى، دارالكتاب ديوبند/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

کیر شعبان ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۵۵۵)

منبر پر جا کٹ، کوٹ یا دودھ کا ڈبہ رکھنا

سوال: [۸۳۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض لوگ سردیوں میں جا کٹ، کوٹ، چادر وغیرہ اتار کر منبر پر ہی رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ فجر کی نماز کے وقت دودھ کا ڈبہ ساتھ لاتے ہیں، اور منبر پر ہی رکھ دیتے ہیں، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ منبر پر کوئی سامان یا کپڑا وغیرہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو بیٹھ کر تقریر کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں، سبھی جزئیوں کا جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، چوبان بانگر، نیولیم پور، دہلی ۵۳

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر جا کٹ چادر کوٹ نیز دودھ کا ڈبہ وغیرہ منبر پر

رکھنے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نمازیوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے، تو قابل ترک ہے۔

بقی فی المکروہات اشیاء آخر..... منها الصلاة بحضرة ما
یشغل البال ویخل بالخشوع کزینة ولهو ولعب . (شامی ، باب ما یفسد
الصلوة ، مطلب فی بیان السنة والمستحب والمندوب والمکروه الخ ، کراچی
۱/ ۶۵۴ ، زکریا ۲/ ۴۲۵ ، البحر الرائق ، کوئٹہ ۲/ ۱۴ ، زکریا ۲/ ۲۵ ، نورالایضاح ،
امدادیہ دیوبند / ۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۲/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶/ بیج الثانی ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۵۶۹/۳۵)

مسجد کے صحن میں چار پائی لگا کر بیٹھنا

سوال: [۸۳۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری مسجد میں جو صحن ہے اور اس کا وہ حصہ جو ذمہ داران مسجد کی طرف سے اجتماعی طور پر طے شدہ ہے کہ وہ حدود مسجد میں داخل ہے، اس حدود مسجد والے صحن میں کچھ احباب ایک پلنگ پر بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھتے بھی ہیں، اور آرام بھی کرتے ہیں، اکثر احباب کوشکایت ہے کہ ایسا عمل کرنا قطعی طور پر غلط ہے اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے جبکہ مسجد میں اسی صحن سے لگا ہوا دوسرا حصہ صحن کا حدود مسجد سے باہر ہے، اور اس میں جگہ بھی ہے، پھر بھی وہ لوگ مسجد کے حصہ میں ہی پلنگ بچھا کر بیٹھنے کا یا آرام کرنے کا عمل کرتے ہیں، باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ اس سے متعلق مسئلہ معلوم کیا جائے، تو گزارش ہے آپ اس سے متعلق جواب مرحمت فرمائیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ مفصل جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد اسحاق، بے پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حدود مسجد کے اندر ذکر و اذکار کے علاوہ دنیاوی گفتگو کرنا اور چارپائی یا بغیر چارپائی مقامی لوگوں کا بیٹھ کر باتیں کرنا اور آرام کرنا سب ناجائز اور ممنوع ہے، اس سے احتراز لازم ہے، چارپائی وہاں سے فوراً نکال دینا چاہئے۔

بکراهة الحديث أى كلام الناس فى المسجد لكن قيده بأن يحبس لأجله والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات الخ. (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، فصل فى كره استقبال القبلة كوئنه ۲/۳۶، زكريا ۲/۶۳) والكلام المباح وقيده فى الظهيرية بأن يجلس لأجله وتحتة فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق، لأن المسجد مابني لأموال الدنيا. (شامى، مطلب فى الغرس فى المسجد، كراچى ۱/۶۶۲، زكريا ۲/۴۳۶، هنديه زكريا قديم ۵/۳۲۱، جديد ۵/۳۷۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۵/۵/۱۴۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵/جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۲۸/۵۷)

بچوں کے پاجامہ کی تری سے کیا صف ناپاک ہو جاتی ہے؟

سوال: [۸۳۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں صف کو کوئی بچہ اپنے کپڑوں میں پاخانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے، حالانکہ پاخانہ خشک نہیں ہے، صف گندگی کی وجہ سے سے گیلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو اور لکھیاں ہوتی ہیں، جبکہ امام صاحب مسجد کہتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں طہارت کے پانی کی وجہ سے پاجامہ گیلا تھا، اس لئے صف ناپاک نہیں ہوئی، کہنے والے کو جھٹلاتے ہیں؟

المستفتی: سید وارث علی، محلہ قاضیان، ہسپورہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں سائل اور امام کے درمیان

جو مناقشہ پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کون صحیح ہے اور کون غلط، فیصلہ کرنا مشکل ہے، اور مسائل کی بات سمجھ سے بالاتر ہے، اس لئے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے، کہ بچہ نے مسجد میں پاخانہ کیا ہو، اور اسی پاخانہ کے ساتھ اس کو مسجد میں بٹھائے رکھے چہ جائیکہ امام ایسا کرے، ایسا کرنا کسی مسلمان سے متوقع نہیں، اور اگر بچے حدود مسجد سے باہر استنجاء خانہ میں استنجاء و پیشاب کر کے مسجد میں آئے ہیں، اور استنجاء کرنے کے بعد اس کی تری بچوں کے پاجامہ یا کپڑوں میں لگی ہوئی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ امام صاحب کے قول سے واضح ہوتا ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے مسجد میں بیٹھنے کیلئے الگ سے کوئی دری یا ٹاٹ وغیرہ بچھا دینا چاہئے، اور بچے اسی پر بیٹھ کر پڑھا کریں، اور پڑھائی کے بعد اٹھا کر رکھ دیا جائے، اگر مذکورہ مسجد میں ایسا ہی کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود معترض اعتراض کر رہا ہے، تو اس کا اعتراض غلط ہے، اور امام صاحب پر کوئی گناہ نہیں۔

قول الشارح وإلا فيكره أي حيث لم يبالوا بمراعاة حق المسجد من مسح نخامة أو تفل في المسجد، وإلا فإذا كانوا مميزين ويعظمون المساجد بتعلم من وليهم فلا كراهة في دخولهم ۵۱ سندي. (تقريرات رافعي مع الشامى، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، كراچى ۸۶/۱، زكريا

۸۶/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳۲۷/۶/۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۰۲۷/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۷/۶/۲ھ

ناپاک کپڑا بیگ وغیرہ میں رکھ کر مسجد میں رکھنا

سوال: [۸۳۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اکثر میرا تین دن کی جماعت میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اگر اس دوران غسل کی حاجت ہو جاتی ہے، تو فوراً غسل کر لیتا ہوں، لیکن ناپاک کپڑے کو دھونے میں پریشانی ہوتی ہے، کیا اس

ناپاک کپڑے کو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر چمڑے کے کپڑے کے بیگ میں رکھ کر وہ بیگ مسجد میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: شبلی حبیب، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب آپ فوراً غسل کر لیتے ہیں، تو اسی درمیان کپڑے میں جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اسے بھی دھولیا کریں، اور دھونے کے لئے اگر آپ کے پاس صابن نہیں ہے، تو تین مرتبہ بغیر صابن کے دھولینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور پورا کپڑا دھونا لازم نہیں ہے، صرف جس جگہ ناپاکی ہو یا ناپاکی کا شبہ ہو اسی حصہ کا دھونا کافی ہے اس کے بعد اس کپڑے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

عن عائشةؓ قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه . (بخاری شریف، کتاب الوضوء، باب غسل المنى ومزكه الخ ۱/۳۶، حدیث: ۲۶۹)

عن سليمان بن يسار قال: سئلت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه، بقع الماء . (بخاری شریف ۱/۳۶، حدیث: ۲۳۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۰/۳/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۷۵۰۳۸)

مسجد کا ملبہ ناپاک جگہ میں استعمال کرنا

سوال: [۸۳۰۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد کا ملبہ لکھنوی اینٹ مسجد کے کسی کام کی نہیں متولی مسجد نے اعلان کر دیا کہ جس کا جی چاہے، اٹھالیجائے متولی کا منشا یہ بھی ہوگا کہ اس طرح بلا کسی اجرت کے جگہ کی صفائی ہو جائیگی، لوگوں نے وہ اینٹیں اپنے گھروں میں فرش میں غسل خانہ میں پائخانہ وغیرہ میں لگائیں تو کیا مسجد

کے ملبہ کو متولی کی اجازت اور اعلان سے مفت استعمال کرنا جائز ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کا ملبہ جو مسجد کے کسی کام میں نہ آسکے اس کو ناپاک جگہ میں اور جہاں بے ادبی ہوتی ہو ایسے کام میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، نیز مسجد کا ملبہ اپنے گھر میں متولی کی اجازت سے بھی مفت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۳/۱۶۶، جدید زکریا ۹/۹۵، محمودیہ قدیم ۱/۵۰۴، جدید ڈائجیل ۱۲/۴۹۹)

ولا ترمی برأیة القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد
وكناسته لايلقى فى موضع يخل بالعظيم . (الدر المختار مع الشامى، كتاب
الطهارة، قبيل باب المياہ، كراچى ۱/۱۷۸، زکریا ۲/۳۲۲، ہندیہ، كتاب الكراهية، الباب
الخامس فى آداب المسجد، زکریا قدیم ۵/۳۲۴، جدید ۵/۳۷۵)

ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه (إلى قوله) وإن تعذر
إعادة عينه بيع و صرف ثمنه إلى العماره . (تبیین الحقائق، كتاب الوقف، امدادیہ
ملتان ۳/۳۲۸، زکریا ۴/۲۶۷)

ويصرف إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة وإن
تعذر صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها . (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية
بيروت ۲/۵۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷ھ / ۲۰۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰۳۷۸)

۲۸/ الفصل الثامن والعشرون: مسجد میں بدبودار چیز داخل کرنے کا بیان

مسجد میں مورٹین جلانا

سوال: [۸۳۱۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے مدرسہ کے احاطہ میں مسجد ہے، جنگل کا کنارہ ہے، مسجد میں مچھر بہت لگتے ہیں، کیا کچھوا چھاپ اگر بتی مسجد میں جلا سکتے ہیں؟

المستفتی: محمد اصغر، سدھا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کچھوا چھاپ اگر بتی کی طرح ہے جیسے اگر بتی کی خوشبو ہوتی ہے کچھوا چھاپ کی خوشبو بھی تقریباً اسی طرح ہوتی ہے، اسلئے کچھوا چھاپ جلانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؟

عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: اتخذوا علي أبو ابها المطاهر وجمروها في الجمع . (سنن ابن ماجه، باب ما يكره في المساجد ، النسخة الهندية ۱/ ۵۴، دار السلام رقم: ۷۵۰، المعجم الكبير للطبراني ، دار احياء التراث العربي ۲۲/ ۵۷، رقم: ۱۳۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۹۵۴)

بدن پر مچھر مارنے والی دوائی لگا کر نماز پڑھنا

سوال: [۸۳۱۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نماز پڑھنے کے دوران مکھی اور خاص طور پر ان دنوں میں مچھر بہت کاتے ہیں نمازی کو، تو اس

سلسلہ میں ایک دو نمازیوں نے سوال کیا ہے کہ مچھروں سے بچنے کیلئے اوڈوماس جو دوائی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی دوا لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے نماز میں کوئی کمی اور وضو خراب تو نہ ہوگا؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: اشرف علی، ٹیچر: اسلامیہ
جو نیر ہائی اسکول، قصبہ: شاہ آباد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اوڈوماس وغیرہ کی بدبو بالکل نمایاں ہے جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو نماز میں کراہت آ سکتی ہے، اور اگر بالکل نمایاں نہیں ہے، مشکل سے محسوس ہوتی ہے، تو کراہت نہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔

والذی استعمل دواءً كريهة الرائحة يؤذى الناس بريحة لا يجوز
لهم الخروج إلى المسجد والشهود إلى الجماعة . (بذل المجهود ،
كتاب الأطعمة ، باب في الثوم ، دار البشائر الإسلامية ۱۱ / ۵۵۱ ، تحت رقم الحديث:

۳۸۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲۲۱/۱۸ھ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲۲۱/۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۴۳۸/۳۸)

مساجد میں گیس کی لائٹین جلانے کا حکم

سوال: [۸۳۱۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اس وقت جو گیس کا لائٹین چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر جلانا ممنوع تو نہیں ہے، اگر اس کی پر چھائی نمازی کے آگے یا پیچھے سے پڑتی ہو تو کیا نماز کے اندر کوئی خلل بھی پیدا ہوگا یا نہیں؟ مفصل تحریر فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: قمر الدین طلعت، رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موجودہ زمانہ میں جوگیس لائٹ چل رہی ہے، اس میں ناگوار بدبو نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مسجد میں جلانا بلاکراہت جائز ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۶۹۸، کفایت المفتی ۳/۱۲۷، جدید ذکر یا مطول ۱۰/۳۷۸)

نیز اس کی پرچھائی سے نمازی کی نماز میں کسی قسم کا خلل نہیں ہوتا ہے۔

ولو توجه إلى قنديل أو سراج لم يكره . (ہندیہ، الصلاة، الباب السابع الفصل الثانی فیما یکرہ فی الصلاة وما لایکرہ، زکریا قدیم ۱/۱۰۸، جدید ۱/۱۶۷، قاضیخان، زکریا جدید ۱/۷۵، وعلی ہامش الہندیہ ۱/۱۱۹، البناہ، اشرفیہ دیوبند ۲/۴۵۹، المحیط البرہانی، المجلس العلمی ۷/۵۰۶، رقم: ۹۴۲۳، حاشیہ چلپی، مکتبہ امدادیہ ملتان ۱/۱۶۶، زکریا ۱/۴۱۵، الدر مع الرد، زکریا ۲/۴۲۳، کراچی ۱/۶۵۲، حاشیہ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، دارالکتاب دیوبند/۳۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ شوال المکرم ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۵۷/۲۵)

مسجد کے اندر گیس سلنڈر جلانا

سوال: [۸۳۱۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گیس سلنڈر مسجد کے اندر جلانا جائز ہے یا ناجائز وضاحت کے ساتھ جواب مطلوب ہے؟

المستفتی: سعید الرحمن، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: گیس سلنڈر میں سے چلاتے وقت بہت معمولی سے بدبو نکلتی ہے، اس کے بعد کسی قسم کی بدبو ظاہر نہیں ہوتی اس کا استعمال کرنے والے سب لوگوں کو تجربہ ہوگا، لہذا احتیاطاً مسجد کے باہر جلانے کے بعد جلتے ہوئے سلنڈر کو مسجد میں

رکھنے میں کسی قسم کا مضائقہ نہ ہوگا، حدیث پاک سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔

عن علي، أنه قال: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً. (سنن الترمذی، باب

مآجاء فی الرخصة فی أكل الثوم مطبوخاً، النسخة الهندية ۳/۲، دارالسلام رقم: ۱۸۰۸)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۵۹۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷/۱/۱۸ھ

مساجد میں گیس سلنڈر کا استعمال

سوال: [۸۳۱۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آجکل رسوئی گیس سلنڈر کو عام طور پر مساجد میں روشنی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، کہ جلتے وقت اس میں بو نکلتی ہے تو ایسی صورت میں کیا مسجد کے اندر اس کو استعمال کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: محمد حفیظ الرحمن، قصبہ صمدھن، فرخ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: خارج مسجد مثلاً استنجاء خانہ کے پاس غسل خانہ کے نزدیک اسی طرح جوتے اتارنے کی جگہ اور امام کے یا مؤذن کے حجرے میں گیس کا ہنڈا جلا سکتے ہیں، اسی طرح مسجد میں خارج جگہ اگر ہے تو اسمیں بھی رسوئی گیس کا ہنڈا جلا ناجائز ہے، لیکن صحن مسجد یا دالان مسجد جو حرم کے متصل ہوتا ہے، جس میں دھوپ کی وجہ سے جاڑوں میں اور گرمی یا برسات وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت ہوتی ہے اور جہاں معتکف کے جانے اور بیٹھنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا وہ مسجد کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس میں اور حرم مسجد میں رسوئی گیس کا ہنڈا جلا ناجائز نہیں ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة المنتنة

فلا یقر بن مسجدنا الخ.

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بدبودار درخت لہسن یا پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ جائے کہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ (مظاہر حق ۲/۲۲۹، مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں، اس میں ہر بدبودار چیز داخل ہے، چاہے کھانے کی قسم ہو یا کھانے کی قسم نہ ہو۔ (۲۲۹/۱)

لہذا جب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حلال چیز کو کھا کر آنے میں بدبو کی وجہ سے منع فرمادیا کہ فوراً کھا کر مسجد میں نہ آئے کھانے والا، تو پھر مسجد میں رسوائی گیس کا ہنڈا جلتے وقت آسمیں سے بدبو نکلتی رہتی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے، فتاویٰ رشیدیہ میں حضرت محدث گنگوہیؒ کا فتویٰ مٹی کے تیل جلانے کا مسجد میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور ہر بدبودار چیز کا مسجد میں داخل کرنا ممنوع ہے، (خلاصہ) فتاویٰ رشیدیہ/۴۰۸

لہذا صورت مسئلہ میں گیس ہنڈا مسجد میں جلانا منع ہے، اسی طرح گیس کا چولہا جلانا اور مٹی کے تیل کا اسٹوپ جلانا مسجد میں منع ہے، خارج مسجد حصہ میں جلا سکتے ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: احقر العباد: عبد الحمید نعمانی قاسمی

ادارہ تحقیقات شرعیہ آگرہ

۴ شوال ۱۴۱۵ھ

دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کا جواب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باہر جلانے کے بعد جلنے کی حالت میں مسجد میں رکھنے میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ جلنے کی حالت میں ظاہر اور نمایاں بدبو نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ مٹی کے تیل کا چراغ جلنے کی حالت میں بدبو نمایاں ہوتی ہے۔

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/ ذیقعدہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۲۲۴/۳۱)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: رسوئی گیس لائین میں جلنے کی حالت میں بدبو نہیں ہوتی ہے، اسلئے مسجدوں کی روشنی کیلئے اس کے استعمال میں کوئی علتِ ممانعت نظر نہیں آتی۔
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۱۱/۲۲ھ

مسجد میں مٹی کے تیل سے لائین جلانا

سوال: [۸۳۱۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کتب فتاویٰ میں مذکور ہے کہ مساجد میں مٹی کے تیل کی لائین کو روشنی کیلئے استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن جن مساجد میں بجلی اور موم نہیں ہے، ان میں لائین کو روشنی کیلئے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفصل بیان فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں؟

المستفتی: عبداللہ معلم دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر جلتے ہوئے لائین سے بدبو نہیں آتی ہے، تو اسے باہر جلا کر خوب صاف ستھرا کر کے مسجد کے اندر رکھ دیا جائے، جس سے کسی قسم کی بدبو نہ ہوتی ہو تو اس کی گنجائش ہے، اسلئے کہ علتِ کراہت بدبو کا پھیلنا ہے، اور اگر صاف ستھرا کرنے کے باوجود جلتے ہوئے لائین سے بدبو پھیلتی ہے، تو جلتے ہوئے مٹی کے تیل کا لائین

مسجد میں رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں اور بدبو نہ پھیلنے کی صورت میں بھی بہتر شکل یہ ہے کہ لائین کو حدود مسجد سے باہر رکھ دیا جائے، اور آجکل کے زمانہ میں جوگیس کے لائین آرہے ہیں، اسے احتیاط سے جلایا جائے تو اس سے بدبو نہیں پھیلتی اور حدیث شریف میں کراہت کی جو علت بیان کی گئی ہے، وہ بدبو کا پھیلنا ہے جو یہاں مفقود ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۳۶۰، ۱۰/۱۷۳، جدید ڈائجیل ۱۵/۲۳۸)

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه، قال أول مرة: الثوم، ثم قال: الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا. (ترمذی شریف، باب ماجاء في كراهية أكل الثوم والبصل، النسخة الهندية ۲/۳، دارالسلام رقم: ۶/۱۸۰)

وفي هامشه قال محمد إنما كره ذلك لريحه فإذا أمته طبخا فلا بأس به وهو قول أبي حنيفة[ؒ] والعمامة أي من العلماء حاشية ۲. (ترمذی شریف ۲/۳)
الأول فيماتصان عنه المساجد يجب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. (حلی کبیر، سهیل اکیڈمی، لاہور/۶۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۲۳۵/۳۵)

مسجد میں گھی کا چراغ جلانا

سوال: [۸۳۱۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد میں

گھی کا چراغ جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تفصیل کیساتھ جواب تحریر فرمائیں؟

المستفتی: حافظ دانشاد احمد، مدرسہ مظہر العلوم، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد میں گھی کے چراغ جلانے میں کوئی قباحت

نہیں، اسلئے کہ اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوتی ہے۔

عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا

على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجه، باب مايكره في

المساجد، النسخة الهندية ۱/ ۵۴، دارالسلام رقم: ۷۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۱۱/۲۱ھ

۱۴۱۵/۱۱/۲۱ھ

(الف فٹوی نمبر: ۳۲۲۵/۳۱)

مسجد کے اندر اگر بتی جلانے کا حکم

سوال: [۸۳۱۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ الحمد للہ

خدا کے فضل و کرم سے ہم یہاں دینی کام انجام دے رہے ہیں، درج ذیل مسئلہ بتادیں؟ کیا

مسجد کے اندر ہم اگر بتی جلا سکتے ہیں، خصوصاً نماز کے وقت؟

المستفتی: محمد فیروز عالم، جلاگڑ، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، اور خوشبودار

رکھنا بھی بہتر ہے، مگر اگر بتی ہی کے ذریعہ سے خوشبودار بنانے کی ضرورت نہیں لو بان کے

ذریعہ یا عطر چھڑکنے کے ذریعہ سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، بسا اوقات اگر بتی کی راکھ مسجد میں

گرنے سے گندگی پھیلتی ہے، اور بعض اگر بتی ناپاک چیز سے بنائی جاتی ہے، لہذا اگر بتی کے

بجائے کسی دوسری چیز سے خوشبو کی جائے تو بہتر ہے، ہاں اگر کبھی کبھی خوشبو کیلئے پاک اگر بتی

جلالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نماز کے وقت میں التزام کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ

نماز کے وقت اگر بتی جلانے کی وجہ سے اس کے دھوئیں سے نمازیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔
 عن وائلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا
 على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع. (سنن ابن ماجه، باب ما يكره في
 المساجد، النسخة الهندية ۱/۵۴، دار السلام رقم: ۷۵۰، المعجم الكبير للطبراني،
 دار احياء التراث العربي ۲۲/۵۷، رقم: ۱۳۶)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من أخرج أذى من
 المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. (سنن ابن ماجه، باب تطهير المساجد وتطبيها،
 النسخة الهندية ۱/۵۵، دار السلام رقم: ۷۵۷)

عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بالمساجد أن تبنى في الدور، وأن
 تطهر وتطيب. (سنن ابن ماجه، باب تطهير المساجد وتطبيها، النسخة الهندية
 ۱/۵۵، دار السلام رقم: ۷۵۸) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۱/۴/۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۶۵۷۴/۳۵)

بدبودار پینٹ کا مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟

سوال: [۸۳۱۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)
 بندہ پینٹ کا کام کرتا ہے، مسجد و مدرسہ اور دیگر مکانات کے دروازے پر پینٹ کا کام کرتا ہوں،
 مسجد میں مٹی کا تیل اور دیگر بدبو جو اس کے ساتھ لاحق ہے، پھیل جاتی ہے، زید کہتا ہے، کہ
 مسجد وغیرہ کے دروازے پر پینٹ چڑھانا درست نہیں ہے، بلکہ رکھا کر پینٹ چڑھانا
 چاہئے، کیا از روئے شرع زید کا کلام صحیح ہے، مطلع فرمائیں کرم ہوگا؟

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ جس برش سے پینٹ کیا جاتا ہے، وہ برش خنزیر کے بالوں
 سے بنا ہوتا ہے کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے، جبکہ مسجد وغیرہ میں بھی وہی کام میں لانا پڑتا ہے

مفصل تحریر فرمائیں کرم ہوگا؟

المستفتی: محمد انوار، پیٹ والے

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) ہر بدبودار چیز کو مسجد میں داخل کرنا شرعاً ناجائز ہے، لہذا اگر پیٹ میں بدبو ہوتی ہے، تو مسجد میں اسکا استعمال جائز نہیں ہوگا، حدیث شریف میں بدبودار چیزوں کو کھا کر بھی مسجد میں داخل ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔

عن جابر قال: قال رسول اللہ ﷺ: من أكل هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب من مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. (صحیح مسلم المساجد، باب النهی من أكل ثوماً، النسخة الهندیہ ۱/۲۰۹، صحیح البخاری، النسخة الهندیة ۱/۱۱۸، رقم: ۸۴۶، ف: ۸۵۴)

ویلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة ما كولا أو غيره وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة الخ. (اعلاء السنن، أبو اب أحكام المساجد، باب كراهة الدخول من أكل الثوم والبصل، كراچی ۵/۱۳۷، دارالکتب العلمیة بیروت ۵/۱۸۷، الدر مع الرد، زکریا ۲/۴۳۵، کراچی ۱/۶۶۱)

(۲) خنزیر کا بال نجس العین ہے اس کا برش مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
وَأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزائه نجسة الخ. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، زکریا ۱/۱۹۱، کوئٹہ ۱/۱۰۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵/۱۳۸۳)

مسجد میں تمباکو استعمال کرنا

سوال: [۸۳۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تمباکو مسجد میں استعمال کرنا آداب مسجد کے خلاف ہے یا نہیں؟

المستفتی: ایچ کے نعمانی، نیوڈیلکس واپچ، سر و سکونٹی روڈ کٹنگل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تمباکو مسجد میں استعمال کرنا بدبو کی وجہ سے آداب مسجد کے خلاف اور مکروہ ہے۔

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالنتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادى فى هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى. (الدر المختار مع الشامى، كتاب الأشربة، كراچى ۶/۴۶۰، زكريا ۱۰/۴۴، حاشية الطحطاوى على المرقى، دار الكتاب ديوبند/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۱۰۷۲۴)

۷/ باب المصلیٰ

عید گاہ کے تحقق کے لئے رجسٹری یا عمارت ضروری ہے یا نہیں؟

سوال: [۸۳۲۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پورنیہ ضلع کے قصبہ سری میں تقریباً دو سو گھر مسلمانوں کی آبادی کے ہیں، ہر دو مسلم برادری کے لوگ رہتے ہیں، ایک لذاف برادری کے لوگ ہیں دوسرے راعن برادری کے لوگ ہیں، یہ دونوں برادری کے لوگ آج سے تقریباً بیس سال قبل سے عید بقر عید کی نماز ایک عید گاہ میں ادا کرتے تھے، جو زمین عبدالعزیز راعینی کی ہے، یہ زمین رجسٹری شدہ نہیں ہے عید گاہ کے نام سے، بلکہ عبدالعزیز کے نام ہے، آج سے چار سال قبل دونوں برادری کے لوگوں نے پنچایت کے طور پر بیٹھ کر عبدالعزیز راعینی سے کہا کہ آپ عید گاہ کے نام زمین کی رجسٹری کر دیجئے تو عبدالعزیز نے رجسٹری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جس کو عید گاہ میں نماز پڑھنی ہو پڑھے اور جس کو نہ پڑھنی ہو نہ پڑھے ہم رجسٹری نہیں کریں گے، لیکن نماز پڑھنے سے بھی نہیں روکیں گے، اس بات پر عبدالعزیز کے چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی گاؤں کے سبھی لوگوں نے ایک نئی عید گاہ قائم کی نئی قائم شدہ عید گاہ بھی آج سے تقریباً پچاس سال قبل ایک غیر مسلم شخص نے اپنے سپاہی محمد عمر کو عید بقر عید کی نماز پڑھنے کے لئے دیا تھا، جس میں محمد عمر اکیلے عید بقر عید کی نماز ادا کرتے تھے، محمد عمر کے انتقال کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے قبرستان بنا دیا، اور جب عبد العزیز راعینی نے رجسٹری کرنے سے انکار کر دیا تو گاؤں والوں نے محمد عمر کی عید گاہ میں اینٹیں گرا کر عید گاہ بنا لیا لیکن یہ کام یعنی عید گاہ بنانا اس حصہ میں ہوا جدھر قبریں نہیں تھیں، اس کو احاطہ میں لیکر درخت کے پودے لگائے لیکن یہ کام قبرستان والی زمین کو احاطہ میں کرنا اس پیسے سے ہوا جو دوسرے قبرستان کی گھاس کی آمدنی تھی، دو تین سال تک

دونوں برادری کے لوگ سوائے عبدالعزیز کے چند رشتہ داروں کے سبھی محمد عمر والی عید گاہ میں عید بقر عید کی نماز ادا کرتے رہے، اس سال دونوں برادریوں میں اختلاف ہو گیا دونوں برادری کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے راہ یعنی برادری عبدالعزیز والی عید گاہ میں نماز ادا کرنے لگے اور کہتے ہیں، کہ یہ دوسری عید گاہ ایک غیر مسلم کی ہے اور اس کو قبرستان کے پیسوں سے بنایا گیا ہے، اسلئے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ادھر لڈاف برادری کے لوگوں کا کہنا ہے، ہم لوگ عبدالعزیز والی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اسلئے کہ وہ رجسٹری نہیں کر رہا ہے، آپ یہ بتائیں کہ کونسی عید گاہ میں نماز جائز ہے، یا دونوں میں جائز ہے، قبرستان کی آمدنی سے عید گاہ بنانا کیسا ہے؟

المستفتی: محمد الیاس قاسمی، گرام سرسی، پورنیہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عبدالعزیز کو اختیار ہے کہ اپنی ملکیت کی زمین کو عید گاہ کیلئے وقف کرے یا نہ کرے، کسی کو زبردستی کا حق نہیں ہے، اور عید گاہ کی نماز کیلئے باقاعدہ عید گاہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی میدان میں عید کی نماز پڑھی جائیگی، اس سے نماز عید کا مسنون طریقہ ادا ہو جائیگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۶/۵۳۰، جدید ڈابھیل ۱۵/۳۲۲)

نیز محمد عمر والی عید گاہ میں نماز پڑھنے سے بھی مسنون طریقہ ادا ہو جائیگا، اسلئے کہ غیر مسلم کی دی ہوئی زمین میں بھی مسجد یا عید گاہ بنانا شرعی طور پر جائز ہوتا ہے۔

وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي (إلى قوله) ويجوز أن يعطى المساكين المسلمين الخ. (هندية، كتاب الوقف، الباب الاول زكريا قديم ۳۵۲/۲، جدید ۳۴۷/۲، البحر الرائق، زكريا ۳۱۶/۵، كوثه ۱۸۹/۵، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۵۶۸/۶، الدر مع الرد، كراچی ۳۴۱/۴، زكريا ۶/۵۲۴)

نیز قبرستان کو اگر روپیوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی آمدنی کمیٹی اور ذمہ داروں کے مشورہ اور اجازت سے عید گاہ میں لگانا جائز ہے، اس لئے کہ عید گاہ بھی وقف

ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰۵/۳۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۳/۲۹ھ

کیا عید کی نماز درست ہونے کیلئے عید گاہ کی رجسٹری لازم ہے؟

سوال: [۸۳۲۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک

عید گاہ جو عرصہ دراز سے عید کی نماز کیلئے استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہ زمین جس میں عید گاہ بنی ہوئی ہے، گاؤں کے پردھان کی ہے، اب عید گاہ میں لوگ دوپارٹی ہو کر ایک تو یہ کہتی ہے کہ جب تک پردھان صاحب زمین کو عید گاہ کے نام پر رجسٹری نہ کر دیں ہم اس میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا پردھان کے رجسٹری کئے بغیر اس میں عید کی نماز پڑھنی جائز ہے، جبکہ پردھان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھئے لیکن میں رجسٹری نہیں کروں گا؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد حنیف مظاہری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ کیلئے تحریری ثبوت اور رجسٹری لازم اور

ضروری نہیں ہے، البتہ جو زمین عید گاہ کیلئے وقف ہو وہاں نماز افضل ہے، مذکورہ سوال میں چونکہ پردھان کی جانب سے اجازت ہے اسلئے وہاں عید کی نماز پڑھنا درست ہے، مگر وہ زمین عید گاہ کیلئے وقف نہ ہوگی، جب تک پردھان کی طرف سے سرکاری انداز سے عید گاہ کیلئے تحریری دستاویز نہ ہوں اس وقت تک وہ زمین عید گاہ کیلئے وقف نہیں سمجھی جاسکتی۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۶/۵۳۰، جدید ابھیل ۱۵/۳۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم ۱۴۲۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۶۷۷)

گرمی، سردی سے بچاؤ کیلئے عید گاہ کو مسقف بنانا

سوال: [۸۳۲۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عید گاہ ہے جس میں تقریباً پچاس سال سے نماز دو گانہ ہی ادا کی جاتی رہی لیکن اس وقت کچھ مجبوری کے تحت کچھ لوگ اس میں نماز پختگانہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس میں کچھ دور تک ٹین وغیرہ ڈال کر سردی گرمی اور برسات سے بچاؤ کیا جائے، کیا اس طرح آسمین ٹین وغیرہ ڈال کر اس کو مسقف کرنا جائز ہے؟

المستفتی: اشفاق افضل اعظمی، معلم،
جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر نمازیوں کے آرام کے واسطے سردی گرمی اور برسات سے بچاؤ کیلئے عید گاہ کا کچھ حصہ مسجد کی طرح مسقف کر دیا جائے، تو یہ جائز ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۵/۲۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵ھ/۶/۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۲۰۵۰۶۳۱)

آٹھ گاؤں والوں کا مل کر ایک عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں کے پاس سات آٹھ گاؤں بہت ہی قریب قریب خالص مسلمانوں کے آباد ہیں، ان گاؤں کے رہنے والے نماز عید ادا کرنے کیلئے قصبہ میں جایا کرتے تھے، چار پانچ سال سے حالات خراب ہوئے تمام گاؤں کے رہنے والوں میں مشورہ ہوا کہ حالات خراب ہیں، اگر ہم لوگ قصبہ میں نماز ادا کرنے جائیں، تو ہمارے بیوی بچے گھر و بار سب

غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گاؤں کے پاس غیر مسلموں کے بھی گاؤں ہیں، آپس میں مشورہ سے آٹھوں گاؤں کے بیچ میں عید گاہ بنائی گئی، جس میں چار پانچ سال سے نماز عید برابر ہو رہی ہے، کافی تعداد نمازیوں کی ہو جاتی ہے، اگر ان سے کہا جاتا ہے، کہ دیہات میں نماز عید واجب نہیں، تو کہتے ہیں کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا کم از کم اس بہانہ سجدہ کر لیتا ہے ہم چند لوگ ابھی اس عید گاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہیں قصبہ میں ہی نماز کیلئے جاتے ہیں، کیا ہم لوگوں کا ایسی عید گاہ میں نماز پڑھنا درست ہے یا جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کیلئے کیا حکم ہے؟

المستفتی: جمال احمد، جوگیا پوری،
مدرسہ جامع مسجد کائنات، بریلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہاں کے لوگوں پر نماز جمعہ اور نماز عید لازم نہیں ہے، اور عید کی نماز صحیح ہونے کی شرط وہاں موجود نہیں ہے، اس لئے وہاں عید کی نماز صحیح نہ ہوگی، اور جو لوگ قصبہ میں جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز عید صحیح ہو جائیگی اور ان کے قصبہ میں جانے اور گاؤں میں نماز عید نہ پڑھنے پر اعتراض کرنے والے غلطی پر ہیں۔

عن علی، قال: لا جمعة، ولا تشریق، ولا صلاة فطر، ولا أضحی، إلا فی مصر جامع، أو مدینة عظيمة. (المصنف لابن أبی شیبہ، الصلاة، من قال لا جمعة ولا تشریق إلا فی مصر جامع، مؤسسہ علوم القرآن ۴/۴۶، رقم: ۵۰۹۹)

تجب صلا تھما فی الأضح علی من تجب علیہ الجمعة بشرائطها .
(درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، زکریا ۳/۴۵، کراچی ۱۶۶/۲، ہندیہ، زکریا جدید ۱/۲۱۱، قدیم ۱/۱۵۰، المبسوط للسرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۳۷، ہدایہ اشرفی ۱/۱۷۲)

صلوٰۃ العید فی القریٰ تکرہ تحریماً الخ. (درمختار کراچی ۱۶۷/۲،
 زکریا ۳/۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۵۴/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۴/۳ھ

ایک بستی میں دو عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک عید گاہ ہے لیکن اب وہ آبادی کے اندر آگئی ہے، اور ناکافی بھی ہوگئی ہے، اس میں عیدین میں پورے آدمی نہیں آ پاتے ہیں، جہاں عید گاہ ہے وہاں بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس عید گاہ سے تقریباً آدھا کلومیٹر سے کچھ کم مغرب کی طرف ایک آراضی چند افراد نے عید گاہ کیلئے وقف کر دی ہے، اور کہا کہ یہاں پر عید گاہ بنالیں اب مسئلہ مذکورہ میں زید کہتا ہے، کہ ایک بستی میں ایک عید گاہ کے علاوہ دوسری عید گاہ بنانا جائز نہیں تو زید کا کہنا درست ہے یا نہیں؟ اور ہم لوگ عید گاہ دوسری جگہ بنالیں یا نہیں؟ ازراہ شرع مدلل جواب سے نوازیں؟

المستفتی: قاری ابرار احمد، امام و خطیب:

شاہی مسجد، ضلع: ہردوئی، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ کا آبادی سے باہر صحراء میں ہونا مسنون

ہے، بعض روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی اس فضیلت کو چھوڑ کر آبادی سے باہر صحراء اور جنگل میں جا کر عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اسلئے جو عید گاہ آبادی کے اندر آگئی ہے اس کو مسجد یا مدرسہ کے کام میں لا کر اس کے بدلہ میں آبادی سے باہر نئی عید گاہ

بنالیناسنن نبوی کے عین مطابق ہے۔

عن ابی سعید الخدریؓ قال: کان رسول اللہ ﷺ ینزل فی یوم الفطر والأضحیٰ إلى المصلیٰ . (صحیح البخاری ، کتاب العیدین ، باب الخروج إلى المصلیٰ بغیر منبر، النسخة الهندیة ۱/۳۱، رقم: ۹۴۶، ف: ۹۵۶)

السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد وقال الشافعیؒ فی الأم بلغنا أن رسول الله كان يخرج فی العیدین إلى المصلیٰ بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه الخ. (عمدة القاری شرح بخاری، دار احیاء التراث العربی ۶/۲۸۱، زکریا ۵/۱۷۱، تحت رقم الحدیث: ۹۵۶، الأم ، کتاب صلاة العیدین الخروج إلى الأعیاد، بیت الافکار الدولیة مکمل ۴/۱۷۴، رقم: ۴۶۱) نیز چھوٹی بستی میں ایک ہی عید گاہ ہونا چاہئے جو آبادی سے باہر ہو، اور بڑے شہروں میں ہر چہار جانب متعدد عید گاہ ہونے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ بہتر ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل/۳۵)

وتجوز إقامة صلاة العيد فی موضعین ، وأما إقامتها فی ثلاثة مواضع فعند محمدؒ تجوز . (ہندیہ ، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین ، زکریا جدید ۱/۲۱۱، قدیم ۱/۱۵۰)

وأما صلاة العيد فی موضعین وأكثر منهما فجائز إجماعاً . (حاشیہ چلبی ، مکتبہ امدادیہ ملتان ۱/۲۱۹، زکریا ۱/۵۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:
۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۷۵۳)

پہلی عید گاہ کو فروخت کر کے اس کی رقم دوسری عید گاہ میں لگانا

سوال: [۸۳۲۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عید گاہ ہے اور وہ آبادی کے اعتبار سے آج کے دور میں بہت تنگ ہو چکی ہے، لہذا گاؤں

والوں نے کشادگی چاہتے ہوئے دوسری جگہ عید گاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ گرام سماج کی جگہ کھلیان ہے، اور وہ کافی کشادہ جگہ ہے، اس لئے گاؤں والوں نے اس زمین میں عید گاہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور تمام لوگ پرانی عید گاہ بیچنا چاہتے ہیں، اور اس کی قیمت نئی عید گاہ میں لگانا چاہتے ہیں، تو کیا عید گاہ بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس صورت میں؟ اور اگر بیچنا جائز نہیں ہے، تب کس صورت میں حضرت والا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ مندرجہ بالا مسئلہ کو مدلل اور مفصل طریقہ سے نقل فرما کر مشکور فرمائیں؟

المستفتی: محمد عتیق الرحمن، مکر وہ، تھانہ شہزادنگر، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عید کی نماز آبادی سے باہر صحراء اور جنگلوں میں جا کر پڑھنا مسنون ہے، اسی کو الخروج الی الجبائتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت سید الکوینین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مسجد میں ایک نماز کا پڑھنا ۵۰۰۰۰ ہزار نمازوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر صحراء اور میدانوں میں جا کر عید کی نماز ادا فرماتے تھے، اس وجہ سے عید گاہ ہمیشہ آبادی سے باہر کچھ فاصلہ پر ہونی چاہئے، لہذا جو عید گاہ آبادی کے اندر آ جائے اور آبادی بھی دلی بمبئی کی طرح بہت بڑی نہیں ہے، بلکہ اس آبادی سے باہر مسنون طریقہ سے عید کی نماز پڑھنے کیلئے دوسری عید گاہ بنانا ممکن ہے اور مسلمانوں کا عید کے دن وہاں پہنچ جانا ممکن ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آبادی سے باہر دوسری عید گاہ بنا لینا مسنون ہوگا اور آبادی کے اندر عید گاہ کا حکم وہی ہے جو آبادی کے اندر مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کا ہے، اب اس تفصیل کے بعد سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیے جو عید گاہ آبادی کے اندر آ گئی ہے، اور موقوفہ ہے اس کو عام لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا درست نہیں ہے، ہاں البتہ اس میں دو کام ہو سکتے ہیں۔

(۱) سب مسلمان مل کر اس میں دینی مدرسہ قائم کر دیں اور اس کا وقف بحالہ باقی

رہے اسی طرح کسی دینی مدرسہ کے ہاتھ اسے فروخت کر دیں اور اہل مدرسہ اس میں مدرسہ ہی

کا کام لیں گے، اور اس کا پیسہ دوسری عید گاہ میں خرچ کر دیا جائے دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں مسجد تعمیر کر دی جائے، تو یہ بھی جائز ہے، اسلئے کہ مسجد بھی وقف ہی ہوتی ہے، اور آبادی کے لوگ دوسری عید گاہ کیلئے آپس میں دوبارہ پیسہ وصول کر لیں، اور سب مل کر آبادی سے باہر دوسری عید گاہ بنائیں اور مسجد و مدرسہ قائم کرنا اسلئے جائز ہے، کہ جس طرح عید گاہ وقف ہے اسی طرح مسجد اور مدرسہ بھی وقف ہے۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القاری ، الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة یتخذ مکانها مساجد ، دار احیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹ ، زکریا ۳/ ۴۳۵ ، تحت رقم الحدیث : ۴۲۸ ، فتح الملهم ، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/ ۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۲/۱۴۲۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۲۵۲۳۷)

ایک عید گاہ سے متعلق چند سوالات

سوال: [۸۳۲۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موضع پارس منیٰ ایک بڑی بستی ہے جہاں مسلم و غیر مسلم کی بڑی آبادی ہے، ایک خاندان کی مشترکہ زمین میں ایک نامعلوم زمانے سے عید گاہ قائم ہے، زمین کے بٹوارہ اور آپس میں تقسیم ہونے پر عید گاہ والی زمین اتفاق سے ایک غریب کے حصہ میں آئی جس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی زمین نہیں تھی، خود وہ غریب بھی چاہتے تھے، کہ عید گاہ والی

زمین مجھ غریب کے حصہ میں اگر آئے تو میری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہوگی، مرضی خداوندی ایسے ہی ہوئی لیکن کچھ آدمیوں کو یہ اعتراض ہوا کہ گاؤں کے اندر مالدار زمین دار ہوتے ہوئے ایک غریب آدمی کی زمین پر عید گاہ اور وہ زمین بھی ناکافی ہے، تو ایسی عید گاہ میں نماز پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے، لہذا ایک صاحب ثروت نے عید گاہ اور مدرسہ کیلئے تقریباً ایک ایکڑ زمین رجسٹرڈ کر دی اور ۱۹۸۶ء کی عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کیلئے نئی عید گاہ کی زمین میں نماز کا اعلان کر دیا گیا کچھ آدمیوں کو اپنی نماز کی صحت و عدم صحت کی فکر ہوئی تو مختلف جگہوں سے فتویٰ منگائے گئے تو ہر ایک کا جواب یہی تھا، کہ پرانی عید گاہ میں نماز پڑھنے والوں کی نماز صحیح ہوگی اور نئی عید گاہ میں نماز پڑھنے والے اپنی نماز کی خیر منائیں، ان فتوؤں کے تحت پرانی عید گاہ میں بقر عید ۱۹۸۶ء کی نماز بدستور پرانے امام کی اقتداء میں جو جامع مسجد کے بھی امام ہیں ہوئی عید گاہ میں ابھی تک ۸۶ء سے عید و بقر عید کی نماز ہوتی چلی آرہی ہے، الغرض دونوں جگہوں پر نماز ہو رہی ہے، ادھر مذکورہ غریب لوگوں کے اعتراضات (جگہ بھی ناکافی ہے) کو دور کرنے کیلئے ۸۶ء کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر ہی اس حصہ کی کچھ باقی بچی زمین بھی اس کے سمیت عید گاہ کیلئے رجسٹرڈ کرادی لیکن جھکاؤ و میلان زیادہ تر لوگوں کا صاحب ثروت کیساتھ ہی رہا، تقریباً ۴۰ فیصد پرانی عید گاہ اور ۶۰ فیصد نئی عید گاہ میں نمازی ہوتے ہیں، نیز عید گاہ کی بقیہ زمین پر ۸۷ء ہی میں مدرسہ کلیمہ کے نام جو پٹنہ بورڈ سے ملحق ہے، لیکن مدرسین بل منظور نہ ہونے کی وجہ سے عوام یا مدرسین کا کوئی لگاؤ مدرسہ سے نہیں رہا، اس صورت مذکورہ کو دیکھ کر اور گاؤں کی ضلالت و جہالت دیکھ کر احقر نے احساس کیا کہ اتنے بڑے گاؤں میں حکومت کی امداد سے آزاد ہو کر باضابطہ محض اکابر کے طرز پر تعلیم ہونی ضروری ہے، مذکورہ مدرسہ ملحق ہونے کی وجہ سے اکابر کے طرز اور درس نظامی کی حیثیت سے چلانا دشوار تھا، اسلئے مذکورہ غریب کی مذکورہ زمین جو رجسٹرڈ کے ساتھ بڑھائی گئی تھی، ۴۰ فیصد نمازی کی وجہ سے پہلی زمین ہی کافی اور بہت ہے چنانچہ پرانی عید گاہ کے

نمازیوں کے باہم مشوروں سے اس پرانی عید گاہ کے بعد میں بڑھائے جانے والے حصہ میں ایک مدرسہ درس نظامی کا ۹۶۶ء میں افتتاح کیا گیا تاکہ جہالت و تاریکی دور ہو اور قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہو گاؤں کے ایسے آدمی جو نئی عید گاہ سے متعلق ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہ عید گاہ کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا غلط ہے، مذکورہ صورت حال کے پیش نظر حسب ذیل سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ دیکر عند الناس مشکور اور عند اللہ ماجور ہوں؟

- (۱) عید گاہ کیلئے زمین کا رجسٹر ڈھونا ضروری ہے یا نہیں؟
- (۲) غریب و امیر کی زمین میں مسجد و عید گاہ کیلئے کون سی زمین بہتر ہے، دونوں کے خلوص و ولہیت کے ساتھ؟
- (۳) پہلی عید گاہ کے ہوتے ہوئے دوسری عید گاہ کا بنانا یا دوسری نئی عید گاہ میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یا نئی عید گاہ قائم کرنے کیلئے کیا شرائط ہیں؟
- (۴) قرآن و حدیث کے مدلل مسائل پر عمل نہ کرنا کیسا ہے؟
- (۵) ایک گاؤں میں دو عید گاہ دونوں میں عوام و خواص یعنی عالم و غیر عالم دونوں شریک ہیں، دونوں عید گاہ ہوں میں نماز پڑھنے والوں کی نماز درست ہوگی یا کسی ایک کی اس کی وضاحت فرمائیں؟
- (۶) پرانی عید گاہ کی وہ زمین جو عیدین کی نماز میں ۶۰ فیصد نمازی نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہوتی ہے، اس پر مدرسہ کا بنانا درست ہے یا نہیں؟
- (۷) عید گاہ یا مسجد کی جگہ میں پڑھنے والے بچوں اور عام آدمی کیلئے غسل خانہ پیشاب خانہ، پاخانہ وغیرہ کا بنانا درست ہے یا نہیں؟
- (۸) عید گاہ پر مسجد کی دوری کی وجہ سے طلباء اور قرب و جوار کے باشندوں کیلئے اذان کے ساتھ پنجوقتہ نماز باجماعت کا ادا کرنا کیسا ہے، نیز دھوپ یا بارش کیلئے چھپر یا سائے کا نظم کرنا کیسا ہے؟

نوٹ: ان تمام سوالوں کے جوابات مفصل عنایت فرمائیں؟

المستفتی: محمدحی الدین، پارس منی، پورنیہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) شرعی طور پر عید گاہ کے عید گاہ ہونے کیلئے رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ کسی کے غلط قبضہ اور غلط تصرف کے خطرہ سے بچنے کیلئے رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے۔

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى، يزول ملكه بمجرد القول . (هدايه ،

كتاب الوقف ، اشرفيه اشرفي ۶۳۷/۲)

(۲) غریب و امیر کی زمین میں سے ہر ایک میں مسجد و عید گاہ بنانا جائز ہے اور جس میں اخلاص اور للہیت زیادہ ہوگی اسی کی زمین میں بنانا زیادہ بہتر ہوگا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . (آل عمران: ۹۲)

(۳) پہلی عید گاہ کے ہوتے ہوئے بلا ضرورت دوسری عید گاہ بنانا مسلمانوں میں

تفرقہ اور انتشار کا باعث ہے، اسلئے دوسری عید گاہ نہ بنانی چاہئے۔

(۴) قرآن و حدیث کے کس مسئلہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس مسئلہ اور عمل کو متعین

فرمادیں، اس کے بعد جواب پر غور ہوگا۔

(۵) بلا ضرورت دوسری عید گاہ بنانا انتشار کی وجہ سے ممنوع ہے لیکن اگر بنانے کے

بعد نماز پڑھ لی جائے، تو نماز درست ہو جائیگی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

(۶) عید گاہ کیلئے پوری زمین وقف کر دی ہے، اور آئندہ چل کر پوری زمین کی عید گاہ

کیلئے ضرورت ہو سکتی ہو تو اس میں مسجد یا مدرسہ بنا کر تنگ نہ کرنا چاہئے، لیکن ضرورت سے

زائد زمین ہے، تو اس کو مسجد یا مدرسہ کیلئے استعمال کی گنجائش ہے۔

(۷) جی نہیں۔

(۸) جی ہاں جائز ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 کلیم مخرم الحرام ۱۴۱۶ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۲/۲۵۸۷)

مسجد کی جگہ عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، جو بہت پہلے زمانے کی ہے، وہ اب اس شکل میں ہے کہ بالکل کھنڈر ہو چکی ہے، اور وہ آبادی سے باہر ہے، اب کوئی اس میں نماز نہیں پڑھتا ہے، اور گاؤں میں ایک دوسری مسجد ہے، جس میں لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس مسجد کی دیواروں کو توڑ کر اس جگہ عید گاہ بنا دی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اینٹیں اس میں بہت ہیں، ان کو بیچ کر کسی مد میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مفصل و مدلل جواب سے نوازیں عنایت ہوگی؟

المستفتی: محمد طاہر، تحصیل سوار، موضع ٹانڈہ کلاں، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگرچہ مسجد کے ارد گرد کی آبادی ختم ہو گئی ہو شرعاً مسجد مسجد ہی رہے گی، اس کو شہید کرنا اور اس کے ملبہ کو اجاڑ کر منتقل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور مذکورہ مسجد قیامت تک کیلئے مسجد ہے، اس کو توڑ کر عید گاہ بنانا جائز نہیں ہوگا، اور تمام مسلمانوں پر اس مسجد کی حفاظت کرنا لازم ہے۔

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام
 والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ. (الدر المختار، الوقف، مطلب
 فيما لو خرب المسجد أو غيره زكريا ۶/۵۴۸، كراچی ۴/۳۵۸، مجمع الأنهر،
 دارالكتب العلمية بيروت ۲/۵۹۵، مصري قديم ۱/۷۴۸، البحر الرائق، كوئٹہ
 ۵/۲۵۱، زكريا ۵/۴۲۰) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۶۵۴/۲۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۲۷ھ

آباد مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانے کا حکم

سوال: [۸۳۲۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرصہ دراز سے عیدین کی نماز ایک مسجد میں پڑھتے تھے، بعد میں مسجد کو شہید کر کے عید گاہ کی شکل دیدی گئی ہے، مسجد کو بزرگوں نے چشم دید دیکھا ہے، نیز سرکاری کاغذات میں بھی مسجد ہی درج ہے، مسجد کا کل رقبہ چار پیسہ ہے، باقی غیر مستعمل قبرستان اور کچھ ایل ایم سی کی زمین یعنی مشترک ہے، پورے گاؤں کے آدمی یعنی سب مسلمان موجودہ عید گاہ میں نہیں آسکتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں دوسری جگہ عید گاہ بنا سکتے ہیں، اگر بنا سکتے ہیں، تو مذکورہ عید گاہ کی حفاظت کی کیا شکل ہوگی، عیدین کی نمازیں عید گاہ میں مندوب و بہتر ہیں، یا مسجد میں اس پر بھی روشنی ڈالیں؟

المستفتی: ڈاکٹر علی، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) آباد مسجد کو توڑ کر عید گاہ یا کسی دوسرے امور میں منتقل کر دینا قطعاً ناجائز ہے، مسجد کی وہ زمین قیامت تک مسجد رہے گی، جنھوں نے ایسا کیا ہے، وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

قال أبو یوسف هو مسجد أبدأ إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه . (البحرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، كوئنه ۲۵۱/۵، زكريا ۴۲۱/۵، شامی، زكريا ۵۴۸/۶، كراچی ۳۵۸/۴،

مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵، مصری قدیم ۱/۷۴۸)

(۲) عیدین کی نماز اس عید گاہ میں پڑھنا سنت اور افضل ہے جو آبادی سے باہر صحراء اور جنگل میں ہے، اور جو عید گاہ آبادی میں داخل ہوگئی اس میں پڑھنا اور جامع مسجد میں پڑھنا دونوں برابر ہے۔

عن علي - رضی اللہ عنہ - قال: الخروج إلى الجبان في العیدین من

السنة. (المعجم الأوسط، دارالفکر ۳/۱۱۶، رقم: ۴۰۴۰)

والخروج إليها أي الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد

الجامع هو الصحيح. (شامی، کتاب الصلوة، باب صلاة العیدین، زکریا ۳/۴۹،

کراچی ۲/۱۶۹، المحيط البرهاني، المجلس العلمي ۲/۴۸۴، رقم: ۲۲۴۱، زاد المعاد

۱/۴۴۱، ہندیہ، زکریا جدید ۱/۲۱۱، قدیم ۱/۱۵۰)

(۳) اگر بڑی عید گاہ کی ضرورت ہے تو سب لوگوں کا متفق ہو کر آبادی سے باہر

عید گاہ کیلئے کوئی جگہ تجویز کر لینا مناسب ہے، اور موجودہ عید گاہ جو پرانی مسجد ہے مسجد کی جگہ

پر مسجد ہی تعمیر کرنا لازم ہے، اور حدود مسجد کے علاوہ بقیہ جگہ میں کوئی دینی مدرسہ قائم کر دینا

چاہئے اس سے حفاظت بھی ہوگی اور دین کی ترقی بھی ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۹۶۱/۳۴)

مسجد توڑ کر عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۲۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گاؤں

سیہ سرائے میں سڑک کے پاس عام قبرستان کے ایک کونے میں پچھلے سال سے ایک مسجد تعمیر

ہے، جس میں چنگنا نہ جماعت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اور مسافر نماز پڑھتے رہتے ہیں،

اب گاؤں کے سب لوگ ہی اس مسجد کو عید کی نماز پڑھنے کیلئے بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ عید کی

نماز پڑھنے کیلئے کوئی میدان نہیں ہے، مسجد کو بدستور رکھتے ہوئے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟
المستفتی: محمد منتظر، سید مزرعہ، سہارنپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو مسجد ایک مرتبہ شرعی طریقہ سے مسجد بنالی جائے وہ ہمیشہ مسجد ہی کے حکم میں رہے گی اسکو غیر مسجد کے کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۳۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۴۹)

ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً
إلى قيام الساعة وبه يفتي . (الدر مع الرد، الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو
غيره زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۵، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵،
مصری قديم ۱/۷۴۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۵۱، زکریا ۵/۴۲۰)

البتہ مسجد کو بدستور قائم رکھتے ہوئے عید کی نماز اس میں پڑھنا درست ہے، ایک مرتبہ
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کی نماز بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھائی ہے۔

عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي
صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد . (ابوداؤد شريف، باب يصلى
بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر، النسخة الهندية ۱/۱۶۴، دارالسلام رقم:
۱۱۶۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۰/۴۵۸۴)

عید گاہ منہدم کر کے مسجد بنانا

سوال: [۸۳۳۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موضع
کلبا بگلہ ضلع مراد آباد کی عید گاہ جو آبادی کے باہر تھی، اب گاؤں کی آبادی کے بڑھ جانے کی

وجہ سے عید گاہ آبادی میں آگئی ہے، اور گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے، جو نمازیوں کیلئے دور بھی ہوگئی ہے، اس لئے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ موجودہ عید گاہ کو منہدم کر کے اس جگہ پر دوسری مسجد تعمیر کر لی جائے، اور عید گاہ دوسری جگہ بنالی جائے، شرعی جواب سے نوازا جائے؟

المستفتی: حافظ عبدالسلام، ناظم دفتر جامعہ اسلامیہ عربیہ رحمانیہ، ٹانڈہ بادلی، ضلع: راجپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مذکورہ گاؤں میں جواز عیدین کی شرائط موجود ہیں، تو پورے گاؤں کے لوگ متفقہ طور پر آبادی کے اندر آئی ہوئی عید گاہ کو مسجد بنانے کی نیت کر لیں، اور سب مل کر سنت کے مطابق آبادی سے باہر عید گاہ بنالیں، تو محض جائز ہی نہیں بلکہ یہی عین سنت ہے، کیونکہ عید کی نماز میں اصل سنت آبادی سے باہر جا کر نماز عید ادا کرنا ہے، لہذا گاؤں والوں کا مذکورہ پروگرام مقتضی شریعت کے بالکل مطابق ہے۔

عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . (صحيح البخارى ، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير عذر، النسخة الهندية ۱/۱۳۱، رقم: ۹۴۶، ف: ۹۵۶)

عن على رضى الله عنه قال: من السنة الصلاة فى الجبان . (المعجم الأوسط، دارالفكر ۴/۹۶، رقم: ۵۳۳۱، مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۲۰۹، مستفاد: فتاوى رحيميه ۶/۸۲، جديد زكريا ۹/۹۸)

ثم خروجه ماشيا إلى الجبانة وهى المصلى العام الخ. (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب العيدين، زكريا ۳/۴۸، ۴۹، كراچى ۲/۱۶۸)

والخروج إلى الجبانة سنة لصلوة العيد، وإن كان يسعهم المسجد الجامع عند عامة المشائخ هو الصحيح الخ. (البحر الرائق، كوثه ۲/۱۵۹، زكريا ۲/۲۷۸، هندیه، زكريا قديم ۱/۱۵۰، جديد ۱/۲۱۱، قاضيخان، زكريا جديد ۱/۱۱۴،

وعلى هامش الهندية ١/١٨٣) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ رمضان ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۴۲۶/۲۵)

عید گاہ کیلئے وقف کی گئی زمین پر مسجد بنانا

سوال: [۸۳۳۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آراضی عید گاہ کیلئے وقف تھی بعد میں واقفین حضرات نے اس آراضی کو مسجد کیلئے تبدیل کیا تو کیا یہ تبدیلی جائز ہے؟ جب اس عید گاہ کی زمین کو دوبارہ مسجد کیلئے وقف کیا گیا تو کچھ شرائط بھی رکھی گئی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی، کہ اس مسجد کیلئے ایک متولی کے ساتھ ساتھ ۹ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی کمیٹی میں دو افراد واقفین کے ورثاء میں سے چنے جائیں گے، پھر وہی دو افراد اپنی مرضی سے ۲ دیگر افراد کو چنیں گے، پھر متولی خود ایک فرد کو چنے گا، پھر باقی چار افراد عام لوگوں میں سے چناؤ کے ذریعہ چنے جائیں گے، یہ شرط جمہوریت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اسلئے اکثر محلہ والوں کا ان واقفین سے کہنا ہے کہ آپ حضرات اس شرط کو بدل کر کوئی دوسری شرط رکھیں، جو جمہوریت کے مطابق ہو اس پر وہ حضرات کچھ خاص لوگوں کے سامنے رضامند ہو گئے اور ایک کمیٹی بھی ہاتھوں ہاتھ ان کی رضامندی سے تشکیل دی گئی جن کی شکل یہ ہے کہ ۱۳ افراد پر مشتمل کمیٹی ہوگی جن میں واقفین کے ورثاء میں سے ۳ افراد اور باقی افراد چناؤ کے ذریعہ یا قرعہ کے ذریعہ چنے جائیں گے، لیکن کچھ روز بعد جب دلیل ہوتی ہے، تو واقفین حضرات کہتے ہیں، کہ ہم اس شرط کو نافذ کرتے دیتے مگر شریعت اس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی کیا اقرار کے بعد پھر ان کا یہ کہنا صحیح ہے، کیا شریعت میں واقعی اس تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو حوالہ سے لکھیں؟ اور ہے تب بھی حوالہ

سے ثابت کریں کیا غلط شرط کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی؟

المستفتی: شریف الاسلام، ۲۴ / پرگنوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عید گاہ کے لئے وقف کی گئی زمین کو اگر واقفین ضرورت کی بنا پر مسجد میں تبدیل کر دیں تو یہ تبدیل کرنا جائز ہے، اور واقفین کو کمیٹی کیلئے افراد منتخب کرنے کا پورا پورا اختیار ہے، کسی کو کسی قسم کی شکایت اور اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، البتہ واقفین کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ کمیٹی کے افراد منتخب کرتے وقت ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن سے آگے چل کر مسجد کیلئے دینی یا دنیوی کسی قسم کی شکایت کا خطرہ نہ ہو۔

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأساً وقوله فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القاری، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد، دار احیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹، زکریا ۳/ ۴۳۵، تحت رقم الحدیث ۴۲۸، فتح الملہم، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/ ۱۱۸)

أما الواقف فله عزل الناظر مطلقاً به یفتی . (شامی، الوقف، مطلب فی

عزل الناظر، زکریا ۶/ ۵۸۰، ۶/ ۶۴۱، کراچی ۴/ ۲۸۲، ۴/ ۴۲۷)

إن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته، وإن لم يشترطها وأن له عزل

المتولی . (شامی، زکریا ۶/ ۶۳۳، کراچی ۴/ ۴۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

۱۲/۶/۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۸۸۵۰)

قدیم مسجد کو توڑ کر عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر پرانی مسجد کو توڑ کر وہاں پر عید گاہ بنانا چاہیں تو کیسا ہے؟ حوالہ کیسا تھ جواب دینے کی زحمت گوارا کریں، تاکہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دارین سے سرفراز فرمائے، کرم ہوگا؟

المستفتی: ربیع الحق، مرشد آبادی، صوبہ مغربی بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے، قیامت تک کیلئے اس کا مسجد ہی رہنا لازم اور ضروری ہے، ہاں البتہ جمعہ ہونا ضروری نہیں ہے، پانچوں وقت کی نماز ہو جانا کافی ہے۔

إن المسجد إذا خرب يبقى مسجداً أبداً. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد أو غیره، زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹، مجمع الأنهر، دار الکتب العلمیة بیروت ۲/۵۹۵، مصری قدیم ۱/۷۴۸، الموسوعة الفقهیة الكويتیة ۳۷/۲۲۵، الفقه الإسلامی، وأدلته دار الفکر ۱۰/۷۶۷۲، ہدیٰ انٹر نیشنل دیوبند ۸/۲۱۷)

لأنه مسجد إلى عنان السماء وكذا إلى تحت الشرى كما في البيروني عن الاسبيجاني. (شامی، الصلاة، مطلب فی أحكام المسجد، زکریا ۲/۴۲۸، کراچی ۱/۶۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۸۴۸/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۶/۱۴۲۶ھ

آبادی میں واقع عید گاہ کو مدرسہ بنانا

سوال: [۸۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید

نے کچھ آراضی عیدگاہ کے نام وقف کی وقف کرتے وقت وہ آراضی آبادی سے باہر تھی، لیکن آہستہ آہستہ آبادی پڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ عیدگاہ آبادی کے اندر ہو گئی، اور اس میں مکتب کی شکل میں بچوں کی دینی تعلیم بھی ہونے لگی اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس عیدگاہ میں مستقل مدرسہ قائم کر دیا جائے، اور عیدگاہ کیلئے آبادی سے باہر دوسری زمین خرید لی جائے، اور یہ خریداری مخصوص لوگوں کے عطیہ سے ہوگی، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ مفصل و مدلل بیان فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: بشیر احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عیدگاہ آبادی کے اندر آ گئی ہے تو اس کو مدرسہ بنا کر وہاں تعلیم جاری کرنا اور اس کی جگہ آبادی سے باہر زمین خرید کر عیدگاہ بنانا جائز ہے۔ (مستفاد: ایضاح المسائل/۳۵)

عن أبی سعید الخدری قال کان النبی ﷺ یخرج یوم الفطر والأضحیٰ إلى المصلی . (صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب الخروج إلى المصلی، بغیر عذر، النسخة الهندية ۱/۱۳۱، رقم: ۹۴۶، ف: ۹۵۶)

والثانی: أن لا یشرطه سواء شرط عدمه أو سکت ؛ لكن صار بحیث لا ینتفع به بالکلیة ، بأن لا یحصل منه شیئی أصلاً ، أو لا یفی بمؤنته فهو أيضاً جائز علی الأصح . (الدر مع الرد، الوقف، مطلب فی استبدال الوقف وشروطه، زکریا ۶/۵۸۳، کراچی ۴/۳۸۴، الأشباه والنظائر، کراچی ۱/۳۰۵، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۹۶، الفقه الإسلامی وأدلته، دارالفکر ۱۰/۷۶۷۵، هدی انٹرنیشنل دیوبند ۸/۲۱۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳/۳/۱۴۱۵ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۳۹۱۹)

عید گاہ کو مدرسہ بنا کر دوسری عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے کچھ آبادی عید گاہ کیلئے وقف کی وقف کرتے وقت وہ آراضی آبادی سے باہر تھی، لیکن آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی یہاں تک وہ عید گاہ آبادی کے اندر ہو گئی، اس میں مکتب کی شکل میں بچوں کی دینی تعلیم بھی ہونے لگی، اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس عید گاہ میں مدرسہ قائم کر دیا جائے اور عید گاہ کیلئے آبادی سے باہر دوسری زمین خریدی جائے، اور وہ خریداری مخصوص لوگوں کے عطیہ سے ہوگی، ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: بشیر احمد قاسمی، مدرسہ بشیر یہ سکر ہرہہ خورد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ کی کمیٹی اور ذمہ داروں کی اجازت سے جو عید گاہ آبادی میں آگئی ہے اس میں دینی مدرسہ بنانا اور اس کے عوض میں آبادی سے باہر دوسری عید گاہ بنانا شرعاً جائز ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۴/۱۵، ڈبھیل ۱۵/۳۳۵)

عن علي - رضی اللہ عنہ - قال: الخروج إلى الجبان في العیدین من

السنة . (المعجم الأوسط، دارالفکر ۳/۱۱۶، رقم: ۴۰۴۰)

والثانی: أن لا یشرطه سواء شرط عدمه أو سکت ؛ لكن صار

بحیث لا ینتفع به بالکلیة ، بأن لا یحصل منه شیئی أصلاً ، أو لا یفی بمؤنته

فهو أيضاً جائز علی الأصح . (شامی، الوقف ، مطلب فی استبدال الوقف و شروطه ،

زکریا ۶/۵۸۳، ۵۸۴، کراچی ۴/۳۸، الأشباه والنظائر، کراچی ۱/۳۰۵، الموسوعة

الفقهیة الکویتیة ۴/۱۹۶، الفقه الإسلامی وأدلته ، هدی انتر نیشنل دیوبند ۸/۲۱۹،

دارالفکر ۱۰/۷۶۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ العلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۵/۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم جمادی الاولیٰ ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۹/۳۲۵۰)

عید گاہ کو مسجد میں تبدیل کر کے شہر کے باہر عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج سے تقریباً ۳۵ سال پہلے ہمارے علاقہ میں ایک عید گاہ بنانے کیلئے قرب و جوار کے تمام مسلمانوں نے مشورہ کیا چنانچہ جگہ کا انتخاب ہمارے گاؤں کے اندر ایک چوراہے کے پاس لب سڑک لکھنؤ اور سلطانپور روڈ پر کیا گیا، لیکن اسی وقت میرے گاؤں سے متصل ایک دوسرے گاؤں والوں نے دوسری عید گاہ بنانا شروع کر دی، دونوں کے درمیان فاصلہ ۱۵۰۷/۱۰۰ میٹر ہی کا ہے، ادھر عام حضرات کی رائے سے یہ عید گاہ بھی تعمیر کی گئی، اب ادھر کچھ سالوں سے اس چوراہے پر دوکانیں بن گئی ہیں اور اس کے آس پاس کچھ مکانات بھی بن گئے ہیں، اور صبح و شام مسلمانوں کی خاصی تعداد یہاں رہتی ہے، اس وجہ سے یہاں ایک مسجد کی ضرورت ہے، اس بارے میں اس چوراہے کے پاس تمام گاؤں والوں کی مرضی ہے کہ میرے گاؤں کی سرحد میں پائی جانے والی عید گاہ جو تمام قرب و جوار کے مسلمانوں کی رائے سے عید گاہ بنی تھی، اسے جامع مسجد بنا دیا جائے لیکن ہمارے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہم تم کو اسی سڑک کے آس پاس دوسری زمین مسجد کیلئے دے سکتے ہیں، پر اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی عمارت اور عید گاہ میں مسجد نہیں بنانے دیں گے، ادھر اس چوراہے اور بازار والے ہماری عید گاہ میں ٹین شیٹ لگا کر پانچوں وقت کی نماز اور جمعہ ادا کر رہے ہیں، نیز یہ واضح رہے کہ عید گاہ کی زمین میرے گرام سبھا کی ہے، جسے میرے دادا مرحوم سابق پردھان نے عید گاہ کے لئے وقف کیا تھا، لیکن وقف بورڈ میں اس کا اندراج نہیں ہوا ہے، اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس عید گاہ کو جامع مسجد بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ میرے گاؤں والوں کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں؟ (زمین میرے ہی گاؤں کی ہے) رضامندی میں گاؤں کی اکثریت کا اعتبار ہوگا یا ایک ایک فرد کی رضامندی ضروری ہے، نیز اس وقت اس میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جبکہ گاؤں کے بعض حضرات

ناپسند کرتے ہیں، اگر میرے گاؤں کا کوئی فرد اس میں نماز پڑھنے سے منع کرے تو اس کا یہ فعل کیسا ہے؟

المستفتی: مقبول احمد، منڈوی،
شاہ پور، ضلع: سلطان پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ کو مسجد بنانے کیلئے وہاں کے ذمہ داران اور عید گاہ کے متولی یا کمیٹی کی مرضی لازم ہے، نیز جب عید گاہ آبادی کے اندر آجائے تو اس کو مسجد میں منتقل کر کے آبادی سے باہر عید گاہ بنانا بہتر ہے، مگر یہ کام ذمہ داروں کی رضامندی سے کرنا لازم ہے۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال: من السنة الصلاة في الجبان. (المعجم الأوسط، دارالفکر ۹۶/۴، رقم: ۵۳۳۱، مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیة بیروت ۲۰۹/۲)

والثانی: أن لا یشرطه سواء شرط عدمه أو سکت؛ لكن صار بحيث لا ینتفع به بالکلیة، بأن لا یحصل منه شیئی أصلاً، أو لا یفی بمؤنته فهو أيضاً جائز علی الأصح. إذا کان یاذن القاضی ورأیه المصلحة فیہ.

(الدر مع الرد، الوقف، مطلب فی استبدال الوقف وشرطه، کراچی ۳۸۴/۴، زکریا ۵۸۳/۶، الأشباه والنظائر، کراچی ۳۰۵/۱، الموسوعة الفقہیة الكويتیة ۱۹۶/۴۴، الفقه الإسلامی وأدلته، هدی انٹرنیشنل دیوبند ۲۱۹/۸، دارالفکر ۷۶۷۵/۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
کیمبر جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۱۳۹/۳۴)

گرام پنچایت کی زمین میں عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گرام سبھا میں تین گاؤں شامل ہیں جس میں ایک جگہ خالی پڑی ہے اور وہاں پر میلہ لگتا ہے، اور اس کے متصل دوسرے گاؤں کے لوگ اور اس گاؤں کے لوگ تعزیرہ دفن کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے گاؤں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جگہ گرام پنچایت کی ہے، اور نہ تو اس کی خریداری عید گاہ کے نام سے ہوئی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی رسید عید گاہ کے نام کسی پردھان نے ابھی تک کافی ہے، موجودہ پردھان نے بغیر کسی لکھا پڑھی کے عید گاہ بنانے کی اجازت دیدی ہے، اور اعتراض کردہ اس گرام سبھا میں شامل نہیں ہیں، تو ایسی صورت حال میں وہاں عید گاہ کی تعمیر درست ہے یا نہیں؟ اگر سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، تو وہاں نماز عید پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: ظہیر احمد، دھراوان،
دوہراہ، ضلع کھیرکھیم پور یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذکورہ زمین نہ گرام سبھا کی ہے اور نہ ہی کسی مخصوص شخص کی ملکیت ہے بلکہ گرام پنچایت کی زمین ہے، تو ایسی صورت میں اگر پردھان نے گرام پنچایت کی اجازت سے عید گاہ کیلئے متعین کر دی ہے، یا خود پردھان گرام پنچایت کا ذمہ دار ہے، اور اس نے عید گاہ بنانے کی اجازت دیدی ہے تو شرعی طور پر اس کو عید گاہ کے لئے متعین کرنا اور اس کو عید گاہ بنانا درست ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اس کے لئے کاغذات میں لکھا پڑھی کر دی جائے، تاکہ آئندہ کسی اختلاف اور جھگڑے کا شکار نہ بن سکے، اور اگر وہ زمین کسی افسر سے متعلق ہے تو اس سے تحریری اجازت لینا چاہئے تاکہ بعد میں اختلاف کا سبب نہ بن سکے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۴۴، جدید ذکر یا مطول ۱۰/۳۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ صفر ۱۴۲۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۸۱/۳۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵ صفر ۱۴۲۶ھ

سرکاری اسکول کو عید گاہ بنانا

سوال: [۸۳۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اسکول جو سرکاری ملکیت میں ہے، لوگوں نے اجازت دی کہ اس کو عید گاہ بنا لیا جائے، لیکن سرکار نے اجازت نہیں دی ہے، اب اسکول کے صحن کو عید گاہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد ابو سعید مالائی، متعلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سرکار اور میونسپلٹی کی اجازت کے بغیر محض عوام کی اجازت سے اسکول کی زمین اور اس کے صحن کو عید گاہ بنا لینا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۴/۴۳۲، جدید ذکر یا مطول ۱۰/۳۲۵)

عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل

مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . (شعب الإيمان، باب في قبض اليد عن

الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ۴/۳۸۷، رقم: ۵۴۹۲)

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، لا يجوز لأحد أن

يتصرف في ملك الغير بغير إذنه . (قواعد الفقه، اشرفي / ۱۱۰، رقم: ۲۶۹،

۲۷۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵ صفر ۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ صفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۹۵۰۶۳۱)

عیدگاہ میں شادی ہال یا اسکول بنانا

سوال: [۸۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے شہر میں عیدگاہ کی حفاظت کے پیش نظر چہار دیواری کردی گئی تھی، لیکن اب عیدگاہ کے کچھ حصہ میں ٹین شیٹ ڈال کر شادی ہال بنا کر باراتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور باراتوں کے کھانے وغیرہ تیار کرنے کیلئے باورچی خانہ بھی تیار کر دیا گیا ہے، نیز عیدگاہ میں جہاں نماز ہوتی تھی اسی حصہ میں بیت الخلاء پیشاب خانہ وغیرہ بھی بنا دیا گیا ہے، اور شادی بیاہ وغیرہ کے موقعہ پر فوٹو گرافی بے پردہ عورتوں کی آمد و رفت نیز ناچ گانا و شراب نوشی بھی ہوتی ہے، نیز مستقبل میں عیدگاہ کو پاٹ کر لڑکیوں کا انگلش میڈیم اسکول قائم کیا جا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ و صدقات و چرم قربانی کی رقوم بھی خرچ کی جاتی ہیں۔

اب جواب طلب امر یہ ہے کہ عیدگاہ کو قیام بارات کیلئے استعمال کرنا طلباء و طالبات کیلئے اسکول یا ہوسٹل قائم کرنا، نیز ان چیزوں پر چرم قربانی زکوٰۃ و صدقات کی رقوم کو خرچ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ ان امور کیلئے اپنی رقوم دیتے ہیں، کیا ان کے صدقات و زکوٰۃ ادا ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ ایسے شخص کو متولی باقی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسے شخص کو تولیت سے علیحدہ کر کے عوام کو دوسرے متولی کا انتخاب کرنا شرعاً لازم ہے یا نہیں؟

سوال کے ہر جز کا جواب مفصل و مدلل تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد حنیف قریشی، اسماعیل نگر، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ عیدگاہ بہت سے امور میں مسجد کا حکم رکھتی ہے، اسلئے وہاں پر شادی ہال بنانا اور باراتوں کے کھانے کیلئے باورچی خانہ بنانا اور بیت الخلاء پیشاب خانہ وغیرہ بنانا ہرگز جائز نہیں ہے، نیز وہاں پر ایسی بارات کا ٹھہرانا جس میں ناچ گانا شراب نوشی وغیرہ حرام امور کا ارتکاب ہوتا ہو، ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور

اس سے بڑھ کر اسمیں انگلش میڈیم اسکول قائم کرنا موقوفہ عید گاہ پر ناجائز قبضہ ہے، وہاں کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، کہ جو متولی یا ذمہ دار یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس کو فوری طور پر برطرف کر کے دوسرا دیانتدار حلال و حرام اور جائز و ناجائز امور سے واقف کار اور خدا کا خوف رکھنے والے شخص کو عید گاہ کا متولی یا ذمہ دار بنائیں، نیز وہاں جب اسکول ہی قائم کرنا جائز نہیں ہے، تو زکوٰۃ و صدقات واجبہ کا مصرف کہاں سے ہوگا۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ کراچی/۱، ۵۸۰، امداد المفتین کراچی/۸۱۵)

وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلوة لا غير وهو
والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطاً .
(البحر الرائق، الوقف، فصل فی أحكام المسجد، زکریا ۵/۱۷، کوئٹہ ۵/۴۸،
حاشیة چلپی، مکتبہ امدادیہ ملتان ۱/۶۸، زکریا ۱/۲۰، الدر مع الرد،
کراچی ۴/۳۵۶، زکریا ۶/۴۵)

لم يخرجہ القاضي من الولاية إلا بخيانة ظاهرة الخ. (هنديہ، الوقف،
الباب الخامس، زکریا جدید ۲/۳۹۰، قدیم ۲/۲۵، الموسوعة الفقهية الكويتية
۱۰۴/۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۸۹۶۳۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۱۰/۱۴۱۹ھ

مسجد اور عید گاہ کی آمدنی مخلوط کر کے رکھنا

سوال: [۸۳۳۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد و عید گاہ کی آمد و خرچہ ایک جگہ رہتا تھا، کیونکہ گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، اور ایک ہی عید گاہ یہ اشتراک جائز ہے یا ناجائز؟ جبکہ خرچ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، مسجد کا خرچ زیادہ ہے اور عید گاہ کا کم لہذا جواب دیکر ممنون فرمائیں؟

المستفتی: عبدالرشید، امام مسجد مانپونگر، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح اشتراک جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کی آمدنی الگ الگ رکھنا لازم ہے، ایک کی آمدنی دوسرے پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۵۹۶/۲، مجموعۃ الفتاویٰ ۱۳۶/۲)

ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكنى والآخر للاشتغال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى الخ. (شامی، الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجد ونحوہ، زکریا ۵۵۱/۶، کراچی ۳۶۱/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۷۱۷/۲۵)

عید گاہ کو شادی بیاہ کیلئے دینا

سوال: [۸۳۴۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) شہر میرٹھ کی عید گاہ کو شادی بیاہ کیلئے دینا جائز ہے یا نہیں؟ بالخصوص جبکہ شادیوں میں عموماً کھلم کھلا شراب کا استعمال ہو جاتا ہو؟

(۲) موجودہ دور میں عام طور پر شادیوں کی تقریبات میں مرد و عورتیں ایک ساتھ شرکت کرتے ہیں، شرعی طور پر پردہ کا لحاظ ایسی تقریبات ختم کر دیتی ہیں، جس سے نوجوان لڑکے و لڑکیاں عید گاہ کے مقام کا خیال نہیں کرتے، معاشرہ میں اس عمل سے نقصان ہو رہا ہے، گویا عید گاہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے؟

(۳) عید گاہ کو کوئی ذمہ دار شخص کیا اپنی ذمہ داری سے بچ سکتا ہے، جبکہ وہاں شراب

نوٹی ہو؟

(۴) کیا اس غیر ذمہ دار شخص کو یہ اختیار حاصل ہے، کہ وہ چشم پوشی سے کام لے اذراہ کرم مدلل و مفصل جواب تحریری کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرحمت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں تاکہ قوم کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھنے میں آپ کا جواب معاون و مددگار ہو سکے؟

المستفتی: وصی الدین، و مسلمانان شہر میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱-۲) عید گاہ من وجہ مسجد ہے، اس لحاظ سے اس کا احترام لازم ہے، لہذا وہاں پر ایسی شادی کے لوگوں کو ٹھہرانا سخت ترین گناہ ہے، جو شراب نوشی کرتے ہیں، نیز سوانامہ میں جتنی خرافات کا ذکر ہے، ان میں سے کسی بھی امر کا ارتکاب عید گاہ میں جائز نہیں ہے۔

(۳-۴) عید گاہ کے ذمہ داروں پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو وہاں جانے نہ دیں، ورنہ گناہ میں خود بھی شامل ہوں گے، غیر ذمہ دار لوگ اگر منع کرنے پر قادر ہیں، تو ان کو بھی ممانعت کرنے میں حصہ لینا چاہئے۔

أما مصلی العید لایکون مسجداً مطلقاً وإنما یعطى له حکم المسجد فی صحیحہ مصلی العید بالإمام وقال بعضهم (إلی قولہ) ویجنب هذا المكان عما یجنب عنه المساجد احتیاطاً الخ. (شامی، الوقف، قبیل فی احکام المسجد، زکریا ۶/۵۴۵، کراچی ۴/۳۵۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۵/۲۴۸، زکریا ۵/۱۷۰، حاشیہ چلبی امدادیہ ملتان ۱/۱۶۸، زکریا ۱/۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۱۷۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ محرم ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۰۳۳۳)

عید گاہ کو بازار لگانے کیلئے کرایہ پر دینا

سوال: [۸۳۴۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چوکھا کے پل پر جو منگل کا بازار لگتا تھا، کسی بنا پر اب وہ وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اب اگر اس کو عید گاہ کے میدان میں لگایا جائے، اور اس کی آمدنی عید گاہ کے فرش یا اس چہار دیواری میں لگائی جائے تو کیسا ہے؟ اگر اس جگہ جائز نہیں تو رائنڈ اور بیواؤں پر صرف کیا جائے، تاکہ اس پیسہ سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: حافظ شبیر احمد، رحمت نگر، گلئی نمبر ۲، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ بہت سے احکام میں باتفاق علماء مسجد کا حکم رکھتی ہے، نیز نفس عبادت گاہ ہونے کی حیثیت سے بھی عید گاہ انتہائی حرمت و عظمت کی حامل ہے، جس طرح موقوفہ عید گاہ میں کھیل تماشہ، کشتی وغیرہ کرنا اسی طرح اس کو گانا بجانے کی جگہ بنا لینا شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے، اسی طرح عید گاہ کو بازار کی جگہ بنا لینا جہاں پر نہ جانے کتنے امور خلاف شرع انجام پائیں جس سے عید گاہ کی حرمت و عظمت پامال ہوتی رہے، قطعاً جائز نہیں، جبکہ حدیث شریف میں آقا ؑ نامدار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہیں، چونکہ عید گاہ بھی بہت سے امور میں مسجد کا حکم رکھتی ہے، اسلئے بازار جیسی بری جگہ کیلئے عید گاہ کو استعمال کیلئے کراہیہ پر دینا جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۲۲۸، فتاویٰ دارالعلوم ۵/۲۱۵، کفایت المفتی ۳/۱۴۲، جدید زکریا مطول ۱۰/۴۵۰، امداد المفتیین ۸۱۵، مسائل عیدین ۲/۷۷، مسائل مسجد/۲۶۰)

ویجنب هذا المكان كما یجنب المسجد احتیاطاً . (البحر الرائق،

الوقف، فصل فی احکام المسجد، کوئٹہ ۵/۲۴۸، زکریا ۵/۱۷۴، الدر مع الرد، زکریا

۶/۵۴۵، کراچی ۴/۳۵۶، حاشیہ چلبلی امدادیہ ملتان ۱/۶۸، زکریا ۱/۴۲۰)

عن أنس بن مالک قال: قال رسول الله ﷺ لجبریل: خیر

البقاع المساجد ، بیوت اللہ فی الأرض شر البقاع الأسواق . (المعجم الأوسط ، دارالفکر ۵/۲۲۳ ، رقم: ۷۱۴۰ ، مجمع الزوائد ، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۴/۷۹) عن أبی ہریرۃ أن رسول اللہ ﷺ قال أحب البلاد إلى اللہ تعالیٰ مساجدها وأبغض البلاد إلى اللہ تعالیٰ أسواقها . (مسلم شریف ، باب أحب البلاد إلى اللہ تعالیٰ مساجدها ، النسخۃ الہندیۃ ۱/۲۳۶ ، بیت الأفكار رقم: ۶۷۱ ، صحیح ابن خزیمہ المکتبہ الإسلامی ۱/۶۳۷ ، رقم: ۱۲۹۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/۲۴۴)

وقف کی زمین میں میلہ لگانا اور اس کے کرایہ کا حکم

سوال: [۸۳۴۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے قصبہ میں عید گاہ اور قبرستان وقف علی الخیر ہیں، عید گاہ سے متصل ہی قبرستان ہے، ہمارے یہاں عید گاہ کا متولی قبرستان و عید گاہ دونوں کا انتظام کرتا ہے، اور آمد و خرچ کا حساب بھی ان ہی کے پاس ہے، عید گاہ متولی کے زیر انتظام ایک میدان ہے، میدان وقف علی الخیر ہے، جس میں ہر سال عید الفطر کے موقع پر ایک ہفتہ کیلئے ایک میلہ لگایا جاتا ہے، اس میلہ کا انتظام عید گاہ متولی کی طرف سے کیا جاتا ہے، عید گاہ متولی اس میلہ کا ٹھیکہ نیلام کرتا ہے، متولی اس میلے کے ٹھیکے سے ہونے والی آمدنی کے کچھ حصہ کو عید گاہ و قبرستان پر خرچ کرتا ہے، اس میلے میں ہوٹل اور ریسٹورینٹس کے علاوہ فسق و فجور کے تمام پروگرام ہوتے ہیں، ناچنے گانے اور سرکس وغیرہ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، ناچنے گانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، سرکس اور دوسرے تفریحی پروگراموں میں نیم برہنہ خواتین بھی ناچتی ہیں، دوسرے کرتبوں میں جسم کی نمائش کرتی ہیں، اس میلہ میں خواتین مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، خواتین بالخصوص جوان لڑکیاں مردوں کی بھیڑ میں میلہ میں شریک ہوتی

ہیں، اس میلہ کی نیلامی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عید گاہ متولی عید گاہ و قبرستان کے انتظام پر خرچ کرتا ہے، عید کی نماز کے موقع پر عید گاہ میں نماز و خطبہ کے لئے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ بھی اس پیسہ سے لگائے جاتے ہیں، عید گاہ و قبرستان میں پودوں کیلئے پانی صفائی کیلئے مالی و چوکی دار کی تنخواہ بھی اسی میلہ کی آمدنی سے ادا کی جاتی ہے، حالات مذکورہ میں مسئلہ استفتاء ہے، کہ کیا میلہ کی آمدنی مذکورہ حالات میں جائز ہے یا ناجائز؟ میلہ کی آمدنی کو کیا عید گاہ اور قبرستان میں مذکورہ کوائف میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟ اس طرح کی آمدنی اگر عید گاہ کی نماز پر خرچ کی جائے، تو اس نماز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وقف الی اللہ کے قطعہ آراضی پر ایسے میلے ٹھیلے لگائے جاسکتے ہیں، جس میں فسق و فجور کو بڑھاوا ملتا ہے، متولی کو جب اس بارے میں متوجہ کیا جاتا ہے، تو متولی صاحب کہتے ہیں، ہم خاندانی طور پر متولی چلے آ رہے ہیں، میں مالک ہوں جو چاہے کروں؟ جب کہ وقف قانون کے تحت متولی مالک نہیں ہوتا ہے، اور متولی صرف تین سال کیلئے مقرر ہوتا ہے، متولی صاحب اس وقف کو اپنی ذاتی جائداد سمجھتے ہیں، اگر کوئی متولی وقف کے املاک میں میلہ لگا کر اس طرح کے فسق و فجور کو بڑھاوا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں، براہ کرم شریعت کی روشنی میں استفتاء مرحمت فرمائیں؟

المستفتی: شہاب الدین غوری،

محلہ منہاراں، ٹانڈہ، ضلع رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کسی بھی وقف کا متولی وقف جائداد کا مالک

نہیں ہوتا ہے، وہ صرف منتظم اور نگراں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، کہ وقف جائداد کا انتظام شریعت کے دائرہ میں رہ کر کرتا رہے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ وقف جائداد کے انتظام میں خلاف شریعت کوئی عمل کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے، سوالنامہ میں جس میدان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میدان نہ قبرستان کا جز ہے، اور نہ ہی

عید گاہ کا جز ہے، بلکہ دونوں سے الگ تھلگ ایک تیسرا میدان ہے منتظم کیلئے اسکو ٹھیکہ اور کرایہ پر دینا جائز اور درست ہے، لیکن منکرات کے عمل اس میدان پر کرنے کی نیت سے دینے میں تعاون علی المعصیت کی وجہ سے متولی گنہگار ہوگا، مگر اس میدان کا جو کرایہ آتا ہے، وہ میدان اور جائداد کا کرایہ ہوتا ہے، معصیت کے عمل کا کرایہ نہیں ہے، پس یہ میدان کے کرایہ کا پیسہ فی نفسہ جائز اور حلال ہے، اور معصیت و منکرات کا عمل فاعل مختار کا عمل ہے، جس کا گناہ فاعل مختار پر ہی ہوگا، اور اس گناہ کا وبال اس متولی صاحب کے سر بھی ہوگا، جس نے اس میدان پر منکرات کی کھلی عام اجازت دے رکھی ہے، لہذا متولی صاحب کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہئے۔

وجاز اجارة بیت بسواد الكوفة ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر . (تحتہ فی الشامیة) هذا عنده أيضاً لأن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبتة عنه . (شامی، کتاب الخطر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل فی البيع، زکریا ۵۶۲/۹، کراچی ۳۹۲/۶)

ولا بأس بأن يؤاجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد ربّ الدار فلا إثم على ربّ الدار في ذلك . (المبسوط لسرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۳۹/۱۶)

إذا استأجر الذمي من المسلم داراً يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس؛ لأن المسلم لا يؤجرها لذلك إنما آجرها

للسکنی' کذا فی المحيط..... ذمی استأجر داراً من مسلم فاتخذها
مصلیً لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلیً لنفسه إحداث بیعة
ولا إظهار شیئی من شعائر دینهم فی أمصار المسلمین..... و إذا استأجر
الذمی من المسلم بیتاً لیسع فیہ الخمر جاز عند أبي حنیفة. (عالمگیری،
کتاب الإجارة، الباب السادس عشر فی مسائل الشیوع فی الإجارة، زکریا قدیم
۴/۴۴۹، ۴۵۰، جدید ۴/۴۸۶)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (مائده: ۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ شعبان ۱۴۳۲ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۳۸/۴۰)

شراب کی مشین بنانے والے کی اجرت کو عیدگاہ میں استعمال کرنا

سوال: [۸۳۴۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شہر
میرٹھ کی عیدگاہ اور حاجی صاحب کے قبرستان پر دو پھاٹک لگے ہوئے ہیں، انکا مکمل خرچ
ایک ایسے شخص نے اٹھایا ہے جو کہ شراب کی مشین بناتا ہے، اس نے دونوں گیٹ اپنی جانب
سے بنوا کر لگوائے ہیں ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے یہ گیٹ لگوانے
جائز تھے؟ مفصل بیان فرمائیں نوازش ہوگی؟

المستفتی: وحی الدین، مسلمانان شہر میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نفس مشین بنانا اور اس کو فروخت کر کے اس کی
آمدنی کا استعمال کرنا حلال ہے، اسلئے مذکورہ پھاٹک کی تعمیر جائز رقم سے ہوئی ہے، اس پر کوئی
اشکال نہیں ہے، اور مشین کے ذریعہ سے جو شراب بناتا ہے، وہ شراب بنانے والے کا اپنا فعل

ہے وہ مشین بنانے والے کا نفل نہیں۔

و جاز تعمیر کنیسة و حمل خمر ذمی بنفسه أو دابته بأجر و تحته
فی الشامیة ولو آجر نفسه لیعمل فی الكنيسة و یعمرها لا بأس به لأنه لا
معصية فی عین العمل الخ. (درمختار مع الشامی، کتاب الحظر و الإباحة، باب
الإستبراء و غیره، زکریا ۵۶۲/۹، کراچی ۳۹۱/۶، و ہکذا فی الہندیة، زکریا قدیم
۴۴۹/۴، ۴۵۰، جدید ۴/۴۸۶)

ہاں البتہ بالقصد ایسا کام نہ کرنا ہی بہتر ہے، تاکہ امام صاحب اور صاحبین سب کے
قول کے مطابق کراہت سے پاک رہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶/صفر المظفر ۱۴۱۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۱۶/۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۲/۶ھ

عید گاہ کو مزین کرنا

سوال: [۸۳۴۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عید گاہ
کی محراب اور اس کے آس پاس بہت زیادہ نقش و نگار چھوٹی بڑی برجیاں بنانا جو علامتی نشان
سے بہت زیادہ ہوں کیسا ہے؟ اگر پہلے سے محراب منقش ہو تو اسکی مطابقت میں ادھر ادھر
مماثلت کا وقف کی رقم سے کیا حکم ہے؟

المستفتی: حمید الرحمن، ساکن رسول
پور، امیر نگر، ضلع: کھری لکھنوی پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عید گاہ میں محراب یا سمت قبلہ کی دیواروں میں اس
قدر نقش و نگار بنانا جو نمازیوں کے خشوع میں خلل ڈالے ناجائز اور مکروہ ہے، یہاں یہ بات
یاد رہے، کہ مال وقف وہیں خرچ کیا جائیگا جس کے لئے واقف نے وقف کیا ہو۔ (مستفاد:

فتاویٰ محمودیہ ۱/۳۱، ڈیجیٹل ۱۵/۳۳۳، عزیز الفتاویٰ ۱/۵۸۷

ولابأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهي المصلى ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة . (درمختار مع الشامى ، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره، زكريا ۲/۴۳۰، ۴۳۱، كراچى ۱/۶۵۸)

وفيه على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامى، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين، واجبة زكريا ۶/۶۶۵، كراچى

۴/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۲ھ/۷

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۰/۳۵۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۷

عیدگاہ میں کرکٹ کھیلنا

سوال: [۸۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کیا عیدگاہ کے اندر کرکٹ یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل کھیلنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلوب ہے؟

المستفتی: سخاوت حسین، شریف نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کی طرح عیدگاہ کا احترام کرنا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کھیل کھیلنا جائز نہیں اور اس کو بے حرمتی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۴۲۸)

قال فی الشامیة: عبارة النهاية: والمختار للفتوى أنه مسجد في حق جواز الاقتداء الخ لكن قال في البحر ظاهره أنه يجوز الوطء

والبول والتخلى فيه ولا يخفى ما فيه فإن البانى لم يعده لذلك فينبغى أن لا يجوز ، وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في حق بقية الأحكام وحل دخوله للجنب الحائض . (الدر مع الرد ، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة ، وما يكره فيها ، مطلب في احكام المسجد ، زكريا ۲/ ۴۳۰ ، كراچى ۱/ ۶۵۷ ، مصرى ۱/ ۱۵۸ ، النهر الفائق ، دارالكتب العلمية بيروت ۱/ ۲۸۸ ، البحر الرائق ، زكريا ۲/ ۶۵ ، كوئته ۲/ ۳۶)

وأيضاً في كتاب الوقف عن الخانية: ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطاً . (بحر ، كتاب الوقف ، فصل في أحكام المسجد ، كوئته ۵/ ۲۴۸ ، زكريا ۵/ ۴۱۷ ، الدر مع الرد ، كراچى ۴/ ۳۵۶ ، زكريا ۶/ ۵۴۵ ، حاشية چلپى امداديه ملتان ۱/ ۱۶۸ ، زكريا ۱/ ۴۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۲/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ صفر ۱۴۲۰ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۰۲۹/۳۴)

۸ / باب المقبرۃ

کیا متفقہ قرارداد پر عمل کرنا ضروری ہے؟

سوال: [۸۳۴۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ (۱) ہمارے یہاں گنبد میں ایک قبرستان کی کمیٹی نے تشکیل کے بعد اپنی پہلی میٹنگ میں اتفاق رائے سے ایک قرارداد پاس کی کہ مستقبل میں قبرستان کی کمیٹی سبھی کام اتفاق رائے سے کرے گی اور اگر اتفاق رائے نہیں بن سکی تو اکثریت رائے سے قرارداد پاس کر کے کام کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا، نیز تمام اراکین چاہے وہ صدر صاحب ہوں یا سکریٹری یا خزانچی ہو یا ممبران ہوں سب کی رائے کا برابر احترام کرتے ہوئے قرارداد اکثریت رائے یا با اتفاق رائے سے پاس کی جائیگی، اور کام کو آگے بڑھایا جائے گا، اسی فارمولہ کی روشنی میں کمیٹی کئی سال سے قبرستان کا انتظام چلاتی آرہی ہے، چند یوم قبل کمیٹی کے ایک ممبر صاحب نے کسی عالم کے حوالہ سے ایک بات رکھی کہ باوجود مندرجہ بالا قرارداد پاس کرنے کے صدر محترم کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں، باقی تمام کمیٹی کا فیصلہ پلٹ سکتے ہیں، اور اکثریت رائے اور اتفاق رائے کا احترام نہ کر کے اپنی مرضی سے نئے فارمولہ کی قرارداد پاس کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کیا یہ صحیح ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر کمیٹی کی ضرورت ہی کیا ہے؟

(۲) چند یوم قبل اسی کمیٹی کے صدر صاحب انتقال کر گئے (اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے) ان کے انتقال کے بعد جب پہلی میٹنگ ہوئی تو عام میٹنگ کی طرح ایک یا دو ممبران صاحبان نے یہ اعلان کیا کہ آج شام کو قبرستان کی کمیٹی کی میٹنگ دوکانوں کے کرائے بڑھانے کے بارے میں ہوگی، اور جب شام کو میٹنگ شروع ہوئی تو اچانک نئے صدر کے انتخاب کا کام اس طرح عمل میں آیا کہ ایک صاحب نے دوسرے

صاحب کا نام میننگ کی صدارت کے لئے رکھا باقی کمیٹی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا انہیں دوسرے صاحب نے میننگ کی صدارت سنبھالتے ہوئے ان سے پہلے صاحب کو جنہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا، ان کو مستقبل کیلئے صدر منتخب کر دیا جبکہ ان صاحب کا نام کسی بھی رکن نے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ تین یا چار نام کمیٹی سے ہٹ کر آئے، (برادری ہی کے لوگ) تھے، لیکن قائم مقام صدر صاحب نے ان پر غور نہ کر کے اپنی مرضی سے صدر چن کر اعلان کر دیا کہ آگے کیلئے صدر یہ ہوں گے، یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ یہ (قائم مقام صدر صاحب وہی صاحب ہیں، جنہوں نے چند یوم قبل یہ بات کمیٹی کے سامنے رکھ کر ہلچل پیدا کر دی تھی، کہ صدر صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ باقی کل کمیٹی کی بات کو مانے یا نہ مانے) یہ صدارت کے انتخاب کی کارروائی کے دوران ایک رکن جو کہ سکریٹری کے عہدہ پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے قائم مقام صدر صاحب سے کہا کہ مستقبل کے صدر صاحب کا چناؤ آج نہ کیا جائے، بلکہ اس کیلئے کم از کم تین یوم پہلے ایجنڈا گھومنا چاہئے، اور سب کو پتہ چلنا چاہئے کہ جو میننگ ہونے جا رہی ہے وہ کس سلسلہ میں ہے، تاکہ سبھی اراکین خوب سوچ سمجھ کر پوری تیاری سے آئیں، لیکن قائم مقام صدر صاحب نے فرمایا کہ میں تو اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میننگ کی کارروائی کی اطلاع دن کے دن دی گئی تھی، اور پورا ایجنڈا بتایا بھی نہیں گیا تھا، اس صورت حال میں کیا میننگ کے قائم مقام صدر صاحب کو اپنی مرضی سے مستقبل کے صدر صاحب کو چننے کا حق حاصل ہے یا پوری کمیٹی اتفاق رائے یا اکثریت رائے سے نئے صدر کا انتخاب کرے وہ بہتر ہے؟ جو بھی حل ہو اس کو بیان فرمائیں؟

المستفتی: تنویر عالم شمسی، اکابران
اسٹریٹ، قصبہ: بگینہ، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب قبرستان کی کمیٹی تشکیل دیدی گئی اور سب

نے اتفاق رائے سے یہ طے کر لیا کہ کمیٹی جو کام بھی کرے گی وہ سب کے مشورہ اور اتفاق رائے یا اکثریت رائے سے کیا کرے گی اور اس کے پابند بھی ہوں گے، خواہ صدر ہوں یا سکریٹری یا دیگر ممبران، تو اب اس قرارداد کے بعد صدر یا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس متفقہ قرارداد کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، اس لئے کہ اسلام میں شوریٰ اور مشورہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اسلام کے بنیادی اصول اور قواعد میں سے ہے، قرآن کریم کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے، نیز صدر و حضرات کام کرنے میں بالکل آزاد نہیں ہیں بلکہ اہم معاملات میں ارباب حل و عقد سے مشورہ کرنے کے پابند ہیں، اس لئے اس سوال نامہ کے مطابق جب پہلے صدر کا انتقال ہو گیا، تو اب دوسرے صدر کا انتخاب بھی سب کے آپسی مشورے سے ہوگا، بغیر مشورے کے تنہا کسی آدمی کا دوسرے آدمی کو صدر منتخب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا مذکورہ صورت میں صرف قائم مقام صدر کے انتخاب کرنے سے اس نو منتخب صدر کو شرعاً صدر نہیں قرار دیا جائے گا۔ (مستفاد: معارف القرآن ۲/۲۲۴)

عن عبد الرحمن بن عوف قال: حج عمر فأراد أن يخطب الناس خطبة -إلى- إنه لا خلافة إلا عن مشورة. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب المغازی، ماجاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وسيرته في الردة، مؤسسه علوم القرآن جديد ۲۰/۵۷۳، رقم ۹۷ ۳۸۱)

قال ابن عطية: و الشورى من قواعد الشريعة و عزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم و الدين فعزله و اوجب هذا ما لا خلاف فيه و قد مدح الله المؤمنين بقوله ”و أمرهم شورى بينهم.....“ و قال ابن خويز منداد: و اوجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون و فيما أشكل عليهم من أمور الدين و وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب و وجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح و وجوه الكتاب و الوزراء

والعمال فیما يتعلق بمصالح البلاد و عما رتها و كان یقال ما ندم من
استشار و كان یقال من اعجب برأیه ضبل . (تفسیر قرطبی، دارالکتب العلمیة
۱۶۱/۴، تحت رقم الآیة ۱۵۹، من آل عمران قدیم ۲۵۰/۴)

روی ذلك عن الحسن البصری والضحاك قالاً: ما أمر الله تعالى نبيه
بالمشاوره لحاجة منه إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من
الفضل ولتقتدى به أمته من بعده . (التفسیر للقرطبی، قدیم ۲۵۰/۴، دارالکتب العلمیة
بیروت ۱۶۱/۴، تحت رقم الآیة: ۱۵۹، من سورة آل عمران) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۲۸/۳۹)

قبرستان کی زمین قبرستان میں اور کاشت کی زمین کا شکار کے حوالہ کرنا

سوال: [۸۳۴۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
عبدالغفار ساکن موضع موئڈھا آئمہ آراضی کاشت کا کچھ حصہ قبرستان میں چلا گیا ہے،
اور کچھ حصہ قبرستان میری آراضی کاشت میں آ گیا ہے، اور جو حصہ قبرستان کا ہے، اس میں
قبریں بھی ہیں، اور جو حصہ آراضی کا ہے اس میں قبریں نہیں ہیں، جبکہ نقشہ کی رو سے قبرستان
کا حصہ قبرستان میں لینا چاہتے ہیں، اور جو حصہ آراضی کا ہے اسکو آراضی میں لینا چاہتے ہیں،
اور قبرستان کے حصہ میں جو قبریں ہیں ان کے توڑنے میں جھگڑے کا اندیشہ ہے، لہذا نقشہ کی
رو سے قبرستان کا حصہ آراضی میں لے لیا جائے، یا آراضی کا حصہ قبرستان کو چھوڑ دیا جائے؟
المستفتی: عبدالستار، موئڈھا آئمہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعی طور پر حکم یہی ہے کہ قبر سمیت جو زمین ہے وہ
قبرستان کو اپنی چاہئے، اور قبر سے خالی زمین کاشت میں ہمیشہ شامل رہی ہے اس کو کاشتکار کے

حوالہ کرنا چاہئے، اور اگر سرکاری نقشہ اس کے خلاف بنا ہے، اور قبر سمیت قبرستان کی زمین کا شنکار کے حصہ میں آرہی ہے، اور کا شنکار کی زمین قبرستان کے حصہ میں جارہی ہے، تو درخواست دیکر سرکاری نقشہ میں ترمیم کرانا ضروری ہے۔

عن ابن عباس - رضی اللہ عنہما - قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. (سنن ابن ماجہ، الأحکام، من بنی فی حقہ ما یضر بجارہ، النسخة الهندیة / ۱۵۹، دارالسلام رقم: ۲۳۴۱، المعجم الکبیر للطبرانی، داراحیاء التراث العربی ۳۰۲/۱۱، رقم: ۱۱۸۰۶، المعجم الأوسط دارالفکر ۲۹۲/۱، رقم: ۱۰۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ رجب ۱۴۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۷۲/۲)

قدیم قبرستان کے بدلہ میں دوسری جگہ قبرستان بنانا

سوال: [۸۳۴۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قصبہ گودی روانہ میں گورستان ہے، جس میں گندگی کافی رہتی ہے، کیونکہ پورے قصبہ کا پانی گندگی بارش وغیرہ کے ساتھ بہہ بہہ کر گورستان سے گذرتا ہوا جاتا ہے، اور غیر مسلم اس گورستان میں کوڑا کرکٹ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، اور وہ قصبہ کے اندر ہو گیا ہے، بہر کیف تمام ملبہ وہیں جا کر جمع ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا یہ مشورہ ہے، کہ اگر شریعت سے یہ بات ثابت ہو جائے، کہ اس کے بدلہ میں دوسری جگہ مل جائے، اور اس کو دوسری جگہ کے بدلہ میں دیدیا جائے، تو ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں؟

المستفتی: اکبر حسین انصاری، نیاز احمد، رئیس احمد۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تک قبرستان مذکورہ میں دفن ممکن ہو اس وقت

تک اس کو فروخت کر کے دوسری زمین قبرستان کیلئے خریدنا جائز نہیں ہوگا، اگر ضرورت محسوس ہو تو چہار دیواری کر دی جائے، اور اس میں تبادلہ درست نہ ہوگا۔

عن ابن عمر، أن عمر تصدق بمال له علي عهد رسول الله ﷺ، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله: إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. (صحيح البخاري، الوصايا، باب قول الله عز وجل وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، النسخة الهندية ۱/۳۸۷، رقم: ۲۶۸۳، ف: ۲۷۶۵)

إنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الوقفين واجبة. (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵، کوئٹہ ۳/۴۶۴)

أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها (إلى قوله) وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان رفع البناء حتى يقبر فيه الخ. (قاضيخان، فصل فى المقابر والرباطات، زکریا جدید ۳/۲۱۹، وعلى هامش الهندية ۳/۳۱۳، هندیه زکریا قديم ۲/۴۶۷، ۴۶۸، جدید ۲/۴۱۶)

وإنما يثبت ولاية الاستبدال بالشرط الخ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۱۹۸، مستفاد: امداد الفتاوى ۲/۵۸۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱/صفر المظفر ۱۴۰۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۱۲۶/۲۳)

قبر کی مٹی لا کر دوسری جگہ قبر بنانا

سوال: [۸۳۴۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ڈاکٹر ستیانارائن شرما بھارت سرکار کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی ۶۶ آف دی ایسینیٹ فریڈم فائٹرز“ کا ایک ممبر ہوں، ہماری دلی خواہش ہے کہ یہاں دلی میں مہرولی میں

آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی ایک یادگار قائم کریں اس مقصد کے تحت ہم رنگون (میانمار) سے ان کے مزار کی مٹی لاکر مہرولی میں ان کی خود کی بنائی ہوئی قبر میں جو اب تک خالی پڑی ہے، دفن کرنا چاہتے ہیں، کیا اسلامی قانون میں اسکی اجازت ہے، نیز کیا اسی قبر میں ان کی بیوی زینت صاحبہ کی قبر کی مٹی لاکر آخری شہنشاہ کی قبر میں دفنائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں نوازش ہوگی

نیز ہم شکر گزار ہوں گے اگر آپ ہمیں یہ معلومات فراہم کر دیں، کہ ہم رنگون میں جا کر کن لوگوں سے ملیں جو ہمیں اس تاریخی حقیقت کے بارے میں بتا سکیں، مہربانی ہوگی؟

المستفتی: ستیانارن شرما

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اسلامی شریعت میں کسی بڑے آدمی کے مزار کی مٹی دوسری جگہ لاکر اس کی قبر بنا کر یادگار قائم کرنا جائز نہیں ہے، لہذا آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کی بیوی کی قبر کی مٹی لاکر یادگار کے طور پر قبر بنانے کی اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس لئے مذہب اسلام سچائی پر قائم ہے اور فرضی اور جھوٹا نقشہ ایک دھوکہ اور فریب ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إياکم والكذب فإن الکذب

یهدی إلى الفجور ، وإن الفجور یهدی إلى النار . (ترمذی شریف ۵۲/۲)

میانمار کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، اور کن صاحبان کے پاس بہادر

شاہ ظفر کے متعلق کاغذات ہیں ہم کو یہ بھی علم نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۴ھ

۱۴۳۴/۱/۱۶ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۹۳۷)

قبرستان کی خود روگھاس کی قیمت سے چہار دیواری بنانا

سوال: [۸۳۵۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی چہار دیواری کی وجہ سے زمین پر خود روگھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں رونما ہونے کی وجہ سے میت دفنانے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی چلنے پھرنے میں نیز حشرات الأرض ہونے کا احتمال ہے۔

دریافت یہ کرنا ہے، کہ اس خود روگھاس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اس قبرستان کی چہار دیواری کی پتائی و قلعی کے کام میں لایا جاسکتا ہے، یا نہیں؟ یا اس گھاس کو آگ لگا کر صاف کر دیا جائے، شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد عیاض بانکوی، معلم مدرسہ ہذا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا، اور ان کی قیمت قبرستان کی چہار دیواری اسکی مرمت اور اس کی قلعی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز ہے۔

حطب نبت فی المقبرة ثمنہ یصرف فی مصالح المقبرة . (تاتار

خانیہ ، الصلاة ، الفصل الثانی والثلاثون ، الجنائز ، القبر ، والدفن ، زکریا ۳/۷۶ ، برقم:

۳۷۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۲۷/۱۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/رجب المرجب ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۷۶/۳۹)

قبرستان میں ممبران کے نام کا پتھر لگوانا

سوال: [۸۳۵۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)

قبرستان میں اراکین و ممبران کے نام کا پتھر لگانا کہاں تک درست ہے؟
 (۲) قبرستان کی زمین پر دیگر اشخاص کے قبضہ سے بچانے کی حالت میں جبکہ دیگر لوگ اسپر قبضہ کر کے اپنا بنانا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں اراکین و ممبران کا اس قبرستان کی چوحدی کر کے اس قبرستان میں سب ہی ممبران و اراکین کے نام کا پتھر بنوا کر اس قبرستان کی چوحدی میں تعمیر کر دیا گیا تاکہ دیگر اس پر قابض نہ ہو سکیں، ایسی صورت میں اوپر لکھے دونوں سوالوں کا جواب آپ ہمیں تفصیل سے لکھیں؟

المستفتی: محمد اسلم کپڑے والے، نالہ بازار،
 گاندھی چوک، جلیسر سٹی (ایٹھ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر قبرستان موقوفہ ہے، تو اس میں محض ناموری کیلئے ممبران قبرستان اپنے نام کے پتھر لگا رہے ہیں، تو درست نہیں ہے! البتہ اگر اس کے بغیر قبرستان کی حفاظت ممکن نہیں ہے، تو درست اور جائز رہے گا۔

(۲) اگر قوم کے چندہ سے چوحدی یا تعمیر کرائی گئی ہے، اور چوحدی کے بعد دوسروں کے قبضہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ممبران کے نام کا پتھر لگانا ایک قسم کی دھوکہ دہی ہے، کہ غیر کے پیسے سے بنوا کر اپنی طرف منسوب کر دیا ہے! حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ومن ادعى ماليس له فليس منا، وليتوأ مقعده من النار. (صحيح مسلم، باب بيان حال إيمان من رغب

عن أبيه وهو يعلم، النسخة الهندية ۱/ ۵۷، بيت الأفكار رقم: ۶۱)

اور اگر ممبران اپنے ذاتی پیسے سے بنوا کر پتھر لگا رہے ہیں، تو جائز ہے، یا پتھر لگائے بغیر حفاظت ممکن نہیں ہے، تو بھی جائز ہے ورنہ نہیں!

نوٹ: آپ کا سوال واضح نہیں ہے، اس لئے اگر مگر کر کے جواب لکھنا پڑا کہ قبرستان ملکیت کا ہے یا موقوفہ ہے؟ تعمیر کس چیز کی ہے؟ چوحدی کس کے پیسے سے کی گئی ہے؟ سب

کی تفصیل لازم ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۳۴۷/۲۵)

خلاف شرع امور میں قبرستان کو استعمال کرنا

سوال: [۸۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)

محلہ اصالت پورہ ملحقہ بڑی مسجد ایک قدیم قبرستان جو باڑہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور قریش برادری کیلئے وقف ہے، جسکا رجسٹریشن نمبر ۹۲۰ ہے، جس میں کچھ لوگ اپنی گائے بھینس اور گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، جوٹی پیشاب کرتے ہیں۔

(۲) قبرستان میں گوبر کے ڈھیر لگا کر ذخیرہ کرتے اور پھر اسکو فروخت کرتے ہیں۔

(۳) غسل خانے، پاخانے اور ان کے گٹر بنوار کھے ہیں،

(۴) کمرے، زینے، چبوترے، بیٹھکیں اور گیرج بنوار کھے ہیں۔

(۵) ٹیپو و گھوڑے گاڑی وغیرہ کھڑے کرتے ہیں۔

(۶) میلے، ٹھیلے، کرکٹ اور کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں۔

(۷) پختہ و چوبی دکانیں بنوار کھیں ہیں، اور اس پر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں۔

(۸) اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ، فضلی، واینٹ، پتھر اور روڑے کے انبار لگا کر

قبرستان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

(۹) کمیٹی قریش برادری کے تعاون سے اسکی حفاظت کے واسطے باؤنڈری کرانا

چاہتی ہے۔

(۱۰) برادری اپنے بھرپور تعاون سے جلد از جلد باؤنڈری کرانا چاہتی ہے۔

(۱۱) لیکن مذکورہ ۸ تا ۱۰ چند لوگ یہ حیلہ ہائے حجت باؤنڈری کرانے کی مخالفت

کر رہے ہیں، انکا یہ عمل کیسا ہے؟

(۱۲) باؤنڈری کرانے والوں کا یہ پروگرام کیسا ہے؟ باؤنڈری کرانی چاہئے یا نہیں؟
ازراہ کرم شرعی حکم سے مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں؟

المستفتی: چودھری عتیق احمد قریشی، سکریٹری ۹۲۰، قبرستان

”باڑہ“ و جملہ برادران قریش اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان قوم اور برادری کے درمیان اللہ

کی امانت ہے، اس امانت میں کسی قسم کی خیانت ہوئی تو پوری برادری اس خیانت کی ذمہ دار ہوگی، سوال نامہ میں آٹھ چیزیں درج کی گئیں ہیں، گائے، بھینس، گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، ان کے پیشاب پاخانہ سے قبرستان میں گندگی ہوتی ہے، قبرستان کی زمین میں گوبر کا ڈھیر لگا کر اس کی فروختگی ہوتی ہے، غسل خانہ، پیشاب خانہ وغیرہ بناتے ہیں، نیز قبرستان کی زمین میں کمرے، زینے چبوترے، گیرج وغیرہ بنوائے گئے ہیں، ٹیپو، گھوڑا گاڑی وغیرہ قبرستان میں کھڑے کئے جاتے ہیں، اور کرکٹ، کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں، دوکانیں، مکان وغیرہ قبرستان میں بنائے گئے اور گھروں کا کوڑا کرکٹ، فضلات، اینٹ پتھر، روڑے وغیرہ قبرستان میں ڈال کر قبرستان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمام امور قبرستان میں جن کی تفصیل سوال نامہ میں درج ہے، ان میں سے کوئی بھی کام قبرستان کی حدود میں ناجائز اور حرام ہے، اور قبرستان کے حق میں خیانت ہے، اس لئے تمام برادری پر لازم ہے، کہ قبرستان کی باؤنڈری کرا کر قبرستان کو مذکورہ تمام امور سے محفوظ کر لیں ورنہ خدا کے یہاں برادری کے تمام ذمہ داروں سے سوال ہوگا، اور جو لوگ باؤنڈری کو منع کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، ان کو منع نہیں کرنا چاہئے، بلکہ کمیٹی کے کے ساتھ تمام برادری کو مل کر قبرستان کی باؤنڈری میں شریک ہونا چاہئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب سے حفاظت ہو جائے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۶/۴۱۴، کفایت المفتی قدیم ۷/۱۲۵، جدید مطول

۱۰/۵۱۷، محمودیہ ۳۰۳/۱، ڈیجیٹل ۳/۱۵، ۳۷۷، رجمیہ ۳/۱۷۸، جدید زکریا ۹/۵۲)

لأن شرط الواقف كنص الشارع . (درمختار علی شامی، زکریا ۶/۶۴۹،

کراچی ۴/۴۴۳)

لأنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة . (شامی، الوقف،

مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵)

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم

والدلالة. (قواعد الفقه اشرفی/۸۵، رقم: ۱۵۲)

شرط الواقف كنص الشارع مالم يكن مخالفا للشرع. (الموسوعة

الفقهية الكويتية ۳۶/۱۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ صفر ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۰۶۶/۳۵)

قبرستان کی جگہ حاصل کرنے کیلئے سڑک پر میت دفن کرنا

سوال: [۸۳۵۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

شیر پور میں ایک علاقہ کونڈوا کے نام سے معروف ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی کثیر ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے کوئی ایسا بڑا قبرستان نہیں ہے، جہاں مسلمان اپنے مردوں کی تدفین کا کام آسانی سے انجام دے سکیں، ایک انتہائی چھوٹا سا قبرستان ہے، لیکن وہ قانونی نہیں ہے، بس وہاں دفن کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کبھی بھی ختم کیا جاسکتا ہے، جس کے نتیجے میں سخت مشکلات و دشواریاں درپیش ہیں، مسلمان اپنے مردوں کی تدفین انتہائی دوردراز کے علاقوں میں کرنے پر مجبور ہیں، قبرستان کی جگہ کے حصول کیلئے وارڈ کے غیر مسلم کارپوریٹس بھی مسلمانوں کا بھرپور تعاون کر رہے ہیں، لیکن حکومت قبرستان کیلئے جگہ دینے میں ٹال مٹول اور ظلم سے کام لے رہی ہے، اس ظلم

اور ٹال مٹول کو ختم کرنے اور قبرستان کی جگہ کے حصول کے لئے ایک تدبیر اہلیان کو نڈوا کے ذہن میں ہے، وہ تدبیر یہ ہے کہ مسلمان بڑی تعداد میں ایک جنازہ کو لیکر کو نڈوا کی شاہراہ عام پر پہنچ جائیں اور بیچ سڑک پر قبر کھود کر مردے کو قبر میں اتار دیں اور یہ کہا جائے، کہ چونکہ ہمارے پاس قبرستان کیلئے جگہ نہیں ہے، اسلئے ہم اپنے مردوں کو سڑک ہی پر دفن کریں گے، اس موقع پر پولیس اور حکومت کے افسران بھی پہنچ جائیں گے، اور حکومت مسلمانوں کیلئے قبرستان کی جگہ کی فوراً منظوری دیدے گی، اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ مسلمان اپنے مردے کو سڑک پر دفن نہ کریں ایک صورت اس معاملہ کی یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ مسلمان سڑک پر کھودی گئی قبر میں کسی حقیقی مردے کو نہ اتاریں، بلکہ مصنوعی طور پر کسی چیز کا مردہ بنا لیں اور اسے ہی قبر میں دفن کریں، اس پورے عمل میں وارڈس کے غیر مسلم کارپوریٹس کا مسلمانوں کو پورا پورا تعاون حاصل رہے گا، اور وہ لوگ بھی اس عمل میں شریک رہیں گے، لیکن یہ حضرات اپنے طور پر کرنا نہیں چاہتے ہیں، کہ مبادا ہم مسلمانوں کے فائدہ کیلئے ایک کام کریں اور مسلمان ہی ہمیں بدنام کریں، کہ ہم نے ایک مسلم مردے کی توہین کی ہے، یہ تدبیر انتہائی مؤثر ہے، اور حکومت اسی موقع پر فوراً قبرستان کی جگہ دینے پر آمادہ ہو جائیگی تو کیا تدبیر کو اختیار کر سکتے ہیں، کیا ”الضرورات تبیح المحظورات، المشقة تجلب التيسير“ اور ”إذا ضاق الأمر تصح“، نیز ”إعلم أن الكذب قد يباح ويحب والضابط فيه كما في تعيين المحارم وغيره وعن الأحياء ان كل مقصود محمود، يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن امكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك المقصود وواجب ان وجب تحصيله“ جیسی عبارتوں سے اس کا جواز نکل سکتا ہے، اس سلسلہ میں حکم شرعی کو جلد از جلد واضح فرمائیں؟

المستفتي: محمد الیاس، اتیاز احمد،

مدرسہ بیت العلوم سروے نمبر ۴۲ رکونڈوا
خرد، اشوکا میوزک پیچھے، پونہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سڑک پر مردہ کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، شریعت میں قبروں کے اوپر سے چلنے پھرنے کی بھی ممانعت آئی ہے، اور سڑک پر دفن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تازہ قبر کے اوپر سے مسلم وغیر مسلم ہر شخص کا مسلسل روندتے ہوئے چلنا لازم آجائے گا، جو ایک مسلمان میت کی ہتک حرمت ہے، جس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی اور اس تدبیر کے اختیار کرنے سے یہ یقینی بھی نہیں ہے، کہ حکومت دباؤ میں آ کر مسلمانوں کا مطالبہ پورا کر دے اور فرضی قبر بنانے کی جو تدبیر پیش کی گئی ہے، یہ تدبیر بھی کامیابی تک پہنچ جائے ضروری نہیں ہے، اسلئے کہ مسلمانوں کو براہ راست حکومت سے مطالبہ کی جو بھی صورت ممکن ہو، وہ اختیار کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، علاقہ کے ایم پی منسٹر وغیرہ کے واسطے سے یہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اور سڑک پر دفن کی تدبیر کے سلسلہ میں جو اصولی جزئیات پیش کئے گئے ہیں، وہ اس صورت میں ہے، جس میں کسی مسلمان (زندہ یا مرہ) کی ہتک حرمت کا خطرہ نہ ہو، نیز منجانب حکومت مسلمانوں کی عزت پر حملہ کا خطرہ نہ ہو، اور جو تدبیر پیش کی گئی ہے، اس میں ہتک حرمت یقینی ہے، اور زندہ لوگوں کی عزت پر حملہ کا خطرہ بھی ہے، اسلئے کہ پولیس والوں کے ڈنڈے چلنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔

عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. (ترمذی، باب ماجاء فی كراهية تجصيص

القبور، والكتابة عليها، النسخة الهندية ۱/۲۰۳، دارالسلام رقم: ۱۰۵۲)

أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كره وطء القبر والعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه. (شامی، الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی احواء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، زكريا ۳/۱۵۴، كراچی ۲/۲۴۵، تبیین

الحقائک ، امدادیہ ملتان ۱/ ۲۴۶ ، زکریا ۱/ ۵۸۷ ، ہندیہ زکریا قدیم ۱/ ۱۶۶ ،
جدید ۱/ ۲۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ رجب ۱۴۳۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۷۶۸/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵/۷/۱۴۳۰ھ

کھیت میں واقع قبر پر مکان تعمیر کرنا یا کاشت کرنا

سوال: [۸۳۵۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک حاجی صاحب کو ان کے لڑکوں نے وصیت کے مطابق اپنی زمین میں مرنے کے بعد دفن دیا اور وہ کھیت کی زمین تھی، کچھ عرصہ کے بعد میرے والد صاحب کے ہاتھ ان لڑکوں نے وہ کھیت کی زمین مع قبر کے فروخت کر دی، والد صاحب نے قبر برابر کر کے اس کھیت کی زمین میں رہائش کیلئے مکان بنوایا تقریباً دو سال تک اس مکان میں رہے اسکے بعد والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھلایا علاج کرایا کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ بیماری بڑھتی رہی، حتیٰ کہ والد صاحب بہت کمزور ہو گئے، آخر کار ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ان کو کسی اچھے دیندار عامل کو دکھائیے، پھر سہارن پور کے ایک اچھے عامل کے پاس گئے، جو حضرت جی کے نام سے مشہور ہیں، انھوں نے کہا کیا کام کرتے ہو، والد صاحب نے جواب دیا مزدوری کرتا ہوں تو عامل صاحب نے کہا آپ مزدوری نہیں کرتے ہیں، بلکہ بزرگ حاجی نمازی آدمی کی قبر پھوڑتے ہیں، تو انھوں نے کہا ایسا ہے، جب تک آپ ان بزرگ کا حظیرہ نہیں چنوائیں گے، (پکی قبر بنوانا) تو آپ کی حالت ایسی ہی رہے گی، اسکے بعد والد صاحب نے گھر آ کر جہاں پہلے قبر بنی ہوئی تھی، دوبارہ اسی جگہ پکی قبر بنوادی اسکے بعد والد صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے، یہ قبر حویلی کے اندر ہے، پیر اور جمعرات کو اس میں چراغ جلاتے ہیں، اب پوچھنا یہ ہے کہ اس میں چراغ جلانا شریعت کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟

دوسری بات یہ پوچھنی ہے، اس قبر کو توڑ پھوڑ کے برابر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر توڑتے ہیں، تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟

المستفتی: عتیق الرحمن، بجنوری، نورپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مالک زمین نے اپنی ملکیت کی زمین پر اپنی قبر بنانے کی وصیت کی ہے، یہ شریعت کے مطابق درست اور صحیح ہے، لہذا قبر کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے قبر کی جگہ کو محفوظ کر کے اس سے ہٹ کر ہی تعمیر اور کھیتی کی جانی چاہئے، اس کے بعد وارثوں نے زمین فروخت کر دی ہے، تو خریدار کیلئے بھی اس قبر کا احترام باقی رکھنا ضروری ہے، اور اگر زمین کے بیچ میں قبر کی زمین آگئی ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کھیتی کرنی چاہئے، اور مکان بھی اس جگہ کو چھوڑ کر تعمیر کرنا چاہئے، اور یہی عمل خریدار کو بھی کرنا چاہئے، کہ قبر کی جگہ کو چھوڑ کر کھیتی کرے یا تعمیر کرے۔

عن جابر قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن تجصص القبور، وأن یکتب علیہا، وأن یسنی علیہا، وأن توطأ. (ترمذی، باب ماجاء فی کراہیۃ تجصیص القبور، والکتابة علیہا، النسخة الهندیة ۱/۲۰۳، دارالسلام رقم: ۱۰۵۲)

ویکره الجلس على القبور ووطؤه وحينئذ فما يصنع من دفنت حول أقراره خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة. (شامی، الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب فی اهداء ثواب القراءة، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا ۳/۱۵۴، کراچی ۲/۲۴۵، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۱/۲۴۶، زکریا ۱/۵۸۷، ہندیہ زکریا قدیم ۱/۱۶۶، جدید ۱/۲۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۴۷/۸/۹ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۴۷/۷/۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۱۱۸/۳۸)

پرانی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کرنا

سوال: [۸۳۵۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پرانی قبر جو بیٹھ گئی ہو، اور اوپر سے گڑھا نما نظر آتی ہو، تو کیا ایسی قبر پر اوپر سے مٹی ڈال کر درست کرنی چاہئے، یا درست نہیں کرنی چاہئے، کیا ایسی قبر درست کرنا واجب ہے یا بہتر ہے؟

المستفتی: شاہنواز احمد، مراد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو پرانی قبر بیٹھ گئی ہو اور اوپر سے گڑھا نما نظر آتی ہو، اس میں بے خیالی میں کسی کے گریزا بھی خطرہ ہو، تو اس پر مٹی ڈال کر برابر کر دینا جائز اور درست ہے، واجب نہیں ہے۔

عن مکحول قال: بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی قبر ابنہ ، إذا رأى فرجة فقال للحفار إئتني بمدرّة لأسدّها أما أنّها لا تضر ولا تنفع ؛ ولكن یقر بعین الحی . (مصنف عبد الرزاق ، الجنائز ، باب حسن عمل القبر ، المجلس العلمی ۳/ ۵۰۸ ، رقم : ۶۴۹۹)

إذا خربت القبور فلا بأس بتطينها كذا في التتار خانية، وهو الأصح، وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطی . (هنديہ ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز ، الفصل السادس ، زكريا قديم ۱/ ۱۶۶ ، جديد ۱/ ۲۲۷ ، حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، دارالكتاب ديوبند/ ۶۱۲ ، الفتاوى التتار خانية ، زكريا/ ۳/ ۷۲ ، رقم : ۳۷۳۷) فقط واللّه سبحانہ وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۴/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/ ۹۵۵۷)

قبر کی چوڑائی اور گہرائی کی مقدار

سوال: [۸۳۵۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبر کے اوپری حصہ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہئے؟ اور نیچے والے حصہ کی گہرائی کتنی ہونی چاہئے؟ شریعت کی رو سے وضاحت فرمائیں؟

المستفتی: یوسف، مہرولی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قبر کے اوپر کے حصہ کی چوڑائی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، ہاں البتہ گہرائی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نصف قد آدم کے برابر اس کی گہرائی ہو پھر اس کے بعد نیچے کا حصہ جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، اس کی گہرائی اتنی ہو جتنی میں میت کو اس میں آسانی کے ساتھ لٹایا جاسکے اور بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے، اوپر کے حصہ کی گہرائی بہت کم ہوتی ہے، اور نیچے کے حصہ کی گہرائی نصف قد آدم سے زیادہ کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔

وينبغي أن يكون مقدار عمق القبر إلى صدر رجل وسط القامة وكما زاد فهو أفضل ، وعرضه قدر نصف قامته . (عالمگیری ، الصلاة ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السابع ، زکریا جدید ۱/۲۲۷، قدیم ۱/۱۶۶)

وفي القهستانی وطوله على قدر طول الميت وعرضه على قدر نصف طوله . (شامی ، زکریا ۳/۱۳۹، کراچی ۲/۲۴۳، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، دارالکتاب دیوبند/۶۰۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳/۲۴۶، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۲۷۵، مصری قدیم ۱/۱۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۳۲۴)

مالک کی اجازت کے بغیر قبرستان میں میت دفنانا

سوال: [۸۳۵۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آراضی جس کا خسرہ ۶۱ بھورا کا آباء واجداد مالک ہوں جس میں لوگ زبردستی میری مرضی کے بغیر میری کمزور حالت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مردوں کو دفن کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی آراضی پر ایک مسجد پتین شہید ہے، اراکین مسجد مسجد کی توسیع جانب شمال کرنا چاہتے ہیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ لوگوں کا اس آراضی پر جبراً دفن کرنا اور اراکین مسجد کا مجھ سے اجازت لیکر قبروں کے اوپر لینٹر ڈال کر ان کی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے مسجد کی توسیع کرنا کیسا ہے؟ بالذات لائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب تحریر فرما کر ممنون ہوں!

المستفتی: مطلوب علی، کھوکھران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب قبرستان ذاتی ملکیت کا ہے، تو حرمت مسلم کو باقی رکھتے ہوئے انہیں خود تصرف کرنے کا حق ہے، اور اسی طرح دوسروں کو انہیں تصرف کیلئے اجازت دینا بھی جائز ہے، لہذا ایسی قبریں جن میں ابھی میت کا بدن یا ہڈیاں صحیح سالم باقی رہنے کا ظن غالب ہو، ان کو برابر نہ کر کے اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے اوپر لینٹر ڈال کر مالک کی اجازت سے مسجد کی تعمیر کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۱۲۲، جدید ذکر یا مطول ۱۰/۵۰۳)

وإذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالکها فالمالک بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت ، وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. (عالمگیری، الصلاة ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس ، زکریا قدیم ۱/۱۶۷، جدید ۱/۲۲۸)

ولو بلى الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه . (تبيين الحقائق، زکریا ۱/۵۸۹، امدادیہ ملتان ۱/۱۶۷، جدید ۱/۲۲۸)

موضع مسجد رسول اللہ ﷺ کان مقبرۃ للمشرکین فنبشت
واتخذت مسجداً . (قاضیخان ، زکریا جدید ۲۱۹/۳ ، وعلی ہامش الہندیۃ ۳/۳۱۳)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۶۸۰۰۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۶/۱۴۲۱ھ

قبر کھودنے کے دوران نکلی ہوئی لکڑی کا حکم

سوال: [۸۳۵۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
قبرستان کے اندر کی لکڑی دس بارہ کونٹھل ہے اس لکڑی کو کیا کرنا چاہئے یہ لکڑی قبروں کے اندر
کی نکلی ہوئی ہے؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبروں سے نکالی لکڑی صاحب قبر کے وارثین کی
ملکیت ہے لہذا ان تمام لوگوں کی رضامندی سے فروخت کر کے باتفاق رائے جہاں چاہے،
خرچ کریں، البتہ بہتر یہ ہے کہ قبرستان کے مصرف میں صرف کر دیں۔

رجل کفن میتا من مالہ ثم وجد الکفن فی یدرجل کان لہ (إلی قولہ)
وکذا لو کفن میتاً فافترسہ اسبع کان الکفن لہ لأنه بقی علی ملکہ الخ .

(قاضیخان ، الصلاة ، باب فی غسل المیت زکریا جدید ۱/۱۱۸ ، وعلی ہامش

الہندیۃ ۱/۱۹۰ ، المحيط البرہانی ، المجلس العلمی ۳/۶۸ ، رقم: ۲۴۳۰ ، البحر الرئق

کوئٹہ ۲/۱۷۸ ، زکریا ۲/۳۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ شعبان ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۴۱۳۹/۳۱)

عید گاہ کی قبریں برابر کرنا

سوال: [۸۳۵۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عید گاہ میں ایک قبر تھی، اب اس کو توڑنے کے بعد عید گاہ دوبارہ بنائی گئی ہے، اب اسکے اندر پانچ قبریں ہیں، جن کو زمین سے ملا دیا گیا ہے، کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مفصل جواب تحریر فرمائیں عین کرم ہوگا

المستفتی: محمد افسر علی قصبہ، ڈڑھیال، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وہاں اب دفن نہیں ہوتا ہے، اور موجودہ قبریں پرانی ہو چکی ہیں تو برابر کر کے عید گاہ میں نماز کی جگہ بنا لینا جائز ہے، اس میں نماز پڑھنے میں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

موضع مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مقبرة للمشرکین
فنبشت واتخذها مسجداً . (ہندیہ، الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات،
والمقابر، زکریا قدیم ۲/۶۹، جدید ۲/۶۱، قاضیخان، زکریا جدید ۳/۱۹، و علی
ہامش الہندیہ ۳/۳۱۳، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۴۴، رقم:
۱۱۴۱۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ شعبان ۱۴۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۹۲۶/۲۶)

قبرستان پر لینسٹر ڈال کر امام صاحب کیلئے کمرہ بنانا

سوال: [۸۳۶۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) میرا آبائی قبرستان مسجد سے ملحق ہے، اور مسجد کے امام کیلئے میں اور میرے اہل خانہ

قبرستان پر چھ فٹ اونچا لینٹر ڈال کر حجرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیا اس طرح حجرہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟

(۲) اور اس تعمیر شدہ حجرہ کی چھت پر نماز جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: سرفراز علی، مغلیوہ دوئم، پرنس روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر مذکورہ قبرستان قومی اور عامۃ المسلمین کا نہیں ہے، بلکہ سرفراز علی کے باپ دادا کی ملکیت ہے اور انھوں نے عامۃ المسلمین کیلئے وقف بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں سرفراز کو مذکورہ طریقہ سے لینٹر ڈال کر حجرہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ستون کسی قبر کے اوپر نہ آئے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۱۲۰/۷، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۰۶)

المالک هو المتصرف فی الأعیان المملوكة کیف شاء.

(بیضاوی ۷/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ صفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۶۲/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۲/۱۴۱۵ھ

قبروں سے نکالی گئی اینٹوں کا حکم

سوال: [۸۳۶۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کے اندر قبر کی دیوار کی بہت سی اینٹیں ہیں جس کی قیمت ہزاروں روپیہ ہے دیوار گر جانے کی وجہ سے ساری اینٹیں تتر بتر اور منتشر ہو گئی ہیں، اب اس قبرستان کو مٹی سے بھرنے کی سخت ضرورت ہے، لہذا ہم لوگ چاہتے ہیں، کہ وہ ساری اینٹیں نکال لیں اور اسی اینٹ کو فروخت کر کے قبرستان کے کام میں لے آویں، قبروں کی ساری اینٹیں نکال کر یا گری ہوئی اینٹیں نکال کر اس کو فروخت کرنا یا ان اینٹوں کو دیوار اور باؤنڈری میں لگانا جائز ہوگا یا نہیں؟

نوٹ: اگر اینٹیں نہیں نکالی گئیں تو مٹی بھرنے کی صورت میں ہزاروں روپیہ کی اینٹیں مٹی کے اندر دب کر ہزاروں روپیہ کی چیز کا نقصان ہوگا؟

المستفتی: محمد اولیس، سینٹا مٹھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر وہ اینٹیں وہیں کام میں لائی جاسکتی ہوں مثلاً چہار دیواری وغیرہ میں جیسا کہ سوالنامہ میں مذکور ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر وہاں کام میں نہ آسکتی ہوں اور ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اسکی بھی اجازت ہے، کہ فروخت کر کے اس کا پیسہ قبرستان کی دیگر ضروریات میں صرف کر لیا جائے۔

سئل عن وقف انهدم..... هل تباع أنقاضه من حجر وطوب و خشب
أجاب إذا كان الأمر كذلك صح بيعه . (شامی، الوقف، مطلب فی الوقف إذا
خرب ولم یکن عمارتہ، زکریا ۶/۵۷۳، کراچی ۴/۳۷۶، البحر الرائق، زکریا ۵/۳۶۸،
کوئٹہ ۵/۲۲۰، الفقہ الإسلامی وادلتہ، دار الفکر ۱۰/۷۶۷۴، ہدیٰ انٹرنیشنل
دیوبند ۸/۲۱۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۹۹۸/۳۵)

قبروں کو توڑ کر پختہ راستہ یا پیشاب کی نالی بنانا

سوال: [۸۳۶۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی قبروں کو توڑ کر چوکوں سے پختہ راستہ بنانا اور پیشاب کی نالی نکالنا اور قبروں پر دوکانیں بنانا اور مدرسہ کے لئے گڈھا کھودنا کیسا ہے؟

المستفتی: بخش الدین، محلہ بارہ داری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبروں کو توڑ کر پختہ راستہ یا پیشاب کی نالی یا دوکان یا گڈھا وغیرہ بنانا سب ناجائز ہے۔

عن جابر ، قال : نهى رسول الله ﷺ ، أن يخصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه . (صحيح مسلم ، الجنائز ، فصل فى النهى عن تخصيص القبر والبناء و عليه ، النسخة الهندية ۱/۳۱۲ ، بيت الافكار رقم: ۹۷۰)

عن جابر قال : نهى رسول الله ﷺ أن تخصص القبور ، وأن يكتب عليها ، وأن يبنى عليها ، وأن توطأ . (سنن الترمذى ، الجنائز ، باب ماجاء فى كراهية ، تخصيص القبور ، النسخة الهندية ۱/۲۰۳ ، دارالسلام رقم: ۱۰۵۲)

ويكره أن يبنى على القبور أو يقعد عليه أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط الخ . (تبيين الحقائق ، باب الجنائز ، مكتبه امداديه ملتان ۱/۲۴۶ ، زكريا ۱/۵۸۷ ، هنديه ، زكريا قديم ۱/۱۶۶ ، جديد ۱/۲۲۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/زیقہ ۲۰۰۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۳/۲۳۳)

قبرستان کے خادم کو معزول کرنا

سوال: [۸۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

قبرستان میں چراغاں کرنے والے خادم کو خدمت سے معزول کیا جاسکتا ہے، یا نہیں؟
المستفتی: عبدالمنان، کریم گنج، آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں مذکورہ خرافات کرنے والے خادم کو

نوراً ہٹا دینا ضروری اور لازم ہے، ورنہ بستی کے رہنے والے سب گناہ گار ہونگے، حدیث شریف میں آیا ہے:

فقال أبو سعید: أما هذا فقد قضی ما علیہ سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (صحیح مسلم، الإيمان، باب بیان كون النهی عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ۱/۵۰، بیت الأفكار رقم: ۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ شعبان ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۴/۸۳۳)

گانا بجانا اور عرس و قوالی کو ختم کرنے کی غرض سے قبر کو ڈھانا

سوال: [۸۳۶۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ولی زید نامی چند سال قبل انتقال فرما گئے اور ان کی قبر کے تعلق سے چند خرافات نمودار ہوئیں سارا مقبرہ عدم محفوظ ہونے کے باوجود ان کی قبر کی انتہائی حفاظت حتیٰ کہ اوپر سے بند کی ہوئی ہے، اور ہر تزیینات سے مزین ہر روز قبر کی دیوار پر بتیاں جلائی جاتی ہیں، ایک خادم خالد نامی متعین ہے، جو قبر کے پاس گھر بنا کر رہتا ہے، اسکی بیوی قبر کی تعظیم میں مشرکانہ طرز اختیار کرتی ہے، ہر سال معینہ دن و اوقات میں مختصر ساعرس ہوتا ہے، جس میں بے شمار غیر شرعی باتیں ہوا کرتی ہیں، ہر ہفتہ میں خادم کے یہاں گانے بجانے کیساتھ نام نہاد عبادت بندگی نمائش ہوا کرتی ہے، مسئلہ اب تک سنگین نہیں ہے، اگر توجہ کی جائے، تو یہ خرافات بند کی جاسکتی ہیں۔

المستفتی: عبدالمنان کریم گنج، آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبر کی دیوار پر بتیاں و چراغ جلانا، قبر کی تعظیم میں

مشترکاً نہ طرز اختیار کرنا مثلاً بوسہ دینا سجدہ کرنا طواف کرنا، قبر کے پاس ہر سال عرس کرنا فتاویٰ، گانا وغیرہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ (امداد الفتاویٰ/۲۵۴، کفایۃ المفتی جدید مطول ۲/۲۶۸، رشیدیہ ۱۰۹/۱، فتاویٰ عزیزیا/۱۰۴، احسن الفتاویٰ/۴/۱۸۹)

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. (سنن الترمذی، باب ماجاء فی کراهیة أن یتخذ علی القبر مسجداً، النسخة الهندیة ۱/۷۳، دار السلام رقم: ۳۲۰، مسند أحمد بن حنبل ۱/۲۲۹، رقم: ۲۰۳۰، ۲۶۰۳، ۲۹۸۶، ۳۱۱۸)

لايجوز مايفعله الجهال بقبور الأنبياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد إليها ومن الاجتماع بعد الحول وليتمونه عرساً الخ. (تفسير مظهری، زکریا؟ فتاویٰ احياء العلوم ۱/۱۷۶، تبليغ الحق ۷/۸۰۷، بحواله فتاویٰ محمودیہ ۱/۲۱۹، ذابھیل ۳/۴۳، ۲)

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ شعبان ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۸۳۳/۲۴)

قبرستان میں تالا لگا کر فاتحہ پڑھنے سے روکنا

سوال: [۸۳۶۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں تالا ڈالکر مدفون کے اعزاء کو قبور پر فاتحہ پڑھنے سے روکنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟
المستفتی: محمود حسن خاں، گھیر سعید خاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر تالا ڈالنے والے کی ملکیت کا قبرستان ہے، تو اس کو اسکا اختیار ہے، اعزاء گھر بیٹھ کر یا باہر سے فاتحہ پڑھکر ثواب پہنچایا کریں، ثواب ہر حال میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر قبرستان موقوفہ ہے، تو متولی وغیرہ کو بلا ضرورت تالا ڈالکر

بندر رکھنے اور اعزاء کو برائے زیارت جانے آنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، اگر واقف کی طرف سے اسکی اجازت تھی، تو متولی کو غرض واقف کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔

إن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ . (شامی، الوقف، مطلب مراعاة غرض

الواقفين واجبة، کوئٹہ ۳/۴۶، کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۳۲۳۷)

شیعہ خواجہ چودھری کے عقائد رکھنے والے کو اہل سنت کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟

سوال: [۸۳۶۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عقیدہ

شیعہ خواجہ بوہری ان حضرات کو مسلمانان اہل سنت والجماعت کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟ اگر ان میں سے کسی کو لاعلمی کی وجہ سے دفن کر دیا گیا بعد میں عقیدہ کا علم ہوا تو یہ امر عند الشرع کیسا ہے؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: میاں ماہمکر، مقام پاپڑی، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر وہ ایسا شیعہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لگ چکا ہے

اور بوہری اور آغا خان پر کفر کا حکم لگ چکا ہے، تو اس کو سنت طریقت سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہئے تھا، لیکن جب دفن کے بعد علم ہوا ہے، تو مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی دفن شدہ کو قبر سے نکالنا درست ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۱/۲۸۸، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۰۹)

وإن أהלوا التراب عليه لم يخرج . (الفتاویٰ التاتارخانیہ زکریا ۳/۸۰، رقم:

۳۷۶۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/زیقعدہ ۱۴۱۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۳۵۰۶۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱/۱۱/۱۴۱۱ھ

زارین قبور کے فائدہ کیلئے قبرستان میں اپنے مکان کا چھجہ نکالنا

سوال: [۸۳۶۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا گھر قبرستان کے برابر میں ہے، مکان بہت چھوٹا ہے، قبرستان کی ایک انچ جگہ بھی میرے گھر میں نہیں ہے، میں اپنے مکان کا چھجہ دو یا تین فٹ کا قبرستان میں نکلوانا چاہتا ہوں، جس سے میرے مکان کی چھت تھوڑی بڑی ہو جائیگی، اور جو لوگ قبرستان میں دعا کرنے یا کسی کو دفن کرنے آتے ہیں، وہ لوگ بھی نیچے برسات میں اس کے نیچے کھڑے ہو جایا کریں گے، ہم چھجہ اسلئے نکلوارہے ہیں، کہ ہمارے مکان کی جگہ نیچے سے کم ہے تاکہ لینٹریڈال کر تھوڑی اوپر سے بڑی جگہ ہو جائیگی، ہم چار بھائی دو بہنیں ہیں، والد والدہ اب سے دس سال پہلے گذر چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، جو ہمارا ساتھ دے سکے ہماری آمدنی بھی اتنی نہیں ہے، جو ہم دوسرا مکان خرید سکیں، ہم سب بھائیوں کو اسی تھوڑی جگہ میں ہی گزارا کرنا ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمیں چھجہ نکالنے کی اجازت دیدیتجئے، وہ قبرستان ہمارے پردادا کے سر کا ہے؟

المستفتی: منصور احمد، مغلیہ پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں کسی کیلئے اپنے مکان کا چھجہ نکالنا جائز

نہیں، چاہے اس سے بارش یا دھوپ میں سایہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہو تب بھی جائز نہیں۔

لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد

أن يملكها الخ. (عمدة القاری، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاہلیة

ویتخذ مکنانها مساجد، داراحیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹، زکریا ۳/ ۴۳۵، تحت رقم

الحديث/ ۴۲۸، فتح الملهم، کتاب المساجد اشرفیہ ۲/ ۱۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۸۸۰۳۶)

قبرستان کی چہار دیواری میں سودی و حرام کمائی کی رقم لگانا

سوال: [۸۳۶۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کویر گاؤں میں جو شہر سے متصل ہے، مسلم قوم کیلئے قبرستان کی جگہ موجود ہے، جس کا کسی بھی قسم کا حفاظتی انتظام نہیں ہے، اور چاروں طرف سے جگہ خالی ہونیکے وجہ سے غیر لوگوں کی آبادی بستی چلی آرہی ہے، اسلئے اس کی حفاظت کی خاطر کمپاؤنڈ بنوانے کا مشورہ ہوا ہے، لہذا اس کمپاؤنڈ کی تعمیر کا خرچ بہت بڑا ہے، اسلئے اسکی تعمیر میں کون کون سی مدکی رقم لگا سکتے ہیں، کیا اس میں سود کی رقم نمبر ۲ کے کاروبار کی رقم لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ٹی وی کیبل کے ذریعہ جو آمدنی ہوتی ہے، کیا وہ رقم اس کام میں لگا سکتے ہیں؟ مسئلہ کی مع الدلیل وضاحت فرمائیں؟ عنایت ہوگی؟

المستفتی: بشیر احمد، کویر گاؤں، احمد نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کی حفاظت کیلئے چہار دیواری اور کمپاؤنڈ بنانا شرعی طور پر جائز اور درست ہے، لیکن اس میں حلال اور پاک پیسہ لگانا لازم ہے، سود کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، اور نمبر دو کے کاروبار سے کیا مراد ہے، اس کو واضح کیجئے، اس کے بعد حکم شرعی واضح کیا جاسکتا ہے؟ اور ٹی وی کیبل کے ذریعہ آمدنی یہ ناچ گانے کی اجرت ہے، اس کا پیسہ بھی وہاں لگانا جائز نہیں ہے، علاقہ کے لوگ اپنے پاک پیسہ سے کمپاؤنڈ بنائیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ۱۵/ ۳۰۳، جدید ڈائجیل ۱۵/ ۳۸۳)

أمالو أنفق في ذلك مالا خبيثاً وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره
 لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله . (شامی، الصلاة، باب
 ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، قبيل مطلب في افضل المساجد، زكريا ۲/ ۴۳۱، كراچی
 ۶۵۸/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۷۸۹۲/۳۶)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۳/۱۲۸ھ

قبرستان کی جالی دار باؤنڈری کو ختم کرنا

سوال: [۸۳۶۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 قبرستان کی باؤنڈری کے اندر ایک قبر ایسی ہے، کہ اسکی چاروں طرف دور دور تک جالی دار
 باؤنڈری قائم ہے، اور اس بونڈری کے اندر تین قبریں بن سکتی ہیں، اور یہ ۵۵ رسال پہلے کی
 ہے، کیا اس جالی دار باؤنڈری کو ختم کرنے کی اجازت ہے، تاکہ اس میں اور بھی قبریں بن سکیں،
 یاد رہے کہ یہ قبرستان وقف کا ہے، کسی کی اپنی ملکیت کا نہیں ہے، اور جالی دار باؤنڈری بھی کسی
 کی ملکیت نہیں ہے، حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں؟ نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد اسلم، ضیاء الحسن،
 بھوڑسرکونی، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان میں علاقہ کے ہر فرد کی تدفین
 جائز اور درست ہے، اور جس قبر کے چاروں طرف جالی بنا کر تین چار قبروں کی جگہ گھیر لی
 گئی ہے یہ ایک قسم کا موقوفہ قبرستان کے حصہ پر قبضہ کرنا ہے، جو شرعاً درست نہیں ہے،
 لہذا جالیوں کو ختم کر کے اس حصہ میں جو جگہ خالی ہے، اس میں دوسرے مردوں کو دفن کرنے

کا موقع دینا ضروری ہے۔

لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها . (عمدة القاری ، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة ویتخذ مکانها مساجد، دار احیاء التراث العربی ۴/ ۱۷۹، زکریا ۳/ ۴۳۵، تحت رقم الحدیث: ۴۲۸، فتح الملهم ، کتاب المساجد ، اشرفیہ ۲/ ۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸/رب ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۱۷/۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۷/۱۸ھ

۱/ الفصل الأول: فی المکروہ والمستحب

قبرستان میں درخت لگانا

سوال: [۸۳۷۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں پیڑ لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر قبرستان میں پیڑ ہوتے ہیں، تو بہت سہولت ہوتی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اسی قبرستان سے پیڑ کاٹ کر وہیں پر قبر میں پائین ڈال دیتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ قبرستان میں پیڑ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قبرستان میں پیڑ ہوں تو ان کو کاٹ کر اسی قبرستان میں جو مردے دفن ہوتے ہیں، ان پر وہ کڑی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: عبدالرشید قاسمی،
مقام وپوسٹ: سیڈھا، ضلع: بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جی ہاں اسی قبرستان کی ضروریات اور دفن میت کی ضرورت کیلئے پیڑ لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (مسئدنا: کفایت المفتی قدیم ۱/۲۱، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۱۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۴/۱۴۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۴۲۵/۲۹)

قبرستان میں رہائش گاہ بنانا

سوال: [۸۳۷۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں رہائش گاہ کرنا اور رہائش کا گندہ پانی قبرستان میں بہانا یا قبرستان میں قبروں

پر راستہ بنا کر جانا یا قبروں پر بھاگنا پتنگ بازی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل تحریر کریں؟

المستفتی: حنیف خاں، مغلیہ روہ اول
و منظمہ کمیٹی، قبرستان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں رہائش گاہ بنانا اس میں چلنا پھرنا پتنگ بازی کرنا اور قبروں پر سے راستہ بنانا اس میں دوڑنا بھاگنا سب امور ناجائز ہیں، اور سخت گناہ کا باعث ہے۔

عن جابر قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن تجصص القبور، وأن یکتب علیہا، وأن ینبئ علیہا، وأن توطأ. (سنن الترمذی، الجنائز، باب ماجاء فی کراہیۃ،

تجصیص القبور، النسخة الهندیة ۱/۲۰۳، دار السلام رقم: ۱۰۵۸)

والموقوفة فیحرم فیہا البناء مطلقاً. (کتاب الفقہ ۱/۵۳۶)

ویکفرہ أن ینبئ علی القبر أو یقعد أو ینام علیہ أو یوطأ علیہ الخ.

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس

فی القبر والدفن زکریا قدیم ۱/۱۶۶، جدید ۱/۲۲۷)

و کرہ أبو حنیفۃ أن یوطأ علی قبر أو یجلس علیہ أو ینام علیہ. (بدائع

الصنائع، قبیل فصل فی الشہید قدیم ۱/۳۲۰، جدید زکریا ۲/۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴ھ/۲۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

یکم ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۸۹/۲۹)

قبر کے ارد گرد چہار دیواری بنوانا

سوال: [۸۳۷۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبروں

کے اردگرد چہاردیواری حفاظت کیلئے بنوانا کیسا ہے؟

(۲) اگر چہاردیواری بنوادی گئی ہو تو کیا اس کو توڑ جائے یا نہیں؟

المستفتی: محمد واحد، محلہ لوہانی، قصبہ پہانی، ضلع: ہردوئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) قبروں کے اردگرد چہاردیواری بنانا مکروہ اور

ممنوع ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم/۵/۳۷۷، احسن الفتاویٰ/۴/۱۸۹)

(۲) اگر چہاردیواری کو توڑ دینے سے کسی قسم کے فتنہ اور اختلاف کا خطرہ نہ ہو تو ختم

کردینا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم/۵/۳۷۸)

عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يخصص

القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه . (صحيح مسلم ، الجنائز ، فصل فى النهى

عن تخصيص القبر والبناء وعليه ، النسخة الهندية ۱/ ۳۱۲ ، بيت الافكار رقم : ۹۷۰ ،

سنن الترمذی ، الجنائز ، باب ماجاء فى كراهية تخصيص القبور الخ ، النسخة الهندية

۱/ ۲۰۳ ، دارالسلام رقم : ۱۰۵۸)

فى غريب الخطابى : أنه نهى عن تخصيص القبور وتكليلها ،

التفصيص التفصيص والتكليل بناء الكلل وهى القباب والصوامع التى

تبنى على القبور . (تاتارخانية ، زكريا ۳/ ۷۲ ، رقم : ۳۷۳۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۳/۵/۲۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۱۴/۲۹)

قبروں کی توڑ پھوڑ کے ذریعہ بے حرمتی کرنا

سوال: [۸۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر

قبروں کو توڑا جائے اور انکا نشان مٹایا جائے، تو اس عمل سے کس حد تک بے حرمتی و بے عزتی کیوریا مردے جو ان میں دفن ہیں، ان کی شرعاً ہوتی ہے؟

المستفتی: محمود حسن خاں، ساکن مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح موقوفہ قبرستان کی قبروں کو توڑ کر مسما کر دینا ناجائز اور حرام ہے، جس طرح زندہ مؤمن کی بے عزتی اور بے حرمتی ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح مردہ مؤمن کی بھی ناجائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱/۱۳۴، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۲۱)

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. (ابن ماجه، باب في النهي عن كسر عظام الميت، النسخة الهنديه ۱/۱۱۶، دارالسلام رقم: ۱۶۱۶)

قال الطيبي: فيه إشارة إلى أنه لا يهان الميت كما لا يهان الحي. (مرقاة المفاتيح، امداديه ملتان ۴/۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۶۴/۲۴)

قبرستان میں جو تاپہن کر چلنا

سوال: [۸۳۷۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

قبرستان میں جو تاپہن کر جانا کیسا ہے؟

المستفتی: شمیم احمد ولد حاجی نبی حسین،

محلہ: اللبابغ، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں اگر قبروں سے بچتے ہوئے چلتا ہے، تو جوتے پہن کر اور برہنہ پیر دونوں طرح بلا کر اہت جائز ہے، اور اگر قبروں کے اوپر پیر رکھ کر چلتا ہے، تو مکروہ ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۴۲۱، جدید ڈائجیل ۱۵/۳۹۳)

والمشی فی المقابر بنعلین لایکرہ عندنا کذا فی السراج الوہاج .

(ہندیہ، الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس فی القبر والدفن زکریا قدیم ۱/۱۶۷، جدید ۱/۲۲۸)

ولایکرہ المشی فی المقابر بالنعلین عندنا . (حاشیۃ الطحطاوی علی

مراقی، فصل فی زیارۃ القبور، دارالکتاب دیوبند/۶۲۰)

کمرہ و طہا بالاقدام . (حاشیۃ الطحطاوی، دارالکتاب دیوبند/۶۲۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۱۲/۱۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۲۵۱۱/۲۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۲ھ

قبرستان میں جوتے چیل پہن کر چلنا

سوال: [۸۳۷۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بعض

مقامات پر قبرستان میں قبروں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے، اور قبرستان خس و خاشاک سے بھی صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دفن میں شریک ہونے والے مع جوتوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، اسی طرح جو حضرات ایصال ثواب کیلئے قبرستان جاتے ہیں، وہ بھی جوتے پہنکر ہی جاتے ہیں، اسلئے دریافت یہ کرنا ہے، کہ جوتے چیل وغیرہ پہن کر اس طرح کے قبرستان میں جانا درست ہے، یا نہیں؟

المستفتی: خلیل احمد، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں جوتے چپل پہن کر چلنا درست ہے، لہذا دفن کرنے والے حضرات کا خس و خاشاک کی وجہ سے اسی طرح ایصال ثواب کرنے والے حضرات کا قبرستان میں جوتے چپل پہن کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قال فی شرح السنة يجوز المشی بالنعل فی القبور . (مرقاۃ، کتاب

الإیمان ، باب اثبات عذاب القبر ، الفصل الأول ، امدادیہ ملتان ۱/۹۸)

وفیہ جواز لبس النعل لزائر القبور الماشی بین ظهرانیہا . (عمدۃ

القاری ، کتاب الجنائز ، باب المیت یسمع خفق النعال ، داراحیاء التراث

العربی بیروت ۸/۱۴۷ ، ذکر یا ۶/۲۰۲)

والمشی فی المقابر بنعلین لایکرہ عندنا کذا فی السراج الوہاج .

(ہندیہ ، الصلوٰۃ ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز ، الفصل السادس فی القبر والدفن ،

ذکر یا قدیم ۱/۱۲۷ ، جدید ۱/۲۲۸)

ولا یکرہ المشی فی المقابر بالنعلین عندنا . (حاشیۃ الطحطاوی علی

المراقی ، فصل فی زیارۃ القبور ، دارالکتاب دیوبند/۶۲۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۵/۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۷۳/۸۰۶۳)

قبرستان میں جانور چرانا اور عورتوں کا جانا

سوال: [۶/۸۳۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

ہمارے شہر ہردہ کے قبرستان میں چوکیدار کے جانور چرتے ہیں، جو قبروں کو روندتے اور نجاست کر دیتے ہیں، اسی طرح چوکیدار کے گھر کی اور کچھ دوسری عورتیں پانی بھرنے اور دیگر

ضروریات کے لئے قبرستان میں آتی ہیں، دریافت طلب امور یہ ہیں کہ

(۱) کیا جانوروں کا قبرستان میں اس طرح کھلا چھوڑ دینا جائز ہے؟

(۲) عورتوں کا قبرستان میں پانی بھرنے اور دیگر ضروریات کیلئے جانا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی: معراج حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں اس طرح جانوروں کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا کہ وہ جانور چرتے ہوئے قبرستان کو روندتے رہیں، یہ قبروں کے احترام کے خلاف ہے، اس لئے فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ (مستفاد: کفایۃ المفتی جدید زکریا مطول ۱۰/۵۱۷)

عن جابر قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن تجصص القبور، وأن یکتب علیہا، وأن ینبئ علیہا، وأن توطأ. (سنن الترمذی، الجنائز، باب ماجاء فی کراہیة، تجصیص القبور، النسخة الهندیة ۱/۲۰۳، دارالسلام رقم: ۱۰۵۸)

و کرہ و طؤھا بالأقدام لأن فیہ من عدم الاحترام. (مراقی الفلاح مع الطحطاوی، فصل فی زیارة القبور، قدیم ۳۴۲/، جدید دارالکتاب دیوبند ۶۲۳)

مقبرة قديمة بمحلة لم یبق فیہا، آثار المقبرة هل یباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر: لا یباح قیل له: فإن كان فیہا حشیش؛ قال یحش فیہا ویخرج إلى الدواب فذلک أیسر من دخول الدواب. (تاتارخانیة، زکریا ۸/۱۹۰، رقم: ۱۱۶۰۱)

(۲) عورتوں کو پانی بھرنے کیلئے قبرستان جانے کی بات واضح نہیں ہو پائی کہ قبرستان میں پانی بھرنے کیلئے جانے کا کیا مطلب ہے، اگر اس سے یہ مراد ہے، کہ محلہ میں پانی بھرنے کا نظم نہیں ہے، اور پانی کا نل قبرستان میں موجود ہے، اور غریب گھرانوں کی عورتیں اس نل سے پانی بھرنے کیلئے قبرستان جاتی ہیں، تو اگر قبروں سے بچتے ہوئے نل تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو اس راستہ سے ہو کر غریب گھرانے کی عورتوں کا وہاں جا کر پانی بھرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ولو وجد طریقاً فی المقبرة وهو یظن أنه طریق أحد ثوبه وتحتہ

الأموات لايمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره لا بأس بأن يمشي فيه .
 (مراقی الفلاح مع الطحاوی قدیم ۲/۳۴، جدید دارالکتاب دیوبند/۶۲۳، فتاویٰ قاضی
 خان، الصلوة، بیان أن النقل من بلد إلى بلد مکروه، جدید زکریا ۱/۲۲، وعلی هامش
 الهندية، زکریا ۱/۱۹۵، تاتار حانية زکریا ۳/۷۳، رقم: ۳۷۴۰)

یکره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلى
 بوطء قبر ترکه . (شامی، باب الجنائز، مطلب فی إهداء ثواب القراءة للنبي ﷺ،
 کراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۱/۱۱/۱۴۳۱ھ

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/زیقعدہ ۱۴۳۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۲۱۰/۳۹)

قبرستان میں جانور چرانا اور کرکٹ وغیرہ کھیلنا

سوال: [۸۳۷۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
 (۱) مسلمانوں کے قبرستان میں جانوروں کا چرانا اور کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ
 جیسے کھیل کو دکرنا کیسا ہے؟

(۲) خرید و فروخت کرنا اور بے تکلف نشست گاہ بنانا اور حدود قبرستان یعنی کناروں
 پر پاخانہ کوڑیاں اور عام مسلمانوں کی کوڑیاں ڈالنا کیسا ہے؟ اور قبرستان میں عام راستہ بنانا
 جس میں عورتیں بھی اور سواریاں بھی گذرتی ہیں۔

(۳) لکڑی اور گھاس وغیرہ سے جو آمدنی قبرستان کو ہوتی ہے، اس کو مدرسہ پر
 خرچ کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح مذکورہ چیزوں کو دیکھ کر ان پر نکیر نہ کرنا اور ذمہ داران
 حضرات کا تماشا بنے رہنا کیسا ہے؟

المستفتی: جمیعۃ الخفاظ، والعلماء، شریف نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۲-۱) قبرستان میں جانوروں کو چرانا، کرکٹ اور دیگر کھیل کود کرنا بے تکلف نشست گاہ بنانا، خرید و فروخت کرنا، اور قبرستان کے کناروں پر پاخانہ اور دیگر گندگی ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قبرستان میں عام راستہ بنانا جائز نہیں، ان سب چیزوں سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا ان سب افعال سے کلی اجتناب کیا جائے۔

مقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر: لا يباح قيل له: فإن كان فيها حشيش؛ قال يحش فيها ويخرج إلى الدواب فذلك أيسر من دخول الدواب. (تاتارخانية، زكريا ۸/۱۹۰، رقم: ۱۱۶۰۱)

فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها. (عالمگیری، کتاب الوقف، الباب الثانی عشر الرباطات والمقابر الخ، زکریا قدیم ۲/۴۷۱، جدید ۲/۴۱۶، البحر الرائق بخصل فی أحكام المساجد، زکریا ۵/۲۶، کوئٹہ ۵/۲۵۴)

عن ابن مسعود^{رضي} يقول: لأن أظأ على جمرة أحب إلي من أظأ على قبر رجل مسلم. (المعجم الكبير للطبرانی، دار احیاء التراث العربی بیروت ۹/۳۲۱، رقم: ۹۶۰۵)

ويكره أن يوطأ على القبر يعني بالرجل أو يقعد عليه أو يقضى عليه حاجته. (تاتارخانية، زكريا ۳/۷۳، رقم: ۳۷۴۰، شامی، باب صلوة الحنازة، مطلب فی اهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم كراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۴)

(۲) قبرستان کی آمدنی کو قبرستان میں ہی میں خرچ کرنا چاہئے، ہاں البتہ اگر قبرستان کو اس آمدنی کی ضرورت نہیں ہے، تو قبرستان کے ذمہ داروں کے متفقہ مشورہ سے دینی مدرسہ پر اس پیسہ کو خرچ کرنا جائز ہے۔

حطب نبت فی المقبرة ثمنه يصرف في مصالح المقبرة. (تاتارخانية،

سوال کے پہلے جز میں مذکورہ چیزوں سے روکنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص قبرستان کے ذمہ دار حضرات کو ان پر روک لگانی چاہئے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کاتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ رجب ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۴۸۰۶۳۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵ھ/۷/۸

قبرستان کو راستہ اور کھلیاں بنانا

سوال: [۸۳۷۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قبرستان ہے جس میں پہلے سے راستہ نہیں تھا، بعد میں راستہ بنا دیا گیا، اور جب قبروں کے نشانات ختم ہو چکے، تو اس کو کھلیاں بنالیا گیا، جس میں دوئی بھی ہوتی ہے، اب اس صورت میں قبرستان سے گذرنا اور دوئی کرنیکا شرعا کیا حکم ہے؟

المستفتی: نظام الدین، گورکھپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قبرستان کو راستہ بنا کر گذرنا اور کھلیاں بنا کر آسمیں دوئی وغیرہ کرنا سب ناجائز ہے ایسا کرنے والے سب گناہ گار ہوں گے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ایسی حرکتوں سے لوگوں کی روک تھام کریں۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۱۲۰، ۷/۱۲۳، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۰۸، ۵۱۷)

عن أبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول: من رأى منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فیلسانہ الخ. (السنن الکبریٰ للبیہقی، الغضب، باب نصرۃ المظلوم، دار الکتب العلمیۃ بیروت ۶/۱۵۸، رقم: ۱۱۵۱۳)

ویکفرہ أن ینسئ علی القبر أو یقعد أو ینام علیہ أو یوطأ علیہ الخ.
(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس)

فی القبر والدفن زکریا قدیم ۱/۶۶، جدید ۱/۲۲۷، بدائع الصنائع، قبیل فصل فی الشہید قدیم ۱/۳۲۰، جدید زکریا ۲/۶۵)

فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام الخ.

(شامی، باب صلوة الجنائز، قبیل مطلب فی وضع الجرید ونحو الأس علی القبور، کوئٹہ ۱/۶۶، کراچی ۲/۴۵، زکریا ۳/۱۵۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۔۔ ۱۴۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۷۹۴/۲۴)

قبرستان میں گاڑیاں چلانا، گھر بنانا، کرکٹ وغیرہ کھیلنا

سوال: [۹۷۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱)

- کیا قبرستان میں ٹرک اسکوٹر سائیکل رکشہ چلایا جاسکتا ہے؟
- (۲) کیا قبرستان میں قبروں پر دوکانیں بنوا کر سودا فروخت کیا جاسکتا ہے؟
- (۳) کیا قبروں پر رہنے کیلئے مکان تعمیر کیا جاسکتا ہے؟
- (۴) قبروں پر کھیل کود کرکٹ وغیرہ کھیلا جاسکتا ہے؟
- (۵) قبروں پر بیٹھ کر کچھ لوگ دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
- (۶) قبروں پر گھروں کا گنڈا کوڑا اینٹ روڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟
- (۷) قبروں پر جانور باندھ دیتے ہیں، وہ جانور گوبر قبروں پر کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں؟ عین نوازش ہوگی؟

المستفتی: محمد انیس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) قبرستان میں ٹرک اسکوٹر یا سائیکل رکشہ وغیرہ

چلانا یا اس کو گنڈا رگا بنانا جائز نہیں۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم/۱۲۳، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۱۲)

وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غير ه هل تجوز زراعتها واستغلالها؟ قال : لا ، ولها حكم المقبرة. (تاتار خانية، زكريا ۸/۱۸۹، رقم: ۱۱۶۰۰، هندیہ زکریا قدیم ۲/۴۷۰، ۴۷۱، جدید ۲/۴۱۶)

(۲) قبروں پر دوکانیں بنوانا اور وہاں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۷/۱۲۰، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۰۸، امداد الفتاویٰ ۲/۵۷۹) ولایحوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة الخ. (البحر الرائق، کتاب الوقف، فصل فی احکام المساجد، کوئٹہ ۵/۲۵۴، زکریا ۵/۴۲۶)

(۳) قبرستان کی زمین میں مکان تعمیر کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ۶/۴۲۴، امداد الفتاویٰ ۲/۵۷۹)

الموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً الخ. (کتاب الفقہ ۱/۵۳۰) (۴-۵) قبروں پر کھیل کود کرنا اور ان پر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ (۶-۷) قبروں کا احترام کرنا ضروری ہے، وہاں گندگی کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالنا اور جانوروں کو باندھنا جائز اور حرام ہے۔ (کفایت المفتی قدیم ۷/۱۲۶، جدید زکریا ۱۰/۵۱۸) ويكره القعود والنوم على القبر ويحرم البول والغائط ونحوهما. (کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۵۳۶)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۰۳۸۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۵/۱۴۱۷ھ

قبرستان میں ٹریکٹر ٹرائی کے ذریعہ سے مٹی کا بھراؤ کرنا

سوال: [۸۳۸۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قبرستان ہے، جس میں موسم برسات میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعض حصہ میں قبریں ہیں، بعض میں نہیں، لہذا منظمہ کمیٹی نے قبرستان کی اصلاح کیلئے مٹی ڈال کر بھراؤ کا کام شروع کر دیا ہے، مٹی بذریعہ ٹریکٹر ٹرائی اندر قبرستان میں لائی جاتی ہے، جس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس طرح مٹی لانا درست ہے، یا نہیں؟ جو صورت بھی ہو رہنمائی فرمائیں؟

المستفتی: منظمہ کمیٹی، موقوفہ قبرستان، دھا پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں مٹی لیجانے کی اگر کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو ٹریکٹر ٹرائی کے ذریعہ قبرستان میں مٹی لیجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایسی جگہ سے ٹرائی گزاری چاہئے، جہاں قبریں نہ ہوں یا قبریں نمایاں نہ ہوں۔

لا یوطأ القبر إلا لضرورة. (شامی، الصلوٰۃ، باب صلوة الجنازة، مطلب فی

الاهداء ثواب القراءة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۴)

إذا بلی المیت وصار ترابا یجوز زرعه والبناء علیہ ومقتضاه

جواز المشی فوقہ. (شامی، کراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۵، ہندیہ، زکریا قدیم

۱/۱۶۷، جدید ۱/۲۲۸)

وإذا خربت القبور فلا بأس بتطینہا. (تاتار خانیہ، زکریا ۳/۷۲، رقم:

۳۷۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۸۸۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۱۵ھ

قبرستان کی صفائی کیلئے ٹریکٹر چلوانا

سوال: [۸۳۸۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک پرانا قبرستان ہے، جس میں فی الحال تدفین نہیں ہو رہی ہے، وہ قبرستان اونچا نیچا ہے، اور جھاڑ پھوس بہت جنگل کی طرح ہے، لوگوں کا مشورہ ہے کہ اس کی صفائی کیلئے اس میں ٹریکٹر چلوا دیا جائے، تو شرعاً اس میں ٹریکٹر چلانا تاکہ قبرستان برابر ہو جائے، اور صفائی ہو جائے، جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: شمشاد عالم قاسمی، امام جامع مسجد، محلہ: خانپور، بارہ بستی، بلندشہر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر قبرستان میں جھاڑ پھوس وغیرہ ہو تو ان کو کاٹ کر صاف کرنا بلا تردد جائز ہے، لیکن جبکہ وہاں قبریں موجود ہیں تو ٹریکٹر کے ذریعہ قبروں کو روند کر صاف اور ہموار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ممنوع اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے قبرستان کی بے حرمتی اور توہین ہوگی، البتہ مزدوروں کے ذریعہ قبروں کے احترام کیساتھ ساتھ قبرستان کی صفائی کرائی جاسکتی ہے۔

عن جابر قال: نہی رسول اللہ ﷺ أن تجصص القبور، وأن یکتب علیہا، وأن ینبئ علیہا، وأن توطأ. (سنن الترمذی، الحنائن، باب ماجاء فی کراہیة،

تجصیص القبور، النسخة الهندیة ۱/۲۰۳، دارالسلام رقم: ۱۰۵۸)

ویکفره أن یوطأ علی القبر یعنی بالرجل (إلی قوله) لا یمشی لأنه یجب تعظیم قبر المسلم. (تاتار حنایة زکریا ۳/۷۳، رقم: ۳۷۴۰، شامی، باب صلوة الحنائن، مطلب فی إهداء ثواب القراءة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کراچی ۲/۲۵۴، زکریا ۳/۱۵۴)

فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها كذا في البحر الرائق. (هنديہ، كتاب الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات والمقابر الخ، زکریا قدیم ۲/۴۷۱، جدید ۲/۱۶، البحر الرائق، فصل فی أحكام المسجد، کوئٹہ ۵/۲۵۴، زکریا ۵/۴۲۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۲۱/۱۴۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ ذیقعدہ ۱۴۲۵ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۸۶۱۱/۳۷)

قبرستان میں کوڑا کرکٹ ڈالنا اور چارپائی لگا کر مجلس قائم کرنا

سوال: [۸۳۸۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان جاری ہے، کوڑا کرکٹ ڈالنا چارپائیاں ڈال کر بیٹھنا یا ایسے ہی بیٹھ کر فحش گویوں میں مشغول ہونا بچوں کا کرکٹ وغیرہ کھیلنا یا ٹریکٹر ڈالی وغیرہ کو قبرستان میں کسی کام کے لئے لے جانا یا کھڑا کرنا جانوروں کا بے مہار اس میں گھومنا، یہ اعمال کیسے ہیں؟ اور ان کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ارشاد احمد، مراد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان میں کوڑا ڈالنا، چارپائیاں ڈال کر بیٹھنا، کھیل تماشا اور خرافات کرنا سب ناجائز اور سخت گناہ ہے۔

أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي الخ. (شامی، باب

صلوة الجنزة، قبیل مطلب فی وضع الجرید علی القبور، کراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۵)

ويكره أن يوطأ على القبر يعني بالرجل أو يقعد عليه أو يقضى عليه

حاجتہ. (تاتارخانیہ، زکریا ۳/۷۳، رقم: ۳۷۴۰)

لايجوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة. (البحر الرائق، فصل فی أحكام

المسجد، کوئٹہ ۲۵۴/۵، زکریا ۴۲۶/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۳۳۰/۵۵۹۰)

قبرستان میں کھانا کھلانا کیسا ہے؟

سوال: [۸۳۸۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے یہاں میت کے ورثاء کے کہے بغیر اخوت و بھائی چارگی کے سبب گاؤں کے لوگ قبر کھودنے کا کام انجام دیتے ہیں، اور میت کے ورثاء اس کے لئے ناشتہ کا انتظام کرتے ہیں، دریافت یہ کرنا ہے کہ قبرستان میں کھانا کھلانا کیسا ہے، چونکہ غیر مسلم بھی اس طرح لعش لے جانے کے بعد کھانے کا نظم کرتے ہیں، ان سے تشبہ ہونے کی بناء پر جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد عیاض، بانکوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبر کھودنے والا اگر کام کر کے تھک جائے، اور اس کو کھانے کی ضرورت پیش آجائے تو قبرستان سے باہر آ کر آبدی میں چاہے اپنے پیسہ سے کھائے یا دوسرا آدمی اسے کھلا دے، تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کام قبرستان میں نہیں ہونا چاہئے، اور فقہاء نے ایسے موقع پر قبرستان میں کھانے پینے کو مکروہ لکھا ہے، اور اگر میت کے گھر والے ہی کھانا کھلاتے ہیں، تو قبرستان میں نہ کھلائیں بلکہ آبدی میں میت کے گھر میں کسی دوسرے کے گھر میں کھلائیں۔

ویکثره نقل الطعام إلى القبر فی المواسم - إلى قوله - وهذه الأفعال کلها للسمعة والریاء فیحترز عنها ، لأنهم لا یریدون بها وجه الله تعالیٰ .

(شامی، الصلاة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی کراهة الضیافة من أهل المیت، کراچی ۲/۴۰، زکریا ۳/۱۴۸، حاشیة الطحطاوی علی المراقی، دارالکتاب دیوبند/۱۷، ۶، فتاویٰ بزازیہ، جدید زکریا ۱/۵۴، و علی هامش الہندیہ، زکریا ۴/۸۱)

ویکرہ کل مالم یعہد من السنۃ. (شامی، کراچی ۲/۴۵، زکریا ۴/۵۳، ۱)

فتح القدیر، قبیل باب الشہید، کوئٹہ ۲/۱۰۲، زکریا ۲/۱۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۷/۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/رجب المرجب ۱۴۳۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۷۷۷/۳۹)

قبرستان کی جھاڑیوں کو ہیر و ہل سے صاف کرنے کا حکم

سوال: [۸۳۸۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک قبرستان تقریباً چودہ بیگہ کا ہے، اس کے کچھ حصے ایسے ہیں، جس میں تدفین کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ حصے ایسے ہیں جس میں تیس چالیس سال سے کوئی تدفین کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے، اور پورے قبرستان میں جھاڑیاں بہت پیدا ہو گئی ہیں، اور ان جھاڑیوں کی وجہ سے پورے قبرستان میں بہت سانپ پیدا ہو گئے ہیں، اور لوگ قبرستان میں تدفین کے لئے جانے سے ڈرتے ہیں، اور سانپ کا حال یہ ہے کہ بجائے انسانوں سے بھاگنے کے انسانوں کا پیچھا کرتے ہیں، اس لئے خاص طور پر رات کے وقت میں تدفین کے لئے کوئی بھی ہمت نہیں کرتا لوگوں کو ہر وقت سانپ کا خطرہ رہتا ہے، اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں، کہ ان جھاڑیوں کو کاٹ کر کہ قبرستان کو صاف ستھرا کریں، اور جدھر قبریں موجود ہیں، ادھر مزدور لگا کر کہ صاف کر دیا جائے، اور جن حصوں پر کوئی قبر نہیں ہے، ان حصوں پر ہیر و ہل چلا کر جھاڑیوں اور گھاسوں کو ختم کر دیں، تو ایسا کرنے میں شریعت کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں؟ حکم شرعی سے واضح فرمائیں؟

المستفتی: محمد اسلم ضیاء الحسن، بھوڑ سرکوٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ قبرستان کے جس حصہ میں کوئی قبر نمایاں نہیں ہے، اور سانپ کے خطرہ سے تدفین کے لئے جانے والوں کو چلنے پھرنے میں خطرہ ہے، تو اس حصہ پر ہیر و ہل چلا کر جھاڑیوں کو ختم کر کے صاف ستھرا کر دینا شرعاً جائز اور درست ہے، اور جس حصہ میں تدفین کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں بھی جھاڑیوں میں سانپ کی وجہ سے تدفین کے لئے جانے والوں کو خطرہ ہے، تو اس حصہ میں مزدور لگا کر قبرستان کو صاف ستھرا کر دینا جائز اور درست ہے؛ اس لئے کہ قبرستان کا اصل مقصد تدفین ہے، اور جھاڑیوں کے سانپ تدفین میں شرکت کرنے والوں کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؛ لہذا تمام جھاڑیوں کو صاف کر کے قبرستان کو بے خطر بنا دینا بلا تردد جائز اور درست ہے۔

ولما بلی المیت و صار تراباً جاز دفن غیرہ و زرعه. (البحر الرائق، کتاب

الحنائز، قبیل باب صلاة، الشہید، کوئٹہ ۲/۳۴۲، زکریا ۲/۳۴۲، ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۱۶۷، جدید ۱/۲۲۸، شامی، کراچی ۲/۲۴۵، زکریا ۳/۱۵۵)

كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي: إن رأى قلعها

وبيعها وإنفاقها على المقبرة جاز له ذلك. (الموسوعة الفقهية ۳۸/۳۴۹)
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۷/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۱/۷/۸ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۱۱/۳۹)

۲/ الفصل الثانی: فی المصارف

زیر ملکیت قبرستان میں دوکان بنا کر آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: [۸۳۸۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسجد مغلوں والی واقع محلہ مغلیورہ مراد آباد کے جملہ انتظام زید کے آباء واجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور اب جہاں تک ممکن ہوتا ہے، زید اپنے بزرگوں کی تعمیر کردہ مسجد کے اخراجات کے ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، مسجد مذکورہ کے چاروں طرف زید کا خاندانی قبرستان ہے، جس کے ایک حصہ میں زید کے علم کے مطابق کبھی کوئی قبر نہیں بنائی گئی، تو قبرستان کی مذکورہ آراضی میں کرایہ حاصل کرنے کی غرض سے کوئی عمارت دوکان وغیرہ تعمیر کی جاسکتی ہے اور کیا اس عمارت دوکان وغیرہ کی آمدنی (کرایہ) مسجد مذکورہ کے اخراجات میں صرف کر سکتے ہیں؟

المستفتی: احسان یابیگ، مغلیورہ اول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ قبرستان زید کے باپ دادا کی ملکیت ہے، تو مذکورہ ملحقہ زمین میں دوکان بنا کر مسجد کی آمدنی کی فراہمی کی گنجائش ہے، اور اگر قبرستان ملکیت کا نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں کے لئے موقوفہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۱۲۲)

المالک هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء .

(بیضاوی شریف، مکتبہ رشید ۷/۱)

ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزليين أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى . (شامی،

الوقف، مطلب فی نقل انقاض المسجودو نحوه، زکریا ۶/۵۵۱، کراچی ۴/۳۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

کتبہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۲۷۸۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۲/۲۱ھ

قبرستان کی آمدنی کے لئے پختہ قبروں کو توڑ کر دوکانیں بنانا

سوال: [۸۳۸۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی پختہ قبروں کو توڑ کر ان پر قبرستان کی آمدنی کے لئے دوکانیں یا دیگر تعمیرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عوام اس توڑ پھوڑ کو پسند نہیں کرتے ہیں، قبرستان کے تنگ ہونے کا بھی خطرہ ہے؟ جواب دیں؟

المستفتی: بہار حسین انصاری، محلہ عبداللہ
محلہ: باڑہ، بلاری، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: تازہ ترین قبروں کو مسما کر کے ان پر کسی بھی طرح کی تعمیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے میت کی توہین لازم آتی ہے، حدیث شریف میں اس پر ممانعت وارد ہوئی ہے، نیز قبرستان مردوں کی تدفین کے لئے وقف ہوتا ہے، اس کی تمام زمین کو دفن کے کام میں استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ دیگر امور میں استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، لہذا مسئلہ صورت میں قبرستان میں قبروں کو مسما کر کے دوکانیں یا دیگر تعمیرات کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بااثر اور ذمہ دار لوگوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۸/۱۷۹، جدید زکریا ۹/۶۰)

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: كسر عظام الميت ككسره حياً.

(سنن ابن ماجہ، باب فی النهی عن کسر عظام الميت، النسخة الهندية ۱/۱۶۱،

دارالسلام رقم: ۱ ۶۱ ۶، سنن أبی داؤد، باب فی الحفاریجد العظم هل ینتکب ذلک
المکان؟ النسخة الهندیة ۲/ ۴۵۸، دارالسلام رقم: ۳۲۰۷

قال الطیبی فیہ اشارة إلى أنه لا یهان المیت كما لا یهان الحی .

(مرقات شرح مشکوٰۃ، مکتبہ امدادیہ ملتان ۴/ ۷۹)

انہم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفین واجبة . (شامی، الوقف، مطلب

مراعاة غرض الواقفین واجبة زکریا ۶/ ۶۶۵، کراچی ۴/ ۴۵۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/ ۷/ ۱۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/ رجب ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۵/ ۷۳۰۸)

گورے غریباں کی قبر کی جگہ دینے کے روپے لینا

سوال: [۸۳۸۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں:

ایک قبرستان جس کا نام گور غریباں ہے وہ زمانہ قدیم سے غریبوں کے لئے عام تھا، لیکن چند اشخاص نے چند سالوں سے اس قبرستان میں قبر کی جگہ کی قیمت ۱۵۰ روپیہ لینا شروع کر دیا ہے، اور قبر کھدائی والا قبر کھدائی کے ۱۵۰ روپیہ فی قبر لیتا ہے، اور میت کی چادر اور جوڑا لیتا ہے، اور قبر کھدائی اس کے علاوہ دوسرے شخص سے نہیں کر سکتے، تو یہ سب پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیں؟

المستفتی: نعیم اللہ، مغلیہ پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مذکورہ قبرستان وقف کا ہے، اور سوالنامہ سے

یہی واضح ہوتا ہے، کہ قبرستان وقف کا ہے، تو اس میں دفن کے لئے جگہ کی قیمت وصول کرنا شرعی طور پر جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ قیمت وصول کرنے میں غرض واقف کی مخالفت لازم آتی

ہے، اور وقف میں واقف کی غرض کی رعایت کرنا واجب ہوتا ہے۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی، الوقف، مطلب

مراعاة غرض الواقفين واجبة، کراچی ۴/۴۴۵، زکریا ۶/۶۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ محرم ۱۴۱۵ھ

۱۲/۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۱۲/۳۱)

قبرستان کے فنڈ سے برتن خرید کر کرائے پر دینا

سوال: [۸۳۸۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ایک قبرستان عام ہے، جس کا تعلق صرف ایک موضع سے ہے، دوسری کسی بھی بستی کا اس قبرستان پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس قبرستان میں کچھ پیڑ وغیرہ لگے ہیں، اور ان پیڑوں کو فروخت کرنے پر اس قبرستان کو ۲۷ ہزار روپیہ کی آمدنی آئی ہے، اور آگے بھی قبرستان کو آمدنی کی توقع ہے، لیکن اس کو اس قبرستان پر بظاہر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس بستی کے لوگ یہ چاہتے ہیں، کہ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات میں مسلمانوں کو برتن کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ شہر جا کر کرایہ پر منگواتے ہیں، اس قبرستان کی رقم سے قبرستان ہی کی طرف سے برتن منگوا لیا جائے، اور پھر جو حضرات بھی اپنی تقریبات میں اس برتن کو استعمال کریں باضابطہ ان سے کرایہ لیا جائے، جو قبرستان کے فنڈ میں جمع رہے، از روئے شرع جائز ہو تو اجازت عطا فرمائیں تاکہ بستی کے مسلمانوں کو فائدہ ہو دوسری زحمت سے بچ سکیں؟ مفصل مدلل بیان فرمائیں؟ نوازش و کرم ہوگا؟

المستفتی: ننھے پہلوان منصوری،

موضع ہرگن پور، ضلع: بجنور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر برتن خرید کر کرایہ پر دینے کا مقصد قبرستان کی آمدنی میں اضافہ اور ترقی ہے تو ایسا عمل جائز اور درست ہے، جیسا کہ درمختار کی عبارت سے یہی مستفاد ہوتا ہے، کہ مصالح وقف کے لئے اس طرح آمدنی بڑھانا جائز ہے۔

وإذا جعل تحته سردابا لمصالحة أي المسجد جاز الخ. (درمختار، الوقف، مطلب في أحكام المسجد، زکریا ۶/۵۴۷، کراچی ۴/۳۵۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/۲۰۲، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمية بیروت ۲/۵۹۴، مصری قدیم ۱/۴۷۷) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۱۳/۱۴۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱۳۲/۲۸)

قبرستان کی گھاس بٹائی پر دینا

سوال: [۸۳۸۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کی گھاس وغیرہ کو بٹائی پر دینا کیسا ہے، کہ گھاس ہونے کی وجہ سے میت کو دفن کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جانور کا اندیشہ بھی ہوتا ہے؟

المستفتی: رضوان علی، اڑیسہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قبرستان کی گھاس وغیرہ بٹائی پر دینا جائز ہے، اور اس کی آمدنی کو مصارف قبرستان میں صرف کیا جائے، غرائب و مساکین کی تجہیز و تکفین میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔

قال فی الاسعاف ولوکان فی أرض الوقف شجر فدفعه معامله بالنصف مثلاً جاز. (الشامی، الوقف، مطلب استاجروا داراً فیہا أشجار، زکریا ۶/۶۴۸، ۶۴۹، کراچی ۴/۴۳۳)

الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل لا يصرف
وإنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد . (ہندیہ ، الباب الحادی عشر
فی المسجد وما يتعلق به ، الفصل الثانی ، زکریا جدید ۲/۴۱۴ ، قدیم ۲/۶۳۴ ، المحيط
البرہانی ، المجلس العلمی ۹/۱۳۸ ، رقم : ۱۱۳۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ : شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ
(الف فتویٰ نمبر : ۴۶۶۸۳۲)

قبرستان کی آمدنی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟

سوال: [۸۳۹۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان
کی آمد (گھاس درخت) کی رقم سے قبرستان یا نماز جنازہ کی جگہ کی حد بندی کرنا، مسہری تخت
بنانا، غیر مسلم کو قفن دینا، نیز غریب مسلمان لڑکی کی شادی اور غریبوں کی دیگر ضروریات پر خرچ
کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: محی الدین، انجمن
رہنمائے ملت، پارکنی، پورنیہ، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کی آمدنی کو سوال میں مذکور مصارف میں
سے کسی بھی مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ وقف کی چیز ہے، اس لئے اسی
وقف میں خرچ ہونی چاہئے، ہاں اگر پورے قبرستان کی حد بندی کی ضرورت ہو تو اس میں بھی
خرچ کیا جاسکتا ہے، اگر اس قبرستان کو بالکل ضرورت نہ ہو تو قریبی کسی قبرستان میں یا مسجد
میں اس کی آمدنی لگادی جائے۔

وفی شرح الملتقیٰ 'یصرف وقفها لأقرب مجانس لها'. (شامی، الوقف،
مطلب فیما لو حرب المسجد أو غیرہ، زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹، الموسوعة

الفقهية الكويتية ۴/ ۱۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۱۲۴/۳۴)

قبرستان کی خود روگھاس کی آمدنی مسجد میں لگانا

سوال: [۸۳۹۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں گھاس جو کہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد فروخت کی جاتی ہے، اور اس پیسہ کو مسجد میں لگایا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور پیسہ لوگ بطور قرض لے کر اپنے کام میں بھی لاتے ہیں؟

المستفتی: محمد صادق الدین، نوریٹہ، سہرسا، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان کی آمدنی قبرستان کے علاوہ کسی اور جگہ لگانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اس قبرستان میں بالکل ضرورت نہ ہو تو پھر اس کے قریب ترین مسجد یا مدرسہ میں لگا سکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۵/۳۰۶)

قال بعضهم الذی فیہا لا یصرف القاضی الفاضل من وقف المسجد (إلی قولہ) قیل ویعارضہ مافی الإمام قاضیخان فی أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلی جهات البر بحسب ما یراہ . (حاشیہ حموی مع الأشباہ قدیم ۱/۱۶۰)

نیز قبرستان کی رقم بطور قرض دینے کی گنجائش نہیں ہے۔

أما المال الموقوف علی المسجد الجامع إن لم تکن للمسجد حاجة للحال فللقاضی أن تصرف فی ذلك لكن علی وجه القرض . (هندیہ، الوقف، الباب الحدادی عشر فی المسجد، وما یتعلق به ذکر یا قدیم ۲/۴۶۴، جدید ۲/۱۴۴، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۵۴، رقم: ۱۱۴۵۲، الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا

۱۹۹/۸، رقم: ۱۱۶۳۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳/۵۸۷۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۵/۲۰ھ

قبرستان کی لکڑیوں سے مسجد کا پانی گرم کرنا

سوال: [۸۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک سرکاری قبرستان ہے، اس میں ایک صاحب نے اس غرض سے درخت لگا دیئے کہ قبرستان میں سایہ رہے گا، اب درخت لگانے والے کا تو انتقال ہو گیا اور درخت کافی پرانے ہو چکے ہیں، بعض مرتبہ ان کی شاخیں خود ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، یا کاٹ کر اس کی لکڑی مسجد میں پانی گرم کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح رہے کہ قبرستان کے چاروں طرف آبادی ہے، اس میں باونڈری کی بھی ضرورت نہیں تو ایسے حالات میں اس قبرستان کے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر سردیوں میں مسجد میں پانی گرم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں؟

المستفتی: محمد یوسف، اللہ باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کے درخت کی لکڑیوں کو سردیوں میں مسجد میں پانی گرم کرنے کے لئے جلانا جائز نہیں ہے، اگر قبرستان کو ضرورت نہیں تو دوسرے قبرستان کے مصرف میں اس کا پیسہ خرچ کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، تو لکڑیوں کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر و مرمت اور امام مؤذن کی تنخواہوں میں خرچ کرنے کی گنجائش ہے، نیز مسجد کی ملکیت کے پیسہ سے لکڑیاں جلانے کے لئے خریدنا بھی جائز نہیں، ہاں اس مد کے لئے مستقل چندہ کیا جائے تو جائز ہے۔

لايجوز لأهل القرية الانتفاع بالمقبرة الدائرة فلو كان فيها

حشیش یحش . (البحر الرائق، الوقف، فصل في احكام المسجد، زكريا
۴۲۶/۵، کوئٹہ ۲۵۴/۵)

وإن استغنى عن حصر المسجد وخشبه وحشيشه نقل إلى مسجد
آخر عند أبي يوسف وقال بعضهم يباع ويصرف في مصالح المساجد ولا
يجوز صرف نقضه إلى عمارة البئر لأنها ليست من جنس المسجد الخ.
(الجوهرية النيرة، امداديه ملتان ۲/۲۱، دارالكتاب ديوبند ۲/۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۱۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۶۷۸۹۸/۷)

قبرستان کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: [۸۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
قبرستان کی رقم مسجد میں لگانا بوجہ یہ کہ مسجد کی چھت گرنے والی ہے، اور قبرستان کی آمدنی
کے علاوہ کوئی اور آمدنی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اس سے
اس کی تعمیر کرائیں، جس کی بناء پر لوگ چاہتے ہیں، کہ قبرستان کی رقم مسجد کی مرمت
میں لگادی جائے، تو اس کا لگانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد فاروق، سیتا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان کی رقم مسجد کے لئے استعمال کرنا
جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر قبرستان میں کوئی ضرورت نہ ہو تو مسجد کی شدید ضرورت کی صورت
میں اہل محلہ کے باہمی مشورہ سے قبرستان کی زائد رقم مسجد میں لگانے کی گنجائش ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۳۰۶، ڈی اے اے ۱۵/۳۷۱)

شرط الواقف کنص الشارح . (الاشباہ والنظائر قدیم / ۱۷۰)

وأما الاستبدال ولو للمساكين بدون الشرط فلا يملكه إلا
القاضي. (الدر المختار مع الشامى، الوقف، مطلب فى اشتراط الإدخال والإخراج ،
زكريا ۵۸۵/۶، كراچى ۳۸۶/۴)

لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد
أن يملكها إذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد
لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى ، الصلاة، باب
هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، داراحياء التراث العربى ۱۷۹/۴ ،
زكريا ۴۳۵/۳، تحت رقم الحديث/ ۴۲۸، فتح الملهم ، كتاب المساجد ، اشرفيه
۱۱۸/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/۲۷ جب ۱۴۲۲ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۳۴۵-۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰/۷/۱۴۲۲ھ

قبرستان کی آمدنی مسجد میں صرف کرنا

سوال: [۸۳۹۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ
ہمارے گاؤں میں تمام گاؤں والوں کا ایک قبرستان ہے جس میں چند سال قبل لوگوں کے
باہم مشورہ سے درخت لگائے گئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا، کہ ان درختوں سے جو بھی نفع
حاصل ہوگا، وہ دینی امور میں صرف کیا جائے گا، چنانچہ جب اس قبرستان کے درخت تیار
ہو گئے، تو ان کو کاٹ کر فروخت کر دیا گیا، اور قبرستان کمیٹی نے اس رقم میں سے کچھ حصہ
گاؤں کی ایک مسجد میں لگا دیا اور اب بھی تقریباً پچاس ہزار روپیہ کی رقم گاؤں کی دوسری
مسجد میں لگانا چاہتی ہے، تو گاؤں والے یہ کہہ رہے ہیں، کہ قبرستان کی آمدنی کو مسجد وغیرہ
میں نہیں لگایا جاسکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، اس لئے وضاحت
فرمادیں کہ قبرستان کی آمدنی مسجد میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے جو آمدنی مسجد میں

لگائی جا چکی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد امین، سینٹاپور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: قبرستان کی آمدنی کا پیسہ اگر قبرستان میں ضرورت نہیں ہے، تو کمیٹی اور ذمہ داروں کے مشورہ سے قریب کی مسجد میں لگانا جائز اور درست ہے، اور اگر قریب والی مسجد کی ضرورت پوری ہوگئی ہے، تو دوسری مسجد میں بھی لگانا جائز ہے، لہذا پہلی مسجد میں جو لگایا گیا ہے، وہ درست ہے، اور آئندہ جو دوسری مسجد میں لگانے کا پروگرام ہے وہ بھی درست ہے۔

وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر إليه وتحتة يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو حرب المسجد أو غیره، زکریا ۵۴۹/۶، کراچی ۳۵۹/۴)

في مجموع النوازل : سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد قال : نعم إن لم يكن وقفاً على وجه آخر. (تاتارخانیہ، زکریا ۱۹۴/۸، رقم: ۱۱۶۱۷، ہندیہ زکریا جدید ۴۱۸/۲، قدیم ۴۷۶/۲، الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۸/۳۴۹، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۱۴۹/۹، رقم: ۱۱۴۳۴)

وإن غرس للمسجد لايجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم، فالأهم كسائر الوقف وكذا إن لم يعلم غرض الغارس ومقتضاه في البيت الموقوف إذا لم يعرف الشرط ان يأخذہ المتولى لبيعها ويصرفها في مصالح الوقف. (البحر الرائق، الوقف زکریا ۳۴۲/۵، کوئٹہ ۲۰۰/۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ صفر ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۹۸۸۰۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۱۴ھ

قبرستان کی آمدنی مسجد کو بطور قرض دینا

سوال: [۸۳۹۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا

قبرستان کی آمدنی کو بطور قرض مسجد کو دے سکتے ہیں؟

المستفتی: رضوان علی، اڑیسہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقوفہ قبرستان کی آمدنی کو جبکہ قبرستان کو کسی قسم کی

ضرورت نہ ہو اور قرضہ دینے میں آمدنی زیادہ محفوظ ہو مسجد کیلئے بطور قرض دے سکتے ہیں۔

أراد المتولی أن یقرض ما فضل من غلة الوقف ذکر فی وصایا فتاویٰ

أبی الیث رحمہ اللہ رجوت أن یکون ذلک وسعا إذا کان اصلح وأحرز للغلة

من إمساک الغلة. (ہندیہ، الوقف، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، زکریا

جدید ۲/۴۲۳، قدیم ۲/۴۹۰، الفتاویٰ التاتار خانیہ، زکریا ۸/۲۰۹، رقم: ۱۱۶۶۱، المحيط

البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۶۵، رقم: ۱۱۴۹۰، ۱۱۴۹۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۲/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر ۱۴۳۱ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۶۸۳۲)

قبرستان کا پیسہ مسجد و مدرسہ میں لگانا

سوال: [۸۳۹۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

ایک موقوفہ قبرستان ہے اس قبرستان کی ملکیت میں تقریباً دو بیگہ زمین ہے، اور وہ زمین

کرایہ پردی جاتی ہے، کرایہ دار اس میں جانوروں کی گٹی وغیرہ ہوتا ہے، اور کبھی دھان گیہوں وغیرہ بھی ہوتا ہے، کرایہ میں اس کا کافی پیسہ آتا ہے، اور قبرستان کے برابر میں اسکی دوکانیں ہیں، جس کی کافی آمدنی ہے، یہ تمام پیسہ قبرستان کا ہے، لیکن قبرستان کو اس پیسہ کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں یہ پیسہ اس گاؤں کے غریب مدارس میں خرچ کیا جاسکتا ہے، یا نہیں؟ جس گاؤں میں یہ قبرستان ہے، نیز اس گاؤں میں مسجد بھی ہیں، تو قبرستان کے ذمہ دار ان اس پیسہ کو اس گاؤں کی غریب مسجدوں میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی رو سے جواب عنایت فرمائیں کرم ہوگا؟

المستفتی: علیم الدین، چسپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کی مملوکہ زمین اور اس سے متعلقہ دوکانوں کی آمدنی کا پیسہ کثیر مقدار میں ہے، اور قبرستان کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کو قبرستان کی کمیٹی اور محلہ کے سرپرچ اور ذمہ داروں کے مشورہ سے مساجد و مدارس میں خرچ کرنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۵۹۳/۲، کفایت المفتی ۷/۲۷۵، جدید زکریا مطول ۱۰/۱۹۳)

لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فينبى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها إذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين . (عمدة القارى، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد، دار احياء التراث العربى ۴/ ۱۷۹، زكريا ۳/ ۴۳۵، تحت رقم الحديث: ۴۲۸، فتح الملهم، كتاب المساجد، اشرفيه ۲/ ۱۱۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۳/۶/۱۰ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۶/۶۸۴-۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۶/۱۰ھ

قبرستان کے روپے کو مسجد یا مکتب میں لگانا

سوال: [۸۳۹۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں والوں کا مشترکہ قبرستان ہے، جس میں درخت لگے ہوئے تھے، اب ان درختوں کو بیچ کر ان کی رقم کو بینک میں جمع کر دیا گیا ہے، گاؤں کے لوگ اس رقم کو مکتب میں لگانا چاہتے ہیں، اور اس کی کچھ رقم مسجد کی تعمیر میں خرچ کی جا چکی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، ان مصارف میں اس رقم کو خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: نیاز احمد، بسدہا، بسواں، سینا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قبرستان میں سردست رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ آئندہ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس رقم کو مسجد کی تعمیر میں لگانا بلاشبہ جائز ہے، اگر اس کے بعد کچھ پیسہ بچ گیا ہے، تو اس کو مکتب میں لگانا بھی جائز ہے۔

وسئل نجم الدین فی مقبرۃ فیہا أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال: نعم إن لم تكن وقفاً علی وجه آخر، قیل له: فان تداعت حیطان المقبرۃ إلى الخراب هل یصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما وقف علیہ. (ہندیہ، الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات، والمقابر، زکریا قدیم ۴۷۶/۲، جدید ۴۱۸/۲، الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، کوئٹہ ۸۷۵/۵، زکریا ۱۹۴/۸، رقم: ۱۱۶۱۷، المحیط البرہانی، المجلس العلمی ۱۴۹/۹، رقم: ۱۱۴۳۴، الموسوعة الفقهیة الكويتیة ۳۸/۳۴۹)

وما فضل من ریع الوقف واستغنی عنه فإنه یصرف فی نظیر تلک

الجهة. (فقہ السنۃ بیروت ۳/۲۹، ۵، مستفاد: انوار رحمت/۱۵۳) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۸۰۳۹)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۱/۶/۶ھ

قبرستان کے درختوں کی آمدنی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا

سوال: [۸۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں لگائے گئے درختوں کی قیمت مسجد کی تعمیر اور غرباء و مساکین کی تدفین میں صرف کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ لگائے گئے درختوں کی قیمت کے صرفہ کی تعیین لگاتے وقت نہ کی گئی ہو۔
 المستفتی: عبداللہ قاسمی، ضلع: مہراج گنج

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس کی قیمت اسی قبرستان کی چہار دیواری وغیرہ پر صرف کی جائے، لیکن اگر اس قبرستان کو ضرورت نہیں ہے، تو قریب ترین دوسرے قبرستان میں خرچ کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو مسجد کی ضرورت میں خرچ کرنا جائز ہے، جب مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، تو مساکین کی تدفین میں نہ خرچ کی جائے۔

فيقدم أولاً العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح الخ.

(شامی، الوقف، مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، زکریا ۶/۶۱، ۵، کراچی ۳۶۸/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۷ شعبان ۱۴۱۸ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۵۴۴۵/۳۳)

قبرستان کے درختوں کی آمدنی سے مدرسہ تعمیر کرنا

سوال: [۸۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک گاؤں کے قبرستان میں کچھ درخت تھے، جنہیں گاؤں کے لوگوں نے سولہ ہزار دو سو روپیہ میں فروخت کر دیا ہے، اور فی الحال اس گاؤں میں کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، اور بچوں کو تعلیم مسجد کے اندر دی جا رہی ہے، تو کیا اس فروخت شدہ درخت کے روپے سے مدرسہ تعمیر کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیز اس گاؤں کے لوگ مدرس کی تنخواہ بھی نہیں دے پاتے ہیں، تو کیا اس روپیہ سے مدرس کی تنخواہ بھی دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: نثار احمد، بستوی، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قبرستان کی مذکورہ آمدنی کی قبرستان کو ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنے کی گنجائش ہے، مگر مدرسین کی تنخواہ میں نہ دیکر تعمیر میں لگانا ہی بہتر و ضروری ہوگا۔

وسئل نجم الدین فی مقبرة فیہا أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارۃ المسجد قال: نعم إن لم تكن وقفاً علی وجه آخر. (ہندیہ، الوقف، الباب الثانی عشر فی الرباطات، زکریا قدیم ۲/۴۷۶، جدید ۲/۴۱۸، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۸/۱۹۴، رقم: ۱۱۶۱۷، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۴۹، رقم: ۱۱۴۳۴، الموسوعة الفقہیة الكويتیة ۳۸/۳۴۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ شعبان ۱۴۱۴ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۶۳۷۳۵)

ضرورت مند قبرستان کی آمدنی مسجد و مدرسہ میں استعمال کرنا درست نہیں

سوال: [۸۴۰۰]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے گاؤں میں قبرستان کے اندر درخت لگے تھے، جن کو فروخت کر دیا گیا ہے، اور قبرستان میں چہاردیواری بھی نہیں ہے، اور اگر گاؤں کے ذمہ دار لوگوں سے چہاردیواری بنوانے کے لئے کہا جائے تو نہیں بنائیں گے، تو ایسے حالات میں مسجد یا مدرسہ میں رقم لگانے کی اجازت ہے یا نہیں؟

المستفتی: سخاوت حسین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر قبرستان میں چہاردیواری کی ضرورت ہے تو اس پیسہ سے قبرستان کی چہاردیواری بنانا لازم ہے، اس میں خرچ نہ کر کے مسجد و مدرسہ میں لگانا جائز نہ ہوگا، اور اگر قبرستان کی ضرورت سے زائد رقم ہے تو اس کو مسجد یا مدرسہ میں لگانا جائز ہے۔

ویصرف وقفہا لأقرب مجانس لها الخ. (شامی، الوقف، مطلب فیما لو

حرب المسجد أو غیرہ، زکریا ۶/۵۴۹، کراچی ۴/۳۵۹، الموسوعة الفقہیة الكويتیة

۱۶۱/۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ محرم ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۸۲۵/۳۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۱/۱۴۱۵ھ

قبرستان کی لکڑی مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: [۸۴۰۱]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک مسجد کے ضمن میں قبرستان ہے، اور مسجد ہی کے احاطہ میں مدرسہ بھی ہے، مسجد کے ذمہ داران بخوشی قبرستان کی لکڑیاں مدرسہ کو دینا چاہتے ہیں، مسجد کی آمدنی بہت زیادہ ہے، کیا قبرستان کی لکڑیاں مدرسہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب رشیدی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسجد کے صحن میں مدرسہ بھی ہے، اور قبرستان کونہ ان لکڑیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی قیمت کی تو قبرستان کے ذمہ داران کی اجازت سے ان لکڑیوں کی قیمت کو مدرسہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔

قال فی فقہ السنۃ: وما فضل من ربح الوقف واستغنی عنہ فإنہ یصرف فی نظیر تلک الجہۃ کالمسجد إذا فضلت غلۃ وقفہ عن مصلحہ صرف فی مسجد آخر لأن الواقف غرضہ فی الجنس والجنس واحد فإن هذا الفاضل لاسبیل إلی صرفہ إلیہ ولا إلی تعطلہ فصرفہ فی جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلی مقصود الواقف . (فقہ السنۃ بیروت ۶/ ۵۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۲/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ صفر ۱۴۲۹ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۳۸/۹۴۵۳)

قبرستان کی آمدنی کو امام یا معلم کی اجرت میں دینا

سوال: [۸۴۰۲]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان کے گھر یا کسی سامان کو فروخت کر کے کسی امام یا کسی مدرسہ کے معلم کو اجرت یا روپے پیسے دئے جاسکتے ہیں یا نہیں؟ تفصیل سے جواب دیں، نوازش ہوگی؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مؤقوفہ قبرستان کی آمدنی کو کسی امام یا معلم کی اجرت میں دینا درست نہیں ہے، بلکہ قبرستان ہی میں صرف کرنا ضروری ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۵/۳۰۶)

شرط الواقف کنص الشارع . (الاشباه والنظائر، قدیم / ۱۷۰، قواعد الفقہ، اشرفی دیوبند / ۸۵، رقم: ۱۵۲، الدر مع الرد، کراچی ۴/ ۳۳، زکریا ۶/ ۶۴۹)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/ رجب ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۲۲/۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۶/۷/۵ھ

قبرستان کی کوئی چیز عید گاہ میں لگانا

سوال: [۸۴۰۳]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

قبرستان کی کوئی چیز عید گاہ میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ قبرستان ضرورت مند ہو؟

المستفتی: وصی الدین، مسلمانان شہر میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب قبرستان ضرورت مند ہے تو قبرستان کی

چیز عید گاہ وغیرہ میں لگانا اور صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ. (شامی،

الوقوف، مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، زکریا ۶/۶۶۵، کراچی ۴/۴۴۵)

فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۳۳/۵۶۰)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۱/۲۸ھ

قبرستان میں پڑی ہوئی اینٹ قبرستان میں لگانا

سوال: [۸۴۰۴]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

قبرستان کے اندر جو قبر کی اینٹ پڑی ہیں، ان کو قبرستان کے کام میں لاسکتے ہیں کہ نہیں؟ مثلاً

اس اینٹ سے گھیرا بندی یا مٹی بھروانا وغیرہ؟

المستفتی: محمد یونس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبر کی اینٹ سے مراد اگر دفن سے بچی ہوئی اینٹیں

ہیں تو وارثین کی اجازت سے استعمال جائز ہے، بلا اجازت جائز نہیں؟

لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه الخ. (قواعد

الفقه، اشرفی / ۱۱۰، رقم: ۲۷۰، شرح المحلّة رستم اتحاد ۱/ ۶۱، رقم المادة:

۹۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۵۶۷۱۳۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۳/۱۰ھ

واقف کا قبرستان کی آمدنی غریبوں پر خرچ کرنا

سوال: [۸۴۰۵]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں

نے ۱۰۰۰ گرز زمین پر بانس لگائے، اور بانس کافی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، اور زمین اور بانس

قبرستان میں دے دیئے ہیں، اور کچھ بانس فروخت کر کے غریب کو دینا چاہتا ہوں، کیا دے

سکتا ہوں یا نہیں؟ خلاصہ تفسیر فرمائیں؟

المستفتی: عبدالقیوم ٹھٹھیرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ اپنی زمین و بانس قبرستان کے لئے

دے چکے ہیں، اور دیتے وقت آپ نے تبدیلی کی شرط بھی نہیں لگائی ہے، تو اب ان میں سے

کچھ بانس فروخت کر کے غریبوں پر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اگر قبرستان میں کوئی ضرورت

نہ ہو مثلاً حفاظت کے لئے چہار دیواری کی ضرورت نہ ہو یا آدمی رکھنے کی ضرورت نہ ہو وغیرہ

وغیرہ تو پھر باہمی مشورے سے کسی مدرسہ یا عیدگاہ یا غریبوں پر صرف کر سکتے ہیں، تاکہ آمدنی کی رقم ضائع نہ ہو۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۵/۳۰۶، ڈی ۱۵/بھیل ۳۷۰/۱۵)

فإذا تم ولزم لایمملک ولا یملک ولا یعار ولا یرهن (در مختار)
ولا یملک أي لایکون مملو کاً لصاحبه ولا یملک أي لایقبل التملیک
لغیره بالبیع ونحوه لاستحالة تملیک الخارج عن ملکه ولا یعار ولا
یرهن لا قضاائهما الملک. (شامی، الوقف، زکریا ۶/۵۳۹، کراچی ۴/۳۵۲)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۶/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

(الف فتویٰ نمبر: ۳۱/۴۵۸)

مملو کہ قبرستان کے درخت کاٹ کر استعمال کرنا

سوال: [۸۴۰۶]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قبرستان میں جو بانس یا دیگر درخت ہیں اس کو کاٹ کر اپنے گھر میں لگانا یا بیچنا یا اور دیگر کام میں لاسکتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ قبرستان اپنی زمین میں نہیں ہے، اور اس میں کسی کی شرکت بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ فرمائیں؟ آپ کا کرم ہوگا؟

المستفتی: معراج احمد، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان ملکیت کا ہے، اور اپنی ملکیت کے قبرستان کے درختوں کو کاٹ کر اپنے کام میں لانا جائز ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۷/۱۱۵، جدید زکریا مطول ۱۰/۵۱۵)

فإن كانت الأرض يعرف مالکها فالأشجار بأصلها للمالک یصنع
بالأشجار وأصلها ماشاء الخ. (قاضی حسان، الوقف، فصل فی الأشجار، زکریا

جدید ۳/۲۱۷، ۲۱۸، و علی ہامش الہندیہ ۳/۱۱۱ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۳ رجب ۱۴۱۰ھ
 (الف فتویٰ نمبر: ۱۸۵۰۲۶)

اپنے وقف کردہ قبرستان کے درخت سے فائدہ اٹھانا

سوال: [۸۴۰۷]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے اپنے خاندان والوں کے لئے اپنے ذاتی کھیت میں قبرستان کے لئے جگہ چھوڑ رکھی ہے، اور آم جامن وغیرہ کے کچھ درخت پہلے سے لگا رکھے ہیں، اور اب وہ ان درختوں کو بیچ کر ان کی رقم اپنی دوا وغیرہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ان درختوں کو بیچ کر ان کی رقم کو علاج و معالجہ میں خرچ کر سکتا ہے، عام حالت میں ان درختوں کی رقم کا کیا حکم ہے؟ اور بحالت مجبوری کیا حکم ہے؟ اور اگر خود خرچ نہ کر سکے تو کون سے مصرف میں خرچ کرنا چاہئے؟ اور اگر خرچ کر چکا ہے تو کیا حکم ہے؟ مفصل بیان فرمائیں؟

المستفتی: محمد نعیم، براہ، بسواں، سینٹاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ جگہ میں جو درخت قبرستان بنانے سے پہلے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو کاٹ کر اپنے استعمال میں بلا تکلف لا سکتے ہیں۔

مقبرة علیہا أشجار عظيمة فهذا علی وجہیں إمان كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة، أو نبت بعد اتخاذ الأرض مقبرة، ففي الوجه الأول، المسئلة علی قسمين إمان كانت الأرض مملوكة لها مالک أو كانت مواتا لامالک لها و اتخذ أهل القرية مقبرة، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها علی ملک رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ماشاء وفي القسم الثانی الأشجار بأصلها علی حالها القديم. (ہندیہ، الوقف، الباب

الثانی عشر فی الرباطات..... زکریا جدید ۲/۱۷، ۴۱۸، قدیم ۲/۴۷۴، المحيط
البرہانی، المجلس العلمی ۹/۱۴۷، رقم: ۱۱۴۲۳، الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا
۸/۱۹۲، رقم: ۱۱۶۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: بشیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ
(الف فتویٰ نمبر: ۱۰۰۸۱/۳۹)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۶/۵ھ

قبرستان میں کھیتی اور اس میں آمدنی کا حکم

سوال: [۸۴۰۸]: کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک
قبرستان کی آراضی ہے جہاں تدفین نہیں ہوتی ہے، تو ایک صاحب اس نیت سے اس
میں کھیتی کرنا چاہتے ہیں، کہ اس میں جھاڑ جھنکاڑ وغیرہ نہ ہو اور اس کھیتی سے حاصل ہونے والی
آمدنی بوقت ضرورت قبرستان کی ضروریات میں صرف ہو تو کیا مذکورہ شخص کے لئے قبرستان
کی آراضی میں کھیتی کرنا درست ہے؟

المستفتی: محمد سفیان قاسمی، لکھن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قبرستان کے جس حصہ میں تدفین کا سلسلہ جاری ہے،
اس حصہ میں کھیتی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو حصہ تدفین اور قبروں سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس
حصہ میں قبرستان کی تمام کمیٹی اور ذمہ داروں کے مشورہ اور رضامندی سے کھیتی کرنے کی گنجائش
ہے، اس کی آمدنی قبرستان کی ضروریات میں خرچ کی جاسکتی ہے، اور اگر قبرستان کو ضرورت نہ ہو
تو قریب کی مسجد میں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ (مستفاد: انوار رحمت/۱۵۳)

ولو بلی المیت و صار تراباً جاز دفن غیرہ فی قبرہ وزرعہ والبناء

علیہ . (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الجنائز، الفصل السادس فی القبر والدفن، جدید

زکریا ۱/۲۲۸، قدیم ۱/۱۶۷، مثلہ فی الشامیة، زکریا ۳/۱۳۸، کراچی ۲/۲۳۳)

سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم! إن لم تكن وقفاً على وجه آخر. (هنديه، كتاب الوقف، قبيل الباب الثالث عشر في الأوقاف التي لا يستغنى، جديد زكريا ٢/١٨، قديم ٢/٧٦، مثله في الخانية جديد زكريا ٣/١٧) فقط واللهم سبحانك تعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
١٤٣٦/٦/٢٢ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

٢٣ جمادی الثانیہ ١٤٣٦ھ
(الف فتویٰ نمبر: ١٣٠٠٩/٢١)

